

# حياة الصحابة (أردو) رض

تالیف

حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی

ترجمہ

حضرت مولانا محمد حسان الحق

حصہ سوم

الحسن



جدید نظر ثانی شدہ ایڈیشن

# حیاء الصالحین

جلد سوم

حضرت محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا محمد احسان الحق

مکتبۃ الحسنین

33 - حق سٹریٹ اردو بازار لاہور



جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	حیاء الصحاہ (سوم)
تصنیف	حضرت محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
ترجمہ	حضرت مولانا محمد احسان الحق
با اہتمام	عبد القدر
ضخامت	۷۹۲

مکتبۃ الحسنیہ

33 - حق سٹریٹ، اردو بازار لاہور

صفحہ	مضمون
	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلہ میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے مشاہدات کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔
۱۷	ایمان کی عظمت
۲۳	ایمان کی مجلسیں
۲۴	ایمان تازہ کرنا
۲۵	اللہ اور رسول کی بات کو سچا ماننا
۳۵	ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال
۳۷	اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا
۴۴	فرشتوں پر ایمان لانا
۴۵	نقد پر ایمان لانا
۴۹	قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا
۵۰	قبر اور عالم برزخ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایمان لانا
۵۳	آخرت پر ایمان لانا
۵۶	قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اس پر ایمان لانا
۶۰	شفاعت پر ایمان لانا
۶۳	جنت اور جہنم پر ایمان لانا
۷۴	اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین
۷۸	اللہ کے رسول ﷺ نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان پر یقین کرنا
۸۷	اعمال کا بدلہ ملنے کا یقین
۹۰	صحابہ کرام کے ایمان کی پختگی
۹۹	نبی کریم ﷺ کا نماز کی ترغیب دینا



صفحہ	مضمون
۱۰۲	حضور ﷺ کے صحابہ کرام کا نماز کی ترغیب دینا
۱۰۴	نبی کریم ﷺ کا نماز کا شوق اور نماز کا بہت زیادہ اہتمام
۱۱۰	نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا نماز کا شوق اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا
۱۱۳	مسجد میں بنانا
۱۱۷	مسجدوں کو پاک صاف رکھنا
۱۱۸	مساجد کی طرف پیدل چلنا
۱۲۰	مسجد میں کیوں بتائی گئیں اور صحابہ کرام ان میں کون سے اعمال کرتے تھے
۱۲۶	حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کن باتوں کو مسجد میں اچھا نہیں سمجھتے تھے
۱۲۹	نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کا اذان کا اہتمام کرنا
۱۳۳	نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا نماز کا انتظار کرنا
۱۳۵	نماز باجماعت کی تاکید اور اس کا اہتمام
۱۳۸	منشوں کو سیدھا کرنا اور ان کی ترتیب بنانا
۱۴۱	امام کا اقامت کے بعد مسلمانوں کی ضروریات میں مشغول ہونا
۱۴۲	نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں امامت اور اقتداء
۱۴۹	حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا نماز میں رونا
۱۵۰	نماز میں خشوع خضوع
۱۵۲	نبی کریم ﷺ کا موکدہ سنتوں کا اہتمام فرمانا
۱۵۴	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا موکدہ سنتوں کا اہتمام کرنا
۱۵۶	نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا
	نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کے
۱۶۰	وقت کے درمیان نوافل کا اہتمام کرنا۔
۱۶۲	ظہر اور عصر کے درمیان نوافل کا اہتمام
۱۶۲	مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کا اہتمام
۱۶۳	گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلنے وقت نوافل کا اہتمام
۱۶۳	تراویح کی نماز
۱۶۵	صلوۃ التوبہ

صفحہ	مضمون
۱۶۵	صلوۃ الحجابہ
۱۶۸	نبی کریم ﷺ کا علم کی ترغیب دینا
۱۷۰	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا علم کی ترغیب دینا
۱۷۵	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا علمی ولولہ اور شوق
۱۷۸	علم کی حقیقت اور جس چیز پر علم کا لفظ بولا جاتا ہے
۱۸۰	نبی کریم کے لائے ہوئے علم کے علاوہ دوسرے علم میں مشغول ہونے پر انکار اور سختی
۱۸۴	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے علم سے اثر لینا
۱۸۶	جو عالم دوسروں کو نہ سکھائے اور جو جاہل خود نہ سیکھے ان دونوں کو ڈرانا اور دھمکانا
۱۸۸	جو بھی علم اور ایمان حاصل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے
۱۸۹	ایمان اور علم و عمل کو بیک وقت اکٹھے سیکھنا
۱۹۱	جتنے دینی علم کی ضرورت ہو اتنا حاصل کرنا
۱۹۱	دین اسلام اور فرائض سکھانا
۱۹۳	نماز سکھانا
۱۹۵	اذکار اور دعائیں سکھانا
۱۹۸	مدینہ منورہ آنے والے مہمانوں کو سکھانا
۲۰۰	دوران سفر علم حاصل کرنا
۲۰۲	جہاد اور علم کو جمع کرنا
۲۰۲	کمانی اور علم کو جمع کرنا
۲۰۵	کمانی سے پہلے دین سیکھنا
۲۰۵	آدمی کا اپنے گھر والوں کو سکھانا
۲۰۵	دینی ضرورت کی وجہ سے دشمنوں کی زبان وغیرہ سیکھنا
۲۰۷	امام کا اپنے کسی ساتھی کو لوگوں کے سکھانے کیلئے چھوڑ کر جانا
۲۰۷	کیا امام وقت علمی ضرورت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اللہ کے راستہ میں جانے سے روک سکتا ہے؟
۲۰۸	صحابہ کرام کو سکھانے کیلئے مختلف علاقوں میں بھیجنا
۲۱۱	علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا

صفحہ	مضمون
۲۱۳	علم کو قابل اعتماد اہل علم سے حاصل کرنا اور جب علم نااہلوں کے پاس ہوگا تو پھر علم کا کیا حال ہوگا؟
۲۱۷	طالب علم کو خوش آمدید کہنا اور بشارت سنانا
۲۱۸	علمی مجلسیں اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا
۲۲۳	علمی مجلس کا احترام اور اس کی تعظیم
۲۲۳	علماء اور طلبہ کے آداب
۲۳۰	آدمی کا اس وجہ سے علم کی مجلس میں آنا چھوڑ دینا تاکہ دوسرے لوگ علم حاصل کر سکیں
۲۳۱	علم کا پڑھنا پڑھانا اور علم کو آپس میں دہرانا اور کن چیزوں کا پوچھنا مناسب ہے اور کن کا مناسب نہیں۔
۲۳۹	قرآن سیکھنا اور سکھانا اور پڑھ کر لوگوں کو سنانا
۲۴۲	ہر مسلمان کو کتنا قرآن سیکھنا چاہئے
۲۴۲	جسے قرآن پڑھنا دشوار ہو وہ کیا کرے
۲۴۳	قرآن کی مشغولی کو ترجیح دینا
۲۴۳	قرآن کی وہ آیات جن کی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں سوال کرنے والے پر سختی۔
۲۴۵	قرآن کے سیکھنے سکھانے پر اجرت لینے کو ناپسند سمجھنا
۲۴۷	لوگوں میں قرآن کے بہت زیادہ پھیل جانے کے وقت اختلاف پیدا ہونے کا ڈر
۲۴۹	قرآن کے قاریوں کو نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی نصیحتیں
۲۵۲	حضور ﷺ کی احادیث میں مشغول ہونا احادیث میں مشغول ہونے والے کو کیا کرنا چاہیے؟
۲۵۷	علم کے اہتمام سے زیادہ عمل کا اہتمام ہونا چاہئے
۲۶۰	سنت کا اتباع اور سلف صالحین کی اقتداء اور دین میں اپنی طرف سے ایجاد کردہ کام پر انکار
۲۶۵	جس رائے کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہ ہو ایسی بے اصل رائے سے بچنا
۲۶۷	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا اجتہاد کرنا
۲۶۹	فتویٰ دینے میں احتیاط سے کام لینا اور صحابہ میں کون کون فتویٰ دیا کرتے تھے؟
۲۷۱	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرامؓ کے علوم
۲۸۱	ربانی علماء اور برے علماء



صفحہ	مضمون
۲۸۲	علم کا چلا جانا اور اسے بھول جانا
۲۸۶	ایسے علم کا دوسروں تک پہنچانا جس پر خود عمل نہ کر رہا ہو اور نفع نہ دینے والے علم سے پناہ مانگنا
۲۸۶	نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ترغیب دینا
۲۸۹	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا ذکر کی ترغیب دینا
۲۹۰	نبی کریم ﷺ کا ذکر کرنے کا شوق
۲۹۱	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کرنے کا شوق
۲۹۳	اللہ کے ذکر کی مجلس
۲۹۵	مجلس کا کفارہ
۲۹۷	قرآن مجید کی تلاوت
۲۹۹	دن اور رات میں، سفر اور حضر میں قرآن کی سورتیں پڑھنا
۳۰۱	دن اور رات میں سفر اور حضر میں قرآنی آیات کا پڑھنا
۳۰۳	کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر
۳۰۶	سبحان اللہ و الحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کے اذکار
۳۱۱	زیادہ اذکار کے بجائے ان جامع اذکار کو اختیار کرنا جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں
۳۱۳	نمازوں کے بعد کے اذکار اور سونے کے وقت کے اذکار
۳۱۸	صبح اور شام کے اذکار
۳۱۸	بازاروں میں اور غفلت کی جگہوں میں اللہ کا ذکر کرنا
۳۱۹	سفر کے اذکار
۳۲۰	نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا
۳۲۲	استغفار کرنا
۳۲۷	ذکر میں کونسی چیزیں شامل ہیں
۳۲۸	ذکر کے آثار اور اس کی حقیقت
۳۳۰	آہستہ آواز سے ذکر کرنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا
۳۳۱	ذکر اور تسبیحات کو گننا اور تسبیح کا ثبوت
۳۳۲	ذکر کے آداب اور نیکیوں کا بڑھنا
۳۳۳	دعا کے آداب

صفحہ	مضمون
۳۲۵	دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا اور پھر چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنا
۳۲۶	اجتماعی دعا کرنا اور اونچی آواز سے دعا کرنا اور آمین کہنا
۳۲۸	نیک لوگوں سے دعا کرنا
۳۳۰	گنہگاروں کے لیے دعا کرنا
۳۳۱	وہ کلمات جن سے دعا شروع کی جاتی ہے
۳۳۲	نبی کریم ﷺ کی اپنی امت کے لیے دعا میں
۳۳۶	نبی کریم ﷺ کی خلفاء اربعہ کے لئے دعائیں
۳۳۸	حضور ﷺ کی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کیلئے دعائیں۔
۳۳۸	حضور ﷺ کی اپنے گھر والوں کے لئے دعائیں
۳۳۹	حضور ﷺ کی حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کیلئے دعائیں
۳۵۰	حضور ﷺ کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں کے لئے دعائیں
۳۵۱	حضور ﷺ کی حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی اولاد، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابن رواحہ کے لیے دعائیں۔
۳۵۲	حضرت یاسر کے خاندان، حضرت ابوسلمہ اور حضرت اسامہ بن زید کے لیے حضور ﷺ کی دعائیں۔
۳۵۳	حضرت عمرو بن عاص، حضرت حکیم بن حزام، حضرت جریر اور آل بسر کے لیے حضور ﷺ کی دعائیں۔
۳۵۳	حضرت براء بن معرور، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہم کے لیے حضور ﷺ کی دعائیں۔
۳۵۳	حضرت انس بن مالک اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے حضور ﷺ کی دعائیں
۳۵۵	حضور ﷺ کی اپنے کمزور صحابہ کے لیے دعا
۳۵۶	حضور ﷺ کی نماز کے بعد کی دعائیں
۳۵۹	حضور ﷺ کی صبح اور شام کی دعائیں
۳۶۲	حضور ﷺ کی سونے کے وقت کی اور سو کر اٹھنے کے وقت کی دعائیں
۳۶۵	مجلسوں میں اور مسجد اور گھر میں داخل ہونے اور دونوں سے نکلنے کے وقت کی حضور ﷺ کی دعائیں۔

صفحہ	مضمون
۳۶۶	حضور ﷺ کی سفر میں دعائیں
۳۶۸	صحابہ کرام کو رخصت کرتے وقت کی حضور ﷺ کی دعائیں
۳۶۹	کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے وقت حضور ﷺ کی دعائیں
۳۷۰	چاند دیکھنے، کڑک سننے، بادل آنے اور تیز ہوا چلنے کے وقت کی حضور ﷺ کی دعائیں
۳۷۱	حضور ﷺ کی وہ دعائیں جن کا وقت مقرر نہیں تھا
۳۷۵	جامع دعائیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں
۳۷۶	اللہ کی پناہ چاہنا
۳۷۹	جنات سے اللہ کی پناہ چاہنا
۳۸۰	رات کو جب نیند نہ آئے یا گھبرا جائے تو کیا کہے؟
۳۸۱	بے چینی، پریشانی اور رنج و غم کے وقت کی دعائیں
۳۸۳	ظالم بادشاہ سے ڈر کے وقت کی دعائیں
۳۸۴	ادائیگی قرض کی دعائیں
۳۸۶	حفظ قرآن کی دعا
۳۸۸	نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کی دعائیں -
۴۰۰	صحابہ کرام کی ایک دوسرے کے لیے دعائیں
۴۰۲	حضرت محمد ﷺ کا پہلا بیان
۴۰۳	حضور ﷺ کا خطبہ جمعہ
۴۰۴	غزوات میں حضور ﷺ کے بیانات
۴۰۷	رمضان کی آمد پر حضور ﷺ کے بیانات
۴۰۸	نماز جمعہ کی تاکید کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۰۹	حج میں حضور ﷺ کے بیانات و خطبات
	دجال، مسلمانہ کذاب، یاجوج ماجوج اور زمین میں دھنسائے جانے کے بارے میں حضور ﷺ کے بیانات -
۴۱۶	
۴۲۰	غیبت کی برائی میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۱	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۱	برے اخلاق سے بچانے کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان



صفحہ	مضمون
۴۲۲	کبیرہ گناہوں سے بچانے کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۳	شکر کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۳	بہترین زندگی کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۴	دنیا کی بے رغبتی کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۶	حشر کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۶	تقدیر کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۷	حضور ﷺ کی رشتہ داری کے فائدہ دینے کے بارے میں حضور کا بیان
۴۲۸	حکام اور صدقات کی وصولی کا کام کرنے والوں کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۲۹	انصار کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان
۴۳۰	نبی کریم ﷺ کے مختلف بیانات
۴۳۲	حضور ﷺ کے جامع بیانات جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں
۴۳۶	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیان
۴۳۹	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر سے مغرب تک بیان
۴۳۹	بیان کے وقت نبی کریم ﷺ کی حالت
۴۳۹	امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیانات
۴۵۱	امیر المومنین حضرت عمر بن خطابؓ کے بیانات
۴۷۰	امیر المومنین حضرت عثمان بن عفانؓ کے بیانات
۴۷۵	امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالبؓ کے بیانات
۴۹۲	امیر المومنین حضرت حسن بن علیؓ کے بیانات
۴۹۵	امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ
۴۹۶	امیر المومنین حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بیانات
۵۰۰	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیانات
۵۰۲	حضرت عتبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ کے بیانات
۵۰۳	حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بیانات
۵۰۳	حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۰۳	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان

صفحہ	مضمون
۵۰۴	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۰۵	حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۰۷	حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا بیان
۵۰۹	حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۱۰	حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۱۱	حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سعد بن عبید القاری رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۱۱	حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۱۱	حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا بیان
۵۱۳	نبی کریم ﷺ کی نصیحتیں
۵۱۷	امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی نصیحتیں
۵۲۲	امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کی نصیحتیں
۵۲۳	حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی نصیحتیں
۵۲۵	حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۲۶	حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۳۱	حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۳۲	حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۳۸	حضرت ابو زر رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۴۰	حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۴۱	حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۴۳	حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۴۳	حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں
۵۴۵	حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں
۵۴۵	حضرت عبد اللہ بن زبیر کی نصیحتیں
۵۴۵	حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں
۵۴۶	حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۴۶	حضرت جناب بجلی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

صفحہ	مضمون
۵۴۷	حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۵۰	حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں
۵۵۰	فرشتوں کے ذریعے مدد
۵۵۳	فرشتوں کا مشرکوں کو قید کرنا اور ان سے جنگ کرنا
۵۵۹	صحابہ کرامؓ کا فرشتوں کو دیکھنا
۵۶۱	فرشتوں کا صحابہ کرامؓ کو سلام کرنا اور ان سے مصافحہ کرنا
۵۶۲	صحابہ کرامؓ کا فرشتوں سے گفتگو کرنا
۵۶۲	صحابہ کرامؓ کا فرشتوں کی باتیں سننا
۵۶۳	فرشتوں کا صحابہ کرامؓ کی زبان پر بولنا
۵۶۳	صحابہ کرامؓ کے قرآن کو سننے کے لئے فرشتوں کا اترنا
۵۶۵	فرشتوں کا صحابہ کرامؓ کے جنازوں کو خود غسل دینا
۵۶۶	فرشتوں کا صحابہ کرامؓ کے جنازوں کا اکرام کرنا
۵۶۷	دشمنوں کے دلوں میں صحابہ کرامؓ کا رعب
۵۶۸	اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرامؓ کے دشمنوں کی پکڑ
۵۷۱	کنکریاں اور مٹی پھینکنے سے صحابہ کرامؓ کے دشمنوں کی شکست
۵۷۲	صحابہ کرامؓ کو دشمنوں کا کم دکھائی دینا
۵۷۳	پروا ہوا کے ذریعہ صحابہ کرامؓ کی مدد
۵۷۴	دشمنوں کا زمین میں دھنس جانا اور ہلاک ہونا
۵۷۴	صحابہ کرامؓ کی بددعا سے بیٹائی کا چلا جانا
۵۷۶	حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دعا سے بیٹائی کا واپس آ جانا
۵۷۸	صحابہ کرامؓ کے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے دشمنوں کے بالا خانوں کا اٹل جانا
۵۸۳	دور دراز علاقوں تک صحابہ کرامؓ کی آواز کا پہنچ جانا
۵۸۶	صحابہ کرامؓ کا غیبی آوازیں سننا جن کا بولنے والا نظر نہیں آتا تھا
۵۸۷	جنات اور غیبی آوازوں کا صحابہ کرامؓ کی مدد کرنا
۶۰۱	حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے لئے جنات اور شیاطین کا مسخر ہونا
۶۰۶	صحابہ کرامؓ کا جمادات یعنی بے جان چیزوں کی آوازیں سننا



صفحہ	مضمون
۶۰۹	صحابہ کرامؓ کا قبر والوں کی باتیں سننا
۶۱۱	صحابہ کرامؓ کا عذاب میں مبتلا لوگوں کے عذاب کو دیکھنا
۶۱۱	صحابہ کرامؓ کا مرنے کے بعد باتیں کرنا
۶۱۳	صحابہ کرامؓ کے مردوں کا زندہ ہونا
۶۱۵	صحابہ کرامؓ کے شہداء میں زندگی کے آثار
۶۱۷	صحابہ کرامؓ کی قبروں سے مشک کی خوشبو کا آنا
۶۱۸	مقتول صحابہؓ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا
۶۱۹	مرنے کے بعد صحابہ کرامؓ کے جسم کی حفاظت
۶۲۱	درندوں کا صحابہ کرامؓ کے تابع ہونا اور ان سے باتیں کرنا
۶۲۵	صحابہ کرامؓ کے لئے دریاؤں اور سمندروں کا سحر ہونا
۶۳۲	آگ کا صحابہ کرامؓ کی اطاعت کرنا
۶۳۳	صحابہ کرامؓ کے لئے روشنی کا پھلنا
۶۳۶	بادلوں کا صحابہ کرامؓ پر سایہ کرنا
۶۳۶	صحابہ کرامؓ کی دعاؤں سے بارش ہونا
۶۴۲	آسمان سے آنے والے ڈول کے ذریعے پانی پلایا جانا
۶۴۲	پانی میں برکت
۶۴۷	سفر غزوات کے دوران کھانے میں برکت
۶۴۹	مقام پر رہتے ہوئے صحابہ کرامؓ کے کھانے میں برکت
۶۵۲	صحابہ کرامؓ کے غلوں اور پھلوں میں برکت
۶۵۷	صحابہ کرامؓ کے دودھ اور گھی میں برکت
۶۶۰	گوشت میں برکت
۶۶۱	جہاں سے روزی ملنے کا گمان نہ ہو وہاں سے روزی ملنا
۶۶۷	صحابہ کرامؓ کا خواب میں پانی پی کر سیراب ہو جانا
۶۶۷	یسی جگہ سے مال کامل جانا جہاں سے ملنے کا گمان نہ ہو
۶۶۹	صحابہ کرامؓ کے مال میں برکت
۶۷۱	تکلیفوں اور بیماریوں کا (علاج کے بغیر) دور ہو جانا

صفحہ	مضمون
۶۷۳	زہر کے اثر کا چلے جانا
۶۷۴	گرمی اور سردی کا اثر نہ کرنا
۶۷۵	بھوک کے اثر کا چلے جانا
۶۷۶	بڑھاپے کے اثر کا چلے جانا
۶۷۸	صدمہ کے اثر کا چلے جانا
۶۷۹	دعا کے ذریعے بارش سے حفاظت
۶۷۹	شہنی کا تلوار بن جانا
۶۷۹	دعا سے شراب کا سرکہ بن جانا
۶۸۰	قیدی کا قید سے رہا ہو جانا
۶۸۱	صحابہ کرامؓ کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے نافرمانوں پر کیا کیا مصیبتیں آئیں
۶۸۲	صحابہ کرامؓ کے قتل ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے نظام میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں
۶۸۵	صحابہ کرامؓ کے قتل ہونے پر جنات کا نوحہ
۶۸۷	صحابہ کرامؓ کا حضور ﷺ کو خواب میں دیکھنا
۶۹۰	صحابہ کرامؓ کا ایک دوسرے کو خواب میں دیکھنا
۶۹۳	تاگواریوں اور تختیوں کو برداشت کرنا
۶۹۵	ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنا
۶۹۶	اللہ پر توکل کرنا اور باطل والوں کو جھوٹا سمجھنا
۶۹۷	اللہ نے جن اعمال سے عزت دی ہے ان اعمال سے عزت تلاش کرنا
۷۰۰	غلبہ و عزت کی حالت میں بھی ذمیوں کی رعایت کرنا
۷۰۰	جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم چھوڑ دیں ان کی بری حالت سے عبرت حاصل کرنا

صفحہ	مضمون
۷۰۱	نیت کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنا اور آخرت کو مقصود بنانا
۷۰۲	اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید اور اذکار کے ذریعہ مدد چاہنا
۷۰۵	نبی کریم ﷺ کے بال مبارک کے ذریعہ مدد طلب کرنا
۷۰۶	فضیلت والے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق
۷۰۶	دنیا کی زیب و زینت کو بے قیمت سمجھنا
۷۱۱	دشمن کی تعداد اور ان کے سامان کے زیادہ ہونے کی طرف توجہ نہ کرنا
۷۱۲	صحابہ کرامؓ کے غالب آنے کے بارے میں دشمنوں نے کیا کہا





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

## کتاب حیاة الصحابہ رضی اللہ عنہم

### حصہ سوم

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح غیب پر ایمان لایا کرتے تھے اور نبی کریم ﷺ کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلہ میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انھوں نے غیبی امور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے مشاہدات کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔

### ایمان کی عظمت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور ﷺ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور چند ساتھیوں سمیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ہمارے ساتھ تھے، حضور ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر چلے گئے، آپ گودا پس آنے میں کافی دیر ہو گئی، ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ ہم حضور کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اکیلے گئے ہیں، کہیں اس اکیلے پن میں آپ کو کسی دشمن کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے ہم سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور حضور کو تلاش کرنے نکلا۔ چلتے چلتے انصار کے قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس پہنچا اور میں نے اس باغ کا چکر لگایا تاکہ مجھے باغ کا کوئی دروازہ مل جائے لیکن مجھے کوئی دروازہ نہ ملا۔ پھر مجھے ایک نالی نظر آئی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی تھی، میں سمٹ (اس نالی سے) اندر چلا گیا تو دیکھا کہ حضور وہاں موجود تھے، حضور نے فرمایا تم ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے

عرض کیا آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے پھر اٹھ کر چلے گئے پھر کافی دیر گزر گئی لیکن آپ واپس نہ آئے۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ آپ اکیلے ہیں، ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تو اس اکیلے پن میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس خیال سے ہم سب گھبرا گئے، سب سے پہلے میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور آپ کو ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس باغ تک پہنچ گیا (باغ کا دروازہ مجھے ملا نہیں اس لئے) میں لومڑی کی طرح سکر کر (نالی سے) اندر آ گیا ہوں اور وہ تمام لوگ میرے پیچھے پیچھے آرہے ہیں حضورؐ نے مجھے اپنے دو جوتے (نشانی کے طور پر) دے کر فرمایا میرے یہ دونوں جوتے لے جاؤ اور اس باغ کے باہر تمہیں جو یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس پر یقین کر رہا ہو اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ مجھے سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے۔ انھوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ جوتے کیا ہیں میں نے کہا یہ دونوں جوتے حضورؐ کے ہیں جنہیں دے کر حضورؐ نے مجھے بھیجا ہے کہ مجھے جو بھی یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دل سے اس پر یقین کر رہا ہو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حضرت عمرؓ نے میرے سینے پر (اس زور سے) مارا کہ میں سرین کے بل زمین پر گر پڑا اور حضرت عمرؓ نے کہا اے ابو ہریرہ! واپس جاؤ میں حضورؐ کی خدمت میں واپس گیا اور رو کر فریاد کرنے لگا حضرت عمرؓ میرے پیچھے پیچھے آئے تھے حضورؐ نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا مجھے حضرت عمرؓ باہر ملے تھے جو بشارت دے کر آپؐ نے مجھے بھیجا تھا وہ میں نے انہیں سنائی تو انھوں نے میرے سینے پر اس زور سے دو ہتھ مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا اور انھوں نے مجھ سے کہا واپس چلے جاؤ (اتنے میں حضرت عمرؓ بھی وہاں پہنچ گئے) حضورؐ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا اے عمر! تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں، کیا آپؐ نے اپنے دو جوتے دے کر حضرت ابو ہریرہؓ کو اس لئے بھیجا ہے کہ انہیں جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ دل سے اس کا یقین کر رہا ہو تو یہ اسے جنت کی بشارت دے دیں، حضورؐ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا آپؐ ایسا نہ کریں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ اس بشارت کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور (مزید نیک عمل کرنے چھوڑ دیں گے) آپؐ لوگوں کو عمل کرنے دیں، اس پر حضورؐ نے فرمایا اچھا انہیں عمل کرنے دو۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضورؐ اکیلے جا رہے ہیں آپؐ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپؐ کے ساتھ چلنے سے آپؐ کو ناگواری ہو، اس لئے میں ذرا فاصلے سے ایسی جگہ چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی نہیں پڑ رہی

تھی۔ اتنے میں حضورؐ نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے میں ابوذر ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابوذر! ادھر آؤ، میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا پھر آپ نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے البتہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا اور اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے مال خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا۔ پھر حضور کے ساتھ تھوڑی دیر اور چلا۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ اور حضور نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر حضور نے ایک پتھر لے میدان میں چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اتنی دور چلے گئے کہ مجھے نظر نہیں آرہے تھے، پھر کافی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ جب آپ میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ اس پتھر لے میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے، مجھے تو آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سناؤ نہ دیا؟ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس پتھر لے میدان کے کنارے میں میرے سامنے آئے تھے اور انھوں نے کہا تھا آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اے جبرائیل! اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے حضرت جبرائیل نے عرض کیا جی ہاں (حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے۔ حضور نے فرمایا جی ہاں! اگرچہ وہ شراب پیئے۔ بخاری مسلم اور ترمذی کی اس جیسی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا چاہے ابوذر کی ناک خاک میں مل جائے۔ (یعنی ایسا ہی ہوگا اگرچہ ابوذر کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے دیہاتی تھے جنہیں علقمہ بن علاشہ کہا جاتا تھا، انھوں نے ایک مرتبہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں بہت بوڑھا ہوں، اب اس عمر میں قرآن نہیں سیکھ سکتا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور مجھے اس کا پکا یقین ہے، جب وہ بڑے میاں چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے یا فرمایا تمہارا یہ ساتھی بڑا سمجھدار ہے۔

۱۔ اخرجہ الشیخان کذا فی جمع الفوائد (ج ۱ ص ۷) ۲۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۷۰) و اخرجہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق والدارقطنی فی الافراد من حدیث انس و اسنادہ ضعیف جدا کما فی الاصابہ (ج ۲ ص ۵۰۳)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آدمی بھی اسے سچے دل سے کہے گا وہ آگ پر ضرور حرام ہو جائے گا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں آپ کو بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے؟ یہ وہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کو جمائے رکھا، اور یہ وہ تقویٰ والا کلمہ ہے جس کی حضورؐ نے اپنے چچا ابوطالب کو مرتے وقت بہت ترغیب دی تھی، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

حضرت یعلیٰ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ واقعہ سنایا اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے اور وہ میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے، میرے والد نے فرمایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم کے پاس تھے، آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب (یہود) میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! پھر حضورؐ نے فرمایا دروازہ بند کر دو (ہم نے دروازہ بند کر دیا) پھر حضورؐ نے فرمایا اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو، چنانچہ ہم نے کچھ دیر اپنے ہاتھ اٹھائے رکھے (حضورؐ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے) پھر حضورؐ نے اپنے ہاتھ نیچے کئے (اور ہم نے بھی نیچے کئے) پھر آپ نے فرمایا الحمد للہ۔ اے اللہ! تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس (پر ایمان لانے) کا حکم دیا اور اس پر جنت کا تو نے وعدہ فرمایا اور تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا غور سے سنو، تمہیں بشارت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔

حضرت رفاعہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ جب ہم کدید یا قدید مقام پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ سے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ حضورؐ ان کو اجازت دینے لگے۔ پھر کھڑے ہو کر حضورؐ نے اللہ کی حمد و ثنایاں کی پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو درخت کا وہ حصہ جو رسول اللہ کے قریب ہے دوسرے حصے سے زیادہ ناپسند ہے۔ بس اس بات کے سنتے ہی سب رونے لگے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو رونے، ہاہو، ایک آدمی نے کہا اس کے بعد جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادان ہوگا، حضورؐ نے پھر اللہ کی حمد و ثنایاں کی اور خیر کی بات کی اور فرمایا میں اللہ کے ہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ وہ اس بات کی سچے دل سے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر وہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے تو وہ ضرور جنت میں داخل

۱۔ اخرجا محمد کذا فی المجمع (ج ۱ ص ۱۵) واخرجه ايضا ابو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم كما في الكنز (ج ۱ ص ۷۳) اخرجه احمد قال الهيثمي (ج ۱ ص ۱۹) رواه احمد والطبراني والبخاري ورجالہ مؤلفون۔ انتهى۔

ہوگا اور میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی جنت میں حساب کتاب اور عذاب کے بغیر داخل کرے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اور آپ لوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے پھر وہ ستر ہزار جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ سے جو اجازت مانگے گا وہ یقیناً بڑا نادران ہوگا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا اے فلاں! تم نے ایسے اور ایسے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں! میں نے ایسے نہیں کیا، چونکہ حضورؐ کو معلوم تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس لئے آپؐ نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا (لیکن ہر مرتبہ وہ یہی جواب دیتا رہا) حضورؐ نے فرمایا چونکہ تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر رہے ہو اس وجہ سے تمہارے اس گناہ کو مٹا دیا گیا۔ ۲ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا تمہارے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے تمہارے جھوٹ کا کفارہ ہو گیا۔ ۳

حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی اور یوں کہا کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو (جھوٹی قسم کھانے کا) گناہ معاف کر دیا گیا (کیونکہ اس نے قسم کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی کہہ دیئے تو ان الفاظ کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گیا)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبلہ کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان جواب دیں گے کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے، کفار کہیں گے تمہارے اسلام کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آگئے، مسلمان جواب میں کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیئے گئے، مسلمانوں کے اس جواب کو اللہ تعالیٰ سنیں گے اور (فرشتوں کو) حکم دیں گے، چنانچہ جہنم میں جتنے قبلہ کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ سب اس میں سے نکال دیئے جائیں

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱ ص ۲۰) رواہ احمد وعند ابن ماجہ بعضہ و رجالہ مؤلفون. ۵۱  
 و اخرجہ ابضا الدارمی وابن خزيمة وابن حبان والطبرانی بطوله كما فی الكنز (ج ۵ ص ۲۸۷) ۲۔  
 اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱ ص ۸۳) رواہ البزار وابویعلی بنحوہ الا انه قال کفر اللہ عنک  
 کذبک بتصدیقک بلا الہ الا اللہ ورجالہما رجال الصحیح. انتہی وقال فی ہامشہ عن ابن حجر  
 قلت فیہ الحارث بن عبید ابو قدامة وهو کثیر المناکیر وهذا منها وقد ذکر البزار انه تفرده. انتہی  
 ۳۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۸۳) ورجالہ رجال الصحیح.

گے۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے کافر یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے تو جیسے یہ نکل گئے ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ پھر حضورؐ نے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر یہ آیات پڑھیں: اَلرَّبِّ لَكَ اَيُّ الْكِتٰبِ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ۝ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (سورۃ الحجرات - ۱-۲) ترجمہ: اگر یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی۔ کافر لوگ بار بار تمنا کریں گے کیا خوب ہوتا اگر وہ مسلمان ہوتے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو لات اور عزی (بتوں) کو ماننے والے ان سے کہیں گے کہ جب تم بھی ہمارے ساتھ جہنم کی آگ میں ہو تو لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے حق میں غصہ آجائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال کر نہر حیات میں ڈال دیں گے جس سے ان کے جسم جہنم کی جلن سے ایسے صاف ہو جائیں گے جیسے کہ چاند گرہن سے نکل کر صاف ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت میں یہ لوگ جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ چونکہ ان کے چہروں میں کچھ سیاہی ہوگی، اس لئے یہ لوگ جنت میں جہنمی کے نام سے پکارے جائیں گے وہ عرض کریں گے اے رب! تو ہمارا یہ نام ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نہر میں نہانے کا حکم دیں گے وہ اس نہر میں نہائیں گے تو (وہ سیاہی چلی جائے گی اور) ان کا یہ نام ختم ہو جائے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا اسلام بھی ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر ایک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی۔ (فرشتہ ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا) اور لوگوں کی مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر پایا تھا۔ ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت صلہ (راوی) نے پوچھا کہ جب وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہؓ نے ان سے اعراض فرمایا، حضرت صلہ نے دوبارہ پوچھا تو حضرت حذیفہؓ نے پھر اعراض فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت حذیفہؓ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے صلہ! یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا، یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا،

۱۔ اخرجہ الطبرانی و رواہ ابن ابی حاتم نحوہ وفيہ البسلة عوض الاستعاذہ

۲۔ عندنا الطبرانی و اخرجہ الطبرانی ايضا عن ابی سعید الحدادی بسباق آخر نحوہ

۳۔ کذا فی التفسیر ابن کثیر (ج ۲ ص ۵۳۶)

یہ کلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معاملہ صاف رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ آدمی ہے جو لا الہ الا اللہ والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہو۔ ۲

حضرت سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابوسعید بن منبہ نے سو غلام آزاد کئے ہیں، حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا ایک آدمی کے مال میں سے سو غلام بہت زیادہ ہیں لیکن اگر تم کہو تو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے (اعمال) بتا دوں۔ ایک تو وہ ایمان جو دن رات ہر وقت دل سے چمٹا ہوا ہو اور دوسرے یہ کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ۳

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، اسی طرح اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ مال تو اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہو اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو لیکن ایمان صرف اسے ہی دیتے ہیں جس سے محبت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے ایمان دے دیتے ہیں، لہذا جو بخل کی وجہ سے مال نہ خرچ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے دشمن سے جہاد نہ کر سکتا ہو اور راتوں کو محنت نہ کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ کثرت سے کہا کرے۔ ۴

## ایمان کی مجلسیں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ جب حضورؐ کے کسی صحابیؓ سے ملتے تو اس سے کہتے آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان کو تازہ کریں۔ ایک دن انہوں نے یہ بات ایک آدمی سے کہی اسے غصہ آ گیا اور اس نے جا کر حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کو نہیں دیکھا کہ وہ آپ کے ایمان کو چھوڑ

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۴۵) عن ربیع قال الحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه وقال الذهبی علی شرط مسلم ۲۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۷۶) ۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۹) و اخرجہ ابن ابی الدنیا موقوفا باسناد حسن عن سالم بن ابی الجعد قال قیل لابی الدرداء ان رجلا اعتق ف ذکر نحوه کما فی الترغیب (ج ۳ ص ۵۵) ۴۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۹۰) رواہ الطبرانی موقوفا و رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی وقال المنذری فی الترغیب (ج ۲ ص ۹۵) رواہ ثقات و لیس فی اصلی رفعہ۔



کرا ایک گھڑی کا ایمان اختیار کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے یہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔ حضرت عطاء بن یسارؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا آؤ ہم ایک گھڑی اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ اس نے کہا کیا ہم پہلے سے مومن نہیں ہیں؟ حضرت عبداللہؓ نے کہا، ہیں لیکن ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ حضرت شریح بن عبداللہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ اپنے کسی ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تا کہ ہم ایمان تازہ کر لیں اور ذکر کی مجلس میں (اللہ کی ذات و صفات کا آپس میں ذکر کرنے) بیٹھ جائیں۔ ۳۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتے، آؤ ہم کچھ دیر اپنا ایمان تازہ کر لیں کیونکہ دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے جو خوب زور شور سے ابل رہی ہو۔ حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہؓ مجھ سے ملتے تو مجھے کہتے، اے عویر! ذرا بیٹھ جاؤ کچھ دیر (ایمان کا) مذاکرہ کر لیں، چنانچہ ہم بیٹھ کر مذاکرہ کر لیتے پھر مجھ سے فرماتے یہ ایمان کی مجلس ہے۔ ایمان تمہارے کرتے کی طرح ہے جسے تم نے پہنا ہوا ہوتا ہے پھر تم اسے اتار لیتے ہو۔ اتارا ہوا ہوتا ہے پھر تم اسے پہن لیتے ہو اور دل اس ہانڈی سے بھی جلدی پلٹ جاتا ہے۔ جو خوب زور شور سے ابل رہی ہو۔ ۵۔

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ اپنے ساتھیوں میں سے ایک دو کا ہاتھ پکڑ لیتے اور فرماتے ہمارے ساتھ کچھ دیر رہو تا کہ ہم اپنا ایمان بڑھا لیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ (کی ذات و صفات) کا ذکر کرتے۔ ۱۔

حضرت اسود بن ہلالؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاذؓ کے ساتھ چل رہے تھے کہ اتنے میں انھوں نے فرمایا آؤ کچھ دیر بیٹھ کر ایمان تازہ کر لیں۔ ۷۔

## ایمان تازہ کرنا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا اپنا ایمان تازہ کرتے رہو۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! ہم اپنا ایمان کیسے تازہ کریں؟ آپؐ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے کہا کرو۔ ۸۔

۱۔ اخرجہ احمد باسناد حسن کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۶۳) وقال الحافظ ابن کثیر فی البدایہ (ج ۳ ص ۲۵۸) هذا حديث غريب جدا . ۲۔ قاله اليهقي باسنادہ ۳۔ قد روى الحافظ ابو القاسم اللالكاني وهذا مرسل من هذين الوجهين انتهى ۴۔ اخرجہ الطيباسي ۵۔ عند ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۱۰۱) ۶۔ اخرجہ ابن ابی شيبه واللالکانی فی السنه کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۰۷) ۷۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ (ج ۱ ص ۲۳۵) ۸۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الهیثمی (ج ۱ ص ۸۲) رجال احمد ثقات وقال المنذری فی الترغیب (ج ۳ ص ۷۵) اسناد احمد حسن

## اللہ اور رسول کی بات کو سچا ماننا اور اس کے

### مقابلہ میں انسانی تجربات اور اپنے مشاہدات کو غلط سمجھنا

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آرہے ہیں، حضورؐ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لئے شفا ہے) وہ آدمی گیا اور اس نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا اور پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اسے شہد پلایا اس سے تو دست اور زیادہ آنے لگے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا جاؤ اور اسے شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر شہد پلایا اور پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! اس کو تو دست اور زیادہ آنے لگے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ سچ فرماتے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے۔ جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ اب جا کر اس نے بھائی کو شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی بیوی حضرت زینبؓ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہؓ جب ضرورت پوری کر کے گھر واپس آتے اور دروازے پر پہنچتے تو کھنکارتے اور تھوکتے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک اندر آئیں اور ہمیں کسی نامناسب حالت میں دیکھ لیں، چنانچہ وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کھنکارا اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو پت کا منتر پڑھ کر مجھ پر دم کر رہی تھی، میں نے اسے پتنگ کے نیچے چھپا دیا۔ حضرت عبداللہؓ اندر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان کو میری گردن میں ایک دھاگہ نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ دھاگہ کیسا ہے؟ میں نے کہا اس پر منتر پڑھ کر کسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھاگہ پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا عبداللہؓ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ منتر تعویذ اور گنڈا یہ سب شرک ہے۔ (بشرطیکہ ان چیزوں کو ہی خود اثر کرنے والا سمجھے) میں نے ان سے کہا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ دکھنے آتی تھی میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی وہ دم کیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ دم کرتا میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے تھا۔ شیطان تمہاری آنکھ پر ہاتھ سے کو چا مارتا تھا (جس سے آنکھ دکھنے لگ جاتی تھی) جب وہ یہودی دم کرتا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیتا (جس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی) تمہیں یہ کافی تھا کہ تم اس موقع پر یہ دعا پڑھ لیتیں جو کہ حضورؐ پڑھا کرتے تھے: اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء ک شفاء لا یفادر سقما۔ ۲

۱۔ اخرجہ الشیخان کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۵۷۵)

۲۔ اخرجہ احمد کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۹۳)

حضرت عکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن رواحہؓ اپنی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے ان کی باندی گھر کے کونے میں (سورہی) تھی۔ یہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور اس میں مشغول ہو گئے۔ ان کی بیوی گھبرا کر اٹھی اور ان کو بستر پر نہ پایا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور انہیں باندی میں مشغول دیکھا۔ وہ اندر واپس آئی اور چھری لے کر باہر نکلی اتنے میں یہ فارغ ہو کر کھڑے ہو چکے تھے اور اپنی بیوی کو راستے میں ملے۔ بیوی نے چھری اٹھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ اگر میں تمہیں وہاں پالیتی جہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان یہ چھری گھونپ دیتی۔ حضرت ابن رواحہؓ نے کہا تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا انہوں نے کہا میں نے تمہیں باندی کے پاس دیکھا تھا۔ حضرت ابن رواحہؓ نے کہا تم نے مجھے وہاں نہیں دیکھا تھا (میں باندی کے پاس نہیں گیا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہوتا تو میں جسی ہوتا) اور حضورؐ نے حالت جنابت میں قرآن پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے (اور میں ابھی قرآن پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں) ان کی بیوی نے کہا اچھا قرآن پڑھو۔ انہوں نے یہ اشعار (اس طرح سے) پڑھے (کہ ان کی بیوی قرآن سمجھتی رہی۔) (محبت بڑھانے کے لئے میاں بیوی کا آپس میں جھوٹ بولنا جائز ہے)۔

اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ  
کما لاح مشہور من الفجر ساطع  
ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے جو اللہ کی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ روشن اور چمکدار صبح کی طرح چمکتی ہے۔

اتی بالہدی بعد العمی فقلوبنا  
بہ موقنات ان ماقال واقع  
آپ لوگوں کے اندھے پن کے بعد ہدایت لے کر آئے اور ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ  
آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

بیت بجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع  
جب مشرکین بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ عبادت میں ساری  
رات گزار دیتے ہیں، اور آپ کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔  
یہ اشعار سن کر ان کی بیوی نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور میں اپنی نگاہ کو غلط قرار دیتی  
ہوں۔ پھر صبح کو حضرت ابن رواحہؓ نے حضورؐ کی خدمت میں جا کر یہ واقعہ سنایا تو حضورؐ اتنا ہنسے کہ  
آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔

۱۔ اخرجہ الدار قطنی (ص ۴۴) و اخرجہ الدار قطنی (ص ۴۵) ایضا من طریق آخر عن  
عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال دخل عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فذکرہ نحوہ  
فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان یقرا احدنا القرآن وهو جنب قال فی التعلیق  
المغنی (ص ۴۵) فیہ سلمة بن بہرام وثقفہ ابن معین و ابو زرعة وضعفہ ابو داؤد انہی۔

حضرت حبیب بن ابی ثابتؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوہریرہؓ سے کچھ پوچھنے گیا۔ انہوں نے کہا ہم جنگ صفین میں تھے تو ایک آدمی نے کہا کیا آپؓ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا ہاں (میں نے انہیں دیکھا ہے) حضرت سہل بن حنیفؓ نے (اس آدمی کو) کہا، اپنے آپ کو قصور وار ٹھہراؤ کیونکہ ہم نے صلح حدیبیہ کے دن جس دن حضورؐ اور مشرکوں کے درمیان صلح ہوئی تھی یہ دیکھا تھا کہ اگر ہم لڑنا مفید سمجھتے تو ہم مشرکوں سے لڑ سکتے تھے (لیکن ہم نے مفید نہ سمجھا صلح کے بعد) حضرت عمرؓ نے (حضورؐ کی خدمت میں) عرض کیا کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہید جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اور ابھی اللہ نے ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فرمایا تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا اب ابن خطاب! میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے (اس سے حضرت عمرؓ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا بلکہ وہ غصہ میں بھرے سیدھے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے ابو بکر! کیا ہم حق پر اور یہ مشرک باطل پر نہیں؟ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اے ابن خطاب! یہ اللہ کے رسولؐ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے پھر سورت الفتح نازل ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سہل بن حنیفؓ نے کہا اے لوگو! اپنی رائے کو ناقص سمجھو میں نے حضرت ابو جندلؓ (کے مشرکوں کی طرف واپس کئے جانے) کے دن دیکھا (کہ جب حضورؐ نے انہیں مشرکوں کی طرف واپس کرنے کو مان لیا تو مجھے اس سے اتنی زیادہ گرانی ہوئی) کہ حضورؐ کی بات۔ برا نکار کی اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو اس دن میں ضرور انکار کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر سورت فتح نازل ہوئی تو حضورؐ نے حضرت عمر بن خطابؓ کو بلایا اور انہیں سورت فتح پڑھ کر سنائی۔ ۲ اور دعوت الی اللہ کے باب میں صلح حدیبیہ کے قصہ میں بخاری کی لمبی حدیث گزر چکی ہے جسے حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو جندلؓ نے کہا اے مسلمانو! میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا، ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپؐ نے فرمایا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ آپؐ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔

۱۔ اخرجه البخاری فی التفسیر و قدر واه البخاری ایضاً فی مواضع اخر و مسلم والنسائی من

طرق اخر عن سهل بن حنیف بہ ۲۔ کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۲۰۰)

میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر! کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ انھوں نے کہا، ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ انھوں نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دُوب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے آدمی! وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی قسم! وہ حق پر ہیں، میں نے کہا کیا انھوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انھوں نے کہا، ہاں۔ انھوں نے کہا تھا لیکن کیا انھوں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انھوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اپنا اس گستاخی کی معافی کے لئے بہت سے اعمال خیر کئے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریمؐ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ (سورۃ فتح آیت ۲) ترجمہ ”تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطا میں معاف فرمادے“ حضورؐ نے فرمایا آج مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضورؐ نے صحابہ کو یہ آیت سنائی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ کو یہ خوشخبری مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے لیکن یہ نہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اس پر حضورؐ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سے لے کر فوز اعظیما تک (سورۃ فتح آیت ۵) ترجمہ تا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ کو رہیں گے اور تا کہ ان کے گناہ دور کر دے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سے واپسی میں یہ آیت حضورؐ پر نازل ہوئی اِنَّسَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (سورۃ فتح آیت ۱) ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ حضورؐ کے صحابہؓ کو (بیت اللہ کے قریب پہنچ کر) عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا اور حضورؐ اور صحابہؓ نے حدیبیہ میں قربانی کے جانور ذبح کر دیئے تھے اور سب پر بہت زیادہ رنج و غم طاری تھا۔ حضورؐ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے اور پھر

حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ  
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ۝ سے لے کر عزیزا ۝ تک۔ حضور کے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی  
! آپ کو مبارک ہو۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔

حضرت مجمع بن جاز یہ انصاریؒ پورا قرآن پڑھے ہوئے قاریوں میں سے تھے وہ فرماتے  
ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے جب ہم وہاں سے واپس ہوئے تو لوگ اونٹوں کو دوڑا  
رہے تھے کچھ لوگوں نے دوسروں سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا؟ (یہ اونٹ اتنے تیز کیوں دوڑا  
رہے ہیں) ان لوگوں نے بتایا کہ حضورؐ پر وحی نازل ہوئی ہے تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ سواریاں  
تیز دوڑانے لگے۔ جب حضورؐ کے پاس پہنچے تو حضورؐ کسوع الغمیم مقام کے نزدیک اپنی سواری  
پر تشریف فرما تھے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے اِنَّا فَتَحْنَا  
لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا پڑھ کر سنائی۔ حضورؐ کے پاس صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ  
! کیا یہ فتح تھی؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے یہ یقیناً  
زبردست فتح تھی۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔

حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو بڑی فتح سمجھتے ہو۔ فتح مکہ بھی بڑی فتح ہے لیکن ہم صلح  
حدیبیہ کے دن جو بیعت الرضوان ہوئی تھی اسے سب سے بڑی فتح سمجھتے ہیں۔ آگے اور بھی حدیث  
ہے۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں ہم بڑی فتح صرف صلح حدیبیہ کو ہی شمار کرتے تھے۔

حضرت قیس بن حجاجؓ اپنے ایک استاد سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح  
کر لیا اور مصری مہینوں میں سے بونہ نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمرو بن  
عاصؓ کے پاس مصر والے آئے اور انھوں نے کہا اے امیر صاحب! ہمارے اس دریائے نیل کے  
جاری رہنے کے لئے ایک پرانی رسم ہے وہ رسم ہم ادا نہ کریں تو دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا  
ہے۔ حضرت عمروؓ نے فرمایا وہ رسم کیا ہے؟ مصر والوں نے کہا وہ رسم یہ ہے جب اس (بونہ) مہینے  
کی بارہ تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس  
رہتی ہو۔ اس کے ماں باپ کو (بہت سامان دے کر) راضی کرتے ہیں۔ پھر اس لڑکی کو سب سے  
عمدہ زیور اور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمروؓ نے  
ان سے فرمایا یہ کام اسلام میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط کاموں کو ختم کر دیتا  
ہے۔ وہ مصری لوگ بونہ مہینے میں وہاں ہی رہے دریائے نیل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ بالآخر

۱۔ عند ابن جریر (ج ۲۶ ص ۴۴) ۲۔ اخرجه احمد ورواه ابو داؤد فی الجہاد

کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۱۸۳) ۳۔ اخرجه البخاری کما فی التفسیر لابن کثیر

(ج ۳ ص ۱۸۲) واخرجه ابن جریر فی تفسیرہ (۲۶۷ ص ۴۴) عن البراء نحوه

مصریوں نے مصر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمروؓ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط میں یہ ساری تفصیل لکھ کر بھیجی حضرت عمرؓ نے جواب میں یہ لکھا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ پھر آگے اور حدیث بھی ہے جیسے کہ تائیدات غیبیہ کے باب میں دریاؤں کے مسخر ہونے کے ذیل میں آئے گی۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عمروؓ نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ (یہ جمعہ کا دن تھا) ہفتہ کے دن صبح کو لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں سولہ ہاتھ پانی چڑھا دیا تھا اور یوں اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کو اس غلط رسم کو ختم کر دیا۔ اور آج تک وہ رسم ختم ہے (اس کے بغیر ہی دریائے نیل میں مسلسل پانی چل رہا ہے۔) کلا حضرت سہم بن منجابؓ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علاء بن حضرمیؓ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے ہم چلتے چلتے دارین (جزیرے) کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے اوردارین والوں کے درمیان سمندر تھا۔ حضرت علاءؓ نے یہ دعا مانگی یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستہ میں ہیں تیرے دشمن سے جنگ کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ! دشمن تک پہنچنے کا ہمارے لئے راستہ بنا دے۔ اس کے بعد حضرت علاءؓ ہمیں لے کر سمندر میں اتر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گھس گئے لیکن سمندر کا پانی ہماری زین کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچا اور ہم لوگ ان تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اس جیسی حدیث منقول ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ کسری کے گورنر ابن مکعب نے جب ہمیں (یوں سمندر پر چل کر آتے ہوئے) دیکھا تو اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم! ہم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے (ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے)۔ پھر وہ کشتی میں بیٹھ کر فارس چلا گیا۔ اور عنقریب جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے دریائے دجلہ پار کرنے کے بارے میں احادیث آئیں گی اور ان میں حضرت حجر بن عدیؓ کا یہ قول بھی آئے گا کہ آپ لوگوں کو پار کر کے دشمن تک پہنچنے سے صرف پانی کی یہ بوند یعنی دریائے دجلہ روک رہا ہے پھر یہ آیت پڑھی: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا۔ (سورۃ آل عمران آیت ۱۴۵) ترجمہ ”اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم اللہ تعالیٰ کے، اس طور سے کہ اس کی معیاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے“ پھر حضرت حجر بن عدیؓ نے اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے ڈالا تو تمام لوگوں نے اپنے جانور دریا میں ڈال دیئے۔ جب دشمن کے

۱۔ اخرجہ الحافظ ابو القاسم اللالكائي في السنة و اخرجہ ايضا ابن عساكر و ابو الشيخ وغيرهما ۲۔ اخرجہ ابو نعیم في الحلیة (ج ۱ ص ۷) ۳۔ اخرجہ ابو نعیم ايضا (ج ۱ ص ۸) و اخرجہ ابو نعیم في الدلائل (ص ۲۰۸) عن ابی ہریرة و الطبرانی عنه و ابن ابی الدنيا عن سہم بن منجاب و البیهقی عن انس رضی اللہ عنہ کما ستاتی احادیث ہولاء فی تسخیر البحار

لوگوں نے ان کو (یوں دریا پر چل کر) آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے ”دیو آگئے، دیو آگئے،“ اور دشمن کے لوگ (آخر کار) بھاگ گئے۔

حضرت معاذ یہ بن حزل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ (مدینہ منورہ کے پتھرے میدان) حرہ میں آگ نکلی تو حضرت عمرؓ حضرت تمیمؓ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ اٹھو اور اس آگ کا انتظام کرو۔ حضرت تمیمؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ (تواضع کرنے لگے) حضرت عمرؓ ان پر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت تمیمؓ گھڑے ہو گئے اور دونوں آگ کی طرف چل پڑے اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر حضرت تمیمؓ آگ کو اپنے ہاتھ سے دھکا دیتے رہے کہ وہ آگ (اس) گھائی میں داخل ہوگئی (جس میں سے نکل کر آئی تھی) اور آگ کے پیچھے حضرت تمیمؓ بھی گھائی کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ فرمانے لگے کہ جس نے یہ منظر نہیں دیکھا وہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا (کیونکہ اسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو گیا ہے) ۲۔

بحرین کے ایک صاحب ابو سکینہؓ نبی کریم ﷺ کے ایک صحابیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو (خندق کھودتے ہوئے) صحابہؓ کے سامنے ایک چٹان آگئی جس نے صحابہؓ کو خندق کھودنے سے روک دیا۔ حضورؐ کے ایک کنارے پر چادر رکھ کر کھڑے ہوئے اور کدال لے کر یہ آیت پڑھی: **وَمَتَّ كَلِمَةً رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** (سورۃ انعام آیت ۱۱۵) ترجمہ ”اور آپ کے رب کا کلام واقفیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔ اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ خوب سن رہے ہیں خوب جان رہے ہیں۔“ اور آپ نے زور سے کدال چٹان پر ماری اس سے چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضرت سلمان فارسیؓ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضورؐ کے کدال مارنے کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوئی پھر آپ نے دوبارہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا اور پھر دوبارہ ایک چمک ظاہر ہوئی جسے حضرت سلمانؓ نے دیکھا حضورؐ نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا آخری تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا پھر حضورؐ خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمانؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی چٹان پر چوٹ مارتے تو اس کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوتی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے سلمان! کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ حضرت سلمانؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا جب میں نے پہلی دفعہ چوٹ ماری تھی تو اس وقت کسری کا شہر مدائن اور

۱۔ اخرجہ ابن ابی حاتم عن حبيب بن ظبيان ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل ص

۲۱۲ و اخرجہ البیہقی والہروی کفی سیاتی فی التائیدات النبویة فی اطاعة النیران



اس کے آس پاس کے علاقے اور بہت سارے شہر میرے سامنے ظاہر کر دیئے گئے جنہیں میں نے دیکھا۔ وہاں جو صحابہ اُس وقت موجود تھے انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ یہ تمام شہر فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لئے مالِ غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے؛ چنانچہ آپ نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا پھر میں نے دوسری مرتبہ چوٹ ماری تو قیصر کے شہر اور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیئے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ یہ تمام علاقے فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لئے مالِ غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے، چنانچہ آپ نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کیئے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر حضور ﷺ نے فرمایا جب تک حبشہ والے تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو اور جب تک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو۔ یہ حکم شروع میں تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (اور ہر ملک میں جانے کا حکم آ گیا)۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ پھر حضور ﷺ تشریف لائے اور حضرت سلمانؓ سے کدال لے کر اس زور سے ماری کہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں سے ایک روشنی نکلی جس سے سارا مدینہ روشن ہو گیا اور ایسے لگا کہ جیسے اندھیری رات میں چراغ جل رہا، حضور اکرمؐ نے ایسے تکبیر کہی جیسے دشمن پر فتح کے وقت کہی جاتی ہے اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی اور حضورؐ نے دوبارہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ حضورؐ نے تیسری مرتبہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت سلمانؓ اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ اور اس مدثنی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور ﷺ نے فرمایا پہلی چوٹ لگانے سے میرے سامنے حیرہ مقام کے محل اور کسری کا مدائن ایسے روشن ہو گیا جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں اور حضرت جبرائیلؑ نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی اور دوسری چوٹ لگانے سے روم کے سرخ محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی اور تیسری مرتبہ چوٹ لگانے سے صنعا کے محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیلؑ نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کر لے گی، اس لئے تم سب خوشخبری حاصل کرو یہ سن کر تمام مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا الحمد للہ سچا وعدہ ہے اور جب کفار کی جماعتیں خندق پر پہنچیں تو مسلمانوں نے کہا یہ تو وہ ہو رہا

۱۔ أخرجه النسائي قال ابن كثير في البداية (ج ۳ ص ۱۰۲) هكذا رواه النسائي مطولا وانما

روى منه ابو داود دعوانا لله مادعوكم واتركوا الترك ما تروكم انتهى

ہے جس کی ہمیں اللہ اور اس کے رسولؐ نے خبر دی تھی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے سچ فرمایا تھا (اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اس واقعہ نے مسلمانوں کے ایمان اور اطاعت کو اور بڑھا دیا اور منافقوں نے کہا تمہارے رسولؐ تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یثرب یعنی مدینہ سے ہی حیرہ کے محل اور کسریٰ کا مدائن دیکھ رہے ہیں اور وہ فتح ہو کر تمہیں ملیں گے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ خندق کھود رہے ہو اور تم لوگ تو میدان میں ان کے سامنے جا ہی نہیں سکتے۔ اس پر منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: **وَإِذِ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا** (سورۃ احزاب آیت ۱۲) ترجمہ: ”اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسولؐ نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔“

تائیدات غیبیہ کے باب میں غزوات میں کھانے کی برکت کے عنوان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک لمبی حدیث آرہی ہے جس میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا مجھے چھوڑو، سب سے پہلے میں اس پتھر پر چوٹ ماروں گا، چنانچہ آپؐ نے بسم اللہ پڑھی اور اس پتھر پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ کر گر گیا اور آپؐ نے فرمایا، اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! روم کے محلات! آپؐ نے پھر اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا! آپؐ نے فرمایا اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! فارس کے محلات! اس پر منافقوں نے کہا کہ ہم تو (اپنی جان بچانے کے لئے) اپنے ارد گرد خندق کھود رہے ہیں اور یہ ہم سے فارس اور روم کے محلات کا وعدہ کر رہے ہیں۔“

اور عنقریب تائیدات غیبیہ کے باب میں زہر کے اثر نہ ہونے کے عنوان میں یہ مضمون آئے گا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے زہر پیا اور فرمایا کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا اور یہ بھی آئے گا کہ عمروؓ نے کہا اے عربوں کی جماعت! جب تک تمہارے طبقہ (صحابہؓ) کا ایک فرد بھی باقی رہے گا تم جس کام یا ملک کا ارادہ کرو گے اس کے مالک بن جاؤ گے اور یہ بھی آئے گا کہ عمروؓ نے حیرہ والوں سے کہا میں نے آج جیسا واضح دلیل والا دن کبھی نہیں دیکھا اور نصرت خداوندی کے اسباب کے باب میں آئے گا کہ حضرت ثابت بن اقرمؓ نے کہا اے ابو ہریرہ! ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دشمن کی بہت زیادہ فوجیں دیکھ رہے ہیں (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ثابت نے کہا آپ ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے (اللہ کی طرف سے) ہماری مدد تعداد کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی (وہ تو ایمان و اعمال اور داعیانہ جذبات کی وجہ سے ہوتی ہے) اور یہ بھی آئے گا کہ ایک آدمی نے حضرت خالدؓ

۱۔ اخرجه ابن جرير قال ابن كثير في البداية (ج ۳ ص ۱۰۰) وهذا حديث غريب

۲۔ اخرجه الطبراني قال الهيثمي (ج ۶ ص ۱۳۲) رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن احمد

بن حنبل ونعيم العنبري و هما لقتان انتهى.

سے کہا آج رومی کتنے زیادہ اور مسلمان کتنے کم ہیں۔ حضرت خالدؓ نے کہا نہیں رومی کتنے کم اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں۔ لشکر نصرت خداوندی سے زیادہ ہوتے ہیں اور نصرت خداوندی سے محروم ہوں تو کم ہو جاتے ہیں۔ کثرت اور قلت کا دار و مدار انسانوں کی تعداد پر نہیں ہے اللہ کی قسم! میری تمنا ہے کہ میرا شتر نامی گھوڑا تندرست ہو جائے اور رومیوں کی تعداد گنی ہو جائے اور یہ بھی آئے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا: اما بعد! تمہارا خط میرے پاس آیا جس میں تم نے لکھا ہے کہ رومیوں کے لشکر بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کے ساتھ ہماری مدد سامان کی کثرت اور لشکروں کی کثرت کی وجہ سے نہیں کی تھی۔ ہم حضورؐ کے ساتھ غزوے میں جایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ صرف دو گھوڑے ہوتے تھے اور بعض غزوات میں اونٹ اتنے کم ہوتے تھے کہ ہم باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ اور جنگ احد کے دن ہم حضورؐ کے ساتھ تھے، ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جس پر حضورؐ سوار تھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مخالفوں کے خلاف ہماری پشت پناہی کرتے تھے اور پہلے یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے سخت حالات کے باوجود حضرت اسامہؓ کا لشکر روانہ فرمایا تھا، ہر طرف سے عرب ان پر ٹوٹ پڑے تھے (چند قبائل کے سوا) سارے عرب والے مرتد ہو گئے تھے اور نفاق ظاہر ہو گیا تھا اور یہودیت اور نصرانیت گردن اٹھانے لگی تھی اور چونکہ حضورؐ کے حادثہ انتقال کا صدمہ تازہ تھا اور صحابہؓ کی تعداد کم اور دشمن کی تعداد زیادہ تھی اس وجہ سے صحابہؓ کی حالت اس بکری جیسی تھی جو سخت سردی والی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو اور صحابہؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ حضرت اسامہؓ کے لشکر کو روک لیں لیکن حضرت ابو بکرؓ چونکہ صحابہؓ میں سب سے زیادہ سمجھدار اور دور اندیش تھے اس وجہ سے انھوں نے کہا کیا میں اس لشکر کو روک لوں جسے رسول اللہؐ نے بھیجا؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بہت بڑی جسارت ہوگی۔ اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑیں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے سے روک دوں جسے حضورؐ نے روانہ فرمایا تھا، اے اسامہ! تم اپنے لشکر کو لے کر وہاں جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم ہوا تھا اور فلسطین کے جس علاقہ میں جا کر لڑنے کا حضورؐ نے تمہیں حکم دیا تھا وہاں جا کر اہل موتہ سے لڑو، تم جنہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ ان کے لئے کافی ہے۔ اور غزوہ موتہ کے دن کے بیان میں یہ گزر چکا ہے کہ جب دشمن کی تعداد دو لاکھ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میری قوم! اللہ کی قسم! جس شہادت کو تم پسند نہیں کر رہے ہو (حقیقت میں) تم اسی کی تلاش میں نکلے ہو۔ ہم لوگوں سے جنگ تعداد، طاقت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ ہم تو لوگوں سے جنگ اس دین کی بنیاد پر کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، لہذا چلو دو کامیابیوں میں سے ایک

کامیابی تو ضرور ملے گی یا تو دشمن پر غلبہ یا اللہ کے راستہ کی شہادت۔ اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم! ابن رواحہؓ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس بارے میں صحابہؓ کے کتنے قصے اس کتاب میں جگہ جگہ موجود ہیں بلکہ احادیث غزوات اور سیرت کی کتابوں میں بھی کثرت سے موجود ہیں، لہذا انہیں دوبارہ ذکر کر کے ہم اس کتاب کو مزید لمبا نہیں کرنا چاہتے۔

## ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت حارث بن مالکؓ سو رہے تھے۔ حضورؐ نے ان کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ انہوں نے سر اٹھا کر کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا، اے حارث بن مالک! تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے پکا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ہر حق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے جو تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارثؓ نے عرض کیا میں نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا لیا اور دن کو میں پیسا سار ہتا ہوں۔ یعنی روزہ رکھتا ہوں اور رات کو جاگتا ہوں اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جہنم والوں کو ایک دوسرے پر بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حضورؐ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل نورانی بنا دیا ہے اور تم نے (ایمان کی حقیقت کو) پہچان لیا ہے، لہذا تم اس (ایمانی کیفیت) پر کئے رہو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا تم نے (حقیقت کو) دیکھ لیا ہے اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر حضورؐ نے فرمایا، اس بندے کے دل میں اللہ نے ایمان کو روشن کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! آپ میرے لئے اللہ سے شہادت کی دعا فرمادیں۔ حضورؐ نے دعا فرمادی، چنانچہ ایک دن اعلان ہوا کہ اے اللہ کے سوارو! (گھوڑوں پر) سوار ہو جاؤ۔ اس پر یہی سب سے پہلے سوار ہوئے اور یہی سب سے پہلے شہید ہوئے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک انصاری نوجوان آئے۔ حضورؐ نے ان سے فرمایا اے حارث! تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اللہ پر پختہ ایمان لانے کی حالت میں صبح کی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا تم دیکھ لو، کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ہر قول کی حقیقت ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے

اپنا دل دنیا سے ہٹالیا ہے پھر آگے عسکری جیسی حدیث ذکر کی ہے اور مزید کچھ اور مضمون بھی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ہر قول کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ نے فرمایا تم نے کس حال میں صبح کی؟ حضرت معاذؓ نے عرض کیا میں نے آپ پر ایمان لانے کی حالت میں صبح کی، حضورؐ نے فرمایا ہر بات کی سچائی کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور ہر حق بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہاری بات کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ حضرت معاذؓ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! جب بھی صبح ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شام نہیں کر سکوں گا اور جب بھی شام ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں صبح نہیں کر سکوں گا اور جب بھی کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ میں دوسرا قدم نہیں اٹھا سکوں گا اور گویا کہ میں ان تمام امتوں کی طرف دیکھ رہا ہوں جو گھنٹوں کے بل بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے نبی بھی ہیں۔ اور ان کے ساتھ وہ بت بھی ہیں جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور گویا کہ میں جہنم والوں کی سزا اور جنت والوں کے اجر و ثواب کو دیکھ رہا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا تم نے (ایمان کی حقیقت) پہچان لی، اب اسی پر جسے رہنا۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف دعوت دینے کے باب میں حضرت سوید بن حارث رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے سات آدمیوں کا وفد لے کر حضورؐ کی خدمت میں گیا۔ جب ہم آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپؐ سے گفتگو کی تو آپؐ کو ہمارا انداز گفتگو اور انداز نشست و برخاست اور لباس پسند آیا۔ آپؐ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا مومن ہیں۔ اس پر آپؐ مسکرانے لگے اور فرمایا ہر بات کی ایک حقیقت اور نشانی ہوا کرتی

۱۔ اخرجہ ابن النجار کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۶۱) و اخرجہ ابن المبارک فی الزهد عن صالح بن مسمار نحو ما بن ابن عساکر ۲۔ قال الحافظ فی الاصابہ (ج ۱ ص ۲۸۹) وهو مفصل وكذا اخرجہ عبدالرزاق عن صالح بن مسمار و جعفر بن برقان و اخرجہ فی التفسیر عن یزید السلمی و جاء موصولا فلذکر حدیث انس المذكور وقال اخرجہ الطبرانی وابن مندہ و رواہ البیهقی فی الشعب من طریق یوسف بن عطیة الصفار وهو ضعيف جدا وقال البیهقی هذا منكر و قد خبط فيه یوسف فقال مرة الحارث وقال مرة حارله وقال ابن صاعد هذا الحدیث لا یثبت موصولا. انتهى مختصرا و اخرجہ البزار عن انس قال البیهقی (ج ۱ ص ۵۷) وفيه یوسف بن عطیة لا یحتج به والطبرانی عن الحارث بن مالک الانصاری انه مر بالنبی فقال (کیف اصحت یا حارله؟ فذکر نحو حدیث ابن عساکر قال البیهقی (ج ۱ ص ۵۷) وفيه ابن لهیعة وفيه من یحتاج الی الکشف عنه. ۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۲)

ہے۔ تمہارے اس قول اور ایمان کی کیا حقیقت اور نشانی ہے؟ حضرت سوید فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا چندہ خصلتیں ہیں ان میں سے پانچ خصلتیں تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور ان میں سے پانچ خصلتیں وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان پر عمل کریں اور ان میں سے پانچ خصلتیں وہ ہیں جن کو ہم نے زمانہ جاہلیت میں اختیار کیا تھا اور ہم اب تک ان پر قائم ہیں لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ ناگوار سمجھیں تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، پھر آگے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے اور ارکان اسلام اور اخلاق طیبہ کے بارے میں حدیث ذکر کی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرمہ بن زید انصاری آئے اور انھوں نے حضور کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! ایمان یہاں پر ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور یہاں نفاق ہے اور یہ دل اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ حضور خاموش رہے، حضرت حرمہ نے اپنی بات پھر دہرائی۔ حضور نے حضرت حرمہ کی زبان کا کنارہ پکڑ کر کہا اے اللہ! اس کی زبان کو سچ بولنے والا اور اس کے دل کو شکر کرنے والا بنادے اور اسے میری محبت نصیب فرما اور جو مجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی اسے نصیب فرما اور اس کے معاملے کو خیر کی طرف موڑ دے۔ حضرت حرمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے بہت سے بھائی منافق ہیں۔ میں ان کا سردار تھا۔ کیا میں آپ کو ان کے نام نہ بتاؤں؟ حضور نے فرمایا جو بھی ہمارے پاس اس طرح آئے گا جس طرح تم ہمارے پاس آئے ہم اس کے لئے ایسے ہی استغفار کریں گے جیسے ہم نے تمہارے لئے کیا اور جو نفاق پر ہی ڈنار ہے گا تو اللہ اس سے خود ہی نبٹ لیں گے۔

### اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ضرور پڑھتا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انھوں نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ چونکہ اس سورت میں رحمن کی صفات کا تذکرہ ہے اس

۱۔ اخرجہ ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۲۵۰) و اخرجہ ابن الطبرانی و اسنادہ لا بأس بہ اخرجہ ابن مندہ ایضا وینافی لواند هشام بن عمار روایۃ احمد بن سلیمان من حدیث ابی الدرداء رضی اللہ عنہ نحوه کذا فی الاصابۃ (ج ۱ ص ۳۲۰)

لئے اس کا پڑھنا مجھے بہت پسند ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اسے بتادو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا محمدؐ! یا کہا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو دوسری انگلی پر رکھا، پہاڑوں، درختوں، پانی اور گیلی مٹی کو تیسری انگلی پر اور باقی ساری مخلوق کو چوتھی انگلی پر رکھا اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہلا کر فرماتے ہیں کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ حضورؐ اس یہودی عالم کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اتنا ہی ہے کہ آپؐ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپؐ نے یہ آیت آخر تک پڑھی **يَوْمَ قَدْرُ وَاللّٰهُ حَقَّ قَدْرُهُ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ** (سورت زمر آیت ۶۷) ترجمہ "اور (افسوس ہے کہ) ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی، جیسی عظمت کرنا چاہئے تھی، حالانکہ (اس کی وہ شان ہے کہ) ساری زمین اس کی ہٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں۔ وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔"

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن کافر کو کیسے منہ کے بل اٹھایا جائے گا؟ حضورؐ نے فرمایا جس ذات نے اسے دنیا میں پاؤں کے بل چلایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل چلائے۔

حضرت حذیفہ بن اسیدؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر (اپنی قوم سے) کہا اے بنو غفار! تم بات کیا کرو اور قسم نہ کھایا کرو کیونکہ صادق مصدوق (یعنی جو خود بھی سچ بولتے تھے اور ان سے فرشتہ بھی سچ بات آ کر کہتا تھا یعنی حضورؐ) نے مجھے یہ بتایا ہے کہ (قیامت کے دن) لوگوں کو تین جماعتوں میں اٹھایا جائے گا۔ ایک جماعت تو سوار ہوگی اور یہ لوگ کھاتے پیتے اور کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور ایک جماعت پیدل بھاگ رہی ہوگی اور ایک جماعت کو فرشتے منہ کے بل گھیٹ کر (جہنم کی) آگ کے پاس جمع کر رہے ہوں گے ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا کہ دو جماعتوں کو تو ہم نے پہچان لیا ہے لیکن جو لوگ پیدل بھاگ رہے ہوں گے ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ حضرت ابوذرؓ نے کہا اللہ تعالیٰ سواری پر آفت ڈال دیں گے اور ایک سواری بھی باقی نہ رہے گی۔ یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس ایک پسندیدہ باغ ہوگا وہ

۱۔ اخرجہ البيهقي في الاسماء والصفات (ص ۲۰۸) و اخرجہ الشيخان عن عائشہ كما قال البيهقي. ۲۔ اخرجہ البيهقي في الاسماء والصفات (ص ۲۳۵) و اخرجہ الشيخان في صحيحهما كما قال البيهقي. ۳۔ اخرجہ البيهقي في الاسماء والصفات (ص ۳۵۶) و اخرجہ الشيخان و احمد و النسائي و ابن ابي حاتم و الحاكم و غيرهم نحوه عن انس كما في الكنز (ج ۷ ص ۲۲۸)

یہ باغ دے کر پالان والی بوڑھی اونٹنی لینا چاہے گا لیکن وہ بھی اسے نہ مل سکے گی۔  
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ماں جائے بھائی حضرت طفیل بن عبد اللہ رضی اللہ  
عنه فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نصاریٰ کی ایک جماعت سے میری ملاقات ہوئی۔  
میں نے ان سے کہا اگر تم لوگ یہ دعویٰ نہ کرو کہ حضرت مسیح (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں تو تم  
لوگ بہت اچھے ہو۔ انھوں نے کہا اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے محمد (ﷺ) نے  
چاہا تو تم لوگ بھی بہت اچھے ہو جاؤ۔ پھر میری یہودیوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔ میں  
نے ان سے کہا اگر تم لوگ یہ دعویٰ نہ کرو کہ حضرت عزیر (علیہ السلام) اللہ کے بیٹے ہیں تو تم لوگ  
بہت اچھے ہو۔ انھوں نے کہا تم لوگ بھی تو یہ کہتے ہو کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے محمد (ﷺ) نے  
چاہا۔ میں نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب سنایا۔ حضور نے فرمایا تم نے یہ خواب  
کسی کو بتایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! پھر حضور نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرما کر ارشاد فرمایا تمہارے  
بھائی نے وہ خواب دیکھا جس کا مضمون تم تک پہنچ چکا ہے، لہذا تم لوگ یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو  
جیسے اللہ و اللہ لا شریک لہ نے چاہا۔<sup>۱</sup>

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے خواب میں  
دیکھا کہ اہل کتاب میں سے ایک آدمی اسے ملا جس نے کہا تم لوگ اگر شرک نہ کرتے اور جیسے اللہ  
اور محمد نے چاہا نہ کہتے تو تم لوگ بہت اچھے ہوتے۔ اس آدمی نے اس خواب کا ذکر حضور سے کیا۔  
حضور نے فرمایا آپ لوگوں کی یہ بات مجھے بھی پسند نہیں۔ اس لئے آئندہ آپ لوگ یوں کہا کریں  
جیسے اللہ نے چاہا پھر جیسے فلاں نے چاہا۔ یعنی اللہ اور رسول دونوں کو ایک جملہ میں اکٹھا ملا کر نہ لاؤ  
بلکہ الگ الگ جملوں میں لے کر آؤ۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ ایک آدمی حاضر خدمت ہو کر حضور سے کسی  
کام کے بارے میں بات کرنے لگا اور بات کرتے کرتے اس نے یوں کہہ دیا جیسے اللہ اور آپ  
چاہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے؟ بلکہ یوں کہو جیسے اکیلا اللہ چاہے۔<sup>۳</sup>  
حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضور سے مشیت کے بارے  
میں پوچھا (کہ کس کے چاہنے سے کام ہوتا ہے) حضور نے فرمایا کام تو اللہ ہی کے چاہنے سے

۱۔ اخرجہ احمد کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۶۵) و اخرجہ الحاکم (ج ۲ ص ۵۶۳)  
عن حذیفۃ عن ابی ذر نحوہ وقال هذا حدیث صحیح الاسناد والی الولید بن جمیع ولم یخرجہ  
وقال الذہبی الولید قد روی له مسلم متابعہ واحتج بہ النسائی۔ ۲۔ اخرجہ البیہقی فی  
الاسماء والصفات (ص ۱۱۰) ۳۔ عند البیہقی ایضا ۴۔ اخرجہ البیہقی فی  
الاسماء والصفات (ص ۱۱۰)



ہوتا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں (تو کھڑا ہو جاتا ہوں یعنی میرے چاہنے سے ہوا) حضورؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے کھڑے ہونے کو چاہ لیا تھا (اس لئے تم کھڑے ہو سکے) پھر اس یہودی نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں (تو بیٹھ جاتا ہوں) حضورؐ نے فرمایا اللہ نے بھی تمہارے بیٹھنے کو چاہ لیا تھا۔ اس یہودی نے کہا میں کھجور کے اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں (تو کاٹ لیتا ہوں) حضورؐ نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اس درخت کو کاٹ لو۔ اس یہودی نے کہا میں اس درخت کو باقی رکھنا چاہتا ہوں (تو وہ باقی رہ جاتا ہے) حضورؐ نے فرمایا اللہ نے چاہ لیا تھا کہ تم اسے باقی رکھو۔ حضرت اوزاعی کہتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضورؐ کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دلیل سمجھائی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائی تھی یہی مضمون لے کر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ مَا لَطَعْتُمْ مِنْ لَبَنَةٍ اَوْ تَرَوْا كُنُومَهَا قَائِمَةً عَلٰی اَصْوِلِهَا فَبِاِذِنِ اللّٰهِ وَلِيُخْرِجَ الْفٰسِقِيْنَ (سورۃ حشر آیت ۵) ترجمہ ”جو کھجوروں کے درخت کے تنے تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہو سو (دونوں باتیں) اللہ ہی کے حکم (اور رضا) کے موافق ہیں اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ حدیبیہ سے واپس آرہے تھے تو آپؐ نے رات کے آخری حصہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور فرمایا ہمارا پہرہ کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا تم۔ تم تو سوتے رہ جاؤ گے۔ پھر حضورؐ نے فرمایا، اچھا تم ہی پہرہ دو، چنانچہ میں پہرہ دینے لگا۔ جب صبح صادق ہونے لگی تو حضورؐ کی بات پوری ہو گئی اور مجھے نیندا آگئی اور جب سورج کی گرمی ہماری پشت پر پڑی تب ہماری آنکھ کھلی، چنانچہ حضورؐ اٹھے اور ایسے موقع پر جو کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھر آپؐ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھر فرمایا اگر اللہ چاہتے تو تم یوں سوتے نہ رہ جاتے اور تمہاری نماز قضا نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لئے عملی نمونہ سامنے آ جائے۔

حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ وضو والے برتن کی حدیث میں اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا (کہ نماز قضا ہو جانے کے موقع پر) جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تمہاری روحوں کو قبض فرمایا اور جب چاہا واپس کر دیا۔ پھر صحابہؓ نے سورج کی روشنی کے سفید ہونے تک (وضو استنجا وغیرہ کی) اپنی ضروریات پوری کیں پھر کھڑے ہو کر حضورؐ نے نماز پڑھائی۔

حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر بن خطابؓ سے

۱۔ اخرجہ البيهقي في الاسماء والصفات (ص ۱۱۱) قال البيهقي هذا وان كان مرسلًا فما قبله من الموصولات في معناه يوكده. انتهى ۲۔ اخرجہ البيهقي في الاسماء والصفات (ص ۱۰۹) ۳۔ عند البيهقي ايضاً و اخرجہ البخاري في الصحيح بهذا الاسناد كما قال البيهقي

پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وحیہ عرضھا السموات والارض (سورت آل عمران آیت ۱۳۳) ترجمہ ”اور جنت جس کی وسعت ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین۔“ (جب سب جگہ جنت ہوگئی) تو پھر جہنم کہاں ہے؟ حضرت عمرؓ نے حضرت محمدؐ کے صحابہؓ سے فرمایا کہ اسے جواب دو لیکن ان میں سے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ذرا تم یہ بتاؤ کہ جب رات آکر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اس یہودی نے کہا جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اس پر اس یہودی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں بھی اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا۔

حضرت جعفر بن محمدؓ اپنے والد (حضرت محمدؐ) سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو مشیت اور ارادے کے پارے میں باتیں کرتا ہے تو حضرت علیؓ نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے! اللہ نے جیسے چاہا تمہیں ویسے پیدا کیا یا جیسے تم نے چاہا (تمہیں ویسے پیدا کیا)؟ اس نے کہا نہیں بلکہ جیسے اللہ نے چاہا ویسے پیدا کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا جب وہ چاہتا ہے تمہیں بیمار کرتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بلکہ جب وہ چاہتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا پھر جب وہ چاہتا ہے تمہیں شفا دیتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں بلکہ جب وہ چاہتا ہے حضرت علیؓ نے فرمایا جہاں تم چاہتے ہو اللہ تمہیں وہاں داخل کرے گا یا جہاں وہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا جہاں وہ چاہتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کہتے تو میں تمہارے اس دوا کھوں والے سر کو تلواری سے اڑا دیتا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری بڑی عجیب ایمانی حالت ہوتی ہے لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں رہتی۔ نبی کریمؐ نے فرمایا تمہارا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ہم تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ ہی کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا، پھر یہ نفاق نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آکر نبی کریمؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضورؐ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ اس دیہاتی نے کہا رب کعبہ کی قسم! پھر تو ہم نجات پاگئے۔ حضورؐ نے فرمایا اے دیہاتی! کیسے؟ اس نے عرض کیا

۱۔ اخرجہ عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن خسرو وهو لفظہ کذا فی الکنز (ج ۷ ص

۲۷۷) ۲۔ اخرجہ ابن ابی حاتم کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۲۱۱)

۳۔ اخرجہ البزار فی مسندہ کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۳۹۷)

کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پالیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے۔  
حضرت سعید بن المسیبؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت معاذؓ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ انھوں نے (وہاں جا کر صدقات وصول کر کے) ان ہی میں تقسیم کر دیئے اور (اپنے لئے) کوئی چیز نہ چھوڑی اور اپنا جو ٹاٹ لے کر گئے تھے اسے ہی اپنی گردن پر رکھے ہوئے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لئے جو ہدیئے لایا کرتے ہیں اور آپ بھی وہ لائے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ حضرت معاذؓ نے کہا میرے ساتھ (مجھے) دبا کر رکھنے والا ایک نگران تھا (اس لئے ہدیئے نہیں لاسکا) ان کی بیوی نے کہا حضورؐ اور حضرت ابو بکرؓ کے ہاں تو آپ امین تھے، حضرت عمرؓ نے آپ کے ساتھ دبا کر رکھنے والا ایک نگران بھیج دیا (وہ آپ کو امین نہیں سمجھتے) ان کی بیوی نے اپنے خاندان کی عورتوں میں اس کا بڑا شور مچایا اور حضرت عمرؓ کی شکایت کی جب حضرت عمرؓ کو یہ خبر پہنچی تو انھوں نے حضرت معاذؓ کو بلا کر پوچھا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی نگران بھیجا تھا؟ حضرت معاذؓ نے کہا مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے لئے اور کوئی بہانہ نہ ملا۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے اور انہیں کوئی چیز دی اور فرمایا (یہ دے کر) اسے راضی کر لو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ نگران سے حضرت معاذؓ کی مراد اللہ تعالیٰ ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام آوازوں کو سن لیتا ہے۔ ایک عورت اپنا جھگڑالے کر حضورؐ کے پاس آئی اور حضورؐ سے باتیں کرنے لگی، حالانکہ میں کمرے کے ایک کونے میں تھی لیکن مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی (اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سن لی) پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قد سمع اللہ قول الی تجادلک فی زوجھا آخر تک (سورت مجادلہ آیت ۱) ترجمہ ”بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپؐ سے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگڑتی تھی اور (اپنے رنج و غم کی) اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا (اور) اللہ (تو) سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“  
حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں بابرکت ہے وہ ذات جو ہر چیز کو سن لیتی ہے، میں حضرت خولہ بنت ثعلبہؓ کی بات سن رہی تھی لیکن کبھی ان کی آواز مجھے آتی تھی اور کبھی نہیں آتی تھی۔ وہ نبی کریمؐ سے اپنے خاوند کی شکایت یوں کر رہی تھیں کہ یا رسول اللہ! میرے خاوند نے میرا سارا مال کھالیا

۱۔ بخروجہ ابن النجار کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۲۷۰)

۲۔ بخروجہ عبد الرزاق والمحاملی فی امالیہ کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۸۷)

۳۔ بخروجہ الامام احمد و ہکذا رواہ البخاری فی کتاب التوحید تعلیقا کذا فی التفسیر لابن

کثیر (ج ۳ ص ۳۱۸) و بخروجہ البیہقی فی الاسماء والصفات (ص ۱۳۶)

اور میری جوانی ختم کر دی اور میرے پیٹ سے اس کے بہت سے بچے پیدا ہوئے یہاں تک کہ جب میری عمر زیادہ ہو گئی اور میرے بچے ہونے بند ہو گئے تو اس نے مجھ سے طہار کر لیا (طہار طلاق کی ایک قسم ہے)۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس کی شکایت کرتی ہوں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت خولہؓ ابھی وہاں سے اٹھی نہیں تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْبِیْتِ نُبَّاحًا لِّكَ فِی زَوْجِهَا وَآیة لِّی لَکْرَأْتِی حَضْرَتِ خَوْلَةَ كَے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے لوگو! اگر محمدؐ تمہارے معبود تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے تو سن لو ان کا انتقال ہو چکا اور اگر تمہارا معبود وہ ہے جو آسمان میں ہے تو پھر تمہارے معبود کا انتقال نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے یہ آیت پڑھی **يَوْمَ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ** (سورۃ آل عمران آیت ۱۴۴) ترجمہ ”محمدؐ نے رسولؐ ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسولؐ گزر چکے ہیں۔“ صحابہ کرامؓ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق کے باب میں حضرت ابو بکرؓ کا خطبہ گزر چکا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو اتنی عمر عطا فرمائی اور ان کو اتنا عرصہ دنیا میں باقی رکھا کہ اس عرصہ میں آپؐ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا۔ اللہ کے حکم کو غالب کر دیا۔ اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا پھر آپؐ کو اللہ نے اسی حالت پر وفات دی اور محمدؐ تمہیں ایک (صاف اور کھلے) راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب ذبھی ہلاک ہو گا وہ اسلام کی واضح دلیلوں اور کفر و شرک سے (شفاء دینے والے قرآن کو دیکھ کر) گناہوں کا۔ جس آدمی کے رب اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہیں جن پر موت نہیں آسکتی اور جو حضرت محمدؐ کی عبادت کیا کرتا تھا اور ان کو معبود کا درجہ دیا کرتا تھا تو (وہ سن لے کہ) اس کا معبود مر گیا، لہذا اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور اپنے دین کو مضبوط پکڑ لو اور اپنے رب پر توکل کرو کیونکہ اللہ کا دین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہے اور جو اللہ (کے دین) کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے اور اپنے دین کو عزت عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے جو کہ نور اور شفاء ہے اس کتاب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمدؐ کو ہدایت عطا فرمائی اور اس کتاب میں اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیزیں مذکور ہیں۔ اللہ کی قسم! اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی ہمارے اوپر لشکر لائے گا ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بیشک اللہ کی تلواریں سستی ہوئی ہیں اور ہم نے ابھی ان کو رکھا نہیں اور جو ہماری

۱۔ فی روایۃ لابن ابی حاتم کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۳۱۸)

۲۔ اخرجه البخاری فی تاریخہ و عثمان الداری فی الرد علی الجہمۃ والاصہانی فی الحجۃ

قال ابن کثیر رجال اسنادہ لثقات کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۵۱)

مخالفت کرے گا ہم اس سے جہاد کریں گے جیسے کہ ہم حضورؐ کے ساتھ مل کر جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث نبیؐ نے حضرت عمرو بن زبیرؓ سے روایت کی ہے۔

حضرت علقمہؓ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہؓ کے گھر آئی اور حضور ﷺ کے حجرے (جسمیں حضورؐ دفن ہیں اس) کے پاس نماز پڑھنے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ جب سجدے میں گئی تو اس نے سجدے سے سر نہ اٹھایا بلکہ اسی حال میں مر گئی۔ حضرت عائشہؓ نے (اس کے یوں اچانک مر جانے پر) فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور (میرے بھائی) عبدالرحمن بن ابی بکرؓ (کی اچانک موت) کے مسئلہ میں مجھے کے عورت اس قصہ سے بڑی عبرت ملی۔ حضرت عبدالرحمنؓ دو پہر کو اپنی جگہ سوئے ہوئے تھے۔ جب لوگ انہیں جگانے لگے تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے (چنانچہ ان کو جلدی سے غسل دے کر دفن کر دیا گیا) اس سے میرے دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ ان کے ساتھ شرارت کی گئی ہے اور وہ زندہ تھے لیکن جلدی میں انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ اب میں نے اس عورت کو یوں ایک دم مرتے دیکھا اس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی اور حضرت عبدالرحمنؓ کے بارے میں جو میرا غلط خیال تھا، وہ جاتا رہا۔

## فرشتوں پر ایمان لانا

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے پر فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے اس) فرشتے کے ہاتھوں میں ایک پیانا ہے اور اس پیانے میں سے گزر کر ہی پانی کا ہر قطرہ زمین پر آتا ہے لیکن حضرت نوحؑ (کے طوفان) والے دن ایسا نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست پانی کو حکم دیا اور پانی کو سنبھالنے والے فرشتوں کو حکم نہ دیا جس پر وہ فرشتے پانی کو روکتے رہ گئے لیکن پانی نہر کا بلکہ فرشتوں پر زور کر کے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: انا لعاطفی الماء (سورۃ حاقہ آیت ۱۱) ترجمہ ”جبکہ (نوح علیہ السلام کے وقت میں) پانی کو طغیانی ہوئی۔“ اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ پانی (اللہ کا فرمانبردار تھا لیکن) فرشتوں پر سرکش ہو گیا تھا اور (اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے خزانے پر فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے) اس کے ہاتھ میں ایک پیانا ہے ہوا اس میں سے گزر کر زمین پر آتی ہے لیکن قوم عاد (کی ہلاکت) والے دن ایسا نہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو براہ راست (چلنے کا) حکم دیا اور ہوا کو سنبھالنے والے فرشتوں کو حکم نہ دیا اس پر وہ فرشتے ہوا کو روکتے رہ گئے لیکن ہوا زور کر کے چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بسریح صرصر عاتیہ (سورۃ حاقہ آیت ۶) ترجمہ ”ایک تیز و تند ہوا“ وہ ہوا ان فرشتوں کی نافرمان ہو گئی تھی (اور اللہ کی فرمانبردار تھی)۔ ۲

حضرت سلمانؓ کی بیوی حضرت بقیہؓ فرماتی ہیں جب حضرت سلمانؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو

انہوں نے مجھے بلایا اس وقت وہ اپنے ایک بالا خانے میں تھے جس کے چار دروازے تھے اور مجھ سے کہا اے بقیہ! ان دروازوں کو کھول دو کیونکہ آج میرے پاس کچھ ملنے لے نہیں گے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے میرے پاس آئیں گے پھر اپنا مشک منگوا کر مجھ سے کہا اسے ایک چھوٹے برتن میں پانی میں گھول کر لاؤ۔ میں گھول کر لے آئی تو مجھ سے کہا کہ یہ مشک والا پانی میرے بستر کے چاروں طرف چھڑک دو پھر نیچے چلی جاؤ اور وہاں تھوڑی دیر ٹھہری رہو پھر جب تم اوپر آؤ گی تو تم میرے بستر پر (کوئی چیز) دیکھو گی (چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور) جب میں اوپر آئی تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے اور وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بستر پر سو رہے ہوں۔ حضرت شعبیؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلمانؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے جو مشک والی تھیلی تمہیں چھپا کر رکھنے کے لئے دی تھی وہ لے آؤ۔ وہ کہتی ہیں میں مشک کی وہ تھیلی لے آئی۔ انہوں نے کہا ایک پیالے میں پانی لے آؤ (میں پیالے میں پانی لے آئی) انہوں نے اس میں مشک ڈال کر اسے اپنے ہاتھ سے گھولا۔ پھر کہا اسے میرے چاروں طرف چھڑک دو کیونکہ میرے پاس اللہ کی ایسی مخلوق آنے والی ہے جو خوشبو تو سونگھ لیتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتی پھر تم دروازہ بند کر کے نیچے اتر جاؤ۔ ان کی گھر والی کہتی ہیں کہ میں نے پانی چھڑکا اور نیچے آگئی اور تھوڑی دیر ہی بیٹھی تھی کہ میں نے آہٹ سنی۔ میں اوپر گئی تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابن سعد ہی میں حضرت عطاء بن سائبؓ کی روایت ہے جس میں یہ قصہ مختصر طور سے ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت سلمانؓ نے فرمایا آج رات میرے پاس فرشتے آئیں گے جو خوشبو تو سونگھ لیتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے اور اسی طرح کے اور قصے تائیدات غیبیہ کے باب میں فرشتوں کے ذریعہ مدد کے ذیل میں انشاء اللہ تعالیٰ آئیں گے۔

### نقد پر ایمان لانا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو انصار کے ایک بچے کے جنازے کے لئے بلایا گیا۔ میں نے کہا اس بچے کو خوشخبری ہو یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ گناہ کا زمانہ اس نے پایا (یعنی بالغ نہیں ہوا) حضورؐ نے فرمایا اے عائشہؓ! تم جو کچھ کہہ رہی ہو حق اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور جنت کے لئے کچھ لوگ پیدا فرمائے اور ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کیا جبکہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے اور اللہ نے جہنم کی آگ کو پیدا کیا اور اس میں جانے کے لئے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور اللہ نے ان کے لئے جہنم کا فیصلہ اس وقت کیا جبکہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے۔ ۳

۱۔ أخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۹۲)

۲۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ۹۲)

۳۔ أخرجه مسلم كذا في التفسير لابن كثير (ج ۲ ص ۲۶۸)

حضرت ولید بن عبادہؓ کہتے ہیں کہ میں (اپنے والد) حضرت عبادہؓ کی خدمت میں گیا۔ وہ بیمار تھے۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ ان کا اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اے ابا جان! ذرا کوشش فرما کر مجھے وصیت فرمادیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ جب لوگوں نے انہیں بٹھا دیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے! تم ایمان کا ذائقہ اس وقت چکھ سکو گے اور اللہ کے علم کی حقیقت کے حق تک اس وقت پہنچ سکو گے جب تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آؤ گے۔ میں نے عرض کیا اے ابا جان! مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کونسی تقدیر اچھی ہے اور کونسی بری ہے؟ انہوں نے فرمایا تم یہ سمجھ لو کہ جو اچھائی یا برائی تمہیں نہیں پہنچی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی اور جو تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اے میرے بیٹے! میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا پھر اس سے فرمایا لکھ! چنانچہ اس نے اسی وقت وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اے میرے بیٹے! اگر تم اس حال پر مرے کہ تمہارے دل میں یہ یقین نہ ہو تو جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ گے۔

حضرت ابو نصرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے ایک آدمی جن کو ابو عبد اللہؓ کہا جاتا تھا وہ بیمار تھے ان کے ساتھی ان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں۔ ساتھیوں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا آپ سے نبی کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنی مونچھوں کو کتر اوڑ اور پھر اسی پر جمے رہو۔ یہاں تک کہ تم مجھ سے (قیامت کے دن) آملو؟ اس میں آپ کے ایمان پر خاتمہ کی اور قیامت کے دن حضورؐ سے ملاقات کی بشارت ہے) انہوں نے کہا ہاں حضورؐ نے یہ فرمایا تھا لیکن میں نے حضورؐ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (انسانوں کی) ایک مٹھی دائیں ہاتھ میں لی اور دوسری مٹھی دوسرے ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ اس (دائیں) مٹھی والے اس (جنت) کے لئے ہیں اور اس (دوسری مٹھی) والے اس (جہنم) کے لئے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں (کہ کون کس مٹھی میں ہے اور وہ کہاں جائے گا؟) تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کونسی مٹھی میں ہوں؟ (اللہ کی ذات تو بہت بے نیاز ہے اس پر کسی کا زور نہیں چلتا)۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو وہ رونے لگے تو ان سے کسی نے پوچھا آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت معاذؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! نہ تو میں موت سے گھرا کر رورہا ہوں اور نہ ہی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر جانے کے غم میں رورہا ہوں بلکہ اس وجہ سے رورہا ہوں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ (انسانوں کی) دو مٹھیاں ہیں ایک مٹھی جہنم کی آگ میں

۱۔ اخرجه الامام احمد واخرجه الترمذی عن الوليد بن عبادہ عن ابيه وقال حسن صحيح غريب

کمالی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۲۶۸)

۲۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۷ ص ۱۸۶) رجاله رجال الصحيح

جائے گی اور دوسری جنت میں۔) اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں ان دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں؟!

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے کسی آدمی نے کہا کہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہے جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ اس وقت ناپینا ہو چکے تھے انھوں نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ لوگوں نے کہا، اے ابن عباس! آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ انھوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! اگر وہ میرے قابو آ گیا تو میں اسکی ناک دانتوں سے ایسے کاٹوں گا کہ وہ کٹ کر الگ ہو جائے اور اگر اس کی گردن میرے قابو میں آگئی تو میں اسے کچل دوں گا کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گویا کہ میں بنو فہر کی مشرک عورتوں کو خزر ج کا طواف کرتے ہوئے اور ان کے سرین ہلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور یہ (تقدیر کو جھٹلاتا) اس امت کا پہلا مشرک ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! پہلے تو یہ کہیں گے کہ اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے پھر ان کا یہ برا اور غلط خیال انہیں اس پر لے آئے گا کہ خیر بھی اللہ کے مقدر کرنے سے نہیں ہے۔!

حضرت عطاء بن ابی رباحؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں آیا وہ زمزم (کے کنویں) سے پانی نکال رہے تھے جس سے ان کے کپڑوں کا نچلا حصہ گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا کچھ لوگوں نے تقدیر پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا کیا لوگوں نے ایسا کر لیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا تقدیر پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں: ذُو قُوَامَسَّ مَقْرًا، اِنَّا كُنْمَلٌ شَيْبِي خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ (سورت قمر آیت ۲۸-۲۹) ترجمہ ”تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ (کی آگ) کے لگنے کا مزہ چھکو، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔“ یہی لوگ اس امت میں سب سے برے ہیں۔ نہ تو ان کے بیماروں کی عیادت کرو اور نہ ان کے مردوں کی نماز جنازہ پڑھو۔ اگر مجھے ان میں سے کوئی نظر آ گیا تو میں اپنی ان دو انگلیوں سے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔!

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر تقدیر کے انکار کرنے والوں میں سے کوئی میرے پاس آجائے تو میں اس کے سر کو کچل دوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایک سفید موتی سے پیدا کیا ہے۔ اس لوح محفوظ کے دونوں طرف کے پٹے سرخ یا قوت کے ہیں۔ اس کا قلم نور ہے، اس کی کتاب نور ہے۔ اس کی

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۱۸۷) یوفیہ البراء بن عبداللہ الغنوی وهو ضعیف

والحسن لم یدرک معاذ ۲۔ اخرجہ احمد عن محمد بن عبیدالمکی.

۳۔ عند ابن ابی حاتم کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۲۶۷)



جوڑائی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ روز آئے اللہ تعالیٰ اسے تین سو ساٹھ مرتبہ دیکھتے ہیں اور ہر دفعہ دیکھنے پر (نہ معلوم کتنی مخلوق کو) پیدا کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں۔ عزت دیتے ہیں اور ذلت دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کا ایک دوست شام کا رہنے والا تھا جس سے ان کی خط و کتابت رہتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابن عمرؓ نے اسے لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں کچھ اعتراض کرنے لگ گئے ہو، خبردار! آئندہ مجھے کبھی خط نہ لکھنا کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے۔

حضرت زبال بن سبرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علیؓ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین! یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کام آئندہ ہونے والا ہے اس کا پتہ اللہ کو اس وقت چلتا ہے جب وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا ان کی مائیں ان کو گم کریں یعنی یہ مرجائیں یہ لوگ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ قرآن کی اس آیت سے یہ بات نکالتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ

(سورۃ محمد آیت ۳۱) ترجمہ ”اور ہم ضرور تم سب کے اعمال کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔“ (یوں کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، آزمانے سے اللہ کو معلوم ہوگا) (نعوذ باللہ من ذلک)۔ حضرت علیؓ نے فرمایا جو علم حاصل نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر حضرت علیؓ بنمبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگوں! علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو اور وہ علم دوسروں کو سکھاؤ اور جسے اللہ کی کتاب میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام آئندہ ہونے والا ہے، اس کا پتہ اللہ کو اس وقت چلتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ترجمہ ”اور ہم ضرور تم سب کے اعمال کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں“ حالانکہ اللہ کے فرمان ”ہم معلوم کر لیں“ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ جن لوگوں پر جہاد کرنا اور ثابت قدم رہنا فرض کیا گیا ہے کیا انہوں نے جہاد کیا ہے؟ اور میں نے ان کے بارے میں جن مصائب اور حوادث کے آنے کا فیصلہ کیا تھا کیا انہوں نے ان پر صبر کیا ہے؟ تو کل کے باب میں حضرت علیؓ کا یہ فرمان گزر چکا

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۲۵) ۲۔ اخرجہ احمد و اخرجه ابو داؤد

عن احمد بن حنبل بہ کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۲۶۸)

۳۔ اخرجہ ابن عبد البر فی العلم کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۶۵)

ہے کہ زمین پر اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی جب تک آسمان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے اور ہر انسان پر دو فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی تقدیر کا لکھا فیصلہ آجائے اور جب تقدیر کا کوئی فیصلہ آجاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے۔ جب میری موت کا وقت آجائے گا تو وہ انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا اور آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھا یا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے ٹلنے والا نہیں تھا اور جو اس سے ٹل گیا ہے وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔ ابو داؤد نے اسے تقدیر میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے یہ اشعار بہت پڑھا کرتے تھے:

خفض عليك فان الامور بكف الا له مقاديرها

اپنے ساتھ آسانی کا معاملہ کرو (اور گھبراؤ مت) کیونکہ تمام کاموں کی تقدیریں اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی میں ہیں۔

فليس ياتيك منهيا ولا فاصر عنك ماموراها

جس کام کو اللہ نے منع کر دیا ہے وہ تمہارے پاس آ نہیں سکتا اور جس کے ہونے کا حکم دے دیا وہ تم سے ٹل نہیں سکتا۔

## قیامت کی نشانیوں پر ایمان لانا

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت **فَإِذَا نُفِثَ فِي السَّمَاءِ (سورة مدثر آیت ۸)** نازل ہوئی ترجمہ ”پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا“ تو حضور ﷺ نے فرمایا میں زندگی آرام و راحت سے کیسے گزاروں جبکہ صور (پھونکنے والا) فرشتہ (صور اپنے منہ میں رکھ چکا ہے اور وہ اپنی پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے (اللہ کی طرف سے) حکم ملے اور وہ صور پھونک دے حضور کے صحابہؓ نے عرض کیا پھر ہم کیا دعا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو: **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا**۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور ﷺ کے صحابہؓ نے یہ سنا تو ان پر یہ بات بہت گراں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کیا

۱۔ اخروجه البيهقي في الاسماء والصفات (ص ۲۳۳)

۲۔ اخروجه ابن ابی شیبہ والطبرانی وابن مردويه كذا في الكنز (ج ۷ ص ۲۷۰) وقال وهو حسن واخروجه البواردي عن الارقم بن ابی الارقم نحوه

کریں؟ آپ نے فرمایا آپ لوگ یہ کہو حسینا اللہ و نعم الوکیل۔  
 عورتوں کی معاشرت کے باب میں یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت حفصہؓ نے حضرت سودہؓ سے کہا، کانا (دجال) نکل آیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا! یہ سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور کانپنے لگیں۔ پھر انہوں نے کہا میں کہاں چھپوں؟ حضرت حفصہؓ نے کہا اس خیمہ میں چھپ جاؤ، وہاں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا خیمہ تھا جس میں لوگ چھپتے تھے یہ جا کر اس میں چھپ گئیں۔ اس میں گرد وغبار اور مکڑی کے جالے بہت تھے پھر آگے حدیث ذکر کی۔ اس میں یہ ہے کہ پھر حضور ﷺ وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت سودہؓ کانپ رہی ہیں۔ حضورؐ نے ان سے پوچھا اے سودہ! تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کانا دجال نکل آیا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا وہ ابھی نکلا تو نہیں لیکن نکلے گا ضرور۔ وہ ابھی نکلا تو نہیں لیکن نکلے گا ضرور۔ پھر حضورؐ نے انہیں باہر نکالا اور ان کے کپڑوں اور جسم کے گرد وغبار اور مکڑی کے جالے صاف کئے۔ اس روایت کو حضور ﷺ کی آزاد کردہ باندی حضرت رزینہؓ سے ابو یعلیٰ اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔

حضرت سعید بن مسیبؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا عراق میں خراسان نام کی کوئی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! آپؓ نے فرمایا دجال وہاں سے نکلے گا۔ نعیم بن حماد نے فتن میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ مرو (شہر) کے یہودی فرقے میں سے دجال نکلے گا۔

حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کو حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا انہوں نے کہا آج رات مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے تھے کہ دُمدار ستارہ نکل آیا، تو مجھے اس کا ڈر ہوا کہ یہ کہیں (وہ) دھواں نہ ہو (جسے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے) اس وجہ سے مجھے صبح تک نیند نہیں آئی۔ ۲۔ حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں دجال نہ نکل آیا ہو۔

## قبر اور عالم برزخ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایمان لانا

حضرت عبادہ بن نسیؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۲۶۳)

۲۔ اخرجه ابن جریر وھکذا رواه ابن ابی حاتم عن عبداللہ بن ابی ملیکہ عن ابن عباس وھذا اسناد صحیح الی ابن عباس کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۴ ص ۱۳۹) و اخرجه الحاکم (ج ۳ ص ۲۵۹) عن ابن ابی ملیکہ نحوه غیران لقی رواية فخشیت ان یکون الدجال فمطرق قال الحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذہبی

حضرت عائشہؓ سے فرمایا میرے ان کپڑوں کو دھو کر مجھے ان ہی میں کفن دے دینا کیونکہ (مرنے کے بعد) تمہارے باپ کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی۔ یا تو اسے اس سے بھی اچھے کپڑے (جنت کے) پہنائے جائیں گے یا یہ کفن کے کپڑے بھی بری طرح چھین لیے جائیں گے۔ حضرت عائشہؓ طر ماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے (اظہار غم کے لیے) یہ شعر پڑھا۔

لعمرك ما يعني الشراء عن الفتى اذا حشرت يوما وضاق بها الصدر

آپ کی عمر کی قسم! جس دن موت کے وقت سانس اکھڑنے لگے اور اس کی وجہ سے سینہ گھٹنے لگے تو اس وقت جوان آدمی کو مال کی کثرت نفع نہیں دیتی۔

حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اے میری بیٹا! ایسے نہ کہو بلکہ: وَجَاءَتْ مَكْرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (سورت ق آیت ۱۹) ترجمہ ”اور موت کی سختی (قریب) آپہنچی یہ (موت) وہ چیز ہے جس سے تو بدگمتا تھا۔“ پھر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میرے یہ دو کپڑے دیکھ لو انہیں دھو کر مجھے ان ہی میں کفن دے دینا کیونکہ نئے کپڑے کی مردے سے زیادہ زندہ کو ضرورت ہے۔ ان کپڑوں کو تو مردے کے جسم کی پیپ اور خون ہی لگے گا (یا یہ کپڑے تو تھوڑی دیر کے نئے ہیں چند دن میں گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے) حضرت عائشہؓ طر ماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ کی بیماری اور بڑھ گئی تو میں رونے لگی۔ پھر وہ بیہوش ہو گئے تو میں نے یہ شعر پڑھا

من لا يزال دمه مقلعا فانہ من دمه مدفوق

جس کے آنسو ہمیشہ ر کے رہے ہوں اس کے آنسو ایک دن ضرور بہیں گے۔ پھر ان کو ہوش آیا تو فرمایا بات ویسے نہیں ہے جیسے تم نے کہی بلکہ اے میری بیٹا! صحیح بات وہ ہے جسے اس آیت میں بتایا گیا ہے: وَجَاءَتْ مَكْرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ پھر پوچھا حضور ﷺ کا کس دن انتقال ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا پیر کے دن۔ فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب سے لیکر رات تک کسی وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا! چنانچہ منگل کی رات کو ان کا انتقال ہوا اور یہ بھی فرمایا کہ حضور کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا ہم نے حضور کو یسین کی سحول بستی کے بنے ہوئے تین سفید اور نئے کپڑوں میں کفن دیا تھا۔ ان کپڑوں میں نہ کرتا تھا اور نہ عمامہ۔ انہوں نے فرمایا میرے اس کپڑے پر زعفران کا دھبہ لگا ہوا ہے اسے دھولو اور اسکے ساتھ دو نئے کپڑے اور شامل کر لینا۔ میں نے عرض کیا یہ کپڑا تو پرانا ہے۔ فرمایا زندہ کو مردے سے زیادہ نئے کپڑے کی ضرورت ہے۔ کفن کے

۱۔ اخبرجہ احمد فی الزهد کذا فی المنتخب (ج ۴ ص ۳۶۳)

۲۔ عند احمد ایضا وابن سعد والد غولی

کپڑے تو جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ سے خراب ہو جائیں گے۔

حضرت سحیحی بن ابی راشد نصریؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطابؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے! جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو (دائیں پہلو کی طرف) موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بائیں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانے قسم کا کفن پہنانا اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دیں گے اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں خیر ملی تو پھر تو قبر کو تاحد ننگاہ کشادہ کر دیا جائے گا اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہو تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو۔ (اس لیے جلدی کرو) اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو اسے اپنی گردن سے جلد اتار دو۔ ۲۔ امر خلافت کی صلاحیت رکھنے والے حضرات کے مشورے پر امر خلافت کو موقوف کر دینے کے باب میں حضرت عمرؓ کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے سمجھ لیا کہ اب تو موت آنے والی ہے تو فرمایا اب اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں۔ انھوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے عبداللہ بن عمر! میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو (حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں) میں نے ان کا سر اپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا تو فرمایا نہیں۔ میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو! چنانچہ انھوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا او عمر! اگر اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھر اے عمر! تیری بھی اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی رحمہ اللہ۔ اس واقعہ کو طبرانی نے حضرت ابن عمرؓ سے ایک ایسی حدیث میں نقل کیا ہے۔ ۳۔ رونے کے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت ہانیؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا

۱۔ عند ابی یعلیٰ و ابی نعیم والد غولی والبیہقی کذا فی المنتخب (ج ۳ ص ۳۶۲) ولی سیاق ابن

سعد (ج ۳ ص ۱۹۷) انما یصور الی الصدید والی البلی

۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۵۸) و اخرجه ابن ابی الدنیا فی القبور عن یحییٰ نحوه کما فی

المنتخب (ج ۳ ص ۳۶۷) ۳۔ وحسن اسنادہ الہیثمی (ج ۹ ص ۷۶)

روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ آگے پوری حدیث ذکر کی ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اسے حدیث حسن قرار دیا ہے۔

حضرت خالد بن ریحؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہؓ کی بیماری بڑھی تو یہ خبر ان کی جماعت اور انصار تک پہنچی۔ یہ لوگ آدھی رات کو یا صبح کے قریب حضرت حذیفہؓ کے پاس آئے (میں بھی ان کے ساتھ تھا) حضرت حذیفہؓ نے پوچھا اب کیا وقت ہے؟ ہم نے عرض کیا آدھی رات ہے یا صبح کے قریب۔ انہوں نے فرمایا میں جہنم کی صبح سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیا تم لوگ میرے کفن کے لئے کچھ لائے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا کفن مہنگا نہ بنانا کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لئے خیر ہوئی تو مجھے اس کفن سے بہتر کپڑا مل جائے گا اور اگر دوسری صورت ہوئی تو یہ کفن مجھ سے جلدی چھین لیا جائے گا۔

حضرت ابو داؤدؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہؓ کی بیماری بڑھ گئی تو بنو عبس کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ حضرت خالد بن ریحؓ عبسی نے مجھے بتایا حضرت حذیفہؓ مدائن میں تھے ہم آدھی رات کو ان کے پاس گئے آگے پھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔

حضرت صلہ بن زفرؓ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہؓ نے مجھے اور حضرت ابو مسعودؓ کو بھیجا ہم نے ان کے کفن کے لئے دودھاری دار منقش چادریں تین سو درہم میں خریدیں۔ انہوں نے ہم سے کہا تم نے میرے لئے جو کفن خریدا ہے وہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ ہم نے انہیں وہ کفن دکھایا۔ انہوں نے کہا یہ کفن تو پھرے لئے (مناسب) نہیں ہے۔ میرے لئے تو دو سفید عام چادریں کافی تھیں۔ ان کے ساتھ نمیش کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ قبر میں تھوڑی ہی دیر گزرے گی کہ یا تو ان دو چادروں سے بہتر کفن مجھ مل جائے گا یا پھر ان سے بھی زیادہ برے کپڑے پہنا دئے جائیں گے؛ چنانچہ ہم نے ان کے لئے دو سفید چادریں خریدیں۔ ابو نعیمؓ کی دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے کفن دیکھ کر فرمایا تم اس کفن کا کیا کرو گے؟ اگر تمہارا یہ ساتھی نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عمدہ کفن دے دیں گے اور اگر یہ نیک نہ ہو تو قبر کے دونوں کنارے اسے قیامت تک (گیند کی طرح) پھینکتے رہیں گے۔ حاکمؓ کی روایت میں یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ ساتھی نیک نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کفن قیامت کے دن اس کے چہرے پر ماریں گے۔

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب (ص ۷۲) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۸۲) و اخرجہ الحاکم فی المستدرک (ج ۳ ص ۳۸۰) عن ابی مسعود الانصاری بمعناه مختصراً  
۳۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۸۳) و عندہ ایضاً (ج ۱ ص ۲۸۲) عن ابی مسعود مختصراً  
۴۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۳۸۰) عن قیس بن ابی حازم نحوه.

حضرت ضحاک بن عبدالرحمنؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنے جوانوں کو بلا کر ان سے کہا جاؤ اور میرے لیے خوب گہری اور چوڑی قبر کھودو۔ وہ گئے اور واپس آ کر انھوں نے کہا کہ ہم خوب چوڑی اور گہری قبر کھود آئے ہیں۔ پھر انھوں نے فرمایا اللہ کی قسم! قبر میں دو قسم کے حالات میں سے ایک طرح کے حالات ضرور پیش آئیں گے یا تو میری قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا کہ اس کا ہر کونہ چالیس ہاتھ لمبا ہو جائے گا۔ پھر میرے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں سے اپنی بیویوں، محلات اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اکرام و اعزاز کے لیے وہاں تیار کر رکھا ہے وہ سب کچھ دیکھوں گا اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے اپنے اس ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے تک جنت کی ہوا اور راحت کا سامان مجھ تک پہنچتا رہے گا اور اگر خدا نخواستہ دوسری حالت ہوئی اور اس سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو میری قبر کو مجھ پر اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ جیسے نیزے کی لکڑی نیزے کے پھل میں تنگ ہوتی ہے وہ قبر اس سے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ پھر میرے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں سے اپنی زنجیروں بیڑیوں اور جہنم کے قیدی ساتھیوں کو دیکھوں گا اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے جہنم میں اپنے ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے تک جہنم کی گرم ہوا اور گرم پانی کا اثر مجھ تک پہنچتا رہے گا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں میں سے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں تین حالتوں میں جیسا ہوتا ہوں اگر میں ہر وقت دیسار ہوں تو میں یقیناً جنت والوں میں سے ہو جاؤں اور مجھے اس میں کوئی شک نہ رہے ایک وہ حالت جبکہ میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں۔ دوسری وہ حالت جبکہ میں نبی کریم ﷺ کا خطبہ سن رہا ہوں۔ تیسری وہ حالت جبکہ میں کسی جنازے میں شریک ہوں اور جب بھی میں کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اپنے دل میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جنازہ کہاں جا رہا ہے۔

## آخرت پر ایمان لانا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اور بیویوں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۶۲)

۲۔ اخرجه ابو نعیم والبیہقی وابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۸)

ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم میرے پاس جس حالت پر ہوتے ہو اگر تم ہر وقت اس حالت پر رہو تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرنے لگیں اور تمہارے گھروں میں تم سے ملنے آئیں اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو گناہ کریں گے (اور استغفار کریں گے) تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں کہ اس کی عمارت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے۔ اس کی کنکریاں موتی اور یا قوت ہیں۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی بد حال نہ ہوگا۔ اور ہمیشہ رہے گا۔ کبھی اسے موت نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ کبھی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک عادل بادشاہ دوسرا روزہ دار جب تک روزہ نہ کھول لے، تیسرے مظلوم کی بددعا جسے بادلوں سے اوپر اٹھایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم! میں تیری مدد ضرور کروں گا اگر چہ اس میں کچھ دیر ہو جائے۔

حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ پر ایک مرتبہ فائدہ آیا تو انھوں نے حضرت فاطمہؑ سے کہا اگر تم حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے! چنانچہ حضرت فاطمہؑ حضور کے پاس گئیں۔ اس وقت حضور کے پاس حضرت ام ایمنؑ موجود تھیں۔ حضرت فاطمہؑ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے حضرت ام ایمنؑ سے فرمایا یہ کھٹکھٹا ہٹ تو فاطمہؑ کی ہے۔ آج اس وقت آئی ہے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی۔ پھر حضرت فاطمہؑ (اندر آگئیں اور انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمد للہ کہنا ہے۔ ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں تیس دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں اگر تم چاہو تو پانچ بکریاں تمہیں دے دوں اور اگر چاہو تو تمہیں وہ پانچ کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیلؑ نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہؑ نے عرض کیا نہیں بلکہ مجھے تو وہی پانچ کلمات سکھا دیں جو آپ کو حضرت جبرائیلؑ علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم یہ کہا کرو: یا اول والین و یا اخر اخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا ارحم المساکین و یا ارحم الراحمین! پھر حضرت فاطمہؑ واپس چلی گئیں۔ جب حضرت علیؑ کے پاس پہنچیں تو حضرت علیؑ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت فاطمہؑ نے عرض کیا میں آپ کے پاس سے دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے۔

۱۔ اخرجه احمد وروى الترمذی وابن ماجه بعضه كما فى التفسیر لابن كثير (ج ۳ ص ۳۹)

۲۔ اخرجه ابو الشيخ فى جزء من حديثه



حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰؓ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اور فصیح و بلیغ گفتگو کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اے انس! مجھے ان کی باتوں سے کیا تعلق؟ اؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں کیونکہ یہ لوگ تو اپنی زبان سے کھال ہی اتار دیں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا اے انس! کس چیز نے ان لوگوں کو آخرت سے پیچھے کر دیا اور کس چیز نے انہیں آخرت سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا خواہشات نے اور شیطان نے۔ حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا نہیں۔ اللہ کی قسم! نہیں بلکہ انہوں نے اس وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا کہ دنیا تو سامنے ہے اور آخرت بعد میں آئے گی۔ اگر یہ آنکھوں سے آخرت دیکھ لیتے تو اس سے نہ ہٹتے اور شک نہ کرتے۔

## قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اس پر ایمان لانا

حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ جب بِنَا آيَهَا النَّاسُ اَنْفُوَارٌ بَكْمُ سے لے کر وَلَكِنْ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٌ تک دو آیتیں نازل ہوئیں (سورت حج آیت ۱-۲) ترجمہ ”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو (کیونکہ) یقیناً قیامت (کے دن) کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی جس روز تم لوگ اس (زلزلہ) کو دیکھو گے تمام دودھ پلانے والیاں (مارے ہیبت کے) اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں اور تمام حمل والیاں اپنا حمل (دن پورے ہونے سے پہلے) ڈال دیں گی اور (اے مخاطب) تجھ کو لوگ نشہ کی سی حالت میں دکھائی دیں گے؛ حالانکہ وہ (واقع میں) نشہ میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز“ تو اس وقت حضور ﷺ سفر میں تھے حضور نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کونسا دن ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم (علیہ السلام) سے فرمائیں گے آگ میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گے اے میرے رب! آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نو سو ننانوے تو آگ میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر سارے مسلمان رونے لگ پڑے۔ حضور نے فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور ٹھیک ٹھیک چلتے رہو۔ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو پہلے یہ تعداد ان جاہلیت والوں سے پوری کی جائے گی پھر منافقوں سے پوری کی جائے گی۔ تمہاری اور باقی تمام امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانور کے پاؤں میں ابھری ہوئی غدود ہو یا جیسے اونٹ کے پہلو میں تل ہو۔ پھر فرمایا مجھے امید

(بقیہ) کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۲) وقال ولم ارفی رواہ من جرح الا ان صورته صورت المرسل

فان كان سوید سمعه من علی فهو متصل

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحیلة (ج ۱ ص ۲۵۹)

ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے چوتھائی ہوں گے۔ اس پر صحابہؓ نے اللہ اکبر کہا پھر فرمایا مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں کا تہائی حصہ ہوں گے اس پر صحابہؓ نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوں گے۔ صحابہؓ نے پھر اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ حضورؐ نے دو تہائی بھی فرمایا یا نہیں (لیکن طبرانی اور ترمذی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ امت جنت والوں کا دو تہائی ہوگی یعنی اللہ نے حضورؐ کی امید سے زیادہ کر دیا)۔ اسی آیت کی تفسیر میں بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے آدم! وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب! میں حاضر ہوں، ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان کو بلند آواز سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے آگ میں جانے والوں کو نکال لیں۔ حضرت آدمؑ پوچھیں گے آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے تو اس وقت ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا و تَسْرَى النَّاسُ سُكْرَى وَمَا هُمْ بِسُكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (ترجمہ گزر چکا) یہ سن کر صحابہؓ پر ایسا رنج و غم طاری ہوا کہ ان کے چہرے (غم کے مارے) بدل گئے۔ حضورؐ نے فرمایا جوج و ماجوج میں سے نو سو ننانوے ہوں گے (جو جہنم میں جائیں گے) اور تم میں سے ایک ہوگا (جو جنت میں جائے گا) تم باقی لوگوں میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں کالا بال یا کالے بیل کے پہلو میں سفید بال۔ مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا چوتھائی حصہ ہو گے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضورؐ نے فرمایا تم جنت والوں کا تہائی ہو گے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضورؐ نے فرمایا تم جنت والوں کے آدھے ہو گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بات صحابہؓ پر بڑی گراں گزری اور ان پر رنج و غم طاری ہو گیا۔

حضرت ابن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ جب نَسَمَ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (سورت زمر آیت ۳۱) نازل ہوئی۔ ترجمہ ”پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے (اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا)“ تو حضرت زبیرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا مقدمات بار بار پیش کیئے جائیں گے؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں۔ حضرت زبیرؓ نے کہا پھر تو معاملہ بڑا سخت ہوگا ایسے ہی اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ جب نَسَمَ لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ نازل ہوئی (سورت

۱۔ اخرجہ الترمذی وصحیحہ و کذا رواہ الامام احمد وابن ابی حاتم

۲۔ وقدر واہ البخاری ایضا فی غیر هذا الموضع وکذا النسائی فی تفسیرہ کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۲۰۳) و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۶۸) عن ابن عباس نحوہ.

تکاثر آیت ۸) ترجمہ ”پھر (اور بات سنو کہ) اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی“ تو حضرت زبیرؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! ہم سے کس نعمت کا سوال ہوگا؟ ہمارے پاس تو صرف یہ دوسرا نعمتیں ہیں، کچھ اور پائی۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت حضور ﷺ پر نازل ہوئی: إِنَّكَ مَبْتُؤٌ وَأَنْتُمْ مَبْتُونُونَ لَمَّا أَنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. (سورت زمر آیت ۳۰-۳۱) ترجمہ ”آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے (اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا)“ تو حضرت زبیر بن عوامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! خاص خاص گناہوں کے ساتھ ہم پر وہ جھگڑے بھی بار بار پیش کیئے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں تھے؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں، یہ مقدمات بار بار پیش کئے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر حق والے کو اس کا حق مل جائے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا اللہ کی قسم پھر تو معاملہ بہت سخت ہے۔

حضرت قیس بن ابی حازمؒ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں رونے لگے پھر ان کی بیوی بھی رونے لگی۔

ابن رواحہؓ نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ انھوں نے کہا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں بھی رونے لگی، حضرت ابن رواحہؓ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا وَإِنْ مَنَّكُمْ إِلَّا وَآوَدُّهَا (سورت مریم آیت ۷۱) ترجمہ ”اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس (جہنم) پر سے گزرنہ ہو۔“ اب مجھے معلوم نہیں میں جہنم سے نجات پاسکوں گا یا نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن رواحہؓ اس وقت بیمار تھے۔

حضرت عبادہ بن محمد بن عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبادہؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے فرمایا میرا بستر گھر کے صحن میں باہر نکال دو پھر فرمایا میرے سارے غلام، خادم اور پڑوسی اور وہ تمام آدمی یہاں جمع کرو جو میرے پاس آیا کرتے تھے جب یہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو فرمایا میرا تو یہی خیال ہے کہ آج کا دن میری دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور آج کی رات میری آخرت کی پہلی رات ہے اور مجھے معلوم تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگئی ہو اور اس ذات کی قسم جس کے

۱۔ اخرجہ ابن ابی حاتم و قد روی هذه الزيادة الترمذی وحسنه وابن ماجه

۲۔ عند احمد رواه الترمذی وقال حسن صحيح كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۵۲) و اخرجہ الحاكم في المستدرک (ج ۳ ص ۵۷۲) نحوه وقال هذا حديث صحيح الا سناد ولم

يخرجه بخير ۳۔ اخرجہ عبدالرزاق كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۱۴۲)

قبضہ میں میری جان ہے مجھے قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ میں پورے زور سے تم لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کسی کے دل میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو وہ میری جان کے نکلنے سے پہلے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ان سب نے کہا نہیں۔ آپ تو ہمارے لیے والد کی طرح تھے اور ہمیں ادب سکھاتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ انھوں نے کبھی کسی خادم کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ پھر انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اے اللہ! تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر میری وصیت یاد رکھنا۔ میں پر زور تاکید کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی میرے مرنے پر ہرگز نہ روئے بلکہ جب میری جان نکل جائے تو تم وضو کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا اور پھر تم میں سے ہر آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑھے پھر عبادہ کے لیے یعنی میرے لیے اور اپنے لیے استغفار کر لے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: **اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** (سورت بقرہ آیت ۴۵-۱۵۳) ترجمہ ”صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔“ پھر مجھے قبر کی طرف جلدی جلدی لے جانا میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا اور نہ میرے نیچے ارغوانی رنگ کا کپڑا ڈالنا۔

بیت المال میں سے اپنے اوپر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں احتیاط برتنے کے باب میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے چار ہزار درہم ادھار مانگے تو حضرت عبدالرحمنؓ نے حضرت عمرؓ کے قاصد سے کہا ہاں کہ حضرت عمرؓ سے کہہ دو کہ ابھی وہ بیت المال سے چار ہزار لے لیں پھر بعد میں واپس کر دیں۔ جب قاصد نے واپس آ کر حضرت عمرؓ کو ان کا جواب بتایا تو حضرت عمرؓ کو بڑی گرانی ہوئی پھر جب حضرت عمرؓ کی حضرت عبدالرحمنؓ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا، تم نے کہا تھا کہ عمر چار ہزار بیت المال سے ادھار لے لے اگر میں (بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلہ کے ساتھ بھیج دوں اور پھر) تجارتی قافلے کی واپسی سے پہلے مر جاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ امیر المومنین نے چار ہزار لیے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے یہ ان کے چار ہزار چھوڑ دو (تم لوگ تو چھوڑ دو گے) اور میں ان کے بدلے قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔

اور عنقریب اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کے رسول ﷺ کے علم سے اثر لینے کے باب میں یہ قصہ آئے گا کہ جب حضرت ابو ہریرہؓ قاری عالم، مالدار اور اللہ کے راستہ میں شہید ہونے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے (اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے) فیصلے والی حدیث ذکر کرتے تو اتنا زیادہ روتے کہ بیہوش ہو جاتے اور چہرے کے بل گر جاتے یہاں تک کہ حضرت شفیؓ اٹھی انہیں سہارا دیتے اور بہت دیر تک ان کا یہی حال رہتا اور حضرت معاویہؓ جب یہ

حدیث سنتے تو اتنا زیادہ روتے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ ان کی تو اب جان نکل جائے گی۔

## شفاعت پر ایمان لانا

حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں حضور ﷺ نے آخر شب میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے کجاوے کی ہتھی کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو مجھے حضور اپنے کجاوے کے پاس نظر نہ آئے۔ اس سے میں گھبرا گیا اور حضور کو تلاش کرنے چل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ مجھے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ملے۔ وہ دونوں بھی اسی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے جس وجہ سے میں گھبرایا ہوا تھا۔ ہم لوگ یونہی ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک ہمیں وادی کے اوپر کے حصہ سے چلی چلنے جیسی آواز سنائی دی۔ (ہم لوگ اس آواز کی طرف گئے تو دیکھا حضور ﷺ رو رہے ہیں) پھر ہم نے حضور کو اپنی بات بتائی۔ حضور نے فرمایا آج رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے دو باتوں میں اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت کروں یا میری آدمی امت جنت میں چلی جائے۔ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت میں رہنے کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیں۔ حضور نے فرمایا آپ لوگ تو میری شفاعت والوں میں ہو ہی۔ پھر ہم لوگ حضور کے ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچ گئے تو وہ بھی حضور کو اپنی جگہ نہ پا کر گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے ان باتوں میں اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت اختیار کروں یا میری آدمی امت جنت میں داخل ہو جائے؛ چنانچہ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا ہم آپ کو اللہ کا اور آپ کی صحبت میں رہنے کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل کر لیں۔ جب تمام صحابہ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا میں تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت میں سے ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی عقیل فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ ثقیف کے وفد کے ساتھ حضور ﷺ کے پاس گیا۔ جب ہم نے دروازے کے پاس سواریاں بٹھائیں تو اس وقت جس ذات کے پاس جا رہے تھے ہمارے نزدیک اس سے زیادہ مبغوض اور کوئی انسان نہیں تھا لیکن جب اس کی خدمت

میں حاضری دے کر باہر آئے تو اس وقت ہمارے نزدیک اس ذات سے زیادہ محبوب اور کوئی انسان نہیں تھا جس کی خدمت میں ہم گئے تھے۔ ہم میں سے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے اپنے رب سے حضرت سلیمان جیسا ملک کیوں نہ مانگ لیا؟ اس پر حضورؐ نے پڑے اور فرمایا ہو سکتا ہے تمہارے نبی کو اللہ کے ہاں ملک سلیمانی سے بہتر کوئی چیز مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجا اسے ایک خاص دعا ضرور عطا فرمائی۔ کسی نبی نے وہ دعا مانگ کر دنیا لے لی، کسی نبی کی قوم نافرمان تھی تو اس نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی تو وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ خاص دعا عطا فرمائی لیکن میں نے وہ دعا اپنے رب کے ہاں چھپا کر رکھی ہوئی ہے اور وہ دعا یہ ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے بہترین آدمی ہوں۔ تو قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ اپنی امت کے بروں کے لیے ایسے ہیں تو ان کے نیکوں کے لیے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے نیک لوگ اپنے اعمال کی برکت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور میری امت کے برے لوگ میری شفاعت کا انتظار کریں گے۔ غور سے سنو! میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے تمام لوگوں کے لیے ہوگی سوائے اس آدمی کے جو میرے صحابہ میں کمی نکالتا ہو۔

حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے پکار کر پوچھے گا اے محمد! کیا تم راضی ہو گئے؟ میں کہوں گا جی ہاں میں راضی ہو گیا۔ پھر حضرت علیؓ نے (لوگوں کی طرف) متوجہ ہو کر فرمایا تم عراق والے یہ کہتے ہو کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَعْلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (سورۃ زمر آیت ۵۳) ترجمہ ”آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے (کفر و شرک کر کے) اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو بالیقین اللہ تعالیٰ تمام (گزشتہ) گناہوں کو معاف فرمادے گا۔ واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔“ میں نے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید والی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے (سورۃ ضحیٰ آیت

۱۔ اخرجه البغوي وابن مندة وابن عساكر قال البغوي لا اعلم روى ابن ابى عقيل غير هذا الحديث وهو غريب لم يحدث به الامن هذا الوجه كذا في الكنز (ج ۷ ص ۲۷۲) و اخرجه البخاري والحداد بن ابى اسامه كما في الاصابة (ج ۲ ص ۲) ۲۔ اخرجه الشيرازي في الالقباب وابن النجاء كذا في الكنز (ج ۷ ص ۲۷۲)

(۵) ترجمہ "اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت میں بکثرت نعمتیں) دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے" اور اس دینے سے مراد شفاعت ہے۔

حضرت ابن بریدہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت بریدہؓ حضرت معاویہؓ کے پاس گئے وہاں اس وقت ایک آدمی بات کر رہا تھا۔ حضرت بریدہؓ نے کہا کیا آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حضرت معاویہؓ نے کہا جی ہاں! اجازت ہے۔ حضرت معاویہؓ کا خیال تھا کہ حضرت بریدہؓ بھی وہی بات کریں گے جیسی دوسرا کر رہا تھا۔ حضرت بریدہؓ نے کہا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا جتنے زمین پر درخت اور پتھر ہیں۔ پھر حضرت بریدہؓ نے کہا اے معاویہ! آپ تو اس شفاعت کے امیدوار ہیں اور حضرت علیؓ اس شفاعت کے امیدوار نہیں ہیں۔

حضرت طلق بن حبیب کہتے ہیں میں لوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کو جھٹلایا کرتا تھا یہاں تک کہ ایک دن میری ملاقات حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے ہوئی اور (اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے) میں نے ان کو وہ تمام آیتیں پڑھ کر سنا دیں جو مجھے آتی تھیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا اے طلق! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہو اور مجھ سے زیادہ رسول اللہ کی سنت کو جاننے والے ہو؟ تم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان سے مراد تو وہ جہنم والے ہیں جو مشرک ہوں اور شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو (مسلمان تھے لیکن وہ) بہت سے گناہ کر بیٹھے اور انہیں (جہنم میں) عذاب دیا جائے گا پھر ان کو (حضور کی شفاعت پر) جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر حضرت جابرؓ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کو لگا کر کہا یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو اس میں سے نکالا جائے گا جیسے تم قرآن پڑھتے ہو ہم بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں۔

حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ حدیثیں بیان فرما رہے تھے میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ جہنم کی آگ سے باہر نکلیں گے۔ ان دنوں میں اس بات کو نہیں مانتا تھا اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا اور لوگوں پر تو مجھے تعجب نہیں ہے لیکن اے محمد ﷺ کے صحابہ! مجھے آپ لوگوں پر بڑا تعجب ہے۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگ سے کچھ لوگوں کو نکالیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُسْرِدُونَ اَنْ یُنْخَرُوا مِنْ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِيْنَ مِنْهَا (سورۃ مائدہ آیت ۳۷) ترجمہ "اس بات کی خواہش

۱۔ اخراجہ ابن مردودہ کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۲۷۳) ۲۔ اخراجہ احمد کذا فی التفسیر لابن

کنز (ج ۳ ص ۵۶) ۳۔ اخراجہ ابن مردودہ

کریں گے کہ جہنم سے نکل آویں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے“ حضرت جابرؓ کے ساتھی مجھے ڈانٹنے لگے۔ حضرت جابرؓ خود ان میں سب سے زیادہ بردبار تھے۔ انھوں نے فرمایا اس آدمی کو چھوڑ دو اور فرمایا یہ آیت تو کفار کے بارے میں ہے پھر یہ آیت پڑھی: **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَتَابِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ** سے لے کر **وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ** تک (سورہ مائدہ آیت ۳۶-۳۷) ترجمہ ”یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جاویں تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جاویں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اس بات کی خواہش کریں گے کہ جہنم سے نکل آئیں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا۔“ پھر حضرت جابرؓ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں بلکہ میں نے قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ انھوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا **وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا** (سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۹) ترجمہ ”اور کسی قدر رات کے حصہ میں سو اس میں تہجد پڑھا کیجئے جو کہ آپ کے لیے (فرض نمازوں کے علاوہ) زائد چیز ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا یہی وہ مقام ہے (جو شفاعت کبریٰ کا ہے) اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رکھیں گے اور ان سے بات بھی نہ فرمائیں گے اور جب ان کو وہاں سے نکالنا چاہیں گے نکال لیں گے۔ حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی شفاعت کو نہیں جھٹلایا۔

## جنت اور جہنم پر ایمان لانا

حضرت حظلہ کاتب اسیدیؓ جو حضور ﷺ کے کاتبوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضورؐ کے پاس تھے۔ حضورؐ نے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرمایا کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگ گیا پھر مجھے وہ حالت یاد آئی جو (حضورؐ کے سامنے) ہماری تھی (کہ ہم دنیا بھولے ہوئے تھے اور جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے تھیں اور اب وہ نہ رہی تھیں) یہ سوچ کر میں باہر نکلا تو حضرت ابو بکرؓ مجھے ملے۔ میں نے کہا اے ابو بکر! میں تو منافق ہو گیا۔ انھوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس ہوتے ہیں۔ حضورؐ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے باہر آجاتے ہیں اور بیوی بچوں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو ہم (جنت جہنم سب) بھول





حضورؐ نے فرمایا تم جنت والوں میں آدھے ہو گے ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپؐ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا چوتھائی حصہ ہو گے اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضورؐ نے یہ آیت پڑھی: **فُلَّةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ نَ وَفُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ** (سورۃ واقعہ آیت ۳۹-۴۰) ترجمہ ”(صحابہ ائمین) کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں سے میں ہوگا“ حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ یہ ستر ہزار کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضورؐ تک پہنچی تو آپؐ نے فرمایا نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو (علاج کیلئے) جسم پر داغ نہیں لگائیں گے اور کبھی منتر نہیں پڑھیں گے اور نہ کبھی بدفالی لیں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔

حضرت سلیم بن عامرؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے صحابہؓ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں؛ چنانچہ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضورؐ نے پوچھا وہ کونسا درخت ہے؟ اس نے کہا بیری کا درخت کیونکہ اسی تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا **فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ** (سورۃ واقعہ آیت ۲۸) ترجمہ ”وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی“ اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دور کر دیئے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے۔ اس درخت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں بہتر قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔

حضرت عقبہ بن عبد سلیمؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آدی آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! میں نے آپ سے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر سنا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کانٹے والا درخت اور کوئی نہیں ہوگا یعنی بول کا درخت۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کانٹے کی جگہ بھرے ہوئے گوشت والے بکرے کے خصیہ کے برابر پھل لگا دیں گے اور اس پھل میں ستر قسم کے ذائقے ہوں گے۔ ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔

حضرت عقبہ بن عبد سلیمؓ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس نے

۱۔ اخرجہ ابن ابی حاتم وکنذراواہ ابن جریر وھذا الحدیث لہ طرق کثیرة من غیر ھذا الوجه فی الصحاح وغیرھا کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۲۹۳) و اخرجہ الحاکم فی المستدرک (ج ۲ ص ۵۷۸) عن عبد اللہ بن مسعود بطولہ نحوہ وقال ھذا حدیث صحیح الا سناد ولم یخرجاہ بھذہ السیاقہ وقال اللہبی صحیح۔

۲۔ اخرجہ ابن البخار

۳۔ عند ابن ابی داؤد کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۲۸۸)

حضورؐ سے حوض کے بارے میں پوچھا اور جنت کا تذکرہ کیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کیا اس میں پھل بھی ہوں گے؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں۔ اس میں ایک درخت ہے جسے طوبی کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضورؐ نے کسی اور چیز کا بھی ذکر فرمایا لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس دیہاتی نے کہا ہمارے علاقہ کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضورؐ نے فرمایا تمہارے علاقے کے کسی درخت کے مشابہ نہیں۔ پھر حضورؐ نے فرمایا کیا تم شام گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کو اخروٹ کہا جاتا ہے۔ ایک تنے پر اگتا ہے اور اس کی اوپر والی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اس دیہاتی نے کہا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا سیاہ سفید داغوں والا کوا بغیر کے ایک مہینہ مسلسل اڑ کر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ گچھا اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اس درخت کی جڑ کتنی موٹی ہوگی؟ آپؐ نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اسی کی ہنسی کی ہڈی ٹوٹ جائے پھر بھی وہ اس کی جڑ کا ایک چکر نہیں لگا سکے گا۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں! اس نے پوچھا انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا کیا تیرے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے بڑا بکر اذبح کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دے دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اس کھال کا ہمارے لیے ڈول بنا دے! اس دیہاتی نے کہا جی ہاں (حضورؐ نے فرمایا وہ دانہ اس ڈول کے برابر ہوگا) پھر دیہاتی نے کہا (جب وہ دانہ ڈول کے برابر ہوگا) تو پھر ایک دانے سے میرا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضورؐ نے فرمایا ہاں بلکہ تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حبشہ کا ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا۔ حضورؐ نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ! آپ کو شکل و صورت، رنگ اور نبوت کی وجہ سے ہم پر فضیلت حاصل ہے ذرا یہ بتائیں کہ اگر میں ان چیزوں پر ایمان لے آؤں جن پر آپ ایمان لائے ہیں اور وہ تمام عمل کروں جو آپ کر رہے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ حضورؐ نے فرمایا بالکل ضرور۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! کالے حبشی کی سفیدی جنت میں ہزار سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھر حضورؐ نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آجاتا ہے اور جو سبحان اللہ وبحمدہ کہے اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس پر ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! اس کے بعد ہم کیسے ہلاک ہوں گے؟ حضورؐ نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اتنے اعمال لے کر آئے گا کہ اگر وہ اعمال کسی پہاڑ پر رکھ دیئے جائیں تو پہاڑ کو بھاری لگنے لگیں۔ پھر ان اعمال

کے مقابلہ میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی اور وہ ان سارے اعمال کو ختم کرنے کے قریب ہوں گی؛ البتہ اگر اللہ سے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو اس کے اعمال بچ سکیں گے اور جب یہ سورت ہل آئی عَلٰی الْاِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ سے لے کر مُلْكًا كَبِيْرًا تَكُنْ نازل ہوئی (سورت دہر آیت ۲۰ تا ۲۱) ترجمہ ”بے شک انسان پر زمانہ میں ایک وقت ایسا بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا (یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا)“ تو اس جہشی نے کہا میری آنکھیں بھی وہ سب کچھ جنت میں دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں! یہ سن کر (خوشی کے مارے) وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی جان نکل گئی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتار رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت ابن زید نے ہمیں بتایا کہ جب حضور ﷺ پر هَلْ اَتَى عَلٰی الْاِنْسَانِ حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ والی سورت نازل ہوئی تو اس وقت آپ کے پاس ایک کالا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے یہ سورت پڑھ کر سنائی جب حضور اس سورت میں جنت کی نعمتوں کے ذکر پر پہنچے تو اس نے ایک لمبا سانس زور سے لیا اور اس کی جان نکل گئی۔ حضور نے فرمایا جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی اور بھائی کی جان لے لی۔

حضرت ابو مضر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو ابولولوہ نے زخمی کیا تو میں ان کے پاس گیا وہ رورہے تھے میں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں آسمان کے فیصلے کی وجہ سے رورہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جنت میں لے جایا جائے گا یا جہنم میں؟ میں نے ان سے کہا آپ کو جنت کی بشارت ہو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو بے شمار دفعہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں اور دونوں بہت عمدہ آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے علی! کیا تم میرے جنتی ہونے کے گواہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں اور اے حسن! تم اپنے باپ کے گواہ رہنا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ عمر جنت والوں میں سے ہے۔

حضرت عمر کے زہد کے باب میں گزر چکا ہے کہ انھوں نے اپنی ایک ضیافت کے موقع پر فرمایا کہ ہمیں تو یہ کھانا مل گیا لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی ان کو کیا ملے گا؟ حضرت عمر بن ولید نے کہا انہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور فرمایا اگر ہمارے حصہ میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں تو وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کرتی۔

۱۔ اخرجه الطبرانی كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۲۵۷)

۲۔ مرسل غريب كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۲۵۳) ۳۔ اخرجه ابن عساکر

كذا في المنتخب (ج ۳ ص ۳۲۸) ۴۔ اخرجه عبد بن حميد وغيره عن قتادة

حضرت مصعب بن سعدؓ کہتے ہیں جب میرے والد (حضرت سعد بن ابی وقاصؓ) کی جان نکل رہی تھی۔ ان کا سر میری گود میں تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آگئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے میرے بیٹے! کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کو مرتے ہوئے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کہا مت روئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی عذاب نہیں دیں گے اور میں یقیناً جنت والوں میں سے ہوں۔ اور مومن بندے جب تک اللہ کے لیے عمل کریں گے اللہ ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا اور کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور مومنین کے وہ عمل جو انہوں نے اللہ کے لیے کیئے تھے جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جس کے لیے عمل کیا تھا ہر ایک اس کا ثواب بھی اسی سے لے لے۔ حضرت ابن شماسہ مہریؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمرو بن عاصؓ کی خدمت میں گئے اور ان کی جان نکل رہی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان کا بیٹا انہیں کہتا رہا آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا آپ کو حضورؐ نے یہ اور یہ بشارت نہیں دی؟ لیکن وہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتے رہے پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا تم جو میرے فضائل شمار کر رہے ہو ان سب سے افضل تو کلمہ شہادت اشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمددا رسول اللہ ہے لیکن میری زندگی کے تین دور ہیں پہلا دور تو وہ ہے کہ مجھے اس زمانے میں حضورؐ سے زیادہ مغفوس کوئی نہیں تھا اور حضورؐ پر قابو پا کر قتل کر دینے سے زیادہ محبوب اور کوئی کام نہیں تھا اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں جہنم والوں میں سے ہوتا پھر اللہ نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دی اور میں بیعت ہونے کے لیے حضورؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضورؓ نے اپنا دست مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضورؓ نے فرمایا اے عمرو! تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضورؓ نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ حضورؓ نے فرمایا اے عمرو! کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر میرا یہ حال ہو گیا کہ حضورؓ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں تھا اور میری نگاہ میں حضورؓ سے زیادہ اور کوئی عظمت والا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ حضورؓ کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں حضورؓ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے آپؐ کو آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اس حالت پر مرتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں بہت سے کام کرنے پڑے۔ اب مجھے معلوم

نہیں کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد اب میرا کیا حال ہوگا؟ لہذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت جائے اور نہ آگ۔ اور جب تم مجھے دفن کر لو تو میرے اوپر اچھی طرح مٹی ڈالنا اور دفن کر کے میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے قریب ہونے سے مجھے انس رہے گا یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کے سوالوں کا کیا جواب دیتا ہوں۔

حضرت عبدالرحمن بن شماسہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاصؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہؓ نے کہا آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا آپ موت سے گھبرارہے ہیں؟ حضرت عمروؓ نے کہا، نہیں اللہ کی قسم! نہیں۔ (موت کی وجہ سے نہیں رورہا ہوں) بلکہ موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کی وجہ سے رورہا ہوں۔ حضرت عبداللہؓ نے ان سے کہا آپ نے تو خیر کا زمانہ گزارا ہے پھر حضرت عبداللہؓ انہیں یاد کرانے لگے کہ آپ حضور ﷺ کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ نے شام میں بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔ حضرت عمروؓ نے فرمایا تم نے ان سب سے افضل چیز کو تو چھوڑ دیا اور وہ ہے کلمہ شہادت اشہدان لا الہ الا اللہ پھر آگے حدیث کو مختصر ذکر کیا اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی عورت مجھ پر بین نہ کرے اور نہ کوئی تعریف کرنے والا جنازے کے ساتھ جائے اور نہ (جاہلیت کے دستور کے مطابق) میرے جنازے کے ساتھ آگ ہو۔ اب میری لنگی اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دو کیونکہ (جان نکالتے وقت) فرشتے مجھ سے جھگڑا کریں گے (تو کہیں اس حالت میں ستر نہ کھل جائے) اور میرے اوپر دونوں طرف اچھی طرح مٹی ڈالنا کیونکہ میرا دایاں پہلو بائیں پہلو سے زیادہ مٹی کا حقدار نہیں ہے اور میری قبر میں کوئی لکڑی اور پتھر استعمال نہ کرنا (تاکہ قبر شاندار نہ بنے) ۲ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت عمروؓ نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کہنے لگے اے اللہ! تو نے ہمیں بہت سے حکم دیئے لیکن ہم نے تیری نافرمانی کی اور وہ حکم پورے نہ کیئے اور تو نے ہمیں بہت سے کاموں سے روکا لیکن ہم نہ ر کے اس لیے ہماری نجات کی بس ایک ہی صورت ہے تو ہمیں معاف کر دے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انھوں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر اس طرح رکھا جیسے کہ گلے میں طوق ڈالا جاتا ہے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ! میں طاقتور بھی نہیں کہ بدلہ لے سکوں اور نہ بے قصور ہوں کہ عذر پیش

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۴ ص ۲۵۸) واخرجه مسلم (ج ۱ ص ۷۶) بسند ابن سعد بسياقه نحوه  
 ۲۔ اخرجه احمد كذا في البداية (ج ۸ ص ۲۶) وقال وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه  
 ولبه زيادات على هذا السياق اي سياق احمد

کر سکوں اور نہ ہی مجھے اپنی غلطیوں اور گناہوں سے انکار ہے۔ بلکہ میں تو استغفار کرتا ہوں لا الہ الا انت وہ یہ کلمات بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ابن سعد کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر حضرت عمرؓ نے کہا اے اللہ! تو نے ہمیں بہت سے حکم دیئے جنہیں ہم نے پورا نہ کیا اور تو نے ہمیں برے کاموں سے روکا لیکن ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا نہ تو میں بے قصور ہوں کہ عذر پیش کروں اور نہ ایسا زور دار ہوں کہ بدلہ لے سکوں لا الہ الا اللہ انتقال تک ان ہی کلمات کو دہراتے رہے۔

نصرت کے باب میں گزر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انصار سے فرمایا تمہارے اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا پورا ادا کر دیا۔ اب اگر تم چاہو تو یوں کر لو کہ اپنا خیبر کا حصہ خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو اور (مدینہ کے باغات کے) سارے پھل خود رکھ لیا کرو (اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ نہ دیا کرو یوں مدینہ کا سارا پھل تمہارا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا) انصار نے کہا (ہمیں منظور ہے) آپ نے ہمارے ذمہ اپنے کئی کام لگائے تھے۔ وہ ہم نے سارے کر دیئے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیز ہمیں مل جائے۔ حضورؐ نے فرمایا وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔

اور جہاد کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ بدر کے دن حضور ﷺ نے لڑنے کے لیے ابھارا تو حضرت عیسٰیؑ نے کہا واہ واہ! کیا میرے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہے کہ یہ (کافر) لوگ مجھے قتل کر دیں؟ یہ کہہ کر کچھوڑیں ہاتھ سے پھینک دیں اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو۔ انھوں نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! صرف اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپؐ نے فرمایا تم جنت والوں سے ہو۔ پھر وہ اپنی جھولی میں سے کچھوڑیں نکال کر کھانے لگے۔ پھر کہنے لگے ان کچھوڑوں کے کھانے تک میں زندہ رہوں یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے یہ کہہ کر ان کچھوڑوں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے۔

اور جہاد کے باب میں زخمی ہونے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت انس بن نصیرؓ نے کہا واہ واہ! جنت کی خوشبودار ہوا کیا ہی عمدہ ہے جو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے آرہی ہے۔ پھر انھوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے شوق میں یہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت سعد بن خثعمہؓ سے ان کے والد نے کہا اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا ضروری ہو گیا ہے تو حضرت سعدؓ نے کہا اگر جنت

کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں (حضور کے ساتھ جانے میں) آپ کو اپنے سے آگے رکھتا۔ میں اپنے اس سفر میں شہادت کی امید لگائے ہوئے ہوں اور حضرت سعد بن ربیع کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب حضرت زید بن ثابتؓ نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول ﷺ سلام کہتے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا پارہے ہو؟ تو حضرت سعدؓ نے ان سے کہا تم حضور سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ! میرا حال یہ ہے کہ میں جنت کی خوشبو پارہا ہوں اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ غزوہ بیر معونہ کے دن حضرت حرام بن ملحانؓ نے کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا یعنی جنت ملنے کی کامیابی مل گئی اور حضرت عمار بن یاسرؓ کی بہادری کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عمارؓ نے کہا اے ہاشم! آگے بڑھو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اور موت نیزوں کے کناروں میں ہے۔ جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں اور بڑی آنکھوں والی حوریں آراستہ ہو چکی ہیں۔ آج میں اپنے محبوب دوستوں حضرت محمد ﷺ اور ان کی جماعت سے ملوں گا۔ پھر حضرت عمارؓ اور حضرت ہاشمؓ دونوں نے زور دار حملہ کیا اور دونوں شہید ہو گئے اور حضرت عمارؓ کی بہادری کے عنوان میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ حضرت عمارؓ نے کہا اے مسلمانو! کیا تم جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں میری طرف آؤ اور امارت قبول کرنے سے انکار کرنے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی میرے دل میں دنیا کا خیال نہیں آیا تھا میں نے سوچھا کہ ان سے جا کر یہ کہوں کہ اس خلافت کی امید طمع وہ آدمی کر رہا ہے جس نے آپ کو اور آپ کے باپ کو اسلام کی وجہ سے مارا تھا اور (مار مار کر) تم دونوں کو اسلام میں داخل کیا تھا (اس سے حضرت ابن عمرؓ اپنی ذات مراد لے رہے ہیں) لیکن پھر مجھے جنتیں اور نعمتیں یاد آگئیں تو میں نے ان سے یہ بات کہنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب دومتہ الجندل میں حضرت معاویہؓ نے کہا کون خلافت کی طمع اور امید رکھتا ہے؟ اور حضرت سعید بن عامر کا قصہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب انھوں نے صدقہ کیا تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے۔ آپ کے سرال والوں کا بھی آپ پر حق ہے تو حضرت سعیدؓ نے کہا میں نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی۔ میں موٹی آنکھوں والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں کسی بھی انسان کو اس طرح خوش نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے حوروں کے ملنے میں کمی آئے یا وہ نمل سکیں کیونکہ اگر جنت کی ایک بھی حور آسمان سے جھانک لے تو اس کی وجہ سے ساری زمین ایسے چمکنے لگے گی جیسے سورج چمکتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت سعیدؓ نے اپنی بیوی سے کہا ایسے ہی آرام سے بیٹھی رہو میرے کچھ ساتھی تھے جو تھوڑا عرصہ پہلے مجھ سے جدا ہو گئے (اس دنیا سے چلے گئے) اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کا راستہ چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ اگر جنت کی خوبصورت



حوروں میں سے ایک حور آسمان دنیا سے جھانک لے تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اس کے چہرے کا نور چاند سورج کی روشنی پر غالب آجائے اور جو دوپٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میرے لیے یہ تو آسان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑ دوں لیکن تیری خاطر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ نرم پڑ گئی اور راضی ہو گئی۔ بیماریوں پر صبر کرنے کے باب میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ جب حضور ﷺ نے ایک انصاری عورت سے یہ فرمایا تمہیں ان دو باتوں میں سے کوئی بات پسند ہے۔ ایک یہ کہ میں تمہارے لیے دعا کروں اور تمہارا بخار چلا جائے دوسری یہ کہ تم صبر کرو اور تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے۔ تو اس انصاری عورت نے تین دفعہ کہا اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! میں صبر کروں گی اور پھر کہا میں اللہ کی جنت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابوالدرداء نے کہا میں جنت چاہتا ہوں اور اولاد کے مرنے پر صبر کرنے کے باب میں حضرت ام حارثہ کا قصہ گزر چکا کہ جب ان کا بیٹا حضرت حارثہ بدر کے دن شہید ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ! آپ مجھے بتائیں حارثہ کہاں ہے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی ورنہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں یعنی کتنا نوحہ کرتی ہوں۔ اس وقت تک نوحہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام حارثہ نے کہا یا رسول اللہ! اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہ روؤں گی اور نہ عم کا اظہار کروں گی اور اگر وہ جہنم میں ہے تو میں جب تک دنیا میں زندہ رہوں گی روتی رہوں گی۔ حضور نے فرمایا اے ام حارثہ! وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ کئی جنتیں ہیں اور (تمہارا بیٹا) حارث (بیمار کی وجہ سے حارثہ کی جگہ حارث فرمایا) تو فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔ اس پر وہ ہنستی ہوئی واپس چلی گئیں اور کہہ رہی تھیں واہ واہ! اے حارث تیرے کیا کہنے!

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں جہنم کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا ایک تو اعمال کے ترازو کے پاس جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ترازو (نیک اعمال کی وجہ سے) ہلکا ہو گیا (گناہوں کی وجہ سے) بھاری۔ دوسرے اعمال نامے ملنے کے وقت۔ جیسے دائیں ہاتھ میں طے گا وہ کہے گا لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو یہاں تک کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں میں اور (سامنے سے طے گا) یا پشت کے پیچھے سے۔ تیسرے بل صراط کے پاس۔ جب بل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اس کے دونوں کناروں پر بہت سارے آنکڑے اور کانٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہیں

گے ان آنکڑوں اور کانٹوں میں پھنسا کر روک لیں گے یہاں تک کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس سے نجات پاتا ہے یا نہیں۔

حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وُقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ** (سورت تحریم آیت ۶) ترجمہ ”اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن (اور سوختہ) آدمی اور پتھر ہیں“ اس وقت حضور کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک بڑے میاں بھی تھے۔ بڑے میاں نے کہا یا رسول اللہ! جہنم کے پتھر دنیا کے پتھر جیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جہنم کی چٹانوں میں سے ایک چٹان دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھا۔ حضور نے اسے پکار کر کہا اے بڑے میاں! لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے اسے جنت کی بشارت دی۔ حضور کے صحابہ نے کہا یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ** (سورت ابراہیم آیت ۱۴) ترجمہ ”یہ ہر اس شخص کے لیے (عام) ہے جو میرے رو برو کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔“ حاکم کی ایک روایت میں بڑے میاں کے بجائے ایک نوجوان کے بے ہوش ہو کر گرنے کا ذکر ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے باب میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ بیٹھ گیا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ رونے لگ جاتا۔ اور اس کیفیت کے غلبہ کی وجہ سے وہ ہر وقت گھر ہی رہنے لگا باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ کسی نے حضور ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس نوجوان کی حضور پر نگاہ پڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور کے گلے لگ گیا اور اسی حال میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا۔ حضور نے فرمایا تم اپنے ساتھی کی تجھیز و تکفین کرو۔ جہنم کے ڈرنے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیئے اور شداد بن اوس کا قصہ بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی اور یوں فرماتے اے اللہ! جہنم نے میری نیند اڑا دی ہے پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور صبح تک اس میں مشغول رہتے۔ اس باب کے کچھ قصے حضور ﷺ کے

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۵۷۸) قال الحاكم هذا حديث صحيح اسناده على شرط الشيخين  
 ۲۔ اخرجه ابن ابی حاتم هذا حديث مرسل غريب كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۳۹۱) وخرج الحاكم بمعناه مختصرا من حديث ابن عباس وصححه كما تقدم في الخوف. ۳۔ اخرجه الحاكم وصححه عن سهل وابن ابی الدنيا وغيره عن حذيفة رضي.

صحابہؓ کے رونے کے باب میں گزر چکے ہیں اور غزوہ موتہ کے دن کے واقعات میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ رونے لگے اور کہنے لگے کہ غور سے سنو اللہ کی قسم! نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ بلکہ میں نے حضور ﷺ کو قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا جس میں دوزخ کی آگ کا تذکرہ ہے: وان منکم الا وادھا کان علی ربک حتما مقضیا (سورت مریم آیت ۱۷) ترجمہ ”اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو۔ یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو (ضرور) پورا ہو کر رہے گا۔“ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوگی؟

### اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین

حضرت نبار بن مکرمؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اَلَمْ غَلِبَتِ الرُّومُ فِیْ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ فِیْ بَضْعِ مِیْنٰی (سورت روم آیت ۳۱) ترجمہ ”الم۔ اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے لے کر نو سال کے اندر اندر غالب آجائیں گے“ تو اس وقت فارس والے روم والوں پر غالب آئے ہوئے تھے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم والے فارس والوں پر غالب آجائیں کیونکہ مسلمان اور روم والے اہل کتاب تھے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: وَیَوْمَیْنِذِ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ بِنَصْرٍ مِّنْ یَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ (سورت روم آیت ۵۳) ترجمہ ”اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے (اور) رحیم ہے۔“ اور قریش چاہتے تھے کہ فارس والے روم والوں پر غالب رہیں کیونکہ قریش اور فارس والے دونوں نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابو بکرؓ کے مختلف علاقوں میں جا کر بلند آواز سے یہ آیت پڑھنے لگے تو قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا یہ آیت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی آپ کے حضرت یہ کہتے ہیں کہ روم والے فارس والوں پر تین سال سے لے کر نو سال کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔ کیا ہم آپ کے ساتھ اس بات پر شرط نہ لگالیں؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا ٹھیک ہے اور یہ شرط لگانے کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے؛ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اور مشرکوں نے شرط لگائی اور ہارنے پر جو چیز دینی پڑے گی اسے طے کیا اور مشرکوں نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا آپ تین سال سے لے کر نو سال تک کی مدت میں سے کتنے سال طے کرتے ہیں؟ آپ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی مدت طے

کردیں تاکہ اس کے پورا ہونے پر پتہ چلے کہ شرط میں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے (چنانچہ انہوں نے چھ سال متعین کر دیئے۔ پھر چھ سال گزرنے پر بھی رومی لوگ غلبہ نہ پاسکے تو مشرکین نے حضرت ابوبکرؓ کی شرط لگائی ہوئی چیز لے لی۔ پھر جب ساتواں سال شروع ہوا تو روم والے فارس والوں پر غالب آگئے۔ مسلمان حضرت ابوبکرؓ پر چھ سال مقرر کرنے پر اب اعتراض کرنے لگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ تین سال سے نو سال کے اندر اندر۔ جب نو سال سے پہلے پہلے روم والوں نے فارس والوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو اس پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ جب الم غلبت الروم فی الارض وہم من بعدکم سیغلون نازل ہوئی تو مشرکوں نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یوں کہہ رہے ہیں کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا میرے حضرت بالکل سچ کہتے ہیں ان مشرکوں نے کہا کیا آپ ہم سے اس پر شرط لگانے کو تیار ہیں چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے روم والوں کے غالب آنے کی مدت مقرر کر دی لیکن وہ مدت گزر گئی اور رومی فارس والوں پر غالب نہ آسکے۔ جب حضور ﷺ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ یہ شرط لگا کر سال مقرر کر دینا حضور کو پسند نہ آیا۔ آپ نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو سچا سمجھتے ہوئے ایسا کیا۔ حضور نے فرمایا اب مشرکوں کے پاس جاؤ اور شرط میں جو چیز مقرر کی ہے اس کی مقدار بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو (چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے جا کر مشرکوں سے کہا کیا آپ لوگ دوبارہ شرط لگاؤ گے؟ کیونکہ دوبارہ شرط پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی۔ مشرکوں نے کہا ٹھیک ہے (چنانچہ دوبارہ جو مدت متعین کی تھی) اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے ہی روم نے فارس پر غلبہ پالیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے مدائن میں باندھ دیئے اور رومیہ شہر کی بنیاد رکھی۔ پھر حضرت ابوبکرؓ شرط والا مال لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یہ حرام مال ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دوسروں کو دے دو۔

حضرت کعب بن عدیؓ فرماتے ہیں کہ میں اہل حیرہ کے وفد کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا۔ ہم مسلمان ہو گئے اور حیرہ واپس آ گئے۔ چند دن گزرے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی جس سے میرے ساتھی تو شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے

۱۔ اخرجه الترمذی هكذا ساقه الترمذی ثم قال هذا حديث بختم صحيح لا نعرفه الا من  
 ۲۔ عند ابن ابی حاتم و اخرجه الامام احمد  
 والترمذی وحسنه والنسائی وابن ابی حاتم وابن جریر عن ابن عباس بمعناه مختصرا كما في  
 التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۲۲۳)

اگر وہ نبی ہوتے تو ان کا انتقال نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں۔ ان سے پہلے اور انبیاء کا بھی تو انتقال ہو چکا ہے۔ میں اسلام پر پکارا پھر میں مدینہ کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں میرا گزرا ایک راہب کے پاس سے ہوا۔ ہم اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے جا کر اسے کہا جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹک سی ہے۔ اس راہب نے کہا اپنے نام کی کوئی چیز لاؤ۔ میں ٹخنے کی ہڈی لایا (عربی ٹخنے کی ہڈی کو کعب کہتے ہیں اور ان کا نام بھی کعب تھا) اس نے کچھ بال نکالے اور کہا اس ہڈی کو ان بالوں میں ڈال دو۔ میں نے وہ ہڈی ان بالوں میں ڈال دی تو مجھے حضور ﷺ بالکل اسی صورت میں نظر آئے جس میں میں نے آپ کو دیکھا تھا اور مجھے آپ کی موت کا منظر بھی سارا اسی طرح نظر آیا جس طرح ہوا تھا (بظاہر جادو کے زور سے یہ سب کچھ نظر آیا) اس سے میرے ایمان کی بصیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا قصہ سنایا اور میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے مجھے (اسکندر یہ کے بادشاہ) مقوقس کے پاس بھیجا وہاں سے واپس آیا تو پھر حضرت عمرؓ نے مجھے مقوقس کے پاس بھیجا اور جنگ یرموک کے بعد حضرت عمرؓ کا خط لے کر مقوقس کے پاس پہنچا۔ مجھے جنگ یرموک کی اس وقت تک خبر نہیں تھی۔ مقوقس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ رومیوں نے عربوں کو قتل کر دیا ہے اور انہیں شکست دے دی ہے۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافتی نہیں کرتے۔ اس پر اس نے کہا اللہ کی قسم! عربوں نے رومیوں کو ایسے قتل کیا ہے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا اور تمہارے نبی نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس نے مجھ سے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں پوچھا اور مجھے ان کے لیے ہدیے دیئے۔ میں نے کہا اس نبی کے چچا حضرت عباسؓ زندہ ہیں۔ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کرو۔ حضرت کعبؓ کہتے ہیں میں تجارت وغیرہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کا شریک تھا۔ جب حضرت عمرؓ نے عطایا کا رجسٹر بنایا تو مجھے (اپنے خاندان) بنو عدی بن کعب میں شمار کر کے میرا بھی حصہ مقرر کیا۔

مرتدین سے جنگ کرنے کے باب میں حضرت ابو بکرؓ کا یہ قول گزر چکا ہے اللہ کی قسم! میں اللہ کی بات کو لے کر کھڑا ہوں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں گا؛ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمادیں اور اپنے عہد کو ہمارے لیے پورا فرمادیں؛ چنانچہ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کی زمین پر خلیفہ اور

۱۔ اخرجه البغوی وقال البغوی لا اعلم الکعب بن عدی غیره وهکذا اخرجه ابن قانع عن البغوی ولكنه انحصر منه الی قوله مات الانبياء قبله وابن شاهين و ابو نعیم وابن السکن بطوله و اخرجه ابن فی تاریخ مصر من وجه آخر عن کعب بطوله كما فی الاصابة (ج ۳ ص ۲۹۸)

اللہ کی عبادت کا وارث بن کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ان کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَخِلَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (سورت نور آیت ۵۵) ترجمہ ”اے مجموعہ امت! تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت سے) زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی۔“ اور حضرت عمرؓ کا جہاد اور نذر فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دینے کے باب میں ان کا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک دم دوڑ کر آیا کرتے تھے وہ آج اللہ کے وعدے سے کہاں دور جا پڑے ہیں؟ تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (سورت توبہ آیت ۳۳) ترجمہ ”تا کہ اس کو تمام (بقیہ) دینوں پر غالب کر دے۔“ اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کا وارث بنا لیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں؟ اور جہاد کے لیے ترغیب دینے کے باب میں حضرت سعدؓ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہیں اور بادشاہت میں ان کا کوئی شریک نہیں اس کی کسی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَوْمَئِذٍ بِلِئْلِ الْعَبْدِ الصَّالِحِينَ (سورت انبیاء آیت ۱۰۵) ترجمہ ”اور ہم (سب آسمانی) کتابوں میں لوح محفوظ (میں لکھنے) کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔“ یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور تین سال سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہوا ہے۔ تم خود بھی اس میں سے کھار رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو اور آج تک ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے ہو۔ غرضیکہ گزشتہ تمام جنگوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اب تمہارے سامنے ان کا بہت بڑا لشکر جمع ہو کر آ گیا ہے (اس لشکر کی تعداد دو لاکھ بتائی جاتی ہے) اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا بہترین آدمی ہے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی عزت تم سے ہی وابستہ ہے۔ اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے۔

## اللہ کے رسول ﷺ نے جن چیزوں کی

### خبر دی ہے ان پر یقین کرنا

حضرت عمارہ بن خزمہ بن ثابتؓ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں جو کہ حضور ﷺ کے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ایک دیہاتی آدمی سے گھوڑا خریدا اور اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا تا کہ اسے گھوڑے کی قیمت دے دیں۔ حضور تیز تیز چلتے ہوئے آگے نکل گئے۔ وہ دیہاتی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے اس سے یہ گھوڑا خریدا لیا ہے، اس لیے لوگ اس سے اس گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے ایک آدمی نے اس گھوڑے کی قیمت حضور سے زیادہ لگا دی تو اس نے حضور کو آواز دے کر کہا اگر آپ یہ گھوڑا خریدا چاہتے ہیں تو خرید لیں ورنہ میں اسے بیچنے لگا ہوں۔ حضور نے جب اس دیہاتی کی یہ بات سنی تو رک گئے۔ جب دیہاتی آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے کہا کیا میں نے تم سے یہ گھوڑا خریدا نہیں لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کی قسم! میں نے آپ کو یہ گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں تم سے یہ گھوڑا خریدا چکا ہوں۔ حضور اور وہ دیہاتی آپس میں بات کرنے لگے تو دونوں کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ دیہاتی کہنے لگا آپ اپنا کوئی گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ یہ گھوڑا بیچا ہے۔ جو بھی مسلمان وہاں آتا وہ اس دیہاتی کو یہی کہتا تیرا ناس ہو رسول اللہ ﷺ تو ہمیشہ صرف حق بات ہی کہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت خزیمہ بن ثابتؓ بھی آگئے اور انہوں نے حضور کی اور دیہاتی کی گفتگو کو سنا۔ اور دیہاتی کہہ رہا تھا آپ اپنا کوئی گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کے ہاتھ بیچا ہے۔ حضرت خزیمہؓ نے فوراً کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے حضور کے ہاتھ یہ گھوڑا بیچا ہے۔ حضور نے حضرت خزیمہؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہؓ نے کہا یا رسول اللہ! میں اس بنیاد پر گواہی دے رہا ہوں کہ میں آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر حضور نے اکیلے حضرت خزیمہؓ کی گواہی، دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دی۔ حضرت محمد بن عمارہ بن خزیمہؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے خزیمہ! تم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے تو تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! جب میں آپ کو آسمان کی باتوں میں سچا مانتا ہوں تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو سچا کیسے نہ مانوں؟ چنانچہ حضور نے ان کی گواہی دو مردوں کی گواہی کے برابر قرار دے دی۔ ابن سعد کی

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۷۸) بخبره ابو داؤد (ص ۵۰۸) عن عمارة بن خزيمة عن عمه

۲۔ عند ابن سعد ايضا (ج ۳ ص ۳۷۹)

دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت خزیمہؓ نے کہا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ہمیشہ صرف حق بات ہی کہتے ہیں ہم اس سے بھی بہتر بات یعنی دینی معاملات میں آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضورؐ نے ان کی گواہی کو درست قرار دیا۔

حضرت عائشہؓ عمر مانی ہیں جب حضورؐ شب معراج میں مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تصدیق کر چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے پھر یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا آپ کا اپنے حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! حضرت ابو بکرؓ نے کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے تھے اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکرؓ نے کہا جی ہاں! میں تو اس سے بھی زیادہ بعید نظر آنے والے امور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اسی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ کا نام صدیق رکھا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ پر جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ اس موقع پر مرتد ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس واقعہ کی تصدیق کی۔ بہر حال یہ واقعہ بھی بہت بڑی آزمائش کا تھا۔ ۲

حضرت انسؓ شب معراج کا واقعہ تفصیل سے ذکر کرتے ہیں آخر میں یہ ہے کہ جب مشرکوں نے حضورؐ کی بات سنی تو وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکر! آپ کا اپنے حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آج رات ایک مہینے کی مسافت پر گئے تھے اور پھر رات کو ہی واپس آ گئے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ہے۔ ۳

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ایک سال ٹڈیاں کم ہو گئیں۔ حضرت عمرؓ نے ٹڈیوں کے بارے میں بہت پوچھا لیکن کہیں سے کوئی خبر نہ ملی تو وہ اس سے بہت پریشان ہوئے؛ چنانچہ انہوں نے ایک سوار ادھر یعنی یمن بھیجا اور دوسرا شام تیسرا عراق بھیجا تا کہ یہ سوار پوچھ کر آئیں کہ کہیں ٹڈی نظر آئی ہے یا نہیں۔ جو سوار یمن گیا تھا وہ وہاں سے ٹڈیوں کی ایک مٹھی لایا اور لا کر حضرت عمرؓ کے سامنے ڈل دیں۔ حضرت عمرؓ نے جب انہیں دیکھا تو تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر فرمایا میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار قسم

۱۔ اخرجه البيهقي كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۲۱) و اخرجه ابو نعيم عن عائشة نحوه.

۲۔ وقال ابو نعيم وفيه محمد بن كثير المصيصي ضعفه احمد جدا وقال ابن معين صدوق وقال النسائي وغيره ليس بالقوي كما في المنتخب (ج ۳ ص ۳۵۲)

۳۔ اخرجه ابن ابي حاتم كما في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۷)



کی مخلوق پیدا کی ہے۔ چھ سو سمندر میں اور چار سو خشکی میں اور ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ جب ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اور مخلوقات بھی ایسے آگے پیچھے ہلاک ہوتی شروع ہو جائیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگہ ٹوٹ گیا ہو۔

حضرت فضالہ بن ابی فضالہ انصاریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ بیچ میں بیمار تھے اور بیماری کافی شدید تھی۔ میں اپنے والد کے ساتھ ان کی عیادت کرنے بیچ گیا۔ میرے والد صاحب نے ان سے کہا آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کا یہاں انتقال ہو گیا تو آپ کے پاس صرف جہینہ کے دیہاتی ہوں گے۔ آپ تھوڑی سی تکلیف فرما کر مدینہ تشریف لے چلیں۔ اگر آپ کا وہاں انتقال ہو تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہوں گے جو آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے (میرے والد) حضرت ابو فضالہؓ بدری صحابہؓ میں سے تھے (اس لیے حضرت علیؓ کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام تھا) حضرت علیؓ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرا اس بیماری میں انتقال نہیں ہوگا کیونکہ حضور ﷺ نے مجھے بتایا تھا کہ جب تک میں امیر نہ بنایا جاؤں اور پھر میری یہ داڑھی میوے اس سمر کے خون سے رنگی نہ جائے اس وقت تک میں نہیں مروں گا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کی رکاب میں پاؤں رکھ چکا تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا عراق۔ انہوں نے کہا اگر آپ وہاں گئے تو کوئی آپ کو تلوار مار دے گا۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! میں نے ان سے پہلے یہ بات حضور ﷺ سے سنی ہوئی ہے۔

حضرت معاویہ بن جریہؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ گھوڑے سوار میرے سامنے سے گزریں (چنانچہ سوار گزرنے لگے) پھر حضرت علیؓ کے پاس سے ابن ملجم گزرا۔ حضرت علیؓ نے اس سے اس کا نام اور نسب پوچھا اس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام بتا دیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو پھر اس نے اپنے باپ کا نام لیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا اب تم نے ٹھیک کہا۔ حضور ﷺ نے مجھے بتایا تھا کہ میرا قاتل یہودیوں میں سے ہوگا۔ یہ ابن ملجم یہودی تھا۔ حضرت علیؓ نے اس سے کہا چلے جاؤ۔ حضرت عبیدہؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت علیؓ ابن ملجم کو دیکھتے تو یہ شعر پڑھتے:

۱۔ اخرجه الحافظ ابو يعلى كذا في التفسير لابن كثير (ج ۲ ص ۱۳۱)

۲۔ اخرجه ابن احمد في زوائد وابن ابی شیبہ والبزار والحارث و ابو نعیم والبيهقي في الدلائل وابن عساکر كذا في منتخب الكنز (ج ۵ ص ۵۹) وقال ورجاله ثقات

۳۔ اخرجه الحميدى والبزار و ابو يعلى وابن حبان والحاكم وغيرهم كذا في المنتخب

۴۔ اخرجه ابن عدی وابن عساکر كذا في المنتخب (ج ۵ ص ۶۲)

ارید حباءہ ویرید قتلی عذیرک من خلیلک من مراد  
 میں اسے عطیہ دینا چاہتا ہوں وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تم قبیلہ مراد میں سے اپنا وہ دوست  
 لاؤ جو تمہارا عذر بیان کرے (مراد ابن جحیم کا قبیلہ تھا)!

حضرت ابو طفیلؓ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ کے پاس تھا اس کے پاس عبدالرحمن  
 بن ملجم آیا۔ حضرت علیؓ نے حکم دیا کہ اسے عطیہ دیا جائے پھر اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے  
 ہوئے فرمایا اس داڑھی کو اوپر کے حصے (کے خون) سے رنگنے سے اس بد بخت کو کوئی نہیں روک  
 سکتا۔ پھر حضرت علیؓ نے یہ اشعار پڑھے:

اشدد حیازیمک للموت فان الموت ابیکا!

تو موت کے لیے اپنی کمر کس لے کیونکہ موت تمہیں ضرور آئے گی۔

ولا تجزع من القتل اذا حل بوادیک

اور جب قتل تمہاری وادی میں اتر جائے تو پھر قتل ہونے سے نہ گھبرانا۔

حضرت ام عمارؓ جنہوں نے حضرت عمارؓ کی پرورش کی تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ  
 حضرت عمارؓ بیمار ہو گئے تو کہنے لگے اس بیماری میں مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ میرے محبوب محمد  
 ﷺ نے مجھے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہوگی اور میں ان دو جماعتوں کے  
 درمیان شہید ہو کر ہی مروں گا۔ صحابہ کرامؓ کے اللہ کے راستہ میں شوق شہادت کے قصوں میں  
 حضرت عمارؓ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری توشہ  
 دودھ کی لسی ہوگی (اور وہ میں پی چکا ہوں اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں) جنگ صفین کے  
 دن حضرت عمارؓ جب لڑ رہے تھے لیکن شہید نہیں ہو رہے تھے اس وقت ان کے حضرت علیؓ کے پاس  
 جانے کا قصہ بھی گزر چکا ہے اور ان کا یہ قول بھی گزر چکا ہے کہ اے امیر المومنین! یہ فلاں دن  
 ہے (یعنی حضورؐ نے مجھے جس دن شہید ہونے کی خوشخبری دی تھی وہ دن یہی ہے) حضرت  
 علیؓ جواب میں فرماتے، ارے اپنے اس خیال کو جانے دو۔ اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ پھر ان کے  
 پاس دودھ لایا گیا جسے انہوں نے پی لیا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ دودھ ہی وہ چیز  
 ہے جسے میں دنیا سے جاتے وقت سب سے آخر میں پیوں گا پھر کھڑے ہو کر جنگ کی یہاں تک  
 کہ شہید ہو گئے۔

حضرت خالد بن ولیدؓ کہتے ہیں کہ حضرت ہشام بن ولید بن مغیرہ کی بیٹی حضرت

۱۔ عند عبدالرزاق وابن سعد و وکیع فی الغرر کذافی المنتخب (ج ۵ ص ۶۱)

۲۔ عند ابن سعد و ابی نعیم کذافی المنتخب (ج ۵ ص ۵۹)

۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذافی المنتخب (ج ۵ ص ۲۴۷)

عمارؓ تیمارداری کیا کرتی تھیں وہ کہتی ہیں کہ حضرت معاویہؓ حضرت عمارؓ کی عیادت کے لیے آئے۔ جب حضرت معاویہؓ ان کے پاس سے باہر گئے تو کہنے لگے اے اللہ! ان کی موت ہمارے ہاتھوں میں نہ ہو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمارؓ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔

حضرت ابراہیم بن اشترؓ نے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوذرؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔ انھوں نے اپنی بیوی سے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھ میں آپ کو دفن کرنے کی طاقت نہیں اور نہ ہی میرے پاس اتنا کپڑا ہے جو آپ کے دفن کے لیے کافی ہو۔ حضرت ابوذرؓ نے کہا تم روؤ کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو کچھ لوگوں کو فرماتے ہوئے سنا اور ان لوگوں میں میں بھی تھا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے ایک آدمی کی موت جنگل بیابان میں آئے گی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شریک ہوگی۔ اب ان لوگوں میں ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی بستی میں اور مسلمانوں کے مجمع میں ہوا ہے، لہذا اب میں ہی ایسا ہوں کہ جسے جنگل بیابان میں موت آئے گی اللہ کی قسم! نہ تو میں غلط کہہ رہا ہوں اور نہ حضورؐ نے مجھ سے غلط بات کی ہے، لہذا آنے جانے کے عام راستہ کی طرف دیکھو۔ ان کی بیوی نے کہا حاجیوں کے قافلے واپس جا چکے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں، بہر حال وہ ٹیلہ پر چڑھ کر کھڑی ہو جائیں اور راستہ کی طرف دیکھیں (جب کوئی نظر نہ آتا تو) واپس آ کر تیمارداری میں لگ جائیں اور پھر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھیں، وہ ایسے ہی کر رہی تھیں کہ اچانک انھوں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جسے ان کی سواریاں تیزی سے لئے چلی آرہی ہیں اور وہ اپنے کجاووں میں بیٹھے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے گدھ ہوں۔ ان کی بیوی نے کپڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ دیکھ کر ان کی طرف آئے یہاں تک کہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ ان کی بیوی نے کہا ایک مسلمان مر رہا ہے کیا آپ اس کے کفن کا انتظام کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ انھوں نے بتایا وہ ابوذرؓ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سب کہنے لگے ہمارے ماں باپ حضرت ابوذرؓ پر قربان ہوں اور کوڑے مار کر سواریاں تیز دوڑائیں اور حضرت ابوذرؓ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوذرؓ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اور پھر انہیں حضورؐ والی وہی حدیث سنائی پھر فرمایا میں نے حضورؐ سے یہ سنا ہے کہ جن دو مسلمانوں کے دو یا تین بچے مرجائیں اور وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیں تو دونوں کو جہنم کے دیکھنے سے بھی اللہ بچالیں گے تم لوگ سن رہے ہو اگر میرے پاس کفن کے لئے کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اسی میں کفن دیا جاتا ایسے ہی اگر میری بیوی کے پاس میرے کفن کے قابل کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اسی میں کفن دیا جاتا (ہمارے پاس تو کفن کا کپڑا ہے نہیں، اس لئے آپ لوگ کفن کا کپڑا دیں) لیکن میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے

کر کہتا ہوں کہ تم میں سے جو آدمی امیر یا چوہدری یا نمبردار یا قاصد رہا ہو وہ مجھے کفن نہ دے تو ان لوگوں میں سے ہر آدمی ان میں سے کسی نہ کسی منصب پر رہ چکا تھا صرف ایک انصاری جوان ایسا تھا جس نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا اس نے کہا میں آپ کو کفن دوں گا کیونکہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں میں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے یہ چادر اوزھ رکھی ہے اور میرے تھیلے میں دو کپڑے ہیں جنہیں میری ماں نے کات کر میرے لئے بنا تھا میں ان تین کپڑوں میں آپ کو کفن دوں گا۔ حضرت ابوذرؓ نے فرمایا ہاں تم مجھے ضرور کفن دینا، چنانچہ اس انصاری نے انہیں کفن دیا۔ راوی حضرت ابراہیمؓ کہتے ہیں کہ اس جماعت میں حضرت حجر بن ادبر اور (میرے والد) مالک بھی تھے اور یہ سب لوگ یمن کے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمانؓ نے حضرت ابوذرؓ کو ربذہ بستی کی طرف جلا وطن کر دیا اور تقدیر کی لکھی موت ان کو آنے لگی اور اس وقت ان کے پاس صرف ان کی بیوی اور ان کا ایک غلام تھا تو انہوں نے ان دونوں کو وصیت کی کہ (جب میرا انتقال ہو جائے تو) تم دونوں مجھے غسل دینا اور پھر مجھے کفن دینا پھر میرے جنازے کو راستے کے درمیان رکھ دینا۔ جو بھی پہلا قافلہ آپ لوگوں کے پاس سے گزرے انہیں بتا دینا کہ یہ حضورؐ کے صحابی حضرت ابوذرؓ ہیں۔ ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو، چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں نے غسل دے کر کفن پہنا کر ان کا جنازہ راستہ کے درمیان رکھ دیا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عراق کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پہنچے۔ یہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ ان کے اونٹ جنازے پر چڑھنے ہی لگے تھے کہ وہ لوگ راستہ میں جنازہ دیکھ کر گھبرا گئے، حضرت ابوذرؓ کے غلام نے کھڑے ہو کر کہا یہ نبی کریمؐ کے صحابی حضرت ابوذرؓ ہیں۔ ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ چیخ مار کر رونے لگے اور فرمانے لگے حضورؐ نے سچ فرمایا تھا کہ (اے ابوذر!) تو اکیلا چلے گا اکیلا مرے گا اور اکیلا اٹھایا جائے گا پھر وہ اور ان کے ساتھی سوار یوں سے اترے اور انہیں دفن کیا پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنے ساتھیوں کو حضرت ابوذرؓ کی روایت حدیث سنائی اور حضورؐ نے تبوک جاتے ہوئے حضرت ابوذرؓ کو جو کچھ کہا تھا وہ بھی بتایا۔

حضرت حمید بن منہبؓ کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت خریم بن اوسؓ نے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے حضورؐ کی طرف چلا اور جب آپؐ تبوک سے واپس آئے اس وقت میں آپؐ کی خدمت میں پہنچا اور میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے سنا کہ مجھے یہ سفید حیرہ (شہر) دکھایا گیا ہے اور یہ سماء بنت بقیلہ ازدیہ سفید خچر پر سوار کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے گویا

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۲۳۳) واخرجه ابو نعیم عن ام ذر لحوہ کما فی المنتخب (ج ۵

ص ۱۵۷) ۲۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ۲۳۳)

کہ مجھے نظر آرہی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ! اگر ہم حیرہ میں داخل ہوں اور جو منظر آپ نے شیماء کا بتایا ہے اس منظر میں ہمیں ملے تو کیا وہ مجھے مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں! وہ تمہاری (باندی) ہے پھر (حضور کے انتقال کے بعد) بہت سے لوگ مرتد ہو گئے لیکن ہمارے قبیلہ بنو طے میں کوئی مرتد نہ ہوا، چنانچہ ہم حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حیرہ کے ارادے سے چلے، جب ہم حیرہ میں داخل ہونے لگے تو ہمیں سب سے پہلے شیماء بنت بقیلہ اسی حال میں ملی جو حضور نے بتایا تھا، سفید خنجر پر سوار کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی۔ میں نے اس پر فوراً قبضہ کر لیا اور میں نے کہا مجھے حضور نے اس کا سارا حال بتایا تھا (اور آپ نے مجھے یہ دے دی تھی) حضرت خالد نے مجھ سے گواہ طلب کئے، چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری اور حضرت محمد بن بشیر انصاریؓ میرے گواہ بنے جس پر حضرت خالد نے مجھے شیماء دے دی، پھر اس شیماء کے پاس اس کا بھائی عبد اسح بن بقیلہ صلح کے ارادے سے آیا اور اس نے مجھ سے کہا شیماء کو میرے ہاتھ بیچ دو، میں نے کہا اللہ کی قسم! اس کی قیمت دس سو سے کم نہیں لوں گا، چنانچہ اس نے مجھے ہزار درہم دے دیئے اور میں نے شیماء اس کے سپرد کر دی، میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا اگر تم سو ہزار یعنی لاکھ لیتے تو وہ لاکھ بھی تمہیں دے دیتا (اس کے پاس تو پیسے بہت تھے) میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ دس سو سے بھی بڑا ہندسہ ہوتا ہے۔

حضرت جبیر بن حبیہ کہتے ہیں کہ عجمی کا فر سردار بندار فان نے یہ پیغام بھیجا کہ اے عرب کے لوگو! اپنے میں سے ایک آدمی میرے پاس بھیجو تا کہ ہم اس سے بات کریں، چنانچہ لوگوں نے اس کام کے لئے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتخاب کیا، حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ کانے تھے، چنانچہ وہ اس سردار کے پاس گئے، جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس سردار سے کیا بات ہوئی؟ انھوں نے بتلایا کہ میں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی پھر میں نے کہا (زمانہ جاہلیت میں) ہم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ دور گھر والے تھے (آبادی دور دور تھی) سب سے زیادہ بھوکے تھے، سب سے زیادہ بد حال تھے، تمام لوگوں میں ہر خیر سے سب سے زیادہ دور تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جس نے ہم سے دنیا میں اللہ کی مدد کا اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا اور جب سے وہ رسول ہمارے پاس آئے ہیں اس وقت سے ہم اپنے رب کی طرف سے مسلسل کامیابی اور مدد ہی دیکھ رہے ہیں، اور اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں اور اللہ کی قسم! ہمیں یہاں بادشاہت اور شاندار زندگی نظر آرہی

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۹۶) واخرجه الطبرانی عن حمید بطولہ کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۲۲۳) واخرج البخاری عن حمید مختصر او ابن مندہ بطولہ وقال لا يعرف الا بہذا الا سناد نردہ زکریا بن یحییٰ عن زفر کذا فی الاصابۃ (ج ۳ ص ۳۷۱)

ہے ہم اسے چھوڑ کر بد حالی کی طرف کبھی واپس نہیں جائیں گے بلکہ یا تو تم پر غالب آ کر جو کچھ تمہارے قبضے میں ہے وہ سب کچھ لے لیں گے یا پھر یہاں ہی شہید ہو جائیں گے۔

حضرت جبیر بن حبیہؓ نے حضرت نعمان بن مقرنؓ کے اہواز والوں کے پاس آدمی بھیجنے کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ بھی ہے اہواز والوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے پاس کوئی آدمی بھیجیں، چنانچہ حضرت نعمانؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان لوگوں کے ترجمان نے کہا تم لوگ کون ہو؟ حضرت مغیرہؓ نے کہا ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں۔ ہم سخت بد حالی میں تھے اور بہت طویل عرصے سے پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے ہم بھوک کی وجہ سے کھال اور گٹھلی چوسا کرتے تھے ان اور بالوں کے کپڑے پہنا کرتے تھے، درختوں اور پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارا یہی حال چل رہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کے رب نے ہمارے پاس ہم میں سے ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم پہچانتے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب تک تم لوگ ایک اللہ کی عبادت نہ کرو یا جزیہ ادا نہ کرو ہم تم سے جنگ کرتے رہیں اور ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کے سارے پیغام پہنچائے ان میں ایک پیغام یہ تھا کہ ہم میں سے جو آدمی قتل (شہید) ہو گا وہ جنت میں اور ایسی نعمتوں میں جائے گا کہ ان جیسی نعمتیں اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، اور ہم میں سے جو زندہ رہ جائے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہو گا، تم پر غلبہ پائے گا۔

حضرت طلحہؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابودرداء! آپ کا گھر جل گیا، انھوں نے فرمایا میرا گھر نہیں جل سکتا پھر دوسرے آدمی نے آ کر وہی بات کہی تو انھوں نے کہا، نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا، پھر تیسرے آدمی نے آ کر بھی وہی بات کہی تو اس کو بھی یہی کہا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا پھر چوتھے آدمی نے آ کر کہا آگ تو بھڑکی تھی اور آپ کے گھر تک بھی پہنچ گئی تھی لیکن وہاں جا کر بجھ گئی تھی، انھوں نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے (یعنی میرے گھر کو جلنے نہیں دیں گے) اس آدمی نے کہا اے ابودرداء! ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کی کوئی بات زیادہ عجیب ہے؟ پہلے آپ نے کہا میرا گھر نہیں جل سکتا، پھر بعد میں آپ نے کہا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے۔ انھوں نے فرمایا میں نے چند کلمات حضورؐ سے سنے ہیں جو آدمی صبح کو یہ کلمات کہہ لے گا شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی وہ کلمات یہ ہیں: اللھم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۹۸) ۲۔ عند البیہقی فی الاسماء والصفات

ورواه البخاری فی الصحیح كما قال البیہقی واخرجهما ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۹۹) عن بکر

بن عبد اللہ المزنی زہاد بن جبیر بن حبیہ نحوه ولعله سقط عن فی رواية عن جبیر بن حبیہ

ماشاء اللہ کان وما لم یشالم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شئی قذیر وان اللہ قدا حاظ بکل شئی علما اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابة انت اخذ بنا صیثها ان ربی علی صراط مستقیم۔ ترجمہ اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ پر میں نے توکل کیا، تو محترم عرش کا رب ہے۔ جو اللہ (تبارک و تعالیٰ) نے چاہا وہ ہوا اور جو چاہا وہ نہیں ہوا، برائیوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف بزرگ و برتر اللہ ہی سے ملتی ہے میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اے اللہ! میں اپنے نفس کے شر سے اور ہر اس جانور کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑنے والا ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔“

دعوت کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت عدی بن حاتمؓ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تیسری بات بھی ضرور ہو کر رہے گی، اس لئے کہ حضور فرما چکے ہیں، صحابہ کرامؓ کا جماعتوں کو دعوت کے لئے بھیجنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ہشام بن عاصؓ نے جبہ بن اسہم سے کہا اللہ کی قسم! یہ دربار جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو یہ بھی اور انشاء اللہ (تمہارے) بڑے بادشاہ (ہرقل) کا ملک (روم) بھی ہم تم سے ضرور لے لیں گے کیونکہ ہمیں اس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمدؐ نے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا اللہ کے راستہ میں لشکر بھیجنے کا اہتمام کرنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت علیؓ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ چاہے آپ خود جائیں چاہے کسی اور کو ان کے پاس بھیج دیں انشاء اللہ کامیابی آپ ہی کو ہوگی۔ آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اللہ تمہیں خیر کی بشارت دے یہ تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا (کہ کامیابی تو ہمیں ہی ملے گی اور ہماری مدد ضرور ہوگی) حضرت علیؓ نے کہا میں نے حضورؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین اپنے دشمنوں پر غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ یہ دین مضبوطی سے کھڑا ہو جائے اور دین والوں کو غلبہ مل جائے گا۔ حضرت ابو بکرؓ نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ! یہ حدیث کتنی عمدہ ہے۔ تم نے یہ حدیث سنا کر مجھے خوش کرو یا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، اور تائیدات غیبیہ کے باب میں حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول آئے گا کہ جب حضرت ابن عمرؓ نے شیر کا کان پکڑ کر مروڑا اور اس کو راستہ سے ہٹایا تو اس کو کہا حضورؐ نے تمہارے بارے میں غلط نہیں کہا ہے، میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز ابن آدم پر مسلط کر دیتے ہیں اور اگر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے علاوہ کسی اور کو مسلط نہیں ہونے دیتے۔

## اعمال کا بدلہ ملنے کا یقین

حضرت ابو اساءؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضورؐ کے ساتھ دو پہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (سورت زلزال آیت ۷-۸) ترجمہ ”سو جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا“ یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم جو بھی برا کام کریں گے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضورؐ نے فرمایا آپ لوگ جو ناگواریاں (دنیا میں) دیکھتے ہو یہ برے عملوں کا بدلہ ہے اور اچھے اعمال کا بدلہ بعد میں آخرت میں دیا جائے گا۔

حضرت ابو ادریس خولانیؓ کہتے ہیں کہ پھر حضورؐ نے فرمایا اے ابو بکر! (دنیا میں) جو ناگواریاں دیکھتے ہو وہ برے کاموں کی وجہ سے پیش آتی ہیں اور نیک کاموں کا بدلہ جمع کیا جا رہا ہے جو تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا اور اس بات کی تصدیق اللہ کی کتاب کی اس آیت سے ہوتی ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ وَبِعْقَابِهَا (سورۃ شوریٰ آیت ۳۰) ترجمہ اور تم کو (اے گناہ گارو) جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے (پہنچتی ہے) اور بہت سے تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ میں حضورؐ کے پاس تھا تو یہ آیت نازل ہوئی مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِئْهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (سورت نساء آیت ۱۲۳) ترجمہ ”جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا اور اس شخص کو خدا کے سوانہ کوئی یار ملے گا نہ مددگار ملے گا“۔ حضورؐ نے فرمایا اے ابو بکر! مجھ پر جو آیت نازل ہوئی کیا وہ تمہیں میں نہ پڑھا دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! ضرور پڑھا دیں، چنانچہ حضورؐ نے مجھے وہ آیت پڑھا دی یہ آیت سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے انگریزی لے لی۔ حضورؐ نے فرمایا اے ابو بکر! تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے برے کام نہ کئے ہوں؟ اور ہم جو بھی برا کام کریں گے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضورؐ نے فرمایا اے ابو بکر! تمہیں اور مومنوں کو برے کاموں کا بدلہ تو دنیا ہی میں مل جائے گا اور تم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرو گے (یعنی مرتے وقت یہ حالت ہوگی) کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا اور دوسروں

۱۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ وابن راہویہ وعبد بن حمید والحاکم وغیرہم

۲۔ عند ابن مردویہ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۷۵) وقال اور وہ الحافظ ابن حجر فی اطرافہ فی



کے گناہوں کو جمع کیا جاتا رہے گا اور انہیں ان گناہوں کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔  
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مَنْ يَتَعَمَلُ  
سُوءًا يُجْزِيهِ والی آیت کے بعد حال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو بھی برا کام کیا  
ہے اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے کیا تم  
بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم کبھی تھکتے نہیں؟ کیا تمہیں کبھی کوئی غم پیش نہیں آتا؟ کیا تمہیں کبھی کوئی  
مشقت نہیں اٹھانی پڑتی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی مصیبت پیش نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا جی یہ سب  
کچھ پیش آتا ہے حضور نے فرمایا یہی گناہوں کا بدلہ ہے جو تمہیں دنیا میں مل رہا ہے۔

حضرت محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطابؓ سے کہا مجھے اللہ کی  
کتاب میں ایک ایسی آیت معلوم ہے جو کہ بہت سخت ہے یہ سن کر حضرت عمرؓ اس کی طرف بڑھے  
اور اسے کوڑا مارا (ظاہری الفاظ قرآن کے ادب کے خلاف تھے) اور فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم نے  
اس آیت کی گہری تحقیق کر لی ہے جس سے تمہیں اس (کے بہت سخت ہونے) کا پتہ چل گیا ہے؟  
وہ آدمی چلا گیا گلے دن حضرت عمرؓ نے اس آدمی سے کہا جس آیت کا تم نے کل ذکر کیا تھا وہ کون سی  
ہے؟ اس آدمی نے کہا وہ یہ ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ لَهَذَا هِمٌّ مِنْ سِوَاكَ كَمَا كُنْتَ  
كَرِهًا لَهَا مِنْ سِوَاكَ اَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ بِعَدْلِ اللّٰهِ غَفُورٌ رَّحِيْمًا (سورۃ نساء آیت ۱۱) ترجمہ  
”اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو  
بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا۔“

حضرت ثعلبہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس رضی اللہ عنہ نے  
نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے فلاں قبیلہ کا ایک اونٹ چوری  
کیا ہے مجھے (اس گناہ سے) پاک کر دیں۔ حضور نے اس قبیلہ والوں کے پاس آدمی بھیج کر پتہ  
کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارا ایک اونٹ گم ہے؟ چنانچہ حضور کے فرمانے پر حضرت عمرو بن  
سمرہ کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں جب حضرت عمرو کا ہاتھ کٹ کر نیچے گرا اس وقت میں

۱۔ اخروجه عبد بن حميد والترمذی وابن المنذر قال الترمذی غریب وفي اسنادہ مقال و موسى  
بن عبيدة يضعف في الحديث و مولی ابن سباع مجهول و قد روی هذا الحديث من غير هذا الوجه  
عن ابی بكر و ليس له اسناد صحيح ۲۔ عند احمد و ابن المنذر و ابی يعلى و ابن حبان  
و الحاكم و البيهقي و غيرهم كذافي كنز العمال (ج ۱ ص ۲۳۹)

۳۔ اخروجه ابن راهويه كذافي الكنز (ج ۱ ص ۲۳۹)

انہیں دیکھ رہا تھا انہوں نے (اپنے ہاتھ کو خطاب کرتے ہوئے) کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے تجھ سے پاک کر دیا ورنہ تو نے تو میرے جسم کو جہنم میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کے جسم میں ایک بیماری تھی ان کے چند ساتھی ان کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا آپ کے جسم میں جو ہم بیماری دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت رنج و صدمہ ہے حضرت عمرانؓ نے فرمایا تم جو بیماری دیکھ رہے ہو اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو کیونکہ جو بیماری تم دیکھ رہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے اور جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرمادیتے ہیں وہ تو ان سے کہیں زیادہ ہیں پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی **يَوْمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ** ۲

حضرت ابو ضمروہ بن حبیب بن ضمروہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ایک بیٹے کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ایک تکیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا بیٹا کنکھیوں سے اس تکیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب لوگوں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے پانچ یا چھ دینار ملے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر کف افسوس ملنے لگے اور بار بار **بارانا لله وانا اليه راجعون** پڑھتے رہے اور فرماتے رہے میرے خیال میں تو تمہاری کھال ان دیناروں کی سزا برداشت نہیں کر سکتی (کہ تم نے ان کو جمع کر کے رکھا اور انہیں خرچ نہ کیا) ۳ اور مسلمان کو گالی دینے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ ایک آدمی نے حاضر خدمت ہو کر حضورؐ سے اپنے غلاموں (کو سزا دینے) کے بارے میں پوچھا تو آپؐ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان غلاموں نے جو تجھ سے خیانت کی اور تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا اس کا حساب کیا جائے گا اور تم نے ان کو جو سزا دی اس کا بھی حساب کیا جائے گا اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر برابر ہو جائے گا نہ تمہیں انعام ملے گا نہ سزا اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم نکلی تو تمہیں ان پر فضیلت ہو جائے گی اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوگی تو اس زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ آدمی یہ سن کر ایک طرف ہو کر زور زور سے رونے لگا۔ حضورؐ نے اس کو فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے **وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ** آخر تک (سورۃ انبیاء آیت ۴۷) ترجمہ اور (وہاں) قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے (اور

۱۔ اخرجه ابن ماجه عن عبدالرحمن بن ثعلبة الانصاري عن ابيه كذا في التفسير لابن كثير (ج ۲ ص ۵۶) ۲۔ اخرجه ابن ابي حاتم كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۱۱۶)

۳۔ اخرجه احمد في الزهد و ابو نعيم في الحلية كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۳۵) وقال وله حكم

الرفع لانه اخبار عن حال البرزخ

سب کے اعمال کا وزن کریں گے) سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا اور اگر (کسی کا) عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو (وہاں) حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔“ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ! مجھے اپنے لئے اور ان غلاموں کے لئے اس سے بہتر صورت نظر نہیں آرہی ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں اس لئے میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ یہ سب غلام آزاد ہیں۔

## صحابہ کرامؓ کے ایمان کی پختگی

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تَبَدَّلُوْا اَمٰلِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاَوْ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (سورۃ بقرہ آیت ۲۸۴) ترجمہ ”اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں سب جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے پھر (بجز کفر و شرک کے) جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں“ تو اس سے صحابہ کرامؓ کو بہت گرانی اور پریشانی ہوئی اور آ کر حضور ﷺ کی خدمت میں دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں کچھ ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں ہیں جیسے نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ لیکن اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے (اور اس میں ہمیں ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا جو ہمارے بس میں نہیں ہیں) حضورؐ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس آیت کو سن کر سَمِعْنَا وَعَمِينَا (ہم نے اللہ کا حکم سن لیا لیکن ہم اسے مانیں گے نہیں) کہو جیسے کہ تم سے پہلے تورات اور انجیل والوں نے کہا تھا؟ نہیں بلکہ تم سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالْيَاكُفُورُ کہو یعنی ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اے ہمارے رب! ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیرے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے؛ چنانچہ صحابہؓ نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی اور جب ان کی زبانیں اس دعا سے مانوس ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمِنٌ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ اٰحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (سورۃ بقرہ آیت ۲۸۵) ترجمہ ”اعتقاد رکھتے ہیں رسول (ﷺ) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ“

کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ان سے سب نے یوں کہا کہ ہم نے (آپ کا ارشاد) سنا اور خوشی سے مانا۔ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں۔ اے ہمارے

پروردگار اور آپ ہی کی طرف (ہم سب کو) لوٹنا ہے۔“ جب صحابہؓ نے حضورؐ کے ارشاد کے مطابق اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت (کے حکم) کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا سے لے کر آخر تک (سورت بقرہ آیت ۲۸۶) ترجمہ ”اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت (اختیار) میں ہو اس کو ثواب بھی اس کا ملے گا جو ارادہ سے کر لے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔ اے ہمارے رب ہم پر دارو گیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں آخر آیت تک۔“

حضرت مجاہدؒ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے ابو عباس! میں حضرت ابن عمرؓ کے پاس تھا انہوں نے یہ آیت پڑھی اور پڑھ کر رونے لگے۔ حضرت ابن عباسؓ نے پوچھا کونسی آیت؟ میں نے کہا وَإِنْ تُبْذُرُوا مِثْقَالَ حَبِّ خِيَارٍ أَوْ تَخْفُوهُ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس سے حضور ﷺ کے صحابہ بڑے غمگین اور بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تو ہلاک ہو گئے پہلے تو ہم زبان سے جو بولتے تھے اور جو عمل کرتے تھے اسی پر ہمارا مواخذہ ہوتا تھا اور اب اس آیت میں یہ آگیا ہے کہ دل میں جو خیال آئے گا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا اور ہمارے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں (اب جو اچھایا برا خیال از خود ہمارے دل میں آئے گا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے) اس پر حضورؐ نے ان سے فرمایا تم تو یوں کہو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا چنانچہ صحابہ نے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہنا شروع کر دیا پھر اَمَّا الرَّسُولُ بِهِ أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمِنٌ سے لے کر لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ تک آیات نازل ہوئیں جن سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دل میں جو برے خیالات آتے ہیں ان کو معاف کر دیا گیا اور صرف اعمال پر مواخذہ رہ گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم تو یوں کہو سَمِعْنَا وَسَلَّمْنَا یعنی ہم نے سنا، مان لیا اور تسلیم کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔۳

حضرت عبداللہؒ فرماتے ہیں کہ جب وَلَمْ يَلْبِسُوا إِلَيْهَا نَهْمٌ بِظُلْمٍ نَازِلٌ هُوَ (سورت انعام آیت ۸۲) ترجمہ ”(جو لوگ ایمان رکھتے ہیں) اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے (ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں)“ تو یہ آیت حضور ﷺ کے

۱۔ اخرجه احمد ورواه مسلم مثله ۲۔ عند احمد ايضا ۳۔ عند احمد ايضا من طريق سعيد بن جبیر عن ابن عباس مختصرا و اخرجه مسلم نحوه و ابن جریر من طرق اخرى عن ابن عباس وهذه طرق صحيحة عن ابن عباس كما في التفسير لابن كثير (ج ۱ ص ۳۲۸)

صحابہؓ پر بہت گراں گزری اور وہ اس سے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے (حضور کی خدمت میں) عرض کیا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ (چھوٹے موٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں) حضورؐ نے فرمایا تم جو سمجھے ہو یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے (بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے) جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھاباً بنی لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (سورت لقمان آیت ۱۳) ترجمہ ”بیٹا! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے“ حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ جب اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم آیت نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا مجھے (اللہ کی طرف سے) کہا گیا کہ آپ بھی ان میں سے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت شیبہؓ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہؓ کے پاس بیٹھی تھیں ہم نے قریش کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور ان کے فضائل بیان کیئے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا واقعی قریش کی عورتوں کو بڑے فضائل حاصل ہیں لیکن اللہ کی قسم! اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے اور اس پر ایمان لانے میں انصار کی عورتوں سے آگے بڑھا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سورت نور کی یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (سورت نور آیت ۳۱) ترجمہ ”اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالنے رہا کریں۔“ تو انصار مردوں نے واپس گھر جا کر اپنی عورتوں کو وہ حکم سنایا جو اللہ نے اس آیت میں نازل فرمایا ہر آدمی اپنی بیوی، اپنی بیٹی اپنی بہن اور اپنی ہر رشتہ دار عورت کو یہ آیت پڑھ کر سناتا۔ ان میں سے ہر عورت سنتے ہی اللہ کی نازل کردہ آیت پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے فوراً کھڑی ہو کر منقش چادر لے کر اس میں لپٹ جاتی؛ چنانچہ حضورؐ کے پیچھے فجر کی نماز میں یہ سب چادروں میں ایسی لپٹی ہوئی آئیں کہ گویا ان کے سروں پر کھدے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ۳۔

حضرت مکحولؓ کہتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا آدمی جس کی دونوں بھنویں اس کی آنکھوں پر آپڑی تھیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک ایسا آدمی جس نے بہت بد عہدی اور بدکاری کی اور اپنی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیئے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دیں۔ تو کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله پڑھتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا جب تک تم ایسے (کلمہ شہادت پڑھتے) رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام بد عہدیاں اور بدکاریاں معاف

۱۔ اخرجه ابن ابی حاتم ورواه البخاری ۲۔ عند ابن مردويه كذا في التفسير لابن كثير (ج ۲ ص ۱۵۳) ۳۔ اخرجه ابن ابی حاتم ورواه ابو داؤد من غير وجه عن صفية بنت شيبة به كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۲۸۴)

کرتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے کہا یا رسول اللہ! میری تمام بد عہدیاں اور بد کاریاں معاف؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں تمہاری تمام بد عہدیاں اور بد کاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر (خوش خوش) واپس چلے گئے۔

حضرت ابو فروہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ذرا یہ بتائیں کہ ایک آدمی نے سارے گناہ کیے ہیں کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا، کیا اسکی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو میں نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا اب نیکیاں کرتے رہو اور برے کام چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ میں نے کہا میری تمام بد عہدیاں اور بد کاریاں بھی معاف ہو جائیں گی۔ حضورؐ نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابو فروہ چل پڑے اور حضورؐ کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اللہ اکبر کہتے رہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا پھر میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا، میں نے کہا نہیں (تم نے دو بڑے گناہ کیے ہیں اس لیے) نہ تو تمہاری آنکھ کبھی ٹھنڈی ہو اور نہ تجھے شرافت و کرامت کبھی حاصل ہو۔ اس پر وہ عورت افسوس کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میں نے حضورؐ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس عورت نے جو کچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضورؐ کو بتایا۔ حضورؐ نے فرمایا تم نے اسے برا جواب دیا۔ کیا تم یہ آیتیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سے لے کر الْإِنَّمَانِ تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ اللَّهُ يَهْدِيهِمْ سُبُلَ الْمَوْتِ (سورۃ الفرقان آیت ۶۸ تا ۷۰) ترجمہ ”اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کریگا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل (دخوار) ہو کر رہے گا مگر جو (شرک و معاصی سے) توبہ کر لے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گزشتہ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔“ پھر میں نے یہ آیتیں اس عورت کو پڑھ کر سنائیں۔ اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔ ابن جریر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ

۱۔ اخرجہ ابن ابی حاتم ۲۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی التفسیر لابن کثیر

(ج ۳ ص ۳۲۸) ۳۔ اخرجہ ابن ابی حاتم هذا حدیث غریب من هذا الوجه ولی رجالہ من

لا یعرف وقلد رواہ ابن جریر بسنہ بنحوہ

افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ کہہ رہی تھی ہائے افسوس! کیا یہ حسن جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس روایت میں آگے یہ ہے کہ حضور ﷺ کے پاس سے حضرت ابو ہریرہؓ واپس آئے اور انھوں نے مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ عورت کہیں نہ ملی۔ اگلی رات کو وہ خود حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس آئی تو حضور نے جو فرمایا تھا وہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اسے بتایا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لئے خلاصی کی صورت بنا دی اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اس سے توبہ کا راستہ بنا دیا اور اس عورت نے اپنی ایک باندی اور اس کی بیٹی آزاد کی اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کی۔

حضرت تمیم داریؓ کے غلام حضرت ابوالحسنؓ کہتے ہیں کہ جب وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَؓ والی آیت نازل ہوئی (سورت شعراء آیت ۲۲۳) ترجمہ ”اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں“ تو (مسلمان شعراء) حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالکؓ روتے ہوئے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم لوگ شعراء ہیں (لہذا یہ سخت وعید تو ہمارے لیے ہوئی) اس پر حضور نے یہ آگے والی آیت تلاوت فرمائی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ترجمہ ”مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں باتیں تم لوگوں میں موجود ہیں وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَبِيْرًا ترجمہ ”اور انھوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔“ حضور نے فرمایا یہ صفت بھی تم میں موجود ہے وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ترجمہ ”اور انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے (اس کا) بدلہ لیا۔“ حضور ﷺ نے فرمایا یہ صفت بھی تم میں ہے (لہذا یہ وعید تم مسلمان شعراء کے لیے نہیں ہے) ۲۔

حضرت عطاء بن سائبؓ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دن جو میں نے حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیؓ کو دیکھا اس کی صورت یہ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک گدھے پر ایک بڑے میاں ایک جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہیں۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں بن فلاں صحابی نے بتایا کہ انھوں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند

۱۔ کنزالی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۳۲۸) ۲۔ اخرجه ابن اسحق واخرجه ابن ابی حاتم وابن جریر من رواية ابن اسحاق واخرجه ابن ابی حاتم عن ابی الحسن مولی بنی نوفل بمعناه ولم يذكر كعبا كما في التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۳۵۴) واخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۳۸۸) عن ابی الحسن بسياق ابن ابی حاتم

کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رور ہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم سب ہی (اللہ سے ملنے یعنی) موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضورؐ کے فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ انسان کے مرنے کا وقت جب قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ** (سورت واقعا آیت ۸۸، ۸۹) ترجمہ ”پھر (جب قیامت واقع ہوگی تو) جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کیلئے تو راحت ہے اور (فراغت کی) غذا میں ہیں اور آرام کی جنت ہے“ تو جب اسے (فرشتوں کی طرف سے) ان نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ انسان اللہ سے ملنے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو اس سے زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان یہ ہے **وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةٌ جَاحِشٍ** (سورت واقعا آیت ۹۲-۹۳) ترجمہ ”اور جو شخص جھٹلانے والوں (اور) گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔“ تو جب اسے ان تکلیفوں کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو اس سے زیادہ ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کہ جب اذ ازلزت الارض زلزلا لھا نازل ہوئی (سورت زلزلا آیت ۱) ترجمہ ”جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی۔“ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ وہاں (حضورؐ کے پاس) بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سورت سن کر رونے لگے، حضورؐ نے ان سے فرمایا اگر تم لوگ غلطیاں اور گناہ نہیں کرو گے (اور پھر استغفار نہیں کرو گے) تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو غلطیاں اور گناہ کریں گے (اور استغفار کریں گے) پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا اے عمر! تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم چار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ چوڑی زمین (یعنی قبر) میں ہو گے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! منکر نکیر کون ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا یہ قبر میں امتحان لینے والے (دو فرشتے) ہیں جو قبر کو اپنے دانتوں سے کریدیں گے اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو روندتے ہوئے آئیں گے ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ ان دونوں کے پاس ایک اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ سارے منی والے لٹل کر اسے نہ اٹھا سکیں حضورؐ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ ہلا رہے تھے، آپ

۱۔ اخرجه احمد كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۳۰۱)

۲۔ اخرجه ابن جرير كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۵۳۰)



نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لیکن ان دونوں کے لئے اسے اٹھانا میری اس چھڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے اگر تم جواب نہ دے سکے یا تم لڑکھڑا گئے تو پھر وہ تمہیں وہ ہتھوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راکھ بن جاؤ گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا اس وقت میں اپنی اسی حالت پر ہوں گا؟ (یعنی اس وقت میرے ہوش و حواس ٹھیک ہیں گے) حضورؐ نے فرمایا ہاں، میں نے کہا پھر میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے! مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے تو تم جواب میں کہو گے میرا رب اللہ ہے تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور (حضرت) محمد (ﷺ) میرے نبی ہیں تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ اور اسلام میرا دین ہے تم دونوں کا دین کیا ہے؟ اس پر وہ دونوں کہیں گے دیکھو کیا، عجیب بات ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک مجلس ہے جس میں حضرت عثمان بن عفانؓ بھی ہیں، حضرت عمر نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کا ایمان کسی بڑے لشکر میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے گا۔ اس سے حضرت عمرؓ کی مراد حضرت عثمان بن عفانؓ تھے۔ ۳۔ اور صحابہ کرامؓ کی صفات کے بارے میں صحابہ کرامؓ کے اقوال کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ ہنسا کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا ہاں مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا اور مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عمارؓ کو مشرکین نے پکڑا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک انھوں نے ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی تو انھوں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انھوں نے کہا میں اپنے دل کو مطمئن پاتا ہوں۔ ۴۔ اور امیر کا کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ میں کہہ دوں گا اے اللہ! میں نے تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے

۱۔ اخرجہ ابن ابی داؤد فی البعث و ابوالشیخ فی السنة و الحاکم فی الکنی و البیہقی فی کتاب عذاب القبر و الاصبہانی فی الحجۃ و غیر ہم کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۱۲۱) و اخرجہ سعید بن منصور نحوہ.

۲۔ زادہ عبدالواحد المقدسی فی کتابہ التبصیر کما فی الریاض النضرۃ (ج ۲ ص ۳۳)

۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۸) ۴۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ و ابن سعد عن ابی عبیدہ و هكذا اخرجہ عند ابن جریر و البیہقی کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۵۸۷)

فرمایا میں اللہ کو اور حضرت عمرؓ کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور بیت المال کے سارے مال کو تقسیم کر دینے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین! ہو سکتا ہے کہ کبھی دشمن حملہ آور ہو جائے یا مسلمانوں پر اچانک کوئی مصیبت آپڑے تو ان ضرورتوں کے لئے اگر آپ اس مال میں سے کچھ بچا کر رکھ لیں تو اچھا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے اور اس کا جواب اللہ مجھے سکھار رہا ہے اور اس کے شر سے مجھے بچا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان تمام ضرورتوں کے لئے وہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے جو حضور ﷺ نے تیار کیا تھا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت (ہر مصیبت کا علاج اور ہر ضرورت کا انتظام اللہ و رسول کی ماننا ہے) دوسری روایت میں ہے کہ کل کو پیش آنے والی ضرورت کے لئے میں آج اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں (کی ضروریات) کے لئے اللہ کا تقویٰ تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يُتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (سورت طلاق آیت ۲-۳) ترجمہ ”اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مضر توں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا“ صحابہؓ کے مال خرچ کرنے کے شوق کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت علیؓ نے سائل کو صدقہ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہؓ نے کہا وہ چھ درہم تو آپ نے آٹے کے لئے رکھوائے تھے۔ حضرت علیؓ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے اور مال واپس کرنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہؓ نے کہا مجھے تمہارے زمین کے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آج ایک ایسی سورت نازل ہوئی جس نے ہمیں دنیا ہی بھلا دی ہے اور وہ سورت یہ ہے (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ) (سورت انبیا آیت ۱) ترجمہ ”ان (منکر) لوگوں سے ان کا (وقت) حساب نزدیک آپہنچا اور یہ (ابھی غفلت (ہی) میں (پڑے ہیں اور) اعراض کیئے ہوئے ہیں“ اور حضرت عائشہؓ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت اسید بن حضیرؓ بڑی فضیلت والے لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تین حالتوں میں جیسا ہوں اگر ہر وقت ویسا ہوں تو یقیناً جنت والوں میں سے ہو جاؤں اور مجھے اس میں کوئی شک نہ رہے۔ ایک وہ حالت جب کہ میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں دوسری وہ حالت جب کہ میں حضور ﷺ کا خطبہ سن رہا ہوں تیسری وہ حالت جب کہ میں کسی جنازے میں شریک ہوں اور جب بھی میں کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اپنے دل میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جنازہ کہاں جا رہا ہے؟!

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح مسجدوں میں نمازوں کے لئے جمع ہوتے تھے خود انہیں نمازوں کا کتنا شوق تھا اور دوسروں کو نماز کی کتنی ترغیب دیتے تھے اور نمازوں کے اوقات کے بدلنے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اصل کام ایک حکم خداوندی سے دوسرے حکم میں اور ایک عمل صالح سے دوسرے عمل میں لگنا ہے اور انہیں ان اعمال کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ ایمان اور ایمانی صفات کو پکا کریں علم اور علم والے اعمال کو پھیلائیں اور اللہ کے ذکر کو زندہ کریں اور دعا کو اور اس کی قبولیت کی شرائط کو قائم کریں چنانچہ وہ کس طرح سے ان اعمال کی وجہ سے اپنے دنیاوی مشاغل کو چھوڑ دیا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں ظاہری شکلوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اس ذات سے براہ راست فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تمام چیزوں اور شکلوں کو پیدا کرنے والی اور ان میں تصرف کرنے والی ہے۔

## نبی کریم ﷺ کا نماز کی ترغیب دینا

حضرت عثمانؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت حارثؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمانؓ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں موزن آیا تو حضرت عثمانؓ نے ایک برتن میں پانی منگوایا میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک مد (تقریباً ۱۳ اچھٹانک) پانی آتا ہوگا اس سے وضو کیا پھر فرمایا کہ جیسا میں نے اب وضو کیا ہے حضور ﷺ کو میں نے ایسا ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا پھر حضورؐ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے گا پھر کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کی ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے پھر وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو اس کے ظہر اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ پھر وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو مغرب اور عصر کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے پھر وہ عشاء کی نماز پڑھے گا تو عشاء اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے پھر وہ ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دے گا۔ پھر وہ اٹھ کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھے گا تو اس کے فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو دور کر دتی ہیں۔ مجلس کے ساتھیوں نے پوچھا، اے عثمانؓ! یہ تو حسنات ہوئیں تو باقیات صالحات کیا ہوں گی؟ حضرت عثمانؓ نے کہا باقیات صالحات یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حضرت ابو عثمانؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمانؓ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمانؓ! تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انھوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا آپؐ نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے پھر حضورؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمانؓ! پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپؐ نے یہ آیت پڑھی وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مَنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكُمْ ذِكْرِي لِلَّذِينَ آمَنُوا (سورت ہود آیت ۱۱۳) ترجمہ ”اور آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں پیشک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے

۱۔ اخرجه احمد باسناد حسن و ابو يعلى و البزار كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۲۰۳) وقال الهيثمي (ج ۱ ص ۲۹۷) رواه احمد و ابو يعلى و البزار و رجاله الصحيح غير الحارث بن عبدالله مولى عثمان ابن عفان و هو ثقة و في الصحيح بعضه انتهى

کاموں کو یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔“ ۲  
 حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد اور نبی کریم ﷺ کے  
 چند صحابہؓ کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور ﷺ کے زمانے میں دو بھائی تھے ان میں سے  
 ایک دوسرے سے افضل اور زیادہ نیک تھا تو جو افضل تھا اس کا تو انتقال ہو گیا اور دوسرا ایک عرصہ  
 تک زندہ رہا پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا پھر کسی نے حضورؐ کے سامنے یہ کہا کہ پہلا بھائی دوسرے  
 سے فضیلت اور نیکی میں زیادہ تھا حضورؐ نے فرمایا کیا دوسرا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا  
 رسول اللہ! پڑھتا تھا۔ حضورؐ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم اسے اس کی نمازوں نے کہاں تک پہنچا دیا؟  
 پھر حضورؐ نے اس موقع پر فرمایا کہ نماز کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا  
 پانی جاری، گہرا اور بیٹھا ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ غسل کرے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا اس  
 کی میل میں سے کچھ باقی رہے گا؟!

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ قضاعہ کی شاخ بنو بلی کے دو آدمی ایک ساتھ مسلمان  
 ہوئے۔ ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا ایک سال بعد  
 انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا ایک  
 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں پہلے داخل ہوتے) میں نے حضورؐ سے خود  
 عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا  
 ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں۔ ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان  
 کے زیادہ ہو گئے اور چھ ہزار اور اتنی اتنی رکعتیں نماز کی ایک سال میں ان کی بڑھ گئیں! ابن ماجہ اور  
 ابن حبان کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے درجوں میں اتنا فرق ہے جتنا زمین  
 و آسمان کے درمیان۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں حضور ﷺ کے ساتھ نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ  
 ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضورؐ سے عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے حضورؐ نے اس سے منہ پھیر  
 لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس آدمی نے کھڑے ہو کر دوبارہ وہی بات کہی۔ حضورؐ نے  
 فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھی اور کیا تم نے اس نماز کے لیے اچھی طرح وضو نہیں  
 کیا؟ اس نے کہا کیوں نہیں حضورؐ نے فرمایا یہ نماز تیرے اس گناہ کا کفارہ ہے۔ ۳

۲۔ اخرجه احمد والنسائی والطبرانی

قال المنذرى فى الترغيب (ج ۱ ص ۲۰۱) ورواه احمد مجمع بهم فى الصحيح الا على بن زيد. اه  
 ۱۔ اخرجه احمد قال الهيثمى (ج ۱ ص ۲۹۷) رواه احمد والطبرانى فى الاوسط الا انه قال لم  
 عمر الا اخر بعده اربعين ليلة ورجال احمد رجال الصحيح. اه واخرجه ايضا مالك والنسائى  
 وابن خزيمة فى صحيحه كما فى الترغيب (ج ۱ ص ۲۰۶) ۲۔ اخرجه احمد قال فى  
 الترغيب (ج ۱ ص ۲۰۸) رواه احمد باسناد حسن ورواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه  
 والبيهقى كلهم عن طلحة بنحوه اطول منه ۳۔ اخرجه الطبرانى عن الحارث قال الهيثمى  
 (ج ۱ ص ۳۰۱) رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط والحارث ضعيف. اه

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز۔ اس نے پوچھا پھر کیا؟ حضور نے فرمایا نماز۔ تین دفعہ حضور نے یہی جواب دیا۔ جب اس نے حضور سے بار بار یہی سوال کیا تو حضور نے فرمایا نماز کے بعد افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس آدمی نے کہا میرے والدین حیات ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر اور نبی بنا کر بھیجا ہے! میں جہاد ضرور کروں گا اور دونوں کو چھوڑ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اسے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو (کہ تمہارے والدین محتاج خدمت ہیں یا نہیں اور تمہارے علاوہ کوئی اور خدمت کرنے والا ہے یا نہیں)۔

حضرت عمرو بن مرہ جہنیؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس میں رات کو نفل نماز بھی پڑھوں تو میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا۔ حضور نے فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ وفات کے وقت حضور ﷺ بار بار یہی وصیت فرماتے رہے کہ نماز کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ یہ وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ غرغہ کی حالت شروع ہوگئی اور زبان سے یہ کلمات صاف ادا نہیں ہو رہے تھے ۳ امام احمد نے یہی حدیث حضرت انسؓ سے اس طرح نقل کی ہے کہ انتقال کے وقت حضور ﷺ بار بار یہی وصیت فرماتے رہے کہ نماز کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آپ یہ وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ سینے میں سانس اکھڑ گیا اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ پورے طور سے ادا نہیں ہو رہے تھے اور حضرت علیؓ کی روایت میں یوں ہے کہ حضور ﷺ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں ان کے پاس بڑی طشتری جیسی پھیلی ہوئی کوئی چیز لاؤں جس پر حضور وہ بات لکھوادیں جس کے بعد حضور کی امت گمراہ نہ ہو سکے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرے جانے کے بعد حضور کا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عرض کیا میں آپ کی بات زبانی سمجھ لوں گا اور یاد رکھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے خیال رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ابن سعد نے حضرت علی رضی

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱ ص ۳۰۱) یوفیہ ابن لہیعہ وهو ضعیف وقد حسن له الترمذی وبقیة

رجالہ رجال الصحیح ۱۵ و اخرجہ ایضا ابن حبان فی صحیحہ کما فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۱۱)

۲۔ اخرجہ البزار و ابن خزیمہ و ابن حبان فی صحیحہما واللفظ لابن حبان کذا فی

الترغیب (ج ۱ ص ۲۰۰) ۳۔ اخرجہ البیہقی وقد رواہ النسائی و ابن ماجہ

اللہ عنہ سے بھی اسی جیسی حدیث روایت کی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر حضور نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے خیال رکھنے کی مسلسل وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر گئی اور اس طرح روح پرواز کرنے تک آپ کلمہ شہادت اشہدان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله پڑھنے کی وصیت فرماتے رہے اور یہ بھی فرمایا جو بھی (شہادت کی) ان دونوں باتوں کی گواہی دے گا اسے آگ پر ضرور حرام کر دیا جائے گا۔

حضرت علیؓ کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے آخری بات یہ فرمائی، نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔

## حضور ﷺ کے صحابہ کرام کا نماز کی ترغیب دینا

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان زمین پر اللہ کی حفظ و امان میں آجاتا

ہے۔

حضرت ابوالفتحؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی اسلام نہیں۔

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنے گھر میں (نفل) نماز پڑھنا نور ہے اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اوپر لٹکا دیئے جاتے ہیں اور وہ جب بھی سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطا میں مٹا دیتے ہیں۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے سرگوشی کرتے ہیں اور جب تک بندہ دوسری طرف متوجہ نہ ہو اور دائیں بائیں نہ دیکھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نماز بہت بڑی نیکی ہے اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ نماز میں کون شریک ہو۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کسی اونچی زمین میں جا کر یا پتھروں سے بنی

۱۔ کذا فی البدایہ (ج ۵ ص ۲۳۸) واخرجه ایضا ابن سعد (ج ۱ ص ۲۴۳)۔

عن انس مثله ۲۔ عند احمد والبخاری فی الادب وابی داؤد وابن ماجہ

وابن جریر وصحیحہ وابی یعلیٰ والبیہقی کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۸۰)

۳۔ اخرجه الحکیم کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۸۰) ۴۔ اخرجه ابن سعد کذا فی الکنز (ج

۲ ص ۱۸۰) ۵۔ اخرجه عبدالرزاق کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۱۸۱)

۶۔ اخرجه عبدالرزاق کذا فی الکنز ۷۔ اخرجه عبدالرزاق کذا فی الکنز

ہوئی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے کہ اس مسلمان نے اللہ کی زمین پر اللہ کے لیے نماز پڑھی (اے بندے) جس دن تو اللہ سے ملاقات کرے گا اس دن میں تیرے حق میں گواہی دوں گی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی گردن میں پھوڑا نکل آیا۔ انہوں نے نماز پڑھی تو وہ پھوڑا نیچے اتر کر سینے پر آ گیا۔ حضرت آدم نے پھر نماز پڑھی وہ کوکھ میں آ گیا۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ ٹخنے میں آ گیا۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی تو انگوٹھے میں آ گیا۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ چلا گیا۔ ۲

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو بادشاہ کا دروازہ کھٹکتا ہے ہو اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکتا ہے اس کے لیے دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ ۳ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اپنی ضرورتیں فرض نمازوں پہ لٹھا رکھو یعنی فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو۔ ۴ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا اس وقت تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان جتنے گناہ کیئے ہوں گے وہ سارے گناہ اگلی نماز سے معاف ہو جائیں گے۔ ۵ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نمازیں بعد والے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ حضرت آدم کے پاؤں کے انگوٹھے میں ایک پھوڑا نکل آیا تھا پھر وہ پھوڑا چڑھ کر پاؤں کی جڑ یعنی ایڑی میں آ گیا پھر چڑھ کر گھٹنوں میں آ گیا پھر کوکھ میں آ گیا پھر چڑھ کر گردن کی جڑ میں آ گیا پھر حضرت آدم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا کندھوں سے نیچے آ گیا۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی تو وہ اتر کر ان کی کوکھ میں آ گیا پھر نماز پڑھی تو اتر کر گھٹنوں میں آ گیا پھر نماز پڑھی تو اتر کر قدموں میں آ گیا پھر نماز پڑھی تو وہ پھوڑا ختم ہو گیا۔ ۶

حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس کے سر پر رکھ دی جاتی ہیں اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے جدا ہو چکی ہوتی ہیں جیسے کھجور کی ٹہنیاں دائیں بائیں گر کر درخت سے جدا ہو جاتی ہیں۔ ۷ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ درخت کے پتوں کی طرح گرنے لگ جاتے ہیں۔ ۸ حضرت طارق بن شہاب نے حضرت سلمان کی عبادت میں محنت کو دیکھنے کے لئے ان کے پاس ایک رات گزاری تو انہوں نے یہ دیکھا کہ (حضرت سلمان رات بھر سوتے

۱۔ اخرجہ ابن عساکر ۲۔ عند عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۱۸۱)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۰) ۴۔ عند عبدالرزاق

۵۔ عند عبدالرزاق ایضا ۶۔ عند ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۱۸۱)

۷۔ اخرجہ عبدالرزاق ۸۔ عند ابن زنجویہ



رہے اور) رات کے آخری حصے میں انہوں نے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھی، حضرت سلمانؓ کی کثرت عبادت کا جیسا خیال حضرت طارق کا تھا ویسا انہوں نے نہ دیکھا تو انہوں نے حضرت سلمانؓ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا پانچ نمازوں کی پابندی کرو کیونکہ جب تک آدمی قتل کر دینے والے گناہ یعنی کبیرہ گناہ نہیں کرتا اس وقت تک یہ نمازیں تمام گناہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو لوگ تین جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جس کے لئے یہ رات رحمت ہے وبال نہیں ہے دوسری جماعت وہ ہے جس کے لئے یہ رات وبال ہے رحمت نہیں ہے تیسری جماعت وہ ہے جس کے لئے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال جس آدمی نے رات کے اندھیرے اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھا اور کھڑے ہو کر ساری رات نماز پڑھتا رہا اس کے لئے تو یہ رات رحمت ہے وبال نہیں ہے اور جس آدمی نے لوگوں کی غفلت اور رات کے اندھیرے کو غنیمت سمجھا اور بے سوچے سمجھے گناہوں میں مشغول رہا اس کے لئے یہ رات وبال ہے رحمت نہیں ہے اور جو آدمی عشاء پڑھ کر سو گیا اس کے لئے یہ رات نہ رحمت ہے اور نہ وبال عبادت میں ایسی رفتار سے بچو جو تمہیں تھکا دے اور پھر تم اسے نباہ نہ سکو۔ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اور نیک عمل پابندی سے کرو۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ہم (گناہوں کی بدولت) اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں پھر جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہے پھر ہم اپنی جانوں پر آگ جلا لیتے ہیں پھر ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ نماز پہلے کے تمام گناہوں کے لئے کفارہ بن جاتی ہے۔

## نبی کریم ﷺ کا نماز کا شوق اور نماز کا بہت زیادہ اہتمام

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا خوشبو اور عورتیں میرے لئے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا نماز آپ کے لئے محبوب بنا دی گئی ہے۔ لہذا آپ اس میں جتنا چاہیں اپنا حصہ لے لیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک دن تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ

۱۔ عند ابن زنجوبہ ایضا کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۱۸۱) و اخرجہ الطبرانی فی الکبیر عن طارق بن شہاب نحوه و رجالہ موثقون کما قال الہیثمی (ج ۱ ص ۳۰۰)

۲۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۴ ص ۱۸۲) ۳۔ اخرجہ احمد والسنانی

۴۔ عند احمد کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۵۸) و اخرجہ الطبرانی ایضا فی الکبیر عن ابن عباس نحوه قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۷۰) و فیہ علی بن یزید و فیہ کلام و بقیة رجالہ رجال الصحیح النہی

کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی عمل کا زیادہ شوق عطا فرمایا تھا، مجھے رات کو نماز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس لئے میں جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو کوئی میرے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لئے آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنایا تھا اور میری آمدنی کا ذریعہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ ہے۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر یہ پانچواں حصہ میرے بعد کے خلفاء کے لئے ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے کھڑے ہو کر اللہ کی اتنی عبادت کی کہ آپؐ کے دونوں قدم سوج گئے۔ اس پر آپؐ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیئے؟ آپؐ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نماز پڑھا کرتے یہاں تک کہ آپؐ کے دونوں قدم سوج جاتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ رات کو اتنی نماز پڑھا کرتے کہ آپؐ کے دونوں قدم سوج جاتے پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپؐ کے دونوں قدم پھٹ جاتے پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ رات کو عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہتے کہ آپؐ کے قدم ورم کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ میں نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپؐ کی مغفرت ہو چکی ہے تو پھر آپؐ یہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ عبادت میں اتنا زیادہ کھڑے رہا کرتے کہ آپؐ کے دونوں قدم پھٹ جاتے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کی کہ آپؐ پرانی مشک کی طرح ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیئے؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں کر دیئے ہیں لیکن کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

- ۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۷۱) وفيه اسحاق بن عبد الله بن كيسان عن ابيه و اسحاق لينة ابو حاتم (وابوه وثقه ابن حبان وضعفه ابو حاتم وغيره. انتهى
- ۲۔ اخرجہ ابو داؤد کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۶) و اخرجہ ابو یعلیٰ و البزار و الطبرانی فی الاوسط و رجالہ رجال الصحیح کما قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۷۰)
- ۳۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۷۱) رواه البزار باسناد و رجال احدها الصحیح. اه و هكذا اخرجہ الطبرانی فی الکبیر عن ابی حنیفہ
- ۴۔ عند الطبرانی ایضا فی الصغیر والا
- وسط
- ۵۔ عند الطبرانی ایضا فی الاوسط کما فی الجمع (ج ۲ ص ۲۷۱)
- ۶۔ عند الشیخین و عن المغیرة نحوه کما فی الرياض (ص ۲۲۹) ۷۔ عند ابن النجار
- ۸۔ عند ابن النجار ایضا کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۶)

حضرت حمیدؓ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالکؓ سے حضورؐ کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ ہم حضورؐ کو رات کے جس حصہ میں بھی نماز پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے تھے اور رات کے جس حصہ میں بھی سوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے یعنی کبھی آپؐ رات کے شروع میں نماز پڑھتے کبھی درمیان میں اور کبھی آخری حصے میں اور آپؐ کسی مہینہ میں اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے کہ ہم کہتے کہ اس مہینہ میں آپؐ ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور کسی مہینہ میں آپؐ بالکل نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپؐ ایک دن بھی روزہ نہ رکھیں گے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضورؐ کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی لیکن آپؐ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں نے برے کام کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے پوچھا آپؐ نے کس کام کا ارادہ کر لیا تھا؟ انھوں نے فرمایا میں نے حضورؐ کو چھوڑ کر بیٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضورؐ ساری رات نماز میں کھڑے رہے اور فجر تک یہی آیت پڑھتے رہے اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تُغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورت مائدہ آیت ۱۱۸) ترجمہ ”اگر آپؐ ان کو سزا دیں تو یہ آپؐ کے بندے ہیں اور اگر آپؐ ان کو معاف فرمادیں تو آپؐ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔“

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ کو کچھ تکلیف ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! تکلیف کا اثر آپؐ پر بالکل واضح ہے۔ حضورؐ نے فرمایا تم جو مجھ پر تکلیف کا اثر دیکھ رہے ہو میں نے اس کے باوجود آج رات سات لمبی سورتیں پڑھی ہیں۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریمؐ کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی۔ حضورؐ نے سورت بقرہ شروع فرمائی میں نے کہا سو آیتوں پر رکوع کر دیں گے لیکن آپؐ پڑھتے رہے پھر میں نے کہا آپؐ اس سورت کو دو رکعتوں میں پڑھیں گے لیکن آپؐ پڑھتے رہے پھر میں نے کہا آپؐ اسے ختم کر کے رکوع کر دیں گے لیکن آپؐ نے سورت نساء شروع کر دی اسے ختم کر کے سورت آل عمران شروع کر دی اور اسے بھی پورا پڑھ لیا۔ آپؐ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے آپؐ جب کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپؐ سبحان اللہ کہنے لگتے اور جب ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں (اللہ سے) مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپؐ اللہ سے مانگتے اور جب ایسی آیت کے پاس سے گزرتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپؐ پناہ

۱۔ اخرجہ الشیخان ۲۔ اخرجہ الشیخان ایضا کذا فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۷۵)

۳۔ اخرجہ احمد کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۵۸)

۴۔ اخرجہ ابو یعلیٰ ورجالہ ثقات کما قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۷۴)

مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کہنے لگے اور آپ کا رکوع قیام جیسا لمبا تھا پھر سمع اللہ لمن حمدہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور تقریباً رکوع جتنی دیر کھڑے رہے پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے اور آپ کا سجدہ بھی قیام جیسا لمبا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ آپ کو معلوم نہیں تھا (کہ میں بھی آپ کی نماز میں شامل ہو گیا ہوں) آپ نے سورت بقرہ شروع فرما رکھی تھی میرا خیال تھا کہ یہ سورت ختم کر کے آپ رکوع کر لیں گے لیکن آپ پڑھتے ہی رہے حضرت سنان راوی کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت حذیفہ نے یہی فرمایا کہ حضورؐ نے چار رکعت نماز پڑھی حضورؐ کا رکوع قیام کی طرح لمبا ہوتا تھا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے (نماز کے بعد) حضورؐ کو بتایا کہ میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ حضورؐ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا اب تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم میرے پیچھے ہو تو میں نماز مختصر کر دیتا۔<sup>۱</sup>

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایک رات میں سارا قرآن ایک مرتبہ یاد و مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان لوگوں کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے میں حضورؐ کے ساتھ ساری رات کھڑی رہتی تھی۔ آپ سورت بقرہ سورت آل عمران اور سورت نساء پڑھا کرتے تھے۔ خوف والی آیت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور اللہ کی پناہ چاہتے اور بشارت والی آیت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور اس کا شوق ظاہر کرتے۔<sup>۲</sup>

حضرت اسود کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عائشہ کے پاس تھے ہم نے نماز کی اہمیت عظمت اور پابندی کا تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضورؐ کا مرض الوفاات شروع ہوا نماز کا وقت آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو حضورؐ نے فرمایا ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضورؐ کی ایک بیوی نے عرض کیا حضرت ابوبکر تو بہت رقیق القلب ہیں جلد رو پڑتے ہیں۔ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضورؐ نے وہی بات دوبارہ فرمائی۔ اس نے اپنی بات دوبارہ عرض کی حضورؐ نے تیسری مرتبہ فرمایا تم تو حضرت

۱۔ اخرجہ مسلم انفراداً باخراجه مسلم وسورة النساء في هذا الحديث مقدمة على آل عمران وكذلك هي في مصحف ابن مسعود كذا في صفة الصفوة (ج ۱ ص ۷۵)

۲۔ عند الطبرانی قال الهيثمي (ج ۲ ص ۲۷۵) وفيه سنان بن هارون البرجمي قال ابن معين سنان بن هارون اخو سيف و سنان احسنهما حالا وقال مرة سنان اوتق من سيف وضعفه غير ابن معين . انتهى ۳۔ اخرجہ احمد قال الهيثمي (ج ۲ ص ۲۷۲) رواه احمد وجاء عنده

في رواية بقرا احدهما القرآن مرتين اولثلاثا وابويعلى وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . انتهى

یوسف علیہ السلام کی ساتھن (زلیخا) کی طرح ہو (اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ اوپر سے کہہ رہی ہو کہ ابوبکر بہت روتے ہیں اور اندر دل میں یہ ہے کہ حضورؐ کی جگہ کھڑے ہونے سے لوگ بدفالی لیں گے جیسے کہ زلیخا نے اوپر سے تو عورتوں کا اکرام کیا اور اندر سے مقصود انہیں حضرت یوسفؑ کو دکھانا تھا) ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نماز پڑھانے چلا گئے پھر حضورؐ نے اپنی بیماری میں کچھ کمی محسوس کی تو کمزوری کی وجہ سے آپؐ دو آدمیوں کے سہارے مسجد گئے گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپؐ کے دونوں قدم زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں (حضورؐ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر) حضرت ابوبکرؓ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، حضورؐ نے انہیں اشارہ سے فرمایا، وہیں اپنی جگہ رہو پھر حضورؐ جا کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے حضورؐ سے بار بار کہا (کہ ابوبکر نماز نہیں پڑھا سکتے) اور میں نے بار بار اس وجہ سے کہا کہ مجھے ڈرتھا کہ حضورؐ کی جگہ کھڑے ہونے سے لوگ ابوبکرؓ سے بدفالی لیں گے کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جو بھی حضورؐ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے ضرور بدفالی لیں گے اس لئے میں نے چاہا کہ حضورؐ حضرت ابوبکرؓ کے علاوہ کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ ۲۔ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت ابوبکرؓ بہت رقیق القلب آدمی ہیں جب قرآن پڑھیں گے تو آنسو نہیں روک سکیں گے اس لئے اگر آپؐ ان کے بجائے کسی اور کو فرمادیں تو اچھا ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم! میں نے یہ بات صرف اس وجہ سے کہی تھی کہ میں اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی کہ حضورؐ کی جگہ سب سے پہلے کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکرؓ سے لوگ بدفالی لیں، اس لئے میں نے یہ بات دو یا تین مرتبہ حضورؐ کی خدمت میں عرض کی لیکن حضورؐ نے آخر میں یہی فرمایا کہ ابوبکرؓ لوگوں کو نماز پڑھائیں تم تو حضرت یوسفؑ کی ساتھن (زلیخا) کی طرح ہو۔ ۳۔

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپؓ ہمیں حضورؐ کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتاتیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں۔ ضرور۔ جب حضورؐ کی بیماری بڑھ گئی تو آپؐ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ! وہ آپؐ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا میرے لئے لگن میں پانی ڈالو۔ ہم نے پانی ڈالا حضورؐ نے غسل کیا پھر آپؐ کھڑے ہونے لگے تو بیہوش ہو گئے پھر جب افاقہ ہوا تو آپؐ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ! وہ آپؐ کا

۲۔ عند البخاری ابضا من وجہ آخر.

۱۔ اخرجہ البخاری

۳۔ کذا فی البدایة (ج ۵ ص ۲۳۲)



انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا حضور نے غسل کیا پھر آپ کھڑے ہونے لگے تو بیہوش ہو گئے پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا حضور نے غسل کیا پھر آپ کھڑے ہونے لگے تو بیہوش ہو گئے پھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور واقعی لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے عشا کی نماز کے لیے حضور کا انتظار کر رہے تھے اس کے بعد حضور نے حضرت ابو بکرؓ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکرؓ بہت نرم دل آدمی تھے، اس لیے انھوں نے کہا اے عمرؓ! آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا نہیں اس کے آپ زیادہ حقدار ہیں چنانچہ ان دنوں حضرت ابو بکرؓ نے نماز پڑھائی اس کے بعد حضور کے باہر آنے کا ذکر کیا جیسے پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت انسؓ سے بخاری میں منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ کے مرض الوقات کے زمانے میں حضرت ابو بکرؓ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے جب پیر کا دن ہوا اور صحابہ صغیر بن کر نماز میں کھڑے تھے حضورؐ سحر کا پردہ ہٹا کر ہمیں دیکھنے لگے۔ آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ قرآن کے صفحے کی طرح چمک رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے (کہ امت اجتماعی کام میں مشغول ہے جس میں انھوں نے لگایا تھا) حضورؐ کو دیکھ کر ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ بس ہم لوگ نماز توڑنے ہی لگے تھے حضرت ابو بکرؓ صوف میں کھڑے ہونے کے لیے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے پھر حضورؐ نے ہمیں اشارہ سے فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو اور پردہ ڈال کر واپس اندر تشریف لے گئے اور اسی دن حضورؐ کا وصال ہو گیا۔ دوسری سند سے بخاری میں حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ حضور ﷺ تین دن باہر تشریف نہیں لائے (پیر کا دن) نماز کی اقامت ہو رہی تھی حضرت ابو بکرؓ آگے بڑھنے لگے کہ اتنے میں حضورؐ نے فرمایا پردہ اٹھاؤ۔ ساتھ والوں نے پردہ اٹھایا۔ جب حضورؐ کا چہرہ انور نظر آیا تو ایسا عجیب منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کو اشارہ سے آگے بڑھنے کو فرمایا اور پردہ ڈال دیا پھر اس کے بعد حضورؐ کی (عام) زیارت نہ ہو سکی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔

اخرجه احمد كذا في البداية (ج ۵ ص ۲۳۲) واخرجه ايضا

البيهقي (ج ۸ ص ۱۵۱) وابن ابى شيبة كما في الكنز (ج ۳ ص ۵۹) وابن سعد (ج ۲ ص ۲۱۸) نحوه

۲۔ ورواه مسلم كذا في البداية (ج ۵ ص ۲۳۵) واخرج ايضا ابو يعلى وابن عساكر وابن خزيمة

واحمد عن انس بمعناه بالفاظ مختلفة كما في الكنز (ج ۳ ص ۵۷) والجمع (ج ۵ ص ۱۸۱)

والبيهقي (ج ۹ ص ۱۵۲) وابن سعد (ج ۲ ص ۲۱۶) ايضا بمعناه

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا نماز

### کا شوق اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا

حضرت مسور بن مخزومؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس گیا (وہ بیہوش تھے اور) ان کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھیں میں نے کہا آپ لوگ انہیں نماز کا نام لے کر پکاریں (نماز کا سنتے ہی ہوش میں آجائیں گے) کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ گھبرائیں گے، چنانچہ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین! نماز (کا وقت ہو گیا ہے) اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر حضرت عمرؓ نے نماز پڑھی اور ان کے زخم میں سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت مسورؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کو نیزہ مارا گیا تو ان پر غشی طاری ہونے لگی کسی نے کہا اگر یہ زندہ ہیں تو پھر یہ نماز کے نام سے جتنی جلدی گھبرا کر انھیں گے اتنی جلدی اور کسی چیز کے نام سے نہیں انھیں گے کسی نے کہا امیر المؤمنین نماز ہو چکی ہے اس پر حضرت عمرؓ فوراً ہوش میں آگئے اور فرمایا نماز۔ اللہ کی قسم! جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آگے کچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت محمد بن مسکینؓ کہتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثمانؓ کو گھیر لیا تو ان کی بیوی نے ان سے کہا تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کو چاہے تم قتل کر دو چاہے انہیں چھوڑ دو۔ یہ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں جب باغیوں نے حضرت عثمان بن عفانؓ کو شہید کر دیا تو ان کی بیوی نے کہا تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ یہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیتے تھے۔

حضرت عثمان بن عبد الرحمنؓ تمیمیؓ کہتے ہیں میرے والد نے کہا میں زور لگا کر مقام ابراہیم پر ہی آج رات عبادت کروں گا وہ کہتے ہیں کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تو مقام ابراہیم پر آ کر اکیلا کھڑا ہو گیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا ہاتھ

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۲۹۵) رجالہ رجال الصحیح ۱۰  
 ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۵۰) ۳۔ اخرجہ الطبرانی واسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۹۳) واخرجہ ابو نعیم فی الحیلة (ج ۱ ص ۵۷) عن محمد بن سیرین مثله الا ان فی روایة حین اظافوا بہ یریدون قتله ۴۔ عند ابی نعیم ایضا قال ابو نعیم کذا قال انس بن مالک ورواہ الناس فقالوا انس بن سیرین انتہی

میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان تھے پھر انہوں نے ام القرآن یعنی سورت فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا اور قرآن ختم کیا اور پھر رکوع اور سجدہ کیا پھر (نماز پوری کر کے) اپنے جوتے اٹھائے (اور چلے گئے) اب مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ حضرت عثمان بن عبدالرحمنؓ بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے مقام ابراہیم کے پاس حضرت عثمانؓ کو دیکھا کہ وہ آگے بڑھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن ختم کر کے اپنی نماز پوری کی۔ حضرت عطاء بن ابی رباحؓ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز پڑھائی پھر وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہوئے اور وتر کی ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا۔ حضرت محمد بن سیرینؒ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ۳۔

حضرت مسیب بن رافعؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباسؓ کی نگاہ جاتی رہی تو ایک آدمی نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ میرے کہنے پر سات دن اس طرح صبر سے گزاریں کہ ان میں آپ چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں تو میں آپ کا علاج کروں گا انشاء اللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے حضرت عائشہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے بہت صحابہ کرامؓ سے آدمی بھیج کر اس بارے میں پوچھا۔ ہر ایک نے یہی جواب میں کہا کہ اگر آپ کا ان سات دنوں میں انتقال ہو گیا تو پھر آپ نماز کا کیا کریں گے؟ اس پر انہوں نے اپنی آنکھوں کو ایسے ہی رہنے دیا اور ان کا علاج نہ کروایا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب میری بینائی چلی گئی تو کسی نے مجھ سے کہا ہم آپ (کی آنکھ) کا علاج کر دیتے ہیں لیکن آپ چند دن نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نہیں کیونکہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ ۵۔

حضرت علی بن ابی حمزہ اور اوزاعی رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں کہ حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم روزانہ ہزار رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ۱۰۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ روزے نہیں رکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب میں روزہ رکھتا ہوں تو کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں کمی آ جاتی ہے اور مجھے روزہ سے زیادہ

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۶) ۲۔ عند ابن مبارک فی الزهد وابن سعد وابن ابی شیبہ وابن منیع والطحاوی، الدار قطنی والبیہقی کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۹) قال سندہ حسن ۳۔ ابن سعد (ج ۳ ص ۷۵) کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۹) ۴۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۳۶) ۵۔ عنہ البزار والطبرانی قال الہیثمی (ج ۱ ص ۲۹۵) رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر ولہ سہل بن محمود ذکرہ ابن ابی حاتم وقال روی عنہ احمد بن ابراہیم الدورنی وسعد ان بن یزید قلت وروی عنہ محمد بن عبد اللہ المخرمی ولم یتکلم فیہ وبقیۃ رجالہ رجال الصیحیح . النہی ۶۔ عند الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۵۸) بواسنادہ منقطع . ۱۱۔



نماز سے محبت ہے وہ اگر روزہ رکھتے تو مہینے میں میں صرف تین دن رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بہت کم (نفلی) روزے رکھتے تھے۔ اس بارے میں کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب میں وہی بات کہی جو پچھلی حدیث میں گزری ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے کم روزہ رکھنے والا کوئی فقیہ نہیں دیکھا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ انہوں نے فرمایا مجھے نماز روزے سے زیادہ پسند ہے۔ روزے رکھتا ہوں تو کمزور ہو جاتا ہوں اور پھر نماز کی ہمت نہیں رہتی۔ ۳

حضرت عائشہؓ عمر ماتی ہیں کہ ایک رات عشاء کے بعد حضور ﷺ کے پاس آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں آپ کے پاس گئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم کہاں تھیں؟ میں نے کہا آپ کے ایک صحابی مسجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، میں اسے سن رہی تھی۔ میں نے اس جیسی آواز اور اس جیسی قراءت آپ کے کسی صحابی کی نہیں سنی۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے۔ آپ کے ساتھ میں بھی اٹھی اور جا کر آپ نے کچھ دیر قراءت سنی پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ حضرت ابوحنیفہؒ کے غلام سالم ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسے آدمی بنائے۔ ۴

حضرت مسروقؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے ساتھ تھے ہمیں ایک رات کھیتی والے باغ میں آگنی، چنانچہ ہم نے اس باغ میں قیام کیا۔ حضرت ابو موسیٰؓ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے حضرت مسروقؓ کہتے ہیں کہ ان کی آواز بہت دلکش اور قرات بہت عمدہ تھی اور جیسی آیت پر گزرتے اسی طرح کی دعا وغیرہ کرتے پھر یہ دعا پڑھی اے اللہ! تو تمام عیوب سے پاک ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ملتی ہے اور تو ہی امن دینے والا ہے اور ایماندار کو تو پسند کرتا ہے اور تو ہی نگہبانی کرنے والا ہے اور تو نگہبانی کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور تو ہی سچا ہے اور تو سچے کو پسند کرتا ہے۔ ۵

حضرت ابو عثمان نہدیؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کا سات رات مہمان بنا تو وہ اور ان کا خادم اور ان کی بیوی تینوں باری باری رات کو عبادت کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے رات کے تین حصے کر رکھے تھے۔ ۶

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۵۷) رجالہ رجال الصحیح وفي بعض طرقہ ولم یکن

یصلی الضحیٰ. انتہی (۵) اخرجہ ایضا ابن جریر کما فی الكنز (ج ۳ ص ۱۸۱)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۵) ۴۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۲۵) قال الحاکم

ووافقه الذہبی صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی

الحیلة (ج ۱ ص ۲۵۹) ۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحیلة (ج ۱ ص ۳۸۳)

حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ اپنے ایک باغ میں (نفل) نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک چڑیا اڑی اور وہ راستہ کی تلاش میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی لیکن اسے راستہ نہیں مل رہا تھا (کیونکہ باغ بہت گھنا تھا) یہ منظر انہیں پسند آیا اور وہ اسے کچھ دیر دیکھتے رہے پھر انہیں اپنی نماز کا خیال آیا تو اب انہیں یہ یاد نہ رہا کہ وہ کتنی رکعت نماز پڑھ چکے ہیں تو کہنے لگے کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے اور وہ فوراً حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی نماز کا سارا قصہ سنا کر عرض کیا یا رسول اللہ! (اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی اس لیے) یہ باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے آپ اسے جہاں چاہیں خرچ فرمادیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مدینہ کی وادی قف میں اپنے ایک باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کھجوریں پکنے کا زمانہ اپنے شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ کی وجہ سے جھکے پڑے تھے۔ ان کی نگاہ ان خوشوں پر پڑی اور کھجوروں کی کثرت کی وجہ سے وہ اچھے معلوم ہوئے پھر انہیں نماز کا خیال آیا تو یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعت نماز پڑھ چکے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی ہے۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کا زمانہ خلافت تھا ان انصاری نے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا اور عرض کیا یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ ہے اسے آپ کسی خیر کے کام میں خرچ کر دیں، چنانچہ اسے حضرت عثمان نے پچاس ہزار میں بیچا۔ اس وجہ سے اس باغ کا نام خمسن یعنی پچاسا پڑ گیا۔

حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ ابن زبیرؓ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے دن بھر روزہ رکھتے اور (چونکہ وہ مسجد میں زیادہ رہتے تھے، اس لیے) ان کا نام مسجد کا کبوتر پڑ گیا تھا۔

حضرت عدی بن حاتمؓ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نماز کا وقت آتا ہے تو میں اس نماز کی تیاری کر چکا ہوتا ہوں اور میرے اندر اس نماز کا شوق پورے زور پر ہوتا ہے۔

## مسجدیں بنانا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرامؓ ہم مسجد بنانے کے لیے کچی اینٹیں اٹھا کر لارہے تھے اور حضور ﷺ بھی ان کے ساتھ تھے (یہ غزوہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے جبکہ مسجد نبوی کی دوسری مرتبہ تعمیر ہوئی) حضورؐ اپنے پیٹ پر ایک اینٹ چوڑائی میں رکھے ہوئے لارہے تھے۔ سامنے سے میں آیا تو میں سمجھا کہ اس اینٹ کو آپؐ کو اٹھانے میں دشواری ہو رہی ہے اس لیے میں نے

۱۔ اخرجہ مالک کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۳۱۶) وقال وعبداللہ بن ابی بکر لم یلرک القصة  
 ۲۔ اخرجہ مالک کذا فی الا وجز (ج ۲ ص ۳۱۵) ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحیل (ج ۱ ص ۳۲۵) ۴۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۸۰) و اخرجہ ابن المبارک کما فی  
 الاصاب (ج ۲ ص ۳۶۸)

عرض کیا یا رسول اللہ! یہ اینٹ مجھے دے دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! تم کوئی اور اینٹ لے لو کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔

حضرت طلح بن علی (یمامی) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے ساتھ مسجد بنائی۔ حضور (میرے بارے میں کسی صحابی سے) فرما رہے تھے کہ اس یمامی کو گارے کی طرف بڑھاؤ کیونکہ اسے تم سب سے زیادہ اچھی طرح گارامانا آتا ہے اور اس کے کندھے بھی تم سب سے زیادہ مضبوط ہیں یعنی تم سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے۔ حضرت طلح بن علی فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت صحابہ مسجد بنا رہے تھے حضور کو صحابہ کا یہ کام کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ میں پھاوڑا لے کر اس سے گارامانے لگ گیا۔ حضور کو میرا پھاوڑا لے کر اس سے گارا ملانا پسند آیا تو فرمایا اس خنسی (قبیلہ بنو صنیفہ کے آدمی) کو گارا بنانے میں لگا رہنے دو کیونکہ یہ تم سے زیادہ اچھا گارا بنانے والا ہے۔ حضرت ابن ابی اوفیٰ کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ اس کا جنازہ اٹھاؤ اور خوب شوق سے اٹھاؤ کیونکہ یہ اور اس کی رشتہ دار عورتیں رات کو اس مسجد کے پتھر اٹھاتی تھیں جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے اور ہم (مرد) دن میں دو دو پتھر اٹھاتے تھے۔

حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ انصار نے آپس میں کہا کہ کب تک حضور ﷺ کچھو رکی ٹہنیوں (سے بنی ہوئی مسجد) میں نماز پڑھتے رہیں گے؟ اس پر انصار نے حضور کے لیے بہت سے دینار جمع کیئے اور وہ لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ہم اس مسجد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اسے مزین بنانا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اپنے بھائی موسیٰ کے طرز سے ہٹنا نہیں چاہتا میری مسجد کا چھپر ایسا ہو جیسا کہ حضرت موسیٰ کا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے بہت سا مال جمع کیا اور اسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس مال سے مسجد بنائیں اور اسے بہت زیب و زینت والی بنائیں ہم کب تک کچھو رکی ٹہنیوں کے نیچے نماز پڑھتے رہیں گے؟ حضور نے فرمایا میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے طرز سے نہیں ہٹ سکتا۔ ایسا چھپر ہو جیسا موسیٰ کا تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھپر اتنا اونچا تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تو چھپر کو لگ جاتا تھا۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں مسجد کے

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص ۹) رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی

۲۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الہیثمی (ج ۲ ص ۹) رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر ورجالہ

مولقون۔ ۱۰۔ عند احمد ایضا قال الہیثمی (ج ۲ ص ۹) ولیہ ایوب بن عتبہ واختلف فی لفظ

۳۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۰) ولیہ ابو مالک النخعی وهو ضعیف۔ ۱۱۔

۵۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۶) ولیہ عیسیٰ بن سنان ضعفہ احمد

وغیرہ ووقفہ العجلی وابن حبان وابن خراش فی روایہ۔ ۱۲۔ عن الہیثمی فی الدلائل

ستون کھجور کے تنے تھے اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی تھی اور چھت پر کوئی خاص مٹی بھی نہیں تھی۔ جب بارش ہوا کرتی تھی تو ساری مسجد کچھڑ سے بھر جاتی تھی اور آپ کی مسجد۔ تو بس چھپر جیسی ہی تھی۔

بخاری میں لیلۃ القدر کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں (لیلۃ القدر) کی یہ نشانی دکھائی گئی ہے کہ میں کچھڑ میں سجدہ کر رہا ہوں لہذا جس نے اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ اب پھر اعتکاف کرے، چنانچہ ہم نے دوبارہ اعتکاف شروع کر دیا۔ اس وقت ہمیں آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل آیا اور بارش ہوئی اور اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت خوب ٹپکی۔ مسجد کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور نماز کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کچھڑ میں سجدہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ میں نے آپ کی پیشانی پر کچھڑ کا اثر دیکھا۔

حضرت خالد بن معدان کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت ابودرداء کے پاس ایک بانس تھا جس سے وہ مسجد کی پیمائش کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور ﷺ ان کے پاس باہر تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں نے عرض کیا ہم رسول اللہ ﷺ کی مسجد ملک شام کے طرز پر بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کا جتنا خرچہ ہوگا وہ انصار پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ بانس مجھے دو۔ آپ نے ان دونوں سے وہ بانس لیا پھر چل پڑے اور دروازے پر پہنچ کر آپ نے وہ بانس پھینک دیا اور فرمایا ہر گز نہیں (ملک شام کی طرح مسجد کی شاندار عمارت نہیں بنائی) بس گھاس پھوس اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور حضرت موسیٰ جیسا سا بنان ہو اور (موت کا) معاملہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ کا سا بنان کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ جب کھڑے ہوتے تو ان کا سر چھت کو لگ جاتا۔

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ستون سے لے کر مقصورہ (امام کے لیے بنائے جانے والے کمرہ) تک مسجد میں اضافہ کیا اور فرمایا اگر میں نے حضور ﷺ کا یہ ارشاد نہ سنا ہوتا کہ ہمیں اپنی مسجد کو بڑھانا چاہیے تو میں ہر گز نہ بڑھاتا۔

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں بتایا کہ مسجد حضور ﷺ کے زمانے میں کچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ حضرت ابوبکر نے مسجد میں کوئی اضافہ نہ کیا، البتہ حضرت عمر نے اس میں اضافہ کیا اور حضور کے زمانے میں جیسی کچی اینٹ اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی ویسی ہی بنائی اور اس

۱۔ رواہما البہقی ایضاً ۲۔ کذا فی ولاء الولاء (ج ۱ ص ۲۳۲)

۳۔ اخرجه ابن زبالہ کذا فی ولاء الولاء (ج ۱ ص ۲۳۱) ۴۔ اخرجه احمد.

کے ستون لکڑی کے ہی بنائے پھر حضرت عثمانؓ نے اسے بدل دیا اور اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا اور اس کی دیواریں منقش پتھروں اور چوڑے سے بنائیں اور اس کے ستون منقش پتھروں کے اور اس کی چھت ساکھو کی لکڑی کی بنائی۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں آپؐ کی مسجد کے ستون کجھور کے تنوں کے تھے اور مسجد پر کجھور کی ٹہنیوں سے سایہ کیا ہوا تھا پھر حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ خلافت میں یہ کجھور کے تنے اور ٹہنیاں بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہونے لگیں تو انہیں ہٹا کر حضرت ابو بکرؓ نے نئے کجھور کے تنے اور نئی ٹہنیاں لگا دیں۔ پھر یہ ستون حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں بوسیدہ ہو گئے تو انہیں ہٹا کر حضرت عثمانؓ نے ان کی جگہ پکی اینٹیں لگا دیں جو اب تک لگی ہوئی ہیں۔ مسلم میں یہ روایت ہے کہ حضرت محمود بن لبیدؓ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفانؓ نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اسے پسند نہ کیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مسجد کو اسی حالت پر رہنے دیں تو حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کیلئے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسی جیسا محل جنت میں بنائے گا۔ حضرت مطلب بن عبد اللہ بن حطبؓ کہتے ہیں کہ جب ۲۴ھ میں حضرت عثمانؓ بن عفان خلیفہ بنے تو لوگوں نے ان سے مسجد بڑھانے کی بات کی اور یہ شکایت کی کہ جمعہ کے دن جگہ بہت تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے باہر میدان میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ حضرت عثمانؓ نے اس بارے میں حضورؐ کے اہل الرائے صحابہؓ سے مشورہ کیا تو سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ پرانی مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دیا جائے، چنانچہ حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان فرمائی پھر فرمایا اے لوگو! میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں حضورؐ کی مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لئے جنت میں محل بنائیں گے اور یہ کام مجھ سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت بھی کر چکی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بڑھایا بھی تھا اور اسے نئے سرے سے بنایا بھی تھا اور میں اس بارے میں حضورؐ کے اہل الرائے صحابہؓ سے مشورہ بھی کر چکا ہوں۔ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے اور اس میں توسیع بھی کر دی جائے تو لوگوں نے اس بات کی خوب تحسین کی اور ان کے لئے دعا بھی کی۔ اگلے دن صبح کو حضرت عثمانؓ نے کام کرنے والوں کو بلایا (اور انہیں کام میں لگایا) اور خود بھی اس کام میں لگے حالانکہ حضرت عثمانؓ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے اور مسجد سے باہر نہیں جایا کرتے تھے اور آپؐ نے حکم دیا کہ بطن نخل میں چھنا ہوا چونا تیار کیا جائے حضرت عثمانؓ نے ربیع الاول ۲۹ھ میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا جو محرم ۳۰ھ میں ختم

ہوا۔ یوں دس ماہ میں کام پورا ہوا۔

حضرت جابر بن اسامہؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ اپنے صحابہؓ کے ساتھ بازار میں تھے میری آپ سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا حضورؐ! کہاں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضورؐ تمہاری قوم کے لئے مسجد کی جگہ کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ میں جب وہاں پہنچا تو حضورؐ مسجد کی جگہ کی نشاندہی کر چکے تھے اور آپؐ نے قبلہ کی نشانی کے لئے ایک لکڑی زمین میں گاڑی ہوئی تھی۔

حضرت عثمان بن عطاءؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سے شہر فتح کر لئے تو ان شہروں کے گورنروں کو خط لکھے، چنانچہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، انہیں خط میں یہ لکھا کہ سارے شہر کے لئے جمعہ کی نماز کے لئے ایک جامع مسجد بنائیں اور ہر قبیلہ کے لئے الگ الگ مسجد بنائیں (ہر قبیلہ والے پانچوں نمازیں اپنی مسجد میں پڑھا کریں لیکن) جمعہ کے دن سب جامع مسجد میں آکر جمعہ پڑھا کریں، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ گوفہ کے گورنر تھے انہیں بھی حضرت عمرؓ نے یہی لکھا، حضرت عمرو بن عاصؓ مصر کے گورنر تھے انہیں بھی یہی لکھا اور لشکروں کے امیروں کو یہ لکھا کہ دیہات میں رہائش نہ رکھیں بلکہ شہروں میں رہیں اور ہر شہر میں ایک ہی مسجد بنائیں اور جیسے کوفہ بصرہ اور مصر والوں نے مسجدیں بنائی ہیں اس طرح ہر قبیلے والے اپنی اپنی مسجد نہ بنائیں، چنانچہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے پابند ہو گئے۔

## مسجدوں کو پاک صاف رکھنا

حضرت عمرو بن زبیرؓ حضورؐ کے ایک صحابی سے یہ نقل کرتے ہیں کہ حضورؐ ہمیں اپنے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنے اور انہیں اچھی طرح بنانے اور انہیں پاک رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے اس بات کا حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور ان کی صفائی کی جائے اور انہیں معطر کیا جائے۔

۱۔ رواہ یحییٰ کذا فی وفاء الوفا (ج ۱ ص ۳۵۵)

۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط والکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۵) ولیہ معاویہ بن عبداللہ بن حبیب ولم اجد من ترجمہ۔ انتہی و اخرجہ ابونعیم عن جابر بن اسامہ الجہنی نحوه کما فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۲) والبادردی عن اسامہ الحنفی مثله کما فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۳)

۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۵۹)

۴۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۱) رواہ احمد و اسنادہ صحیح۔ ۵۱

۵۔ عند ابی داؤد الترمذی و ابن ماجہ کذا فی المتکون (ص ۶۱)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد میں سے کوڑا وغیرہ اٹھایا کرتی تھی پھر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے دفن ہونے کی حضورؐ کو خبر نہ ہوئی (جب آپؐ کو پتہ چلا تو) آپؐ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جایا کرے تو تم مجھے اس کی خبر کیا کرو اور آپؐ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا کہ وہ مسجد میں سے کوڑا وغیرہ اٹھا رہی ہے۔  
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ہر جمعہ کے دن حضورؐ کی مسجد کو خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔

## مساجد کی طرف پیدل چلنا

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب مسجد نبویؐ سے اتنا دور رہتے تھے کہ میرے علم میں اور کوئی ان سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا لیکن وہ ہر نماز مسجد نبویؐ میں پڑھتے تھے ان کی کوئی نماز نہیں جاتی تھی، ان سے کسی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپؐ کوئی گدھا خرید لیں اور اندھیرے میں اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر (مسجد نبویؐ کو) آیا کریں۔ انھوں نے کہا مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرا گھربالکل مسجد کے پہلو میں ہو میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا اور اپنے گھر واپس جانا (میرے اعمال نامہ میں)

انکھا جائے۔  
اس پر حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنے جانے کا سارا ثواب لکھ دیا ہے۔  
حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مدینے میں (مسجد نبویؐ سے) سب سے زیادہ دور تھا لیکن حضورؐ کے ساتھ کی کوئی نماز ان سے فوت نہ ہوتی تھی۔ مجھے ان پر بڑا ترس آیا، اس لیے میں نے ان سے کہا اے فلا نے! اگر تم گدھا خرید لو تو سخت گرمی سے بھی اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس انصاری نے کہا، ارے میاں! ذرا غور سے سنو! اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر حضرت محمدؐ کے گھر کے بالکل ساتھ ہو۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی گراں لگی اور میں نے جا کر حضورؐ کو بتا دی۔ حضورؐ نے انہیں بلا کر پوچھا تو انھوں نے حضورؐ کے سامنے بھی وہی بات کہہ دی اور یہ بھی بتایا کہ مجھے دور سے مسجد پیدل آنے میں

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۰) رواہ الطبرانی فی الکبیر وقال فی تراجم النساء الخرفا السودا النی کانت تمیط الاذی عن مسجد رسول اللہ و ذکر بعد هذا الکلام اسناد عن انس قال ف ذکر الحدیث و رجال اسناد انس رجال الصحیح و اسناد ابن عباس فیہ عبدالعزیز بن فائدہ ہو مجهول و قبل فیہ فائد بن عمرو ہو وہم انتہی ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۱) و فیہ عبداللہ بن عمر العمری و ثقہ احمد و غیرہ و اختلف فی الاحتجاج بہ  
۳۔ اخرجہ احمد و مسلم و الدارمی و ابو عوانہ و ابن خزیمہ و ابن حبان

ثواب کی امید ہے۔ حضورؐ نے ان سے فرمایا تم جس ثواب کی امید لگا رہے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ حمیدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو قدم بھی مسجد کی طرف اٹھاتے ہیں اس کے بدلہ میں انہیں ایک درجہ ملتا ہے۔

حضرت زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضورؐ کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ ہم نماز کے لیے (مسجد) جا رہے تھے۔ حضورؐ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسولؐ زیادہ جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا آدمی جب تک نماز کی کوشش میں لگا رہتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا میں آیا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نماز کی کوشش میں میرے قدم زیادہ ہو جائیں۔

حضرت ثابتؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انس بن مالکؓ کے ساتھ (بصرہ کے قریب) زاویہ نامی بستی میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں انہوں نے اذان کی آواز سنی تو آواز سنتے ہی چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے شروع کر دیئے یہاں تک کہ میں (ان کے ساتھ) مسجد میں داخل ہو گیا پھر فرمایا اے ثابتؓ! کیا تم جانتے ہو کہ میں اس طرح کیوں چلا میں نے کہا اللہ اور اس کے رسولؐ زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت انسؓ نے فرمایا تاکہ نماز کی تلاش میں میرے قدم زیادہ ہو جائیں۔

قبیلہ بنو طے کے ایک صاحب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ مسجد جانے کے لیے گھرتے نکلے اور تیز تیز چلنے لگے تو کسی نے ان سے کہا آپ تو اس طرح چلنے سے منع کرتے ہیں اور خود اس طرح چل رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے نماز کا ابتدائی کنارہ یعنی بکیر اولیٰ مل جاوے۔ حضرت سلمہ بن کہیلؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نماز کے لیے تیزی سے چل رہے تھے کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا جن چیزوں کی طرف تم تیزی سے چلتے ہو کیا ان میں نماز اس کی سب سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضورؐ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں حضورؐ نے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کا شور سنا۔ جب آپؐ نماز پوری کر چکے تو

۱۔ عند الطیالسی ومسلم وابن ماجہ واخرجه ابضا ابو داؤد والحمیدی بمعناه

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۲ ص ۳۲) رواہ الطبرانی فی الکبیر ولہ فی رواۃ اخری انما فعلت ہذا لتکثیر خطای فی طلب الصلاة وفيہ الضحاک بن بزاس وهو ضعيف ورواه موقوفاً علی زید بن ثابت ورجاله رجال الصحیح. انتہی ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال

الہیثمی (ج ۲ ص ۳۲) وقد رواہ انس عن زید بن ثابت واللہ اعلم وفيہ الضحاک بن بزاس وهو ضعيف انتہی ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر وفيہ من لم یسم کما تراہ

۵۔ عند الطبرانی ایضاً فیہ وسلمۃ لم یسم من ابن مسعود کما قال الہیثمی (ج ۲ ص ۳۲)



فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا ہم نماز کیلئے تیزی سے چل کر آ رہے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ آرام سے چلو اور جتنی نماز مل جائے اسے پڑھ لو اور جتنی رہ جائے اسے قضا کر لو۔

## مسجدیں کیوں بنائی گئیں اور صحابہ کرامؓ ان

### میں کون سے اعمال کرتے تھے

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضورؐ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو حضورؐ کے صحابہ نے کہا ارے، ارے، ٹھہرو، ٹھہرو۔ حضورؐ نے فرمایا اسے پیشاب سے نہ روکو اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہؓ نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے پیشاب پورا کر لیا۔ پھر حضورؐ نے اسے بلا کر فرمایا ان مسجدوں میں پیشاب یا گندگی والا کوئی کام کرنا کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے بنی ہیں۔ یا جیسے حضورؐ نے فرمایا پھر حضورؐ نے لوگوں میں سے ایک آدمی کو حکم دیا اس نے پانی کا ڈول لا کر اس پیشاب پر بہا دیا۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے اور مسجد میں گئے تو وہاں ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ حضرت معاویہؓ نے ان سے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے کہا کیا اللہ کی قسم! آپ لوگ صرف اس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا واقعی ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہؓ نے کہا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں دی (بلکہ اس وجہ سے قسم دی جو آگے حدیث میں آرہی ہے) اور کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کا حضورؐ سے میرے جیسا خاص تعلق ہو اور وہ حضورؐ کی طرف سے حدیثیں مجھ سے کم بیان کرتا ہو (یعنی میرا حضورؐ سے تعلق بھی خاص تھا لیکن میری عادت حضورؐ کی طرف سے حدیثیں بہت کم بیان کرنے کی ہے پھر بھی اس موقع کی ایک حدیث تم لوگوں کو سنا دیتا ہوں، ایک مرتبہ حضورؐ مسجد میں باہر تشریف لائے اور مسجد میں صحابہ کرامؓ حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضورؐ نے پوچھا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا۔ حضورؐ نے فرمایا کیا اللہ کی قسم! صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم! ہم صرف اسی وجہ سے بیٹھے

۱۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط ورجاله رجال الصحيح وهو متفق عليه بلفظ وما سبقكم فاتموا

کما قال الہیثمی (ج ۲ ص ۳۱) ۲۔ اخرجه مسلم (ج ۱ ص ۱۲۸) باللفظ له

والطحاوی (ج ۱ ص ۸)

ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی بلکہ ابھی جبرائیلؑ میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔

حضرت ابو واقد حارث بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اتنے میں تین آدمی آئے ان میں سے دو تو آپ کی طرف چلے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں جا کر حضورؐ کے پاس کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی وہ جا کر اس جگہ بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پشت پھیر کر چلا گیا۔ جب آپ حلقہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے اللہ کے پاس اپنی جگہ بنائی تو اللہ نے اسے (اپنی رحمت میں) جگہ دے دی اور دوسرا شرمایا گیا تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کیا (اپنی رحمت سے محروم نہ فرمایا) اور تیسرے نے (اللہ سے) اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔

حضرت ابو القمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں مختلف حلقوں میں بیٹھے ہوئے آپس میں حدیثوں کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ اتنے میں حضورؐ اپنے ایک حجرے سے باہر مسجد میں تشریف لائے اور تمام حلقوں پر نظر ڈالی اور پھر قرآن والوں کے ساتھ بیٹھ گئے (جو قرآن سیکھ سکھا رہے تھے) اور فرمایا مجھے اس مجلس (میں بیٹھنے) کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت کلیب بن شہابؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے مسجد میں بہت زیادہ شور کی آوازیں سنیں، لوگ قرآن پڑھ پڑھ رہے تھے تو حضرت علیؑ نے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری ہو یہی لوگ حضورؐ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت کلیبؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کو فد کی مسجد میں تھے انھوں نے وہاں بہت زیادہ شور کی آوازیں سنیں تو انھوں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا غور سے سنو! ان ہی لوگوں سے حضورؐ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔

۱۔ اخرجہ مسلم کذا فی ریاض الصالحین (ص ۵۱۶) و اخرجہ ابضا الترمذی والنسائی کما فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۳۹) ۲۔ اخرجہ الشیخان کذا فی ریاض الصالحین (ص ۵۱۵) و اخرجہ ابضا مالک و الترمذی کما فی جمع الفوائد (ج ۱ ص ۲۱) ۳۔ اخرجہ ابن مندہ کذا فی الاصابہ (ج ۳ ص ۱۶۰) و اخرجہ ابن عبدالبر فی الاستیعاب (ج ۳ ص ۱۶۳) و اخرجہ ابضا ابو عمر و الدنی فی طبقات القراء کما فی الکنز (ج ۱ ص ۲۱۹) ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط کذا فی المجمع (ج ۷ ص ۱۶۶) و اخرجہ ابن منیع بنحوہ کما فی الکنز (ج ۱ ص ۲۱۸) ۵۔ عند البزار کما فی المجمع (ج ۷ ص ۱۶۳) و فی اسناد الطبرانی حفص بن سلیمان الغاضری و هو متروک و وثقہ احمد فی روایة وضعفہ فی غیرہا و فی اسناد البزار اسحاق بن ابراہیم الثقفی و هو ضعیف۔

حضرت ابو ہریرہؓ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزرے تو کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا اے بازار والو! تم لوگ کتنے زیادہ عاجز ہو۔ بازار والوں نے کہا اے ابو ہریرہ! کیا بات ہے؟ انھوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور ﷺ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو تو کیا تم لوگ جا کر اس میں سے اپنا حصہ نہیں لیتے؟ لوگوں نے پوچھا کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ انھوں نے فرمایا مسجد میں، چنانچہ وہ بازار والے بہت تیزی سے مسجد گئے اور حضرت ابو ہریرہؓ وہاں ٹھہرے رہے۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ واپس آگئے تو حضرت ابو ہریرہؓ نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ (کہ جلدی سے واپس آگئے) انھوں نے کہا اے ابو ہریرہ! ہم مسجد گئے تھے ہم نے اندر جا کر دیکھا تو ہمیں وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے ان سے پوچھا کیا تم نے مسجد میں کوئی آدمی نہیں دیکھا؟ انھوں نے کہا ہم نے بہت سے آدمی دیکھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ حلال اور حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے تو ان سے حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو یہی اعمال مسجد تو حضرت محمد ﷺ کی میراث ہیں۔

حضرت ابن معاویہ کندیؓ کہتے ہیں کہ ملک شام میں میں حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انھوں نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ شاید ایسے ہوتا ہوگا کہ آدمی بد کے ہوئے اونٹ کی طرح مسجد میں آتا ہوگا اگر اسے اپنی قوم کی مجلس نظر آتی ہو اور جان پہچان والے لوگ نظر آتے ہوں گے تو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوگا ورنہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے بلکہ مختلف مجلسیں مسجد میں ہوتی ہیں (اور ہر مجلس میں مختلف قوموں کے لوگ ہوتے ہیں) اور لوگ ان میں بیٹھ کر خیر کے اعمال سیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب تک تم ایسے رہو گے خیر پر ہو گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا آؤ یہود کے پاس چلیں چنانچہ (آپ صحابہ گولے کر ان کے پاس گئے اور) ان سے فرمایا اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے۔ ان یہودیوں نے کہا آپ نے (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن پھر بھی تم لوگ اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے۔ انھوں نے پھر کہا آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن پھر بھی تم لوگ اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اب میں تمہیں اس سرزمین سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں، لہذا تم میں سے جس کی جو چیز بک سکتی ہے وہ اسے بیچ دے ورنہ اچھی طرح سمجھ لو یہ زمین

۱۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط باسناد حسن کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۶۶)

۲۔ اخرجه المروزی وابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۲۹)

اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت سعدؓ زخمی ہوئے ان کو قریش کے حبان بن عرقہ نامی کافر نے تیر مارا تھا جو ان کے بازو کی اکھل نامی رگ میں لگا تھا۔ حضور ﷺ نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ حضور کے قریب رہیں اور ان کی عیادت کے لیے بار بار جانے میں سہولت رہے۔ جب حضور غزوہ خندق سے واپس آئے تو آپ نے ہتھیار رکھ دیئے اور غسل فرمایا پھر حضرت جبرائیلؑ اپنے سر سے غبار جھاڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ نے تو ہتھیار رکھ دیئے لیکن اللہ کی قسم! میں نے تو ابھی نہیں رکھے آپ ان کی طرف تشریف لے چلیں۔ حضور نے پوچھا کہاں؟ تو جواب میں حضرت جبرائیلؑ نے بنو قریظہ کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ حضور ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ آپ کے فیصلہ پر رضامند ہو گئے۔ حضور نے ان کا فیصلہ حضرت سعدؓ کے ذمہ لگا دیا تو حضرت سعدؓ نے کہا ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جوڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے سارے مال کو (مسلمانوں میں بطور مال غنیمت کے) تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت ہشام راوی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے حضرت عائشہؓ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ حضرت سعدؓ نے یہ دعا مانگی اے اللہ! تجھے معلوم ہے کہ مجھے اس قوم سے جہاد کرنے سے کسی اور سے جہاد کرنا زیادہ محبوب نہیں ہے جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انھیں (ان کے وطن مکہ سے) نکالا (اس سے مراد قبیلہ قریش ہے) اے اللہ! اب میرا خیال تو یہ ہے کہ تو نے ہمارے اور اس قوم کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے یعنی اس غزوہ خندق کے بعد اب ان سے جنگ نہیں ہوگی لیکن اگر قریش سے کوئی جنگ ابھی ہو۔ نے والی ہے تو پھر تو مجھے ان کے لیے زندہ رکھ تاکہ تیری رضا کی خاطر میں ان سے لڑوں اور اگر تو نے ان سے لڑائی ختم کر دی ہے تو میری اس رگ کے زخم کو جاری کر اور اسی کی وجہ سے مجھے موت نصیب فرما، چنانچہ ان کے سینے کے زخم سے پھر خون بہنے لگا اور مسجد میں بنو غفار کا بھی ایک خیمہ لگا ہوا تھا یہ خون بہہ کر ان کے خیمہ تک پہنچ گیا جس سے وہ لوگ گھبرا گئے تو اس خیمہ والوں نے کہا اے خیمہ والو! یہ خون کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آرہا ہے؟ جا کر دیکھا تو حضرت سعدؓ کے زخم میں سے خون بہ رہا تھا جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔

حضرت یزید بن عبد اللہ بن قسیطؓ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ حضور ﷺ کے وہ صحابی تھے جن کا (مدینہ میں) کوئی گھر نہیں تھا، اس لیے وہ حضور کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتے تھے اور دن

۱۔ اخروجه الشیخان و ابو داؤد کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۴۴)

۲۔ اخروجه الشیخان کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۵۴)

بھرا سی میں رہتے تھے ان کا مسجد کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا رات کو جب کھانے کا وقت آتا تو حضور انھیں بلا کر اپنے صحابہ میں تقسیم فرمادیتے پھر بھی ان میں سے کچھ لوگ حضور کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے یہ سلسلہ یونہی چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمادی۔

حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتے تھے وہ جب حضور کی خدمت سے فارغ ہوتے تو جا کر مسجد میں ٹھہر جاتے اور یہ مسجد ہی ان کا گھر تھا، اسی میں لیٹا کرتے تھے۔ ایک رات حضور مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے پایا آپ نے انھیں پاؤں مبارک سے ذرا ہلایا۔ وہ اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے تو حضور نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں (مسجد میں) سوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر میں کہاں سوؤں؟ کیا میرا مسجد کے علاوہ کوئی گھر ہے؟ آگے حدیث امر خلافت کے بارے میں ذکر کی۔ ۲۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب حضور کی خدمت سے فارغ ہو جاتے تو آ کر مسجد میں لیٹ جاتے۔ ۳۔ اور اللہ کے راستے کے مہمانوں کی ضیافت کے باب میں مسجد میں سونے کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے قصے گزر چکے ہیں۔

حضرت حسنؓ سے مسجد میں دوپہر کو آرام کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا میں نے حضرت عثمان بن عفانؓ کو زمانہ خلافت میں مسجد میں دوپہر کو آرام کرتے ہوئے دیکھا۔ ۴۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں رات کو سویا کرتے تھے۔ ۵۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے اور پھر دوپہر کو آرام کیا کرتے۔ ۶۔

حضرت زہریؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا جب کوئی آدمی زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھے تو اس کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس طرح لیٹنے سے اس کا دل نہیں اکتائے گا۔ ۷۔

حضرت خلید ابواسحاقؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ سے مسجد میں سونے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فرمایا اگر تم نماز اور طواف کی وجہ سے سونا چاہتے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ۸۔

۱۔ اخرجہ ابن سعد فی الطبقات (ج ۲ ص ۲۰) ۲۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص

۲۲) رواہ احمد والطبرانی روی بعضہ فی الکبیر ولیہ شہر بن حوشب ولیہ کلام وقد وثق

۳۔ عند الطبرانی فی الاوسط ولیہ شہر ایضا کما قال الہیثمی ۴۔ اخرجہ البہیقی وابن

عساکر کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۲۶۱) ۵۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ

۶۔ عند ابن ابی شیبہ ایضا کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۲۶۱) ۷۔ اخرجہ از سعد (ج ۳ ص ۲۹۳)

۸۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۲۶۱)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب کسی رات کو تیز ہوا اور آندھی چلا کرتی تو حضور ﷺ گھبرا کر ایک دم مسجد تشریف لے جاتے اور آندھی ختم ہونے تک وہاں ہی رہا کرتے اور جب آسمان میں سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو آپ گھبرا کر نماز پڑھنے کی جگہ یا عید گاہ تشریف لے جاتے۔

حضرت عطاءؓ کہتے ہیں کہ حضرت یعلیٰ بن امیہؓ کو حضور ﷺ کی صحبت حاصل تھی وہ جب تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں بیٹھا کرتے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے۔ حضرت عطیہ بن سفیان بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کا وفد رمضان میں حضور ﷺ کی خدمت میں آیا تو حضور نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوا دیا پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو انھوں نے حضور کے ساتھ روزے رکھنے شروع کر دیئے۔ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ ثقیف کا وفد حضور ﷺ کی خدمت میں آیا تو حضور نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تا کہ اس سے ان کے دل زیادہ نرم ہوں اس سے آگے اور حدیث ذکر کی جیسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے باب میں قبیلہ ثقیف کے اسلام لانے کے قصہ میں گزر چکا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مسجد میں حضور ﷺ کے ساتھ بھنا ہوا گوشت کھایا پھر نماز کھڑی ہو گئی تو ہم نے صرف کنکریوں سے ہاتھ پونچھے (اور کچھ نہیں کہا اور نماز میں شامل ہو گئے)۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مسجد فصیح میں حضور ﷺ کی خدمت میں رخ لایا گیا جسے آپ نے نوش فرمایا، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد فصیح نیم پختہ کجھور کے شربت کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مسجد فصیح میں حضور ﷺ کی خدمت میں نیم پختہ کجھور کے شربت فصیح کے منگے لائے گئے۔ آپ نے اس شربت کو نوش فرمایا اور اسی وجہ سے اس کا نام مسجد فصیح رکھا گیا۔ اور اس سے پہلے مسجد میں مختلف اعمال کے قصے گزر چکے ہیں۔ مال خرچ کرنے کے باب میں کھانا اور مال تقسیم کرنے کے قصے اور بیعت کے باب میں مسجد میں حضرت عثمانؓ کی بیعت کا قصہ اور صحابہ کے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کے باب میں مسجد میں حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کا قصہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے کے باب میں حضرت ضمامؓ کو مسجد میں دعوت دینے اور ان کے اسلام لانے کا قصہ اور مسجد میں حضرت کعب بن زہیرؓ کے اسلام لانے اور مشہور قصیدہ پڑھنے کا قصہ اور صحابہ کے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کے باب میں مسجد اہل شوری کے مشورہ کے

۱۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا كذا في الكنز (ج ۳ ص ۲۸۹) وقال وسنده حسن

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۳ ص ۳۱۲)

۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الكبير قال الهیثمی (ج ۲ ص ۲۸) ولیہ محمد بن اسحق وهو مدلس وقد

عنہ انتہی ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الكبير قال الهیثمی (ج ۲ ص ۲۱) ولیہ ابن لہیعة

ولیہ کلام ۵۔ عند احمد ۶۔ عند ابی یعلیٰ قال الهیثمی ولیہ عبد اللہ بن

نافع ضعفه البخاری و ابو حاتم والنسائی وقال ابن معین یکتب حدیثہ . انتہی .

لیئے بیٹھنے کا قصہ اور مال خرچ کرنے کے باب میں صبح کے وقت مسجد میں صحابہ کا حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھنے کا قصہ، اور دنیا کی وسعت اور کثرت سے ڈرنے کے باب میں مسجد میں نمازوں کے بعد لوگوں کی ضرورت کے لیئے حضرت عمرؓ کے بیٹھنے کا قصہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو مضبوطی سے پکڑ لینے کے باب میں مسجد میں حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہ کے رونے کا قصہ۔

## حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کن باتوں کو مسجد

### میں اچھا نہیں سمجھتے تھے

حضرت ابوسعید خدریؓ کے ایک غلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں (اپنے آقا) حضرت ابوسعیدؓ کے ساتھ تھا وہ حضور ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے اتنے میں ہم لوگ مسجد میں داخل ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے بیچ میں ایک آدمی پیٹھ اور ناگوں کو کپڑے سے باندھ کر بیٹھا ہوا ہے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال رکھی ہیں۔ حضور نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہ سکا تو حضور نے حضرت ابوسعیدؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو تو اپنی انگلیاں ہرگز ایک دوسرے میں نہ ڈالے کیونکہ یہ شیطانی حرکت ہے اور جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں ہوتا ہے تو وہ مسجد سے باہر جانے تک نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ خیبر فتح کر چکے تو لوگ لہسن پر ٹوٹ پڑے اور اسے خوب کھانے لگے۔ اس پر حضور نے فرمایا جو یہ بودار سبزی کھائے وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔

حضرت عمر بن خطابؓ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ انھوں نے خطبہ میں فرمایا، اے لوگو! تم یہ دو بودار چیزیں پیاز اور لہسن کھاتے ہو حالانکہ میں نے حضور ﷺ کو دیکھا ہے کہ جب حضور کو مسجد میں کسی سے ان دونوں کی بو محسوس ہوتی تو آپ کے فرمانے پر اسے بقیع کی طرف نکال دیا جاتا، لہذا جو انھیں کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو ختم کر لے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ بیان فرما رہے تھے کہ بیان کے دوران آپ نے مسجد کی سامنے والی دیوار پر کھنکار پڑا ہوا دیکھا تو آپ کو لوگوں پر بڑا غصہ آیا پھر آپ نے اسے کھڑچا اور زعفران منگا کر اس جگہ مل دیا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۵) اسنادہ حسن

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۷) برواہ الطبرانی فی الاوسط من روایة ابی القاسم

مولی ابی بکر ولم اجد من ذکرہ وبقیة رجالہ موثقون۔ انتہی

۳۔ اخرجہ مسلم والنسائی وابن ماجہ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۱۸۸)

تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں، چنانچہ اس کو اپنے سامنے تھوکنہ نہیں چاہئے، حضرت ابوسعیدؓ کی روایت میں ہے کہ پھر حضور ﷺ غصہ سے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے آکر اس کے چہرے پر تھوک دے؟ تم میں سے کوئی آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، لہذا اسے نہ اپنے سامنے تھوکنہ چاہئے اور نہ دائیں طرف۔  
حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جیسے گوشت کا ٹکڑا یا کھال آگ میں سکڑ جاتی ہے ایسے ہی کھنکار مسجد میں پھینکنے سے مسجد سکڑ جاتی ہے (یعنی یہ کام مسجد کو بہت برا لگتا ہے، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے)۔ ۳

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بنہ جہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ مسجد میں چند لوگوں پر حضورؐ کا گزر ہوا۔ آپؐ نے دیکھا کہ وہ ننگی تلوار ایک دوسرے کو دے رہے ہیں تو آپؐ نے فرمایا جو ایسا کرے اس پر اللہ لعنت فرمائے کیا میں نے تمہیں اس سے روکا نہیں؟ جب تم میں سے کسی نے ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہو اور وہ اپنے ساتھی کو دینا چاہے تو اسے چاہئے کہ وہ تلوار کو نیام میں ڈال کر دے۔ ۴

حضرت سلیمان بن موسیٰؓ کہتے ہیں کسی آدمی نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مسجد میں تلوار نگی کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے ایک آدمی مسجد میں تیر صدقہ کیا کرتا تھا۔ حضورؐ نے اسے حکم دیا کہ وہ جب بھی مسجد سے تیر لے کر گزرے تو وہ تیروں کے پھلوں کو اچھی طرح سے پکڑ کر گزرے۔ ۵

حضرت محمد بن عبید اللہؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو ایک آدمی نے اپنا تیر پلٹا تو حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کیا اسے معلوم نہیں کہ حضورؐ نے مسجد میں ہتھیار لٹنے پلٹنے سے منع فرمایا ہے۔ ۶

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد میں گمشدہ جانور کا اعلان کیا اور یہ کہا کون ہے وہ (جس نے سرخ اونٹ دیکھا ہو اور وہ اس کے مالک کو) سرخ اونٹ (دینے) کے لئے بلارہا ہو؟ اس پر حضورؐ نے فرمایا تمہیں تمہارا اونٹ نہ ملے، مسجد میں تو جن کاموں کے لئے بنائی

۱۔ اخرجہ الشیخان و ابو داؤد واللفظ لہ

۲۔ عند ابن خزيمة فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۱۶۳)

۳۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۰)

۴۔ اخرجہ البغوی والسکن والطبرانی وغیر ہم کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۲)

۵۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۲)

۶۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال ام (ج ۲ ص ۲۶) وفيه ابو البلاد ضعفه ابو حاتم



گئی ہیں بس انہی کے لئے استعمال ہونی چاہئیں (اور گمشدہ چیز کا اعلان ان کاموں میں سے نہیں ہے)۔

حضرت ابن سیرینؒ یا کوئی اور صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے مسجد میں ایک آدمی کو گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا تو حضرت ابن مسعودؓ نے اسے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور فرمایا ہم کو اس سے روکا گیا ہے۔

حضرت ابن سیرینؒ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنا تو حضرت ابی اس پر ناراض ہوئے تو اس آدمی نے کہا اے ابوالمزنا! آپ تو ایسی سخت بات نہیں کیا کرتے تھے تو فرمایا (مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والے پر) ایسے ہی (غصہ) کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

حضرت سائب بن یزیدؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا کسی نے مجھے کنکری ماری (جس سے میری آنکھ کھل گئی) تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ انھوں نے فرمایا جاؤ اور ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ چنانچہ میں ان دونوں کو حضرت عمرؓ کے پاس لے آیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انھوں نے کہا ہم طائف کے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر تم دونوں اس شہر کے ہوتے تو میں تم کو دردناک سزا دیتا تم رسول اللہ کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیمؑ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی (اوپچی) آواز مسجد میں سنی تو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ اور اوپچی آواز کرنے پر حضرت عمرؓ نے یوں ناگواری کا اظہار فرمایا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی مسجد تشریف لے جاتے تو اوپچی آواز سے یہ اعلان فرماتے کہ مسجد میں شور کرنے سے بچو، دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ بلند آواز سے فرماتے مسجد میں بیکار باتوں سے بچو۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مسجد میں شور کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا ہماری اس مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے۔

حضرت سالمؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے مسجد کے ساتھ ایک چبوترہ بنایا جس کا نام بطیحا رکھا اور فرماتے تھے کہ جو آدمی شور مچانا چاہے یا شعر پڑھنا چاہے یا آواز بلند کرنا چاہے

۱۔ اخرجه مسلم والنسائی وابن ماجه كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۱۲۷)

۲۔ اخرجه الطبرانی في الكبير و ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود كذا في الترغيب (ج ۱ ص

۱۶۷) ۳۔ اخرجه عبدالرزاق كذا في الكنز (ج ۳ ص ۲۶۰)

۴۔ اخرجه البخاری والبيهقي ۵۔ عند ابراهيم بن سعد في نسخة و ابن المبارك عن سعيد

بن ابراهيم عن ابيه كذا في الكنز (ج ۳ ص ۲۵۹) ۶۔ اخرجه عبدالرزاق و ابن ابی شيبه

والبيهقي ۷۔ عند عبدالرزاق و ابن ابی شيبه كذا في الكنز (ج ۳ ص ۲۵۹)

اسے چاہئے کہ وہ (مسجد سے) باہر اس چبوترے پر چلا جائے۔  
 حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ کسی جرم میں پکڑ کر ایک آدمی کو حضرت عمرؓ کے پاس  
 لایا گیا تو انہوں نے فرمایا تم دونوں اسے مسجد سے باہر لے جاؤ اور وہاں اسے مارو۔  
 حضرت ابن مسعودؓ نے فجر کی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں کچھ لوگوں کو مسجد کی  
 قبلہ والی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم لوگ فرشتوں اور ان کی نماز کے  
 درمیان حائل نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن عامر البہائیؓ کہتے ہیں کہ حضرت حابس بن سعد طائیؓ کو حضور ﷺ کی  
 صحبت کا شرف حاصل تھا، ایک مرتبہ وہ سحری کے وقت مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ  
 مسجد کے اگلے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا رب کعب کی قسم! یہ لوگ تو ریاکار ہیں انہیں ڈراؤ  
 جو انہیں ڈرائے گا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا شمار ہوگا۔ چنانچہ کچھ لوگ ان کے پاس  
 گئے اور انہیں باہر نکال دیا تو حضرت حابسؓ نے فرمایا کہ فرشتے سحری کے وقت مسجد کے اگلے حصے  
 میں نماز پڑھتے ہیں۔

حضرت مرہ ہمدانیؓ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کوفہ کی مسجد کے ہر ستون  
 کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھوں گا، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعودؓ مسجد میں  
 آگئے، میں اپنی یہ بات ان کو بتانے گیا تو ایک آدمی مجھ سے پہلے ان کے پاس چلا گیا اور میں جو  
 کچھ کر رہا تھا وہ اس آدمی نے ان کو بتا دیا۔ اس پر حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اگر اسے یہ معلوم ہوتا  
 کہ اللہ تعالیٰ سب سے قریبی ستون کے پاس بھی ہیں تو نماز پوری کرنے تک اس ستون سے آگے  
 نہ بڑھتا (یعنی مسجد کے ہر ستون کے پاس نماز پڑھنا کوئی خاص ثواب کا کام نہیں ہے، ثواب میں  
 نماز کے سارے ستون برابر ہیں۔

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہؓ کا اذان کا اہتمام کرنا  
 حضرت ابو عمیر بن انسؓ اپنے انصاری چچوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضورؐ کو نماز کے

۱۔ اخرجہ مالک والبیہقی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۵۹)

۲۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۰)

۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۳) ورجالہ موثقون

۴۔ اخرجہ احمد والطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (۲ ص ۱۶) وفيه عبدالله بن عامر الالہانی  
 ولم اجد من ذكره و اخرجہ ایضا ابن عساکر و ابو نعیم کما فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۲) و اخرجہ  
 ابن سعد (ج ۷ ص ۳۳۱) ایضا نحوه

۵۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۶) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط

بارے میں بڑا فکر ہوا کہ اس کے لئے لوگوں کو کیسے جمع کریں کسی نے تجویز پیش کی کہ نماز کا وقت شروع ہونے پر ایک جھنڈا کھڑا کر دیا کریں۔ لوگ جب جھنڈے کو دیکھا کریں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے لیکن آپؐ کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر کسی نے یہودیوں کے بگل کا تذکرہ کیا آپؐ کو یہ بھی پسند نہ آیا اور فرمایا یہ تو یہودیوں کا کام ہے پھر کسی نے آپؐ سے گھنٹے کا ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، حضورؐ کی زیادہ فکر کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ فکر ہو گیا وہ گھر گئے تو انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی آگے اور حدیث بھی ذکر کی۔

حضرت عبداللہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ کو نماز کی اطلاع دینے کے بارے میں فکر ہوا۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضورؐ کسی آدمی کو اوپر چڑھا دیتے جو ہاتھ سے اشارہ کرتا۔ جو اشارہ دیکھ لیتا وہ آجاتا اور چونہ دیکھتا اسے نماز کا پتہ نہ چلتا۔ اس کا حضورؐ کو بہت زیادہ فکر تھا، بعض صحابہؓ نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہؐ آپ اگر نماز کے وقت گھنٹہ بجانے کا حکم دے دیں تو اچھا ہے، آپؐ نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے پھر انہوں نے عرض کیا اگر آپ بگل بجانے کا حکم دے دیں تو اچھا ہے۔ آپؐ نے فرمایا نہیں یہ تو یہودیوں کا کام ہے حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس گیا اور حضورؐ کو اس بارے میں فکر مند دیکھنے کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ رات کو فجر سے پہلے مجھے کچھ اونگھ آگئی میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے دو سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ مسجد کی چھت پر کھڑا ہوا اور دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینے لگا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضورؐ کے زمانے میں نماز کا وقت آتا تو ایک آدمی راستے میں تیز تیز چلتا ہوا جاتا اور اعلان کرتا الصلوٰۃ۔ الصلوٰۃ (نماز، نماز) یہ کام لوگوں کو مشکل لگا تو انہوں نے عرض کیا اگر ہم ایک گھنٹہ بنالیں آگے باقی حدیث ذکر کی۔

حضرت نافع بن جبیر، حضرت عمرو، حضرت زید بن اسلم اور حضرت سعید بن مسیبؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کے زمانے میں اذان کا حکم ملنے سے پہلے حضورؐ کا ایک اعلاچی یہ اعلان کرتا الصلوٰۃ جامعہ (نماز کا وقت ہو گیا ہے سب جمع ہو جائیں) جب قبلہ (بیت المقدس سے) کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو اذان کا حکم آ گیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضورؐ کو نماز کے وقت کی اطلاع دینے کا بہت فکر تھا، نماز کے لئے لوگوں کو جمع کرنے کے لئے صحابہؓ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، کسی نے بگل کا نام لیا اور کسی نے گھنٹے کا، آگے باقی حدیث ذکر کی اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ پھر اذان کا

۱۔ اخرجہ ابوداؤد ۲۔ اخرجہ ابوالشیخ

۳۔ عند ابی الشیخ ایضا کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۶۲۶۳ ۶۲۶۵)

حکم مل گیا اور الصلوٰۃ جامعۃ کا اعلان اس مقصد کے لئے رہ گیا کہ لوگوں کو جمع کر کے انہیں کسی خاص واقعہ کسی فتح وغیرہ کی اطلاع کر دی جاتی یا انہیں کوئی نیا حکم بتا دیا جاتا اور الصلوٰۃ جامعۃ کے ذریعہ اس مقصد کے لئے جمع کرنے کے لئے اعلان کیا جاتا چاہے وہ وقت نماز کا نہ ہوتا۔

حضرت سعد قرظ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی حضور تبارک و تعالیٰ تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں اور لوگ حضور کے پاس جمع ہو جائیں چنانچہ ایک دن حضور تشریف لائے حضرت بلال آپ کے ساتھ نہیں تھے تو حبشی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، میں نے ایک درخت پر چڑھ کر اذان دی، حضور نے مجھ سے پوچھا اے سعد! تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں اور حضرت بلال ساتھ نہیں ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ حبشی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس لئے مجھے ان کی طرف سے آپ پر حملہ کا خطرہ ہوا، اس لئے میں نے اذان دی، حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، جب تم میرے ساتھ بلال کو نہ دیکھا کرو تو اذان دے دیا کرو چنانچہ حضرت سعد نے حضور کی زندگی میں تین مرتبہ اذان دی۔<sup>۱</sup>

حضرت ابوالوقاص فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں اذان دینے والوں کا (اجر و ثواب میں سے) حصہ جہاد کرنے والوں کے حصے جیسا ہوگا اور موذن اذان اور اقامت کے درمیان اس شہید کی طرح ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے خون میں لٹ پتا ہو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر میں موذن ہوتا تو حج، عمرہ اور جہاد نہ کرنے کی کوئی پروا نہ کرتا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگر میں موذن ہوتا تو میرا (دینی) کام پورا ہو جاتا اور میں رات کی عبادت کے لئے نہ اٹھنے کی اور دن کو روزے نہ رکھنے کی پروا نہ کرتا، میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! اذان دینے والوں کی مغفرت فرما، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ہمیں اس حال پر پہنچا دیا کہ ہم تو اب اذان کے لئے ایک دوسرے سے تلواروں سے لڑیں گے، حضور نے فرمایا ہرگز نہیں اے عمر! بلکہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اذان کمزوروں کے لئے چھوڑ دیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موذنوں کے گوشت کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (سورۃ حم سجدہ آیت ۳۳) ترجمہ ”اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) اللہ کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔“ اور اس سے مراد موذن ہے، جب وہ حسی علی الصلوٰۃ کہتا

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۲۲۶) ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱

ص ۳۲۶) ولیہ عبدالرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعیف

ہے تو اس نے اللہ کی طرف بلایا اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس نے خود نیک عمل کیا اور جب وہ شہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرمانبردار مسلمانوں میں شمار ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو معشر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا اگر میں موذن ہوتا تو میں رض حج تو ضرور ادا کرتا باقی نفل حج اور عمرہ نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہ کرتا اور اگر فرشتے آسمان سے انسانی شکل میں اترا کرتے تو اذان دینے میں کوئی ان سے آگے نہ نکل سکتا۔ حضرت قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ہم لوگ حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا تمہارے موذن کون لوگ ہیں؟ ہم نے کہا ہمارے غلام اور آزاد کردہ غلام تو فرمایا یہ تو تمہارا بہت بڑا نقص ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو خلیفہ نہ بنتا بلکہ موذن بنتا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے کہ میں نے حضورؐ سے حسن و حسینؑ کے لئے اذان کیوں نہیں مانگ لی، اگر میں مانگتا تو حضورؐ دونوں کو موذن بناتے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے موذن تاہینا لوگ ہوں کہ وہ طہارت کا اور نماز کے صحیح وقت کا خیال نہیں رکھ سکیں گے (یا قاری لوگ ہوں) کہ ان کے پڑھانے اور تعلیم کا حرج ہوگا۔

حضرت یحییٰ بکاءؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا لیکن میں تو تم سے اللہ کے لئے بغض رکھتا ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا کیوں؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کیونکہ تم اذان میں گانے کی آواز بناتے ہو اور پھر اذان پر اجرت بھی لیتے ہو۔

نبی کریمؐ نے حضرت خالد بن سعید بن عاصؓ کو یمن بھیجا اور فرمایا اگر تم کسی بستی کے پاس سے گزرو اور تمہیں وہاں سے اذان کی آواز سنائی نہ دے تو (حملہ کر کے) ان لوگوں کو قیدی بنا لیتا، چنانچہ قبیلہ بنو زبید کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے وہاں سے اذان کی آواز نہ سنی اس پر انہوں نے اس قبیلہ کو قیدی بنا لیا۔ پھر حضرت عمرو بن معدیکربؓ حضرت خالد بن سعیدؓ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے اس قبیلہ کے بارے میں بات کی تو حضرت خالد نے وہ قیدی ان کو رہہ کر دیئے۔

- ۱۔ اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان و اخرجہ ابو الشیخ عن الرصافی فی کتاب الاذان مثلہ کما فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۶) ۲۔ عند ابن زنجویہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۵)
- ۳۔ اخرجہ عبدالرزاق وابن ابی شیبہ وابن سعد والبیہقی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۶۵)
- ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۳۲۶) وفيہ الحارث وهو ضعيف
- ۵۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲) ورجاله ثقات
- ۶۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۳) وفيہ یحییٰ البکاء ضعفہ احمد و ابو زرعة و ابو داود و وثقه یحییٰ بن سعید القطان وقال محمد بن سعد کان ثقة ان شاء اللہ
- ۷۔ اخرجہ ابن عساکر عن خالد بن سعید عن ابیہ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۲۹۸)

حضرت طلحہ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکرؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ جب اپنے امیروں کو مرتدین کے لئے بھیج رہے تھے تو ان کو یہ حکم دے رہے تھے کہ جب تم کسی علاقے کا گھیراؤ کر لو تو اگر تمہیں وہاں اذان سنائی دے تو (لڑائی سے) ہاتھ روک لو اور ان سے پوچھ لو کہ تمہیں ہماری کن باتوں پر اعتراض ہے؟ اور اگر اذان سنائی نہ دے تو ان پر چاروں طرف سے چھاپ مارو اور انہیں قتل کرو اور (ان کی کھیتیاں) جلاؤ اور انہیں خوب اچھی طرح قتل کرو اور زخمی کرو اور تمہارے نبیؐ کے انتقال کی وجہ سے تم میں کسی قسم کی کمزوری نظر نہ آئے۔ حضرت زہریؒ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مرتدین سے لڑنے کیلئے صحابہؓ کو بھیجا تو ان سے فرمایا رات کو شب خون مارو لیکن جہاں اذان سنو وہاں حملہ کرنے سے رک جاؤ کیونکہ اذان ایمانی شعار ہے۔

## نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ کا نماز کا انتظار کرنا

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب مسجد میں نماز کھڑی ہوتی تو حضورؐ دیکھتے اگر لوگ تھوڑے ہوتے تو آپ بیٹھ جاتے اور نماز نہ پڑھاتے اور جب دیکھتے کہ لوگ زیادہ جمع ہو گئے ہیں تو نماز پڑھ دیتے۔ حضرت عبد اللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب تک جوتے کی آہٹ سنتے رہتے اس وقت تک انتظار فرماتے رہتے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ایک مرتبہ ایک لشکر تیار کیا اس میں آدمی رات ہو گئی پھر آپ نماز کے لئے باہر تشریف لائے اور فرمایا اور لوگ تو نماز پڑھ کر گھروں کو واپس جا چکے ہیں لیکن تم نماز کا انتظار کر رہے ہو غور سے سنو! جب تک تم نماز کا انتظار کرو گے اس وقت تک نماز ہی میں شمار ہو گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ نے مغرب کی نماز پڑھائی اس کے بعد کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ وہاں مسجد میں ٹھہرے رہے پھر حضورؐ ان کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں نے ایک فریضہ ادا کر لیا اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔

۱۔ اخرجہ البیہقی ۲۔ عند عبدالرزاق کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۱۴۱) ۳۔ اخرجہ ابوداؤد  
 ۴۔ عند ابن ابی شیبہ کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۲۴۶) ۵۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ ورجالہ ثقات  
 و عندہ ایضا و ابن جریر عن جابر رضی اللہ عنہ بنحوہ کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۱۹۳)  
 ۶۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۲۴۵) و اخرجہ ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ  
 عنہما بنحوہ ورواہ ثقات کما فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۴۶)

حضرت ابو امامہ ثقفیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت معاویہؓ دوبارہ مسجد میں آئے (ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے) اور لوگوں سے کہا آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں میں ابھی آتا ہوں، چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ پھر ہمارے پاس آئے اس وقت انھوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جب وہ عصر کی نماز پڑھا چکے تو انہوں نے کہا کیا میں آپ لوگوں کو وہ کام نہ بتاؤں جو خود حضورؐ نے کیا ہے؟ ہم نے کہا جی ضرور بتائیں حضرت معاویہؓ نے کہا ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ نے حضور کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی پھر مسجد میں بیٹھے رہے پھر حضور ان کے پاس سے باہر تشریف لائے اور فرمایا ابھی تک تم لوگ مسجد سے گئے نہیں؟ انھوں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا چونکہ تم نماز کا انتظار کر رہے ہو اس لئے کاش تم دیکھ لیتے کہ تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور پھر تمہاری وجہ سے نخر فرماتے ہوئے اپنے فرشتوں کو تمہیں بیٹھے ہوئے دکھایا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضورؐ نے عشاء کی نماز آدھی رات تک موخر فرمائی پھر نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اور لوگ تو نماز پڑھ کر سو چکے ہیں لیکن تم جب سے نماز کا انتظار کر رہے ہو اس وقت سے تم نماز ہی میں شمار ہو رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی جب تک نماز کی وجہ سے مسجد میں رکا رہتا ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اے اللہ! اس پر رحم فرما اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑا نہ ہو جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ صحابہؓ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جب تک بندہ اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ! اس کی مغفرت فرما! اے اللہ! اس پر رحم فرما، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک وہ واپس نہ چلا جائے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے کسی نے پوچھا کہ وضو ٹوٹ جانے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ہوا آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے خارج ہو جائے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا ناگوار یوں کے باوجود وضو پورا کرنا اور مسجدوں کی طرف قدم زیادہ اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہی ہے دشمن کی سرحد پر

۱۔ اخرجه الطبرانی فی الکبیر کذا فی المعجم (ج ۲ ص ۳۸) ۲۔ اخرجه البخاری

۳۔ عند البخاری ایضا ۴۔ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۴۵)

پہرہ دینا (یہاں دشمن سے مراد شیطان ہے۔) ۱۱

حضرت داؤد بن صالحؑ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابوسلمہؓ نے فرمایا اے میرے بھتیجے! کیا تم جانتے ہو کہ آیت اصْبِرْ وَاَوْصَابِرْ وَاَوْصَابِرْ وَاَوْصَابِرْ کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ (سورت آل عمران آیت ۲۰۰) ترجمہ ”خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لئے مستعد رہو۔“ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضورؐ کے زمانہ میں دشمن کی سرحد پر پہرہ دینے کے لئے کوئی غزوہ نہیں ہوتا تھا (جس میں ہر وقت پہرہ دینے اور مقابلہ کے لئے مستعد رہنا پڑے) بلکہ دشمن سے مقابلہ کے لئے ہر وقت مستعد رہنے کی صورت یہ تھی کہ ایک نماز کے بعد (مسجد میں بیٹھ کر) دوسری نماز کا انتظار کیا جائے۔ ۱۲

حضرت انسؓ فرماتے کہ یہ آیت تَنَجَّافِي جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (سورت سجدہ آیت ۱۶) اس نماز کے انتظار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے عتہ کہا جاتا ہے یعنی نماز عشاء۔ ترجمہ ”ان کے پہلو خواہاں ہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔“ ۱۳

## نماز باجماعت کی تاکید اور اس کا اہتمام

حضرت عمرو بن ام مکتومؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نابینا ہوں میرا گھر دور ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا تو ایک آدمی ہے لیکن اس کا مجھ سے جوڑ نہیں وہ میری بات نہیں مانتا تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضورؐ نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا پھر اجازت دینے کی گنجائش نہیں۔ ۱۴ امام احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن ام مکتومؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورؐ مسجد تشریف لائے۔ آپ ﷺ کو نمازیوں کی تعداد میں کچھ کمی نظر آئی تو آپؐ نے فرمایا میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں مسجد میں نماز باجماعت کے لئے لوگوں کا کسی کو امام بناؤں اور خود مسجد سے باہر جاؤ اور جو آدمی مجھے نماز باجماعت چھوڑ کر گھر بیٹھا ہوا ملے اس کا گھر جلا دوں۔ اس پر میں نے عرض کیا میرے اور مسجد کے درمیان کھجور کے درخت اور کچھ اور قسم کے درخت ہیں اور ہر وقت مجھے لے کر آنے والا ملتا نہیں کیا میرے لئے اس بات کی گنجائش ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ حضورؐ نے پوچھا کیا تم اقامت کی آواز سنتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں

۱۔ اخروہ ابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۴۷)

۲۔ اخروہ الحاکم وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۵۱)

۳۔ اخروہ الترمذی و صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۶)

۴۔ اخروہ احمد، داؤد و ابن ماجہ و ابن خزیمہ فی صحیحہ و الحاکم



آپ نے فرمایا تو پھر نماز کے لئے مسجد میں آیا کرو۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہوا سے چاہئے کہ وہ نمازوں کو اس جگہ ادا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہے یعنی مسجد میں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ایسی سنتیں جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، انہیں میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فلاں شخص پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑنے والے بن جاؤ گے اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر کسی مسجد کے ارادے سے چلے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے لئے ایک نیکی لکھیں گے اور ایک درجہ بلند کریں گے اور ایک گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا تھا (ورنہ حضور کے زمانے میں عام منافق کو بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی) ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا دوسری روایت میں یہ ہے کہ ہم تو اپنا حال یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہوتا یا بار ہوتا وہ تو جماعت سے رہ جاتا ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے چل سکتا تھا وہ بھی نماز میں آ جاتا تھا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور نے ہمیں ایسی سنتیں سکھائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں۔ ان سنتوں میں سے ایک سنت اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے جہاں اذان ہوتی ہو۔ طیبی کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک نے اپنے گھر میں نماز کی ایک جگہ بنا رکھی ہے جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر تم لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے۔

حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ کل اللہ کی بارگاہ میں امن کے ساتھ حاضر ہو وہ ان پانچوں نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرے جہاں اذان ہوتی ہے، اس لئے کہ یہ کام ایسی سنتوں میں سے ہے جو سراسر ہدایت ہیں اور اسے تمہارے نبی کریم نے سنت قرار دیا ہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں نماز کی جگہ ہے میں اس میں نماز پڑھا کروں گا کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑنے والے ہو جاؤ گے اور اگر تم اپنے نبی کریم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔

۱۔ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۳۸) ۲۔ اخرجہ مسلم و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ  
 کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۲۳) و اخرجہ ایضا عبدالرزاق و الضیائی المختارہ بطولہ نحوہ  
 کما فی الکنز (ج ۳ ص ۱۸۱) و اخرجہ الطیبی (ص ۳۰) ایضا نحوہ  
 ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۵)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو فجر اور عشاء میں مسجد میں نہ پاتے تو اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی ہو جاتی۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک دن حضرت سلیمان بن ابی حمزہ کو فجر کی نماز میں نہ پایا پھر حضرت عمرؓ بازار گئے۔ حضرت سلیمانؓ کا گھر مسجد اور بازار کے درمیان تھا۔ حضرت عمرؓ حضرت سلیمانؓ کی والدہ حضرت شفاء رضی اللہ عنہا کے پاس سے گزرے تو ان سے فرمایا آج صبح کی نماز میں میں نے سلیمان کو نہیں دیکھا حضرت شفاءؓ نے کہا کہ وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے رہے، اس لئے صبح ان کی آنکھ لگ گئی، حضرت عمرؓ نے فرمایا فجر کی جماعت میں شریک ہونا مجھے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو عدی بن کعب کی حضرت شفاء رضی اللہ عنہا رمضان میں حضرت عمرؓ کے پاس آئیں تو حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے آج میں نے صبح کی نماز میں (تمہارے خاوند) ابو حمزہ کو نہیں دیکھا؟ حضرت شفاءؓ نے کہا آج رات انہوں نے اللہ کی عبادت میں بہت زور لگایا جس کی وجہ سے وہ تھک گئے اور سستی کی وجہ سے فجر کی نماز کیلئے مسجد نہ گئے گھر میں نماز پڑھ کر سو گئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! ان کا صبح کی نماز میں شریک ہونا مجھے ساری رات عبادت میں زور لگانے سے زیادہ محبوب ہے۔<sup>۳</sup>

حضرت شفاء بنت عبد اللہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں حضرت عمر بن خطابؓ میرے پاس میرے گھر آئے اور انہوں نے میرے قریب دو مردوں کو سوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا ان دونوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! ان دونوں نے لوگوں کے ساتھ عشاء اور تراویح کی نماز پڑھی اور صبح تک نماز پڑھتے رہے اور پھر صبح کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مجھے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔<sup>۴</sup>

حضرت ام درداء فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو درداءؓ میرے پاس آئے وہ غصہ میں بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! مجھے حضرت محمدؐ کے دین میں سے صرف اسی عمل کا پتہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر جماعت سے نماز

۱۔ اخرجہ الطبرانی وابن خزيمة في صحيحه كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۲۳۲) و اخرجہ سعيد بن منصور عن ابن عمر نحوه كذا في الكنز (ج ۳ ص ۲۳۳) والبزار كذا في المجمع (ج ۲ ص ۳۰) وقال رجال الطبرانی موثقون

۲۔ اخرجہ مالك كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۲۳۵) ۳۔ عند عبد الرزاق

۴۔ عند عبد الرزاق ايضا كذا في كنز العمال (ج ۳ ص ۲۳۳)

پڑھتے ہیں (اور اب اس میں سستی شروع ہو گئی ہے) حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عشاء کی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو پھر وہ باقی ساری رات عبادت کرتے رہتے۔ ۲۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کوئی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو اگلی نماز تک مسلسل نماز پڑھتے رہتے۔ ۳۔

حضرت عنبسہ بن ازہرؓ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا دستور تھا کہ جب ان میں سے کسی کی شادی ہوتی تو وہ چند دن چھپا رہتا اور فجر کی نماز کے لئے باہر نہ آتا تو حضورؐ کے صحبت یافتہ صحابی حضرت حارث بن حسانؓ کی شادی ہوئی وہ فجر کی نماز کے لئے گھر سے باہر آئے تو کسی نے ان سے کہا کہ آج رات ہی تو آپ کی رخصتی ہوئی ہے اور آپ نماز باجماعت کے لئے گھر سے باہر آرہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! جو عورت مجھے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے وہ بری عورت ہے۔ ۴۔

### صفوں کو سیدھا کرنا اور ان کی ترتیب بنانا

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ صف کے کنارے تشریف لے جاتے اور لوگوں کے سینے اور کندھوں کو سیدھا کراتے اور فرماتے صفیں ٹیڑھی نہ بناؤ ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ۵۔ حضرت براءؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لے جاتے اور ہاتھ لگا کر ہمارے سینوں اور کندھوں کو سیدھا کرتے اور فرماتے صفیں ٹیڑھی نہ بناؤ۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۶۔

حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگ ایسے صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں کیسے بناتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں (پھر دوسری صفیں بناتے ہیں) اور صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ۷۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے حضورؐ کے ساتھ نماز پڑھی پھر آپؐ نے ہمیں اشارے سے بیٹھنے کو فرمایا تو ہم بیٹھ گئے پھر آپؐ نے فرمایا تم لوگ صفیں ایسے کیوں نہیں

۱۔ اخرجہ البخاری ۲۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۳) و اخرجہ الطبرانی ایضا

۳۔ عند البیہقی کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۳۲۹) ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر کذا فی

مجمع الزوائد (ج ۲ ص ۴۱) ۵۔ اخرجہ ابن خزیمہ فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۱

ص ۲۸۲) ۶۔ عند ابی داؤد باسناد حسن ۷۔ اخرجہ مسلم والاربعة الا

الترمذی کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۸۳)

بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور ہماری صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے کہ گویا ان کے ذریعے تیر سیدھے کئے جائیں گے۔ کرتے کرتے آپ کو اندازہ ہوا کہ ہم صفیں سیدھا کرنے کی بات اچھی طرح سمجھ گئے ہیں (اور ہم خود ہی صفیں سیدھی بنانے لگ گئے ہیں تو آپ نے صفیں سیدھی کرانا چھوڑ دیں) پھر ایک دن آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے اور آپ تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے بدل دیں گے (یا تم میں آپس کی مخالفت پیدا کر دیں گے) ۲ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ آدمی اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ اور اپنا گھٹنا اس کے گھٹنے کے ساتھ اور اپنا ٹخنہ اس کے ٹخنے کے ساتھ ملا رہا ہے۔ ۳

حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عمر صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیتے (اور اس کے لئے کچھ آدمی بھیجتے جو صفیں سیدھی کراتے) جب وہ لوگ واپس آ کر بتاتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں تو پھر حضرت عمر تکبیر کہتے۔ ۴ حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے اے فلانے! آگے بڑھ جا، اے فلانے! ذرا آگے ہو جا اور غالباً یہ بھی فرماتے تھے کہ کچھ لوگ پیچھے ہٹے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دیں گے۔ ۵ حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو میں نے دیکھا کہ وہ جب نماز پڑھانے کیلئے آگے بڑھتے تو لوگوں کے کندھے اور پاؤں دیکھا کرتے۔ ۶

حضرت ابونصرہ کہتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہونے لگتی تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے سیدھے ہو جاؤ اے فلانے! آگے ہو جا اے فلانے! پیچھے ہو جا تم لوگ اپنی صفیں سیدھی کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم لوگ صفیں بنانے میں فرشتوں والا طریقہ اختیار کرو پھر یہ آیت پڑھتے وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (سورت صافات آیت ۱۶۵-۱۶۶) ترجمہ اور (اللہ کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت) ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم (اللہ کی) پاکی بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں۔ کے

۱۔ عند ابی داؤد و ابن ماجہ کما فی الكنز (ج ۳ ص ۲۵۵) ۲۔ اخرجه البخاری

۳۔ عند ابی داؤد ابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۸۹)

۴۔ اخرجه مالک و عبدالرزاق و البیهقی ۵۔ عند عبدالرزاق

۶۔ عند عبدالرزاق ایضا کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۵۳)

۷۔ اخرجه عبد بن حمید و ابن جریر و ابن ابی حاتم کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۵۵)

حضرت مالکؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفانؓ کے ساتھ تھا اور ان سے بات کر رہا تھا کہ وہ میرے لئے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں کہ اتنے میں نماز کی اقامت ہوگئی۔ میں ان سے بات کرتا رہا اور وہ اپنی جوتیوں سے کنکریاں برابر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ آگئے جن کے ذمہ حضرت عثمانؓ نے صفیں سیدھی کرنا لگایا ہوا تھا اور انھوں نے بتایا کہ صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عثمانؓ نے مجھ سے فرمایا تم بھی صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عثمانؓ نے تکبیر کہی۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں سیدھے ہو جاؤ تمہارے دل سیدھے ہو جائیں گے اور مل جل کر کھڑے ہو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ ۲

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا حال تو یہ دیکھا تھا کہ جب تک صفیں مکمل نہ ہو جائیں نماز کھڑی نہ ہوتی۔ ۳

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں میں نماز کی پہلی صف کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ۴

حضرت عبدالعزیز بن رفیعؓ کہتے ہیں حضرت ابن زبیرؓ کے زمانہ خلافت میں مکہ میں مقام ابراہیم کے پاس حضرت عامر بن مسعود قرشی رضی اللہ عنہ نے پہلی صف میں مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے ان سے پوچھا کیا یہ کہا جاتا تھا کہ پہلی صف میں خیر ہے؟ انھوں نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم! حضورؐ نے فرمایا اگر لوگوں کو صف اول کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو قرعہ ہی سے وہ صف اول میں کھڑے ہو سکیں۔ ۵

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں تم لوگ پہلی صف کو لازم پکڑو اور پہلی صف میں بھی دائیں طرف کو لازم پکڑو اور ستونوں کے درمیان صف بنانے سے بچو (کیونکہ وہاں صف کی جگہ نہیں ہوتی) ۶

حضرت قیس بن عبادؓ کہتے ہیں میں ایک دفعہ مدینہ منورہ گیا۔ جب نماز کھڑی ہوئی تو میں آگے بڑھ کر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق والبیہقی عن ابی سہیل بن مالک عن ابیہ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۲۵۵)

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۲۵۵)

۳۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص ۹۰) رجالہ رجال الصحیح

۴۔ عند الطبرانی وفيه رجل لم يسم كما قال الہیثمی (ج ۲ ص ۹۲) ۵۔ اخرجہ الطبرانی

فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۹۲) رجالہ لقات الا ان عامرا اختلف فی صحبت

۶۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط والکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۹۲) وفيه اسماعیل بن مسلم

المکی وهو ضعيف

صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے ان کے ساتھ ایک آدمی بھی آیا تھا جس کا رنگ گندی اور داڑھی ہلکی تھی۔ اس نے لوگوں کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے پیچھے ہٹا دیا اور میری جگہ خود کھڑا ہو گیا۔ یہ بات مجھ پر بہت گراں گزری۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم میرے اس رویے کا برا نہ مناؤ اور اس کا غم نہ کرو کیا یہ بات تم پر گراں گزری ہے؟ میں نے حضورؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پہلی صف میں صرف مہاجر اور انصار ہی کھڑے ہوں، میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت قیسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ منورہ کی مسجد نبویؐ میں اگلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا اور اس نے مجھے زور سے کھینچ کر پیچھے کر دیا اور خود میری جگہ کھڑا ہو گیا سلام پھیر کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو وہ حضرت ابی بن کعبؓ تھے انھوں نے فرمایا اے نوجوان! اللہ تمہیں غزودہ نہ کرے یہ حضورؐ کی طرف سے ہمیں حکم تھا پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

## امام کا اقامت کے بعد مسلمانوں کی ضروریات میں مشغول ہونا

حضرت اسامہ بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ نماز کھڑی ہو جاتی تھی اور کوئی آدمی حضورؐ سے اپنی ضرورت کی بات کرنے لگ جاتا اور حضورؐ کے اور قبلہ کے درمیان کھڑا ہو جاتا اور کھڑے ہو کر حضورؐ سے باتیں کرتا رہتا۔ میں بعض دفعہ دیکھتا کہ حضورؐ کے زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے کچھ لوگ اونگھنے لگتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ عشاء کی نماز کھڑی ہو جاتی تو حضورؐ کسی آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے لگ جاتے (زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے) بہت سے صحابہؓ جاتے پھر وہ نماز کیلئے اٹھتے۔

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں کہ موذن جب اقامت کہہ دیتا اور لوگ چپ ہو جاتے تو اس کے بعد حضورؐ سے کوئی آدمی ضرورت کی بات کرنے لگتا۔ حضورؐ اس کی ضرورت پوری کرتے اور حضرت انس بن مالکؓ نے بتایا کہ حضورؐ کی ایک چھڑی تھی جس پر آپ ٹیک لگا لیا کرتے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضورؐ بہت رحمدل تھے جو بھی آپ کے پاس آتا (اور سوال

۱۔ أخرجه الحاكم في المستدرک (ج ۳ ص ۳۰۳) قال الحاكم و وافقه الذهبي هذا حديث  
تفرد به الحاكم عن قتادة وهو صحيح الاسناد ۲۔ أخرجه ابو نعیم فی الحیلة (ج ۱ ص ۲۵۲)  
۳۔ أخرجه عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۲۳۳) وأخرجه عبدالرزاق ایضا و ابو الشیخ فی  
الاذان عن انس مثله کما فی الكنز (ج ۳ ص ۲۴۳) ۴۔ عند ابن عساکر کذا فی  
الکنز (ص ۲۴۳) ۵۔ أخرجه ابو الشیخ فی الاذان کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۴۳)

کرتا اور آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا) تو اس سے آپ وعدہ کر لیتے (کہ جب کچھ آئے گا تو تمہیں ضرور دوں گا) اور اگر کچھ پاس ہوتا تو اسی وقت اسے دے دیتے۔ ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو گئی ایک دیہاتی نے آکر آپ کے کپڑے کو پکڑ لیا اور کہا کہ میری تھوڑی سی ضرورت باقی رہ گئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اسے بھول جاؤں گا، چنانچہ حضور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب اس کی ضرورت سے فارغ ہوئے تو پھر آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔

حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ بعض دفعہ نماز کھڑی ہو جاتی تھی پھر حضرت عمرؓ کے سامنے آکر کوئی آدمی ان سے بات شروع کر دیتا تو بعض دفعہ حضرت عمرؓ کے زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے ہم میں سے کچھ آدمی بیٹھ جاتے۔

حضرت موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان ضمیر پر تھے اور موذن نماز کے لیے اقامت کہہ رہا تھا اس وقت میں نے سنا کہ وہ لوگوں سے حالات اور چیزوں کے بھاؤ پوچھ رہے تھے۔ صفیں سیدھی کرنے کے عنوان میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمانؓ کے ساتھ تھا اور ان سے بات کر رہا تھا کہ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی۔

## نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے

### زمانہ میں امامت اور اقتداء

صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بارے میں حضرت عمرؓ کی ایک لمبی حدیث ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عباسؓ نے حضرت ابوسفیانؓ سے کہا اے ابوسفیان! مسلمان ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے اس پر حضرت ابوسفیان مسلمان ہو گئے پھر حضرت عباسؓ انہیں اپنی قیام گاہ پر لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ وضو کے لیے بھاگنے دوڑنے لگے۔ حضرت ابوسفیان نے یہ منظر دیکھ کر کہا اے ابو الفضل! ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کیا انہیں کوئی حکم ملا ہے؟ حضرت عباسؓ نے کہا نہیں۔ یہ تو نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عباسؓ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے بھی وضو کر لیا پھر حضرت عباسؓ انہیں حضور ﷺ کے پاس لے گئے۔ حضور جب نماز شروع کرنے لگے تو آپ نے اللہ اکبر کہا۔ اس پر لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور رکوع میں گئے تو لوگ بھی رکوع میں چلے گئے پھر حضور نے سر مبارک اٹھایا تو لوگوں نے بھی سر اٹھالیا تو حضرت ابوسفیانؓ نے کہا کہ آج جیسا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان یہاں سے لے کر وہاں تک سارے حضور کی جتنی اطاعت کر رہے ہیں

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۴۳) ۲۔ اخرجہ ابو الربیع الزہرانی کذا فی

الکنز (ج ۳ ص ۲۳۰) ۳۔ اخرجہ ابن حبان کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۲۳۳) و اخرجہ ابن سعد

(ج ۳ ص ۵۹) عن موسیٰ لحوہ

ان سے زیادہ اطاعت نہ تو شرفاء فارس میں دیکھی اور نہ صدیوں سے حکمرانی کرنے والے رومیوں میں۔ حضرت ابوسفیانؓ نے کہا اے ابوالفضل! تمہارا بھتیجا تو بڑے ملک والا ہو گیا تو حضرت عباسؓ نے ان سے کہا نہیں یہ ملک اور بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔

حضرت میمونہؓ فتح مکہ کا غزوہ بیان کرتی ہیں تو اس میں یہ بھی فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کھڑے ہو کر وضو کرنے لگے تو صحابہؓ وضو کے پانی پر جھپٹنے لگے اور پانی لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ حضرت ابوسفیانؓ نے کہا اے ابوالفضل! تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی ہو گئی۔ حضرت عباسؓ نے کہا نہیں یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں میں اتنا شوق ہے۔ حضرت عروہؓ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات حضرت ابوسفیانؓ نے حضرت عباسؓ کے پاس گزاری۔ صبح کو حضرت ابوسفیانؓ نے دیکھا کہ لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں استنجاء اور طہارت کے لیے کھڑے ادھر ادھر آ جا رہے ہیں تو وہ ڈر گئے (کہ مسلمان شاید حملہ کرنے لگے ہیں) اور انہوں نے حضرت عباسؓ سے پوچھا ان لوگوں کو کیا ہوا؟ حضرت عباسؓ نے کہا ان لوگوں نے اذان سن لی ہے، اس لیے نماز کی تیاری کے لیے یہ لوگ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں پھر جب نماز ہوئی اور حضرت ابوسفیانؓ نے دیکھا کہ حضورؐ کے رکوع کرنے پر تمام صحابہؓ رکوع میں چلے گئے اور حضورؐ کے سجدہ کرنے پر سب نے سجدہ کیا تو انہوں نے کہا اے عباس! حضورؐ انھیں جس بات کا حکم دیتے ہیں یہ اسے فوراً کرتے ہیں۔ حضرت عباسؓ نے کہا جی ہاں۔ اللہ کی قسم! اگر حضورؐ انھیں کھانا پینا چھوڑنے کا حکم دے دیں تو یہ اسے بھی پورا کر دیں گے۔ ۳۔ نبی کریم ﷺ کے نماز کے شوق کے باب میں حضرت عائشہؓ کی حدیث گزر چکی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد حضورؐ نے حضرت ابوبکرؓ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکرؓ بہت نرم دل آدمی تھے۔ اس لئے انہوں نے کہا اے عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا نہیں، اس کے آپ زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ ان دنوں حضرت ابوبکرؓ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بخاری میں حضرت عائشہؓ کی حدیث میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کسی نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابوبکرؓ تو بہت رفیق القلب ہیں جلد رو پڑتے ہیں۔ جب آپؐ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھائیں گے۔ اس نے دوبارہ وہی بات کہی تو حضورؐ نے دوبارہ یہی جواب دیا بلکہ تیسری بار بھی یہی جواب دیا اور فرمایا تم تو حضرت یوسفؑ کی ساتھن (زلیخا) کی طرح ہو (کہ اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ۔ اوپر سے کہہ رہی ہو کہ ابوبکرؓ رو تے بہت

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبہ کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۳۰۰)

۲۔ عند الطبرانی فی الصغیر والکبیر قال الہیثمی (ج ۶ ص ۱۶۳) یوفیہ یحییٰ بن سلیمان بن

۳۔ ذکرہ ابن کثیر فی البدایہ (ج ۳ ص ۲۹۱)

نضلة وهو ضعيف.



ہیں اور اندر دل میں یہ ہے کہ حضور کی جگہ کھڑے ہونے سے لوگ بد فالی لیں گے جیسے کہ زینخانے اور سے تو عورتوں کا اکرام کیا اور اندر سے مقصود انہیں حضرت یوسف کو دکھانا تھا) ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

حضرت عبداللہ بن زعمہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی بیماری بڑھ چکی تھی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مسلمان بھی تھے حضرت بلالؓ نے حضورؐ کو نماز کی اطلاع دی۔ حضورؐ نے فرمایا کسی سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، چنانچہ میں وہاں سے باہر گیا تو دیکھا کہ لوگوں میں حضرت عمرؓ تو ہیں اور حضرت ابو بکرؓ نہیں ہیں، میں نے کہا اے عمر! آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمرؓ کی آواز اونچی تھی جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو حضورؐ نے ان کی آواز سن کر فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان اس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور مسلمان اس کا انکار کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے حضرت ابو بکرؓ کے پاس آدمی بھیج کر بلایا۔ حضرت عمرؓ نے یہ نماز پڑھائی اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ آئے اور پھر انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن زعمہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مجھ سے کہا تیرا بھلا ہوا! اے ابن زعمہ! تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ کی قسم! جب تم نے مجھے نماز پڑھانے کو کہا تو میں یہی سمجھا کہ حضور ﷺ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کبھی نماز نہ پڑھاتا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم! حضورؐ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا لیکن جب مجھے حضرت ابو بکرؓ نظر نہ آئے تو حاضرین میں آپ ہی مجھے نماز پڑھانے کے سب سے زیادہ حقدار نظر آئے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرؓ کی آواز سنی تو حضورؐ نے حجرہ سے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا نہیں، نہیں لوگوں کو صرف (ابو بکر) ابن ابی قحافہ ہی نماز پڑھائیں۔ یہ بات آپ نے بہت غصہ میں فرمائی۔ ۲ حضرات صحابہ کرام کا امر خلافت میں حضرت ابو بکرؓ کو مقدم سمجھنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے حضورؐ نے (نماز میں) ہمارا امام بننے کا حکم دیا ہو اور انہوں نے حضورؐ کے انتقال تک ہماری امامت کی ہو اور حضرت علی اور حضرت زبیرؓ نے فرمایا ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ حضورؐ کے بعد لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکرؓ ہیں۔ یہ حضورؐ کے غار کے ساتھی ہیں اور (قرآن کے الفاظ کے مطابق) انسانی اثنین دو میں سے دوسرے ہیں۔ ہم ان کی شرافت اور بزرگی کو خوب پہچانتے ہیں اور حضورؐ نے اپنی زندگی میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔

۱۔ اخرجہ احمد و ہکذا رواہ ابو داؤد کما فی البدایہ (ج ۵ ص ۲۳۲) و ہکذا اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۴۱) وقال هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ  
۲۔ عند ابی داؤد کما فی البدایہ (ج ۵ ص ۲۳۲)

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہو۔ حضرت عمرؓ انصار کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں؟ لہذا تم میں سے کس کا دل اس بات سے خوش ہو سکتا ہے کہ وہ آگے ہو کر حضرت ابو بکرؓ کا امام بنے؟ تمام انصار نے کہا ہم حضرت ابو بکرؓ سے آگے بڑھ کر امام بننے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور میں وہاں موجود تھا، غائب نہیں تھا اور بیمار بھی نہیں تھا، چنانچہ حضور نے جس آدمی کو ہمارے دین یعنی نماز کی امامت کے لیے پسند فرمایا اسی کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا۔ حضرت ابولیلیٰ کنڈی کہتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ بارہ تیرہ سو اوروں کے ساتھ آئے۔ یہ تمام سوار حضرت محمد ﷺ کے صحابہ میں سے تھے جب نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا اے ابو عبد اللہ! (نماز پڑھانے کے لیے) آگے بڑھیں۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا ہم آپ لوگوں کے امام نہیں بنتے اور آپ لوگوں کی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے ذریعہ ہدایت عطا فرمائی ہے چنانچہ ان لوگوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے چار رکعت نماز پڑھائی۔ جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت سلمانؓ نے فرمایا ہمیں چار رکعت کی ضرورت نہیں تھی ہمیں چار کی آدھی یعنی دو رکعت نماز کافی تھی۔ ہم تو سفر میں ہیں، اس لیے ہمیں رخصت پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ۳۔

حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت اسیدؓ کے بیٹوں کے غلام حضرت ابوسعیدؓ نے کھانا تیار کیا پھر انھوں نے حضرت ابو ذرؓ، حضرت حذیفہؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کو کھانے کے لیے بلایا یہ حضرات تشریف لے آئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت ابو ذرؓ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ان سے حضرت حذیفہؓ نے کہا گھر کا مالک آپ کے پیچھے کھڑا ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابو ذرؓ نے کہا اے ابن مسعود! کیا یہ بات اسی طرح ہے؟ انھوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضرت ابو ذرؓ پیچھے آگئے۔ حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ حالانکہ میں غلام تھا لیکن انھوں نے مجھے آگے کیا آخر میں نے ان سب کی امامت کرائی۔ حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ مدینہ کے ایک کنارے میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی زمین تھی وہاں ایک مسجد میں نماز کھڑی ہونے لگی۔ مسجد کے امام ایک غلام تھے۔ حضرت ابن عمرؓ نماز میں شریک ہونے کے لیے اس مسجد میں داخل ہوئے

۱۔ اخرجه النسائي كذا في جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۰۶) ۲۔ كذا ذكر في منتخب الكنز (ج ۳ ص ۳۵۴) ۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۸۹) و اخرجه الطبرانی فی الكبير و ابو لیلی ضعفه ابن معین كما قال الهیثمی (ج ۲ ص ۱۵۶) ۴۔ اخرجه عبدالرزاق

تو اس غلام نے ان سے کہا آپ آگے تشریف لے چلیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا تم اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے زیادہ حقدار ہو، چنانچہ اس غلام نے نماز پڑھائی۔  
حضرت عبداللہ بن حنظلہؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت قیس بن سعد ابن عبادہؓ کے گھر میں تھے ہمارے ساتھ نبی کریم ﷺ کے چند صحابہ بھی تھے ہم نے حضرت قیسؓ سے کہا آپ (نماز پڑھانے کے لیے) آگے بڑھیں انھوں نے کہا میں ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا حضورؐ نے فرمایا ہے آدمی اپنے بستر کے اگلے حصہ کا۔ اپنی سواری کا اگلے حصے کا، اور اپنے گھر میں امام بننے کا زیادہ حقدار ہے، چنانچہ انھوں نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا، اس نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔

حضرت علقمہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو ملنے ان کے گھر گئے وہاں نماز کا وقت آ گیا حضرت ابو موسیٰؓ نے کہا اے ابو عبد الرحمن! آپ (نماز پڑھانے کے لیے) آگے بڑھیں کیونکہ آپ کی عمر بھی زیادہ ہے اور علم بھی۔ حضرت ابن مسعودؓ نے کہا نہیں آپ آگے بڑھیں کیونکہ ہم آپ کے پاس آپ کے گھر میں اور آپ کی مسجد میں آئے ہیں، اس لیے آپ زیادہ حقدار ہیں؛ چنانچہ حضرت ابو موسیٰؓ آگے بڑھے اور انھوں نے اپنی جوتی اتاری اور نماز پڑھائی۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو حضرت ابن مسعودؓ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ کیا آپ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح) مقدس وادی میں ہیں؟ اور طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہؓ نے ان سے کہا اے ابو موسیٰ! آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ بات سنت میں سے ہے کہ گھر والا (نماز پڑھانے کے لیے) آگے بڑھے لیکن حضرت ابو موسیٰؓ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کے غلام نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔

حضرت قیس بن زہیرؓ فرماتے ہیں میں حضرت حنظلہ بن ربیعؓ کے ساتھ حضرت فرات بن حیانؓ کی مسجد میں گیا وہاں نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت فراتؓ نے حضرت حنظلہؓ سے کہا آپ (نماز پڑھانے کے لیے) آگے بڑھیں۔ حضرت حنظلہؓ نے کہا میں آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور آپ نے ہجرت بھی مجھ سے پہلے کی تھی اور پھر مسجد بھی آپ کی اپنی ہے۔ حضرت فراتؓ نے کہا میں نے حضور ﷺ کو آپ کے بارے میں ایک بات

۱۔ عند عبدالرزاق ایضا کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۴۶) ۲۔ أخرجه البزار وأخرجه الطبرانی فی الاوسط والكبير قال الهيثمي (ج ۲ ص ۶۵) وفيه اسحق بن يحيى بن طلحة ضعفه احمد وابن معين والبخاري ووثقه يعقوب بن شيبة وابن جبان ۳۔ أخرجه احمد قال الهيثمي (ج ۲ ص ۶۶) رواه احمد وفيه رجل لم يسم ورواه الطبرانی متصلاً برجال ثقات. انتهى وأخرجه الطبرانی عن ابراهيم مختصر اور رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي

فرماتے ہوئے سنا تھا (اس کے سننے کے بعد) میں کبھی آپ کے آگے نہیں ہوں گا۔ حضرت حظلہ نے کہا غزوہ طائف میں جس دن میں حضور ﷺ کی خدمت میں گیا تھا اور آپ نے مجھے جاسوس بنا کر بھیجا تھا کیا آپ اس دن وہاں موجود تھے؟ حضرت فرات نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت حظلہ آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اس کے بعد حضرت فرات نے کہا اے قبیلہ بنو عجل والو! میں نے ان کو (امامت کے لیے) اس لیے آگے بڑھایا کیونکہ حضور نے غزوہ طائف کے دن ان کو جاسوس بنا کر طائف بھیجا تھا۔ واپس آ کر انھوں نے حضور کو حالات بتائے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم سچ کہتے ہو اب اپنے بڑاؤ پر واپس چلے جاؤ کیونکہ آج رات تم جاگتے رہے ہو۔ جب حضرت حظلہ وہاں سے چلے تو حضور نے ہم سے فرمایا ان کی اور ان جیسے لوگوں کی اقتداء کیا کرو۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں میں حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا تو امیر مکہ حضرت نافع بن علقمہؓ نے باہر آ کر ہمارا استقبال کیا۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ آپ اپنے پیچھے مکہ والوں کا امیر کس کو بنا کر آئے ہیں؟ حضرت نافع نے کہا حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کو۔ حضرت عمرؓ نے کہا آپ نے تو مکہ میں ایک غلام کو ایسے لوگوں کا امیر بنا دیا ہے جو قریش میں سے ہیں اور حضور ﷺ کے صحابی ہیں۔ حضرت نافع نے کہا جی ہاں میں نے حضرت عبدالرحمن کو سب سے زیادہ اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا پایا اور مکہ ایسی سرزمین ہے جہاں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں تو میں نے چاہا کہ لوگ (نماز میں) ایسے آدمی سے قرآن سُنیں جو اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا واقعی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے بلند کرتے ہیں۔

حضرت عبید بن عمیرؓ فرماتے ہیں حج کے موسم میں مکہ کے پاس ایک چشمہ پر ایک جماعت جمع ہوگئی جب نماز کا وقت آیا تو ابوالسائب کے خاندان کا ایک آدمی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کی زبان فصیح اور صاف نہیں تھی تو حضرت مسور بن مخرمہؓ نے اسے پیچھے کر دیا اور دوسرے آدمی کو آگے کر دیا۔ یہ بات حضرت عمر بن خطابؓ تک پہنچ گئی۔ وہاں تو حضرت عمرؓ نے انھیں کچھ نہ کہا جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمرؓ حضرت مسورؓ سے باز پرس کی۔ حضرت مسورؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ ذرا مجھے مہلت دیں۔ بات یہ ہے کہ اس کی زبان فصیح اور صاف نہیں تھی اور موسم حج کا تھا تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ حجاج کرام اس کی قرأت سن کر اسے ہی اختیار کر لیں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر تم نے ٹھیک کیا۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۶۵) رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ موثقون ورواہ  
ایضا ابو یعلیٰ والہیثمی وابن عساکر عن فیس نحوہ کما فی الکنز (۷ ص ۲۸) ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ فی مسندہ  
کناہی منتخب الکنز (ج ۵ ص ۲۱۶) ۳۔ اخرجہ عبد الرزاق والہیثمی کناہی الکنز (ج ۲ ص ۲۳۶)

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ان سے کہا میں امامت کے لئے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پوچھنا بھول گیا کیا آپ میرے نماز پڑھانے پر راضی ہیں؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں اور اے حضور ﷺ کے خاص صحابی! آپ کے نماز پڑھانے کو کون نا پسند کر سکتا ہے؟ حضرت طلحہؓ نے فرمایا میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کے نماز پڑھانے پر راضی نہ ہوں تو اس کی نماز کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے۔

حضرت انس بن مالکؓ بعض دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرتے تھے (کیونکہ شروع میں یہ بھی بنو امیہ کے خلفاء کی طرح بعض دفعہ نماز کو اتنی دیر سے پڑھتے تھے کہ نماز کا وقت ختم ہو جاتا تھا بعد میں جب یہ خود خلیفہ بنے تھے تو پھر صحیح وقت پر پڑھنے لگ گئے تھے) تو حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت انسؓ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جب تم ان جیسی نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور جب تم ان جیسی نماز نہیں پڑھتے ہو تو میں اپنی نماز پڑھ کر گھر چلا جاتا ہوں۔

حضرت ابو ایوبؓ بعض دفعہ مروان بن حکم کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان سے مروان نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابو ایوبؓ نے فرمایا میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر تم ان جیسی نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں اور اگر تم ان جیسی نہیں پڑھتے ہو تو میں اپنی نماز پڑھ کر گھر چلا جاتا ہوں۔

حضرت ابو خالد بکلیؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا کیا حضور ﷺ آپ لوگوں کو اسی طرح نماز پڑھایا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کیا تمہیں میری نماز میں کوئی اشکال ہے؟ میں نے کہا میں اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا ہاں حضور مختصر نماز پڑھاتے تھے اور حضور کا قیام اتنی دیر ہوتا تھا جتنی دیر میں موذن مینار سے اتر کر صف میں پہنچ جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو خالدؓ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہؓ کو مختصر نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ (اتنی مختصر) نماز پڑھا

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۲ ص ۲۸) رواه الطبرانی فی الکبیر من روایة سلیمان بن ایوب الطلمی قال فیہ ابو زرعة عاتہ احادیثہ لا یتابع علیہا وقال صاحب المیزان صاحب مناکیر

وقد وثق ۲۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۲ ص ۲۸) رواه احمد ورجاله ثقات

۳۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۲ ص ۲۸) رواه الطبرانی فی الکبیر ورجاله ثقات

۴۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۲ ص ۲۸) رواه احمد وله فی روایة رابت ابا ہریرة صلی صلاة

تجاوز فیہا رواه احمد وروی ابو یعلی الاول ورجالہما ثقات

کرتے تھے کہ آج تم میں سے کوئی اتنی مختصر نماز پڑھا دے تو تم اسے بہت بڑا عیب سمجھو۔  
حضرت عدی بن حاتمؓ ایک مجلس میں تشریف لے گئے اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی ان لوگوں  
کے امام نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ وہ امام صاحب نماز میں کافی دیر بیٹھے رہے وہ جب نماز  
سے فارغ ہوئے تو حضرت عدیؓ نے فرمایا تم میں سے جو ہمارا امام بنے اسے چاہئے کہ وہ رکوع  
سجدہ تو پورا کرے (لیکن قیام اور قعدہ کو لمبانا کرے) کیونکہ اس کے پیچھے چھوٹے، بڑے، بیمار،  
مسافر اور ضرورت مند ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب اگلی نماز کا وقت آیا تو  
حضرت عدیؓ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی رکوع سجدہ پورا کیا اور باقی نماز یعنی (قیام اور قعدہ) کو  
مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا ہم لوگ حضور ﷺ کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔

### حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ کا نماز میں رونا

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ رات گزارا کرتے تھے پھر حضرت بلالؓ اذان دے کر  
حضور کو بلایا کرتے پھر حضور کھڑے ہو کر غسل کرتے اب بھی مجھے حضور کے رخسار اور بالوں پر پانی  
گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر حضور باہر تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے۔ میں حضور کے رونے کی  
آواز سنا کرتی۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی۔

حضرت عبید بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ آپ نے حضور ﷺ  
کی سب سے زیادہ عجیب بات جو دیکھی ہو وہ ہمیں بتادیں۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں پھر فرمایا ایک  
رات حضور نے فرمایا اے عائشہ! مجھے چھوڑو، آج رات میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے  
عرض کیا اللہ کی قسم! مجھے آپ کا قرب بھی پسند ہے اور جس کام سے آپ کو خوشی ہو وہ بھی پسند  
ہے۔ چنانچہ حضور اٹھے اور وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور نماز میں روتے رہے اور اتنا  
روئے کہ آپ کی گود گیلی ہو گئی اور بیٹھ کر اتار روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی  
پھر (سجدہ میں) اتار روئے کہ زمین تر ہو گئی پھر حضرت بلالؓ حضور کو نماز کی اطلاع دینے آئے  
جب انہوں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ! آپ رورہے ہیں، حالانکہ اللہ  
تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ  
نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو آدمی اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ  
کرے اس کے لیے ہلاکت ہے وہ آیت یہ ہے اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سَعۡءَ لٰكِرٍ

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص ۷۱) رواہ احمد ورجالہ ثقات ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال  
الہیثمی (ج ۲ ص ۷۳) رواہ الطبرانی فی الکبیر بطولہ وهو عند الامام احمد باختصار ورجال  
الحديث ثقات انتہی ۳۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۲ ص ۸۹) رجالہ رجال الصحیح

آخر تک (سورت آل عمران آیت ۱۹۰) ترجمہ ”بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے۔“

حضرت مطرفؓ کے والدؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آرہی تھی جیسے چھکی کے چلنے کی ہوتی ہے۔ نساء کی روایت میں یہ ہے کہ سینے سے رونے کی ایسی آواز آرہی تھی جیسے ہنڈیا پکنے کی ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن شداد بن الہاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں صبح کی نماز میں آخری صف میں تھا میں نے حضرت عمرؓ کے رونے کی آواز سنی وہ سورت یوسف پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے اس آیت تک پہنچے اِنَّمَا اشْكُوْنِي وَحَزْنِي اِلَى اللّٰهِ (سورت یوسف آیت ۸۶) ترجمہ ”میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں“ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے تین صف پیچھے سے ان کے رونے کی آواز سنی۔

### نماز میں خشوع خضوع

حضرت بہل بن سعدؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوا کرتے

تھے۔ ۱۔

حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے جیسے کہ وہ لکڑی ہوں اور حضرت ابو بکرؓ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں یہ ہے نماز میں خشوع مجاہدؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ جیسے وہ کوئی لکڑی ہوں (بالکل حرکت نہ کرتے) اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بات نماز کے خشوع میں سے ہے۔ ۵۔

حضرت ابن منکدرؓ کہتے ہیں اگر تم حضرت ابن زبیرؓ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو تو تم کہو گے یہ کسی درخت کی ٹہنی ہے جسے ہوا ہلارہی ہے اور منجیق کے پتھر ادھر ادھر گرا کرتے تھے لیکن وہ نماز میں ان پتھروں کی بالکل پرواہ نہ کرتے۔ ۹۔

۱۔ اخرجہ ابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۳۲) ۲۔ اخرجہ ابو داؤد  
 ۳۔ کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۱۵) ۴۔ اخرجہ ایضاً الترمذی فی الشمائل قال الحافظ (ج ۲ ص  
 ۱۴۱) ۵۔ اسنادہ قوی و صحیحہ ابن خزیمہ و ابن حبان و الحاکم ۶۔ اخرجہ عبدالرزاق و سعید بن منصور  
 و ابن ابی شیبہ و ابن سعد و البیہقی کذا فی منتخب الکنز (ج ۳ ص ۳۸۷) ۷۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ  
 (ج ۱ ص ۵۲) ۸۔ اخرجہ احمد فی الزهد کذا فی منتخب الکنز (ج ۳ ص ۳۴۷)  
 ۹۔ اخرجہ ابن سعد و ابن شیبہ کذا فی منتخب الکنز (ج ۳ ص ۳۶۰)  
 ۱۰۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۳۵) صحیح کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۳۱۰)  
 ۱۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۳۵)

حضرت زید بن عبداللہ شیبائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ جب وہ نماز کے لیے جاتے تو بہت ہی آہستہ چلتے۔ اگر کوئی چیونٹی ان کے ساتھ چلتی تو وہ اس چیونٹی سے بھی آگے نہ نکل سکتے۔<sup>۱</sup>

حضرت واسع بن حبانؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نماز میں یہ چاہتے تھے کہ ان کے جسم کی ہر چیز قبلہ رخ رہے یہاں تک کہ وہ اپنے انگوٹھے کو بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔<sup>۲</sup>  
حضرت عطاءؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیرؓ جب نماز پڑھا کرتے تو (بالکل حرکت نہ کرتے اور) ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کوئی ابھری ہوئی چیز ہیں جسے زمین میں گاڑا ہوا ہے۔<sup>۳</sup>  
حضرت اعمشؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ جب نماز پڑھتے تو ایسے لگتا کہ جیسے وہ پڑا ہوا کپڑا ہوں۔<sup>۴</sup>

حضرت طاؤسؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی طرح نماز میں قبلہ رخ رہنے میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا وہ نماز میں اپنا چہرہ ہاتھ اور پاؤں قبلہ رخ رکھنے کا سختی سے اہتمام کرتے تھے۔<sup>۵</sup> حضرت ابو بردہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ میں نے انہیں سجدہ میں یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ! تو میرا سب سے زیادہ محبوب بن جا اور مجھے ہر چیز سے زیادہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے اور انھیں سجدہ میں یہ کہتے ہوئے بھی سنا اے میرے رب! چونکہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، اس لیے میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔<sup>۶</sup>

حضرت عائشہؓ کی والدہ حضرت ام رومانؓ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی، حضرت ابو بکرؓ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں (ڈر کی وجہ سے) نماز توڑنے کے قریب ہو گئی پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بالکل سکون سے رکھے یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔<sup>۷</sup>

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۳) ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۷)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۳۵) و اخرجہ الطبرانی فی الکبیر نحوہ قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۳۶) و رجالہ رجال الصحیح ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال

الہیثمی (ج ۲ ص ۱۳۶) و رجالہ موثقون والا عمش لم یلرک ابن مسعود

۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۳) ۶۔ عند ابی نعیم ایضا۔ ۷۔ اخرجہ ابن

عدی و ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۹ ص ۳۰۳) و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۳۰)



## نبی کریم ﷺ کا موکدہ سنتوں کا اہتمام فرمانا

حضرت عبداللہ بن شقیقؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ سے حضور ﷺ کی سنت نمازوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور ظہر سے پہلے میرے گھر میں چار رکعت نماز پڑھتے پھر باہر تشریف لے جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر میرے گھر واپس آ کر دو رکعت نماز پڑھتے۔ آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے پھر میرے گھر واپس آ کر دو رکعت نماز پڑھتے پھر آپ لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے پھر میرے گھر واپس آ کر دو رکعت نماز پڑھتے پھر رات کو نو رکعت نماز پڑھتے جن میں وتر کی نماز بھی شامل ہوتی اور رات کو کبھی بہت دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور کبھی بہت دیر تک بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ جب کھڑے ہو کر قراءت فرماتے تو کھڑے ہو کر ہی رکوع سجدہ فرماتے اور جب بیٹھ کر قراءت فرماتے تو بیٹھ کر ہی رکوع سجدہ فرماتے اور جب صبح صادق ہو جاتی اور فجر کا وقت ہو جاتا تو آپ دو رکعت نماز پڑھتے پھر باہر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ فجر کی دو سنتوں سے زیادہ اور کسی سنت کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ ۱۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے حضور ﷺ کو فجر سے پہلے کی دو رکعتوں کے لیے جتنی جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے خیر کے کسی کام میں اور مال غنیمت میں اتنی جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ۲۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعت اور صبح سے پہلے دو رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ۳۔

حضرت بلالؓ صبح کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حضور ﷺ کے پاس آئے حضرت عائشہؓ ان سے کچھ بات پوچھنے لگ گئیں جس میں دیر ہو گئی اور صبح کا چاندنا زیادہ ہو گیا حضرت بلالؓ نے کھڑے ہو کر حضورؐ کو خبر کی اور مسلسل خبر کرتے رہے لیکن حضورؐ قوری طور پر باہر تشریف نہ لائے بلکہ تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور لوگوں کو نماز پڑھانی پھر حضرت بلالؓ نے حضورؐ کو بتایا کہ حضرت عائشہؓ مجھ سے کچھ پوچھنے لگ گئی تھیں جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی پھر میں نے آپ کو بار بار اطلاع کی لیکن آپ فوراً باہر تشریف نہ لائے بلکہ کچھ دیر میں آئے اس کی کیا وجہ ہے؟ حضورؐ نے فرمایا میں نے فجر کی دو رکعت سنت پڑھی تھیں اس وجہ سے مجھے باہر آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت

۱۔ اخرجہ مسلم انفراداً باخراجه مسلم كذا في صفة الصفوة (ج ۱ ص ۷۵) واخرجہ ابو داؤد والترمذی بعضہ كما في جمع الفوائد (ج ۱ ص ۱۱۰) ۲۔ اخرجہ الشيخان وغيرهما ۳۔ في رواية لابن خزيمة كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۳۶۱) ۴۔ اخرجہ البخاری.

بلالؓ نے کہا یا رسول اللہ! (آپ سنت نہ پڑھتے کیونکہ) صبح تو بہت زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ حضورؐ نے فرمایا اگر صبح اس سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی تو بھی میں یہ دو رکعت نماز ضرور پڑھتا اور بہت اچھے اور عمدہ طریقہ سے پڑھتا۔

حضرت قابوسؓ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت عائشہؓ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کس نماز کو پابندی سے پڑھنا حضورؐ کو زیادہ پسند تھا؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان میں لبا قیام فرماتے اور رکوع سجدہ اچھی طرح کرتے۔

حضرت عبداللہ بن سائبؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ ظہر سے پہلے اور زوال کے بعد چار رکعت نماز پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی نیک عمل اوپر چلا جائے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریمؐ ظہر سے پہلے چار اور ظہر کے بعد دو رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریمؐ جب ظہر سے پہلے چار رکعت نماز نہ پڑھ سکتے تو انہیں ظہر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابو ایوبؓ فرماتے ہیں جب حضورؐ میرے مہمان بنے تو میں نے دیکھا کہ آپؐ ہمیشہ ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے کہ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ظہر تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرے لیے خیر کا کوئی عمل اوپر چلا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ چار رکعت کے درمیان بیٹھ کر التیحات پڑھتے اور اس میں (السلام علينا و علی عباد اللہ الصالحین کہہ کر) مقرب فرشتوں اور مسلمانوں اور مومنوں پر سلام بھیجتے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں نبی کریمؐ عصر سے پہلے دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔

۱۔ اخرجہ ابو داؤد (ج ۲ ص ۲۵۹) واسنادہ حسن کما قال النووی فی ریاض الصالحین (ص ۳۱۶) ۲۔ اخرجہ ابن ماجہ وقابوس ہوا بن ابی ظبیان وثق وصححہ لہ الترمذی

وابن خزيمة والحاكم لكن المرسل الى عائشة مبهم كذافي الترغيب (ج ۱ ص ۳۶۳)

۳۔ اخرجہ احمد والترمذی قال الترمذی حدیث حسن غریب کذافي الترغيب (ج ۱ ص ۳۶۳)

۴۔ اخرجہ الترمذی (ص ۵۷) ۵۔ و اخرجہ ایضا الترمذی وحسنہ ۶۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط کذافي الترغيب (ج ۱ ص ۳۶۳) والکنز (ج ۳ ص ۱۸۹)

۷۔ اخرجہ الترمذی (ص ۵۸) وحسنہ ۸۔ اخرجہ ابو داؤد واسنادہ صحیح کما فی

الریاض (ص ۳۱۹) و اخرجہ ابو یعلیٰ والطبرانی فی الکبیر والاوسط عن میمونۃ رضی اللہ عنہا

مثل حدیث علی کما فی المجمع (ج ۲ ص ۲۲۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مغرب کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان میں اتنی لمبی قرأت فرماتے تھے کہ مسجد والے صحابہؓ (اپنی اپنی نماز پوری کر کے) ادھر ادھر بکھر جاتے تھے۔

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا موکدہ سنتوں کا اہتمام کرنا

حضرت عمرؓ نے فجر سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دو رکعتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ظہر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کونسی نماز ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ نماز تہجد کی نماز کی طرح شمار ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عتبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ظہر سے پہلے حضرت عمرؓ کے ساتھ ان کے گھر میں چار رکعت نماز پڑھی۔

حضرت حذیفہ بن اسیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب زوال کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی بن ابی طالبؓ چار رکعت نماز بہت لمبی پڑھتے۔ میں نے ان سے ان رکعتوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آگے حضرت ابوایوبؓ جیسی حدیث ذکر کی ہے۔

حضرت عبداللہ بن یزیدؓ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ جب سورج ڈھل جاتا تو حضرت ابن مسعودؓ کھڑے ہو کر چار رکعت نماز پڑھتے اور ان میں (سو سے زیادہ آیتوں والی) مکن سورتوں میں سے دو سورتیں پڑھتے۔ پھر جب موذن اذان دیتے تو پورے کپڑے پہنتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔

حضرت اسود، حضرت مرہ اور حضرت مسروقؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا دن کی نمازوں میں سے صرف ظہر کی نماز سے پہلے کی چار رکعتیں رات کی تہجد کے برابر ہیں اور دن کی

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۳۰) وفیہ یحیی بن عبد الحمید الحماني وهو ضعيف

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ عن سعید بن جبیر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۰۱)

۳۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۸۹)

۴۔ عند ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۹۸)

۵۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۸۹)

۶۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۲۱) ولیہ راو لم یسم

تمام نمازوں پر ان چار رکعتوں کو ایسی فضیلت ہے جیسے نماز باجماعت کو اکیلے کی نماز پر۔  
حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دن کی نمازوں میں سے صرف ظہر سے پہلے کی  
چار رکعتوں کو رات کی تہجد کے برابر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ چار رکعت رات کی چار رکعت کے  
برابر ہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت براءؓ ظہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور حضرت ابن عمرؓ سے بھی یہی  
روایت ہے۔<sup>۲</sup> جب سورج ڈھل جاتا تو حضرت ابن عمرؓ مسجد میں جا کر ظہر سے پہلے بارہ رکعت  
نماز پڑھتے پھر بیٹھ جاتے۔ حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ ظہر سے پہلے آٹھ رکعت اور ظہر  
کے بعد چار رکعت پڑھتے۔<sup>۳</sup>

حضرت علیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے تین کاموں کا حکم دیا۔ میں جب زندہ رہوں  
گا انھیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ میں عصر سے پہلے چار رکعت پڑھا  
کروں، لہذا میں جب تک زندہ رہوں گا یہ رکعتیں ضرور پڑھا کروں گا۔<sup>۴</sup> حضرت علیؓ فرماتے ہیں  
اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھے۔<sup>۵</sup>

حضرت ابوفاختہؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: "غرب اور عشاء کے درمیان والی نماز کا  
نام صلوٰۃ الغفلة ہے پھر حضرت علیؓ نے فرمایا لیکن اب تم اس نماز کے بارے میں غفلت میں پڑ  
چکے ہو (کہ پڑھتے نہیں ہو)۔" <sup>۶</sup>

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا جو مغرب کے بعد چار رکعت نماز پڑھے وہ غزوے کے بعد غزوہ  
کرنے والے کی طرح شمار ہوگا۔<sup>۷</sup>

۱۔ عند الطبرانی فی الکبیر ایضاً قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۲۱) یوفیہ بنیر بن الولید الکندی وثقہ  
جماعة وفيه كلام وبقية رجال رجال الصحيح. انتهى وقال المنذرى فى ترقیہ (ج ۱ ص ۳۶۵) وهو  
موقوف لا یاس بہ ۲۔ اخرجہ ابن جریر کذافی الکنز (ج ۳ ص ۱۸۹)

۳۔ اخرجہ ابن جریر کما فی الکنز (ج ۳ ص ۱۸۹) ۴۔ اخرجہ ابن جریر ایضاً کذافی

الکنز (ج ۳ ص ۱۸۹) ۵۔ اخرجہ ابن النجار ۶۔ عند ابن جریر کذافی الکنز (ج ۳ ص ۱۹۱)

۷۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذافی الکنز (ج ۳ ص ۱۹۲)

۸۔ اخرجہ ابن زنجویہ کذافی الکنز ۶ ص ۱۹۳

## نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا

حضرت عبداللہ بن ابی قیسؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا تہجد کی نماز نہ چھوڑنا کیونکہ حضور ﷺ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے اور حضورؐ جب بیمار ہوتے یا تھکے ہوئے ہوتے تو بیٹھ کر تہجد پڑھ لیتے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب بِنَا آيْهَا الْمَزْمَلُ قُمِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيْلًا (سورت منزل آیت ۲۰) ترجمہ ”اے کپڑوں میں لپٹنے والے ارات کو (نماز میں) کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات“ نازل ہوئی تو تہجد کی نماز ہم پر فرض ہو گئی اور ہم رات کو اتنی تہجد پڑھتے کہ ہمارے پاؤں سوج جاتے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر رخصت عنایت فرمادی علم ان سبکون منکم مرضی سے لے کر آخر تک (سورت منزل آیت ۲۰) ترجمہ ”اس کو (یہ بھی) معلوم ہے کہ بعضے آدمی تم میں بیمار ہوں گے“ (اس آیت کے نازل ہونے پر تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن نفل نمازوں میں سب سے افضل ہونا باقی رہا)۔

حضرت سعد بن ہشامؓ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر مدینہ منورہ گئے تاکہ وہاں کی اپنی ساری جائیداد بیچ کر گھوڑے اور اسلحہ خرید لیں اور مرتے دم تک روم والوں سے جہاد کرتے رہیں۔ راستہ میں ان کی اپنی قوم کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے انہیں بتایا کہ حضور ﷺ کے زمانہ میں ان کی قوم کے کچھ آدمیوں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن حضور ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کیا آپ لوگ میرے طریقے پر نہیں چلتے؟ اور انہیں ایسا کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ اس پر حضرت سعدؓ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا اور ان لوگوں کو اپنے اس رجوع پر گواہ بنایا پھر ہمارے پاس واپس آئے اور حضرت سعدؓ نے ہمیں بتایا کہ میں حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا تھا اور ان سے وتر کے بارے میں پوچھا تھا تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا آدمی نہ بتاؤں جو تمام روئے زمین والوں میں حضور ﷺ کے وتر کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے کہا حضرت عائشہؓ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو اور وہ جو جواب دیں وہ واپس آ کر مجھے بھی بتانا، چنانچہ میں حضرت حکیم بن ارفعؓ کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ میرے ساتھ حضرت عائشہؓ کے پاس چلیں۔ حضرت حکیمؓ نے کہا نہیں

۱۔ اخرجه ابو داؤد وابن خزيمة كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۳۰۱)

۲۔ اخرجه البزار قال الهيثمي (ج ۲ ص ۲۵۱) وفيه علي بن زيد وفيه كلام وقد وثق. انتهى.

میں تو ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے انہیں (حضرت علی اور حضرت معاویہ کی) ان دو جماعتوں کے بارے میں کچھ فرمانے سے منع کیا تھا لیکن وہ نہ مانیں اور اس بارے میں بہت کچھ کر گزریں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکیم کو قسم دی تو وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے حضرت حکیم کو پہچان لیا اور فرمایا کیا تم حکیم ہو؟ حضرت حکیم نے کہا جی ہاں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت حکیم نے کہا یہ سعد بن ہشام ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ان کے والد کون سے ہشام ہیں؟ حضرت حکیم نے کہا وہ ابن عامر ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے حضرت عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا عامر تو بہت اچھے آدمی تھے پھر میں نے کہا اے ام المومنین! حضور ﷺ کے اخلاق کے بارے میں آپ مجھے بتائیں حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ یہ جواب سن کر میں نے مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر خیال آیا کہ حضور کے رات کے قیام کے بارے میں بھی پوچھ لوں تو میں نے عرض کیا اے ام المومنین! آپ مجھے حضور کے رات کے قیام کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم سورت منزل نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام فرض کیا تھا، چنانچہ حضور اور آپ کے صحابہ سال بھر مسلسل رات کو اتنا لبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں سوج گئے اور اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے تک اس سورت کی آخری آیت کو آسمان میں روک رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے آخری حصہ کو نازل فرما کر رات کے قیام میں تخفیف کر دی، چنانچہ رات کا قیام پہلے فرض تھا پھر بعد میں نفل ہو گیا۔ یہ جواب سن کر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر خیال آیا کہ حضور کے وتر کے بارے میں بھی پوچھ لوں تو میں نے کہا اے ام المومنین! آپ مجھے حضور کے وتر کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہم حضور کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے تو پھر رات کو جب اللہ آپ کو اٹھاتے تو آپ مسواک کر کے وضو کرتے پھر آٹھ رکعت پڑھتے اور ان میں صرف آٹھویں رکعت کے بعد بیٹھتے اور بیٹھ کر ذکر و دعا کرتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور نویں رکعت پڑھتے اس کے بعد بیٹھ کر (التحیات میں) ذکر و دعا کرتے اور پھر اتنی آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتا پھر سلام کے بعد بیٹھ کر دو رکعت نماز پڑھتے اس طرح اے میرے بیٹے! حضور کی گیارہ رکعت ہو جاتیں۔ پھر جب حضور کی عمر ذرا زیادہ ہو گئی اور آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ سات رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے اے میرے بیٹے! اس طرح یہ کل نو رکعت ہو جاتیں۔ حضور ﷺ جب کوئی نماز شروع فرماتے تو آپ کو یہ پسند تھا کہ اسے پابندی سے

پڑھیں، اس لیے اگر نیند کی زیادتی یا درد یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ کا رات کا قیام رہ جاتا تو آپ دن میں بارہ رکعت پڑھتے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ حضورؐ نے کبھی ساری رات فجر تک قرآن پڑھا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی سارے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں گیا اور انھیں حضرت عائشہؓ کی ساری حدیث سنائی تو انھوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہؓ نے ٹھیک فرمایا۔ اگر میرا ان کے ہاں آنا جانا ہوتا تو میں خود جا کر ان سے براہ راست یہ حدیث سنتا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب سورت منزل کا شروع کا حصہ نازل ہوا تو صحابہ کرامؓ رات کو اتنی نماز پڑھتے جتنی رمضان کے مہینے میں رات کو پڑھا کرتے تھے اور اس سورت کے شروع کے حصے کے اور آخری حصہ کے نازل ہونے میں ایک سال کا وقفہ تھا۔

حضرت یحییٰ بن سعیدؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ رات کے شروع میں وتر پڑھ لیتے تھے اور پھر جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو دو دو رکعت نماز پڑھتے۔ ۳

حضرت اسلمؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہتے رات کو نماز پڑھتے رہتے۔ جب آدھی رات ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھاتے اور فرماتے نماز، اور یہ آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ سَلِّ عَلَىٰ خَدَانِ الْوَالِدِ لِيَتَّقُوا لَكَ (سورت طہ آیت ۱۳۲) ترجمہ ”اور اپنے متعلقین کو (یعنی اہل خاندان کو یا مومنین کو) بھی نماز کا حکم کرتے رہیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں ہم آپ سے (اور دوسروں سے) معاش (کموانا) نہیں چاہتے۔ معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے“ ۴

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاصؓ نے حضرت عمر بن خطابؓ (کے انتقال کے بعد ان) کی ایک بیوی سے شادی کی اور شادی کے موقع پر انھوں نے کہا میں نے ان سے شادی مال اور اولاد کے شوق میں نہیں کی بلکہ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ مجھے حضرت عمرؓ کی رات (کے معمولات) کے بارے میں بتائیں۔ چنانچہ شادی کے بعد ان سے پوچھا کہ حضرت عمرؓ کی رات کی نماز کس طرح ہوتی تھی؟ انھوں نے کہا وہ عشاء کی نماز پڑھا کرتے اور ہمیں اس بات کا حکم دیتے کہ ان کے سر کے پاس پانی کا برتن رکھ کر ڈھک دیں (چنانچہ ہم ایسا کرتے) وہ رات کو اٹھتے اور پانی میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیرتے پھر اللہ کا ذکر کرتے (پھر

۱۔ اخرجہ الامام احمد فی مسنده وقد اخرجہ مسلم فی صحیحہ بنحوہ کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۲۳۵) ۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۸۱) ۳۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۷۹) ۴۔ اخرجہ مالک والبیہقی کذا فی منتخب الكنز (ج ۳ ص ۳۸۰)

سو جاتے) اس طرح بار بار اٹھتے اور اللہ کا کچھ ذکر کرتے یہاں تک کہ ان کی تہجد کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ حضرت ابن بریدہ (راوی) نے (حضرت حسنؓ سے) پوچھا آپ کو یہ واقعہ کس نے سنایا؟ انھوں نے کہا حضرت عثمان بن ابی العاصؓ کی صاحبزادی نے۔ حضرت ابن بریدہؓ نے کہا وہ تو قابل اعتماد ہیں۔

حضرت سعید بن مسیبؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ آدھی رات کو نماز پڑھنا پسند کرتے۔ حضرت نافعؓ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ رات کو کافی دیر تک نماز پڑھتے پھر پوچھتے اے نافع! کیا رات کا آخری حصہ آگیا؟ میں کہتا نہیں، تو پھر نماز پڑھنے لگتے پھر کہتے اے نافع! کیا رات کا آخری حصہ آگیا؟ میں کہتا جی ہاں۔ تو بیٹھ کر صبح صادق تک دعاء استغفار میں لگے رہتے۔ حضرت محمدؓ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ جب بھی رات کو اٹھتے تو نماز شروع کر دیتے۔ حضرت ابو غالبؓ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ مکہ میں ہمارے ہاں ٹھہرا کرتے اور رات کو تہجد پڑھا کرتے۔ ایک رات صبح صادق سے کچھ دیر پہلے مجھ سے فرمایا اے ابو غالب! کیا تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہی اچھا ہوا اگر تم تہائی قرآن پڑھ لو؟ میں نے کہا صبح ہونے والی ہے میں اتنی دیر میں تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ انھوں نے فرمایا سورت اخلاص قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تہائی قرآن کے برابر ہے۔

حضرت علقمہ بن قیسؓ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن مسعودؓ کے ساتھ ایک رات گزاری۔ شروع رات میں وہ سو گئے پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور قرآن ترتیل۔ اے ایسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے جیسے کہ محلہ کی مسجد میں امام پڑھتا ہے اور گانے جیسی آواز نہ تھی اور اتنی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے کہ آس پاس والے سن لیں اور آواز کو گلے میں گھما نہیں رہے تھے۔ جب صبح صادق میں اتنا وقت رہ گیا جتنا مغرب کی اذان سے لے کر نماز مغرب کے ختم ہونے تک کا ہوتا ہے تو پھر انھوں نے وتر پڑھے۔

حضرت طارق بن شہابؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمانؓ کے ہاں ایک رات یہ دیکھنے کے لیے گزاری کہ وہ رات کو عبادت میں کتنی محنت کرتے ہیں تو یہی دیکھا کہ انھوں نے رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھی اور جیسا ان کے بارے میں گمان تھا ویسا نظر نہ آیا۔ آخر میں نے یہ بات خود ان سے ذکر کی تو فرمانے لگے کہ ان پانچ نمازوں کی پابندی کرو کیونکہ یہ پانچ نمازیں

۱۔ اخرجہ الطبرانی ورجاله لقات کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۷۳)

۲۔ اخرجہ ابن سعد کذا فی الکنز (ج ۲ ص ۲۷۹) ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص

۳۰۳) بسند جید کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۳۲۹) ۴۔ اخرجہ ابو نعیم ایضا (ج ۱ ص ۳۰۳)

۵۔ عند ابی نعیم ایضا۔ ۶۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۶۶) رواہ الطبرانی

فی الکبیر ورجاله رجال الصحیح۔ انتہی۔



ان چھوٹے موٹے زخموں (یعنی صغیرہ گناہوں) کو مٹا دیتی ہیں بشرطیکہ کوئی جان لیوا زخم (یعنی گناہ کبیرہ) نہ ہو۔ جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے لیے یہ رات وبال ہے رحمت نہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے رحمت ہے وبال نہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے نہ وبال ہے نہ رحمت جو لوگ رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھ کر بے دھڑک گناہوں میں لگ جاتے ہیں ان کے لیے یہ رات وبال ہے رحمت نہیں اور جن کے لیے یہ رات رحمت ہے وبال نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے رحمت ہے وبال نہیں اور جن کے لیے نہ رحمت اور نہ وبال یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر سو جاتے ہیں ان کے لیے نہ رحمت ہے اور نہ وبال۔ تم تیز رفتاری سے بچو اور میانہ روی اختیار کرو اور جتنا کرو اسے پابندی سے کرو۔

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کا سورج نکلنے سے

لے کر زوال تک کے وقت کے درمیان نوافل کا اہتمام کرنا

حضرت ام ہانی فاخر بنت ابی طالب فرماتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں حضور ﷺ کی خدمت میں گئی حضور اس وقت غسل فرما رہے تھے۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے آٹھ رکعت نماز پڑھی اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ﷺ چاشت کے وقت چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھتے۔ ۳۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو چاشت کی چھ رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے یہ رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ ۴۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں حضور ﷺ فتح مکہ کے دن میرے پاس تشریف لائے اور چاشت کی چھ رکعت نماز پڑھی۔ ۵۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی نے چاشت کی دو رکعت نماز پڑھی تو ان کی بیوی نے ان سے کہا آپ نے تو دو رکعت نماز پڑھی ہے۔ انھوں نے فرمایا جب حضور ﷺ کو فتح کی بشارت ملی تھی۔ اس

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال المنذری فی تریغیہ (ج ۱ ص ۲۰۱) برواہ الطبرانی فی الکبیر موقوفاً باسناد لا یاس بہ ورفعه جماعة. انتهى.

۲۔ اخرجہ الشیخان کذا فی الریاض (ص ۲۲۲)

۳۔ اخرجہ مسلم کذا فی الریاض

الہیثمی (ج ۲ ص ۲۳۷) وفیہ سعد بن مسلم الاموی ضعفہ البخاری وابن معین وجماعة و ذکرہ ابن

حبان فی الثقات وقال یحظی. ۴۔

۵۔ هكذا اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والایوسط

باسناد حسن كما قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۳۸)

وقت بھی آپ نے چاشت کی دو رکعت نماز پڑھی تھی اور جب آپ کو ابو جہل کے سر کی بشارت ملی تھی اس وقت بھی دو رکعت نماز پڑھی تھی۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر گزرا کرتا بالعشی والاشراق (سورت ص آیت ۱۸) ترجمہ ”شام اور صبح تسبیح کیا کریں“ تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالبؓ نے مجھے بتایا کہ حضور ﷺ میرے پاس آئے اور ایک پیالہ میں وضو کا پانی منگوایا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اس پیالے میں آٹے کا اثر تھا۔ حضور نے وضو کیا اور پھر چاشت کی نماز پڑھی پھر فرمایا اے ام ہانی! یہ اشراق کی نماز ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک لشکر بھیجا وہ بہت سا مال غنیمت لے کر بہت ہی جلد واپس آ گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ جلدی واپس آ گیا ہو اور اس سے زیادہ مال غنیمت لے کر آیا ہو۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے جلدی واپس آنے والا اور اس سے زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا آدمی نہ بتاؤں۔ یہ وہ آدمی ہے جو اچھی طرح سے وضو کرے پھر مسجد میں جا کر صبح کی نماز پڑھے پھر اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھے تو یہ آدمی بہت زیادہ مال غنیمت لے کر بہت جلد واپس آ گیا ہے۔

حضرت عطاء ابو محمدؓ کہتے ہیں میں نے حضرت علیؓ کو مسجد میں چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

حضرت عکرمہؓ کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ ایک دن چاشت کی نماز پڑھتے اور دس دن چھوڑ دیتے۔ حضرت عائشہ بنت سعدؓ کہتی ہیں حضرت سعدؓ چاشت کی آٹھ رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔

۱۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۳۸) رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر ببعضہ وفی شعناء ولم اجد من وثقہا ولا جر حہاروی ابن ماجہ الصلوۃ حین بشر براس ابی جہل فقط انتہی  
 ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۳۸) وفی حجاج بن نصیر ضعفہ ابن المدینی وجماعۃ ووثقہ ابن معین وابن حبان وهو فی الصحیح بغير سیاقہ انتہی۔  
 ۳۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال المنذری فی الترغیب (ج ۲ ص ۲۲۸) رواہ ابو یعلیٰ ورجال اسنادہ رجال الصحیح والبزار وابن حبان فی صحیحہ وبن البزار فی روایۃ ان الرجل ابو بکر و قدروی هذا الحدیث الترمذی فی الدعوات من جامعہ من حدیث عمرؓ انتہی و اخرجہ ایضا احمد من روایۃ ابن لہیعۃ والطبرانی باسناد جید عن عبد اللہ بن عمروؓ کما فی الترغیب (ج ۱ ص ۲۲۷)  
 ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی جزء من اسمہ عطاء کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۸۱) ۵۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۸۲) ۶۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۸۳)

## ظہر اور عصر کے درمیان نوافل کا اہتمام

حضرت شعبیؒ کہتے ہیں حضرت ابن مسعودؓ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ ظہر اور عصر کے درمیان نفل پڑھتے تھے اور رات کو بڑی لمبی تہجد پڑھتے۔  
حضرت نافعؓ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ ظہر سے عصر تک نماز پڑھتے تھے۔

## مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کا اہتمام

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کے پاس گیا اور حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی پھر حضور عشاء تک نماز پڑھتے رہے۔

حضرت محمد بن عمار بن یاسرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسرؓ کو مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور حضرت عمارؓ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب حضور ﷺ کو مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے چاہے وہ سنہ کی جھاگ کے برابر ہوں۔

حضرت عبدالرحمن بن یزیدؓ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے جس میں جب بھی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس گیا انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی پایا اور وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت۔ میں نے حضرت عبداللہؓ سے پوچھا ایک وقت ایسا ہے جس میں جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ فرصت کا وقت ہے (یا غفلت کی گھڑی ہے اس وقت لوگ اپنے کھانے پینے وغیرہ میں لگ جاتے ہیں اور اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں غفلت کی اس گھڑی میں عبادت کرتا ہوں)۔ حضرت اسود بن یزیدؓ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا غفلت کی گھڑی یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان نفل نماز پڑھنا بہترین عمل ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھتے ہیں اور یہ اوائلین کی نماز ہے۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۵۸) وفیہ رجل لم یسم  
۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۴) ۳۔ اخرجہ النسائی باسناد وجید  
کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۳۶۹) ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الثلاثة قال الطبرانی نوردہ صالح بن  
قطن البخاری وقال المنذری فی ترغیبہ (ج ۱ ص ۳۶۸) وصالح هذا لا یحضرنی الآن فیہ جرح ولا  
تعذیل ۵۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۳۰) وفیہ لیث بن ابی سلیم وفیہ  
کلام ۶۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۳۰) وفیہ جابر الجعفی وفیہ کلام کثیر  
۷۔ اخرجہ ابن زنجویہ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۹۳)

گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت نوافل کا اہتمام حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کے بعد ان کی بیوی سے شادی کی۔ اس نے ان کی بیوی سے ان کے کسی خاص عمل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا وہ جب بھی گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو دو رکعت نماز پڑھتے اور جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو بھی دو رکعت نماز پڑھتے۔ اپنے اس معمول کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔

## تراویح کی نماز

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے رمضان میں رات کو تراویح پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے لیکن اس کے واجب ہونے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ فرماتے تھے جو رمضان کی راتوں میں تراویح ایمان و یقین کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے شوق میں پڑھے گا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر حضور کا انتقال ہو گیا اور یہ سلسلہ یونہی چلتا رہا اور پھر حضرت ابو بکرؓ کے زمانے میں اور حضرت عمرؓ کے شروع زمانے میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ رمضان میں باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ان میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں ہے اس لیے حضرت ابی بن کعبؓ نہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا اور ان کا یہ کام بہت اچھا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عبدقاریؓ کہتے ہیں رمضان کی ایک رات میں میں حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ مسجد میں گیا لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور ایک جماعت اس کے ساتھ پڑھی رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے کہا میرا خیال یہ ہو رہا ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک حافظ قرآن کے پیچھے کھڑا کر دوں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا اور ان سب کو حضرت ابی بن کعبؓ کے پیچھے جمع کر دیا۔ پھر میں حضرت عمرؓ کے ساتھ دوسری رات پھر گیا لوگ اپنے قاری (حضرت ابی بن کعبؓ) کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ بہت اچھی بدعت ہے لیکن تم شروع رات میں تو تراویح پڑھتے ہو اور

۱۔ اخرجہ ابن المبارک فی الزہد بسند صحیح کذا فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۳۰۶)

۲۔ اخرجہ مسلم کذا فی الرياض ۳۔ ذکرہ فی جمع الفوائد عن السنۃ

۳۔ اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف کذا فی جمع الفوائد

آخر رات میں تہجد چھوڑ کر سو جاتے ہو۔ میرے نزدیک تہجد تراویح سے افضل ہے۔  
حضرت نوفل بن ایاس ہڈی کہتے ہیں ہم لوگ حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانے میں  
رمضان میں مختلف جماعتوں میں تراویح پڑھا کرتے تھے ایک جماعت یہاں تراویح پڑھ رہی ہے  
اور ایک وہاں۔ جس امام کی آواز زیادہ اچھی ہوتی لوگ اس کی طرف زیادہ چلے جاتے۔ اس پر  
حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے خیال میں لوگوں نے قرآن کو گانے کی چیز بنا لیا ہے۔ غور سے سنو اللہ  
کی قسم! میرا بس چلا تو اس صورت حال کو ضرور بدل دوں گا۔ چنانچہ تین ہی دن کے بعد حضرت عمرؓ  
نے حضرت ابی بن کعبؓ کو حکم دیا اور انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے تراویح کی نماز  
پڑھائی۔ پھر حضرت عمرؓ نے آخری صف میں کھڑے ہو کر فرمایا۔ ہے تو یہ (تراویح کا ایک جماعت  
بن کر پڑھنا) بدعت لیکن سے بہت عمدہ۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو اسحق ہمدانی کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالبؓ رمضان کی پہلی رات میں باہر  
تشریف لائے تو دیکھا کہ قندیلیں روشن ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت علیؓ نے  
فرمایا اے ابن خطاب! جیسے تم نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور کیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری  
قبر کو منور فرمائے۔<sup>۲</sup>

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے رمضان میں تراویح کو ایک بڑی  
جماعت میں پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا اور مردوں کے لیے حضرت ابی بن کعبؓ کو امام مقرر کیا اور  
عورتوں کے لیے حضرت سلیمان بن ابی حمزہؓ کو۔<sup>۳</sup>

حضرت عمر بن عبداللہ عتسیؓ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داریؓ نبی کریم ﷺ  
کی جگہ کھڑے ہو کر مردوں کو تراویح کی نماز باری باری پڑھایا کرتے تھے اور حضرت سلیمان بن ابی  
حمزہؓ مسجد کے محن میں عورتوں کو تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان بن عفانؓ خلیفہ بنے  
تو انہوں نے مردوں، عورتوں سب کے لیے ایک ہی امام مقرر کر دیا یعنی حضرت سلیمان بن ابی  
حمزہؓ کو۔ اور حضرت عثمانؓ کے فرمانے پر تراویح کے بعد عورتوں کو روک لیا جاتا۔ جب مرد چلے  
جاتے پھر انہیں چھوڑا جاتا۔<sup>۴</sup>

حضرت عرفجہؓ کہتے ہیں حضرت علی بن ابی طالبؓ کو رمضان میں تراویح پڑھنے کا حکم  
دیتے اور مردوں کے لیے ایک امام مقرر کرتے اور عورتوں کے لیے دوسرا۔ چنانچہ میں عورتوں کا

۱۔ اخرجہ مالک والبخاری وابن خزيمة وغيرهم كذا في الكنز وجمع الفوائد

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۵ ص ۵۹) ۳۔ اخرجہ ابن شاہین كذا في الكنز (ج ۳ ص

۲۸۳) و اخرجہ الخطيب في اماليه عن ابى اسحق الهمداني وابن عساكر عن اسماعيل بن زياده

بمعناه مختصر ۱ كما في منتخب الكنز (ج ۳ ص ۳۸۷) ۴۔ اخرجہ الفرغاني والبيهقي كذا في

الكنز (ج ۳ ص ۲۸۳) ۵۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۵ ص ۲۶)

امام ہوا کرتا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعبؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آج رات مجھ سے ایک کام ہو گیا اور یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابی! کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا میرے گھر میں چند عورتیں تھیں ان عورتوں نے کہا ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ ہم آپ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں گی، چنانچہ میں نے انہیں آٹھ رکعت نماز پڑھائی اور وتر بھی پڑھائے۔ حضور نے اس پر کچھ نہ فرمایا اس طرح آپ کی رضامندی کی بنا پر یہ سنت ہوئی۔

### صلوة التوبہ

حضرت بريدةؓ فرماتے ہیں ایک دن صبح کے وقت حضور نے حضرت بلالؓ کو بلا کر فرمایا اے بلال! تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے؟ آج رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں فوراً دو رکعت صلوة التوبہ پڑھتا ہوں اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں اسی وقت فوراً وضو کر کے دو رکعت نفل (تحیۃ الوضو) پڑھتا ہوں۔

### صلوة الحاجہ

حضرت ثمامہ بن عبد اللہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالکؓ کے باغ کا مالی سخت گرمی کے زمانے میں ان کے پاس آیا اور ان سے موسم کی خشکی اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ حضرت انسؓ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور نماز پڑھی پھر مالی سے کہا کیا تمہیں کوئی بادل آسمان میں نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت انسؓ نے اندر جا کر پھر نماز پڑھی پھر اسے کہا۔ اس طرح تین چار مرتبہ ہوا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ اس مالی کو دیکھنے کو کہا تو اس نے کہا پرندے کے پر جتنا بادل نظر آ رہا ہے۔ حضرت انسؓ نماز پڑھتے رہے اور دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ باغ کے ذمہ دار نے اندر جا کر ان کو بتایا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش ہو چکی ہے تو اس نے فرمایا جو گھوڑا بشر بن شغاف نے بھیجا ہے۔ اس پر سوار ہو کر جاؤ اور دیکھو بارش کہاں تک ہوئی ہے؟ چنانچہ وہ دیکھ کر آیا اور اس نے بتایا کہ بارش مسیرین کے محلات اور غضبان کے محل سے آگے نہیں ہوئی (یعنی حضرت انسؓ کے باغات میں ہی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں ہوئی)۔

۱۔ اخرجہ البیهقی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۸۳) ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی

(ج ۲ ص ۷۴) رواہ ابو یعلیٰ والطبرانی بنحوہ فی الاوسط و اسنادہ حسن. ۳۔ اخرجہ ابن

خزیمہ فی صحیحہ عن عبد اللہ بن بريدة کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۳۳۷)

۴۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۷ ص ۲۱)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ بہت زیادہ درد ہوا۔ حضورؐ کی خدمت میں گیا (اور اپنی تکلیف حضورؐ کو بتائی) حضورؐ نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا اور خود کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ میرے اوپر ڈال دیا پھر فرمایا اے ابن ابی طالب! کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اللہ سے اپنے لئے جو چیز بھی مانگی وہی میں نے تمہارے لئے بھی مانگی اور اللہ سے میں نے جو چیز بھی مانگی وہ اللہ نے مجھے ضرور عطا فرمائی، البتہ مجھے یہ کہا گیا کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا میں وہاں سے کھڑا ہوا تو سارا درد ختم ہو چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی ہو۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ کے ایک صحابیؓ کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے۔ اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار اور پرہیز گار تھے ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے۔ انہیں راستہ میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس صحابیؓ نے کہا تم نے مال لینا ہے وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا نہیں میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابیؓ نے کہا مجھے ذرا مہلت دو میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انھوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا تین مرتبہ مانگی یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعلا لما یرید اسئلک بعز تک التی لا ترام و ملکک الذی لا یضام و بنورک الذی ملا ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی تو اچانک ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جسے اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا۔ اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعہ سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے (پہلی مرتبہ) دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔

۱۔ اخرجہ ابن ابی عاصم وابن جریر و صحیحہ والطبرانی فی الاوسط وابن شاہین فی السنۃ کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۴۳) ۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا فی کتاب مجابی الدعوة و اخرجہ ابو موسیٰ فی کتاب الوظائف بتمامہ کذا فی الاصابة (ج ۴ ص ۱۸۲)

حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح علم الہی حاصل کرنے کا شوق رکھتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور علم الہی میں جو ایمان و عمل ہیں ان کو کس طرح خود سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے تھے اور سفر و حضر، خوش حالی اور بد حالی، ہر حال میں کس طرح علم الہی کے سیکھنے سکھانے میں لگتے تھے اور کس طرح مدینہ منورہ علی صاحبہا الف الف صلوة و تحیة میں آنے والے مہمانوں کو سکھانے کا اہتمام کرتے تھے اور کس طرح علم، جہاد اور کمائی ان تینوں کاموں کو جمع کرتے تھے اور مختلف شہروں میں علم پھیلانے کے لئے آدمیوں کو بھیجا کرتے تھے اور کس طرح اپنے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کا اہتمام کرتے تھے جن کی وجہ سے علم اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے



## نبی کریم ﷺ کا علم کی ترغیب دینا

حضرت صفوان بن عسال مرادیؓ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضورؐ اس وقت اپنی دھاری دار سرخ چادر پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا خوش آمدید ہو طالب علم کو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر سوار ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس علم سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جسے یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔

حضرت قبیصہ بن مخارقؓ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضورؐ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیز سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ حضورؐ نے فرمایا تم جس پتھر، درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے اے قبیصہ! صبح کی نماز کے بعد تین دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہو اس سے تم اندھے پن، کورھی پن اور فالج سے محفوظ رہو گے۔ اے قبیصہ! یہ دعا بھی پڑھا کرو اللھم انی اسئک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکتک ”اے اللہ! میں ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے۔“

حضرت سخرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے آپ کے پاس سے دو آدمی گزرے۔ حضورؐ نے ان سے فرمایا تم دونوں بیٹھ جاؤ تم خیر پر ہو۔ جب حضورؐ گھڑے ہوئے اور صحابہؓ سب حضورؐ کے پاس سے ادھر ادھر چلے گئے تو ان دونوں نے گھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ہم سے فرمایا تھا تم دونوں بیٹھ جاؤ تم خیر پر ہو یہ صرف ہم دونوں کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ حضورؐ نے فرمایا جو بندہ بھی علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم کا حاصل کرنا اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

۱۔ اخرجه احمد والطبرانی باسناد جيد واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۵۹) ۲۔ اخرجه احمد كذا في جمع الفوائد (ج ۱ ص ۲۱) قال المنذرى والهيثمى وفيه رجل لم يسم ۳۔ اخرجه الترمذى مختصراً والطبرانى في الكبير واللفظ له كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۶۰)

حضرت ابو امامہ باہلیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ حضورؐ نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمہارے ادنیٰ آدمی پر۔ پھر حضورؐ نے فرمایا جو آدمی لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اور تمام آسمانوں والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ دوسری روایت میں دو آدمیوں کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمہارے ادنیٰ آدمی پر۔ پھر حضورؐ نے یہ آیت پڑھی اِنَّ مَّا بِخَشْيِ اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (سورت فاطر آیت ۲۸) ترجمہ ”خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔“ اور آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضور ﷺ سے ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے ان میں سے ایک عالم تھا اور فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا رہتا اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا۔ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ حضورؐ نے فرمایا یہ عالم جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا رہتا تھا اسے اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر عبادت کرتا تھا ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمہارے ادنیٰ آدمی پر۔

حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ باہر تشریف لائے۔ ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپؐ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بطنان یا عقیق میں جائے اور اونچے کوچے کو ہان والی عمدہ سے عمدہ دو اونٹنیاں کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے بغیر پکڑ لائے؟ ہم نے عرض کیا ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر دو آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا دو اونٹنیوں سے اور تین آیات کا تین اونٹنیوں سے اسی طرح چار چار سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک کمائی کرتا تھا اور دوسرا ہر وقت حضورؐ کے ساتھ رہتا تھا اور حضورؐ سے سیکھتا تھا، کمانے والے بھائی نے حضورؐ سے اپنے بھائی (کے نہ کمانے) کی شکایت کی حضورؐ نے فرمایا شاید تمہیں اس (نہ کمانے والے) بھائی کی برکت سے روزی ملتی ہے۔

۱۔ اخرجه الترمذی ۲۔ اخرجه الدارمی عن مکحول مرسلا

۳۔ اخرجه الدارمی ایضا مرسلا کذا فی المشکوٰۃ (ص ۲۲، ۲۸)

۴۔ اخرجه مسلم کذا فی المشکوٰۃ (ص ۱۷۵) واخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۳۱) ولی روايته فيتعلم او يقرأ ۵۔ اخرجه الترمذی کذا فی جمع الفوائد (ج ۱ ص ۲۰) واخرجه ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۵۹) بمعناه والحاکم فی المستدرک (ج ۱ ص ۹۲) وصححه علی شرط مسلم ووافقه الذہبی

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا علم کی ترغیب دینا

حضرت ابو طفیلؓ کہتے ہیں حضرت علیؓ فرماتے تھے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان کے لائے ہوئے دین کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے اِنَّ اَوْلٰى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لِلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ (سورت آل عمران آیت ۶۸) ترجمہ ”بلاشبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا اور یہ نبی (ﷺ) ہیں“ یعنی حضرت محمد ﷺ اور ان کا اتباع کرنے والے صحابہ۔ اس لیے تم اس کو تبدیل نہ کرو لہذا محمد کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور نیکو دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ وہ حضور کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

حضرت مکمل بن زیادؓ کہتے ہیں حضرت علیؓ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صحرا کی طرف لے چلے۔ جب ہم صحرا میں پہنچ گئے تو حضرت علیؓ بیٹھ گئے اور ایک لمبا سانس لے کر فرمایا اے مکمل بن زیاد! دل برتن ہیں ان میں سے بہترین برتن وہ ہے جو (اپنے اندر کی چیز کو) زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھنا۔ انسان تین قسم کے ہیں ایک عالم ربانی، دوسرے وہ علم حاصل کرنے والا جو نجات کے راستے پر چل رہا ہے، تیسرے وہ کینے اور رذیل لوگ جو ہر شور مچانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور جدھر کی ہوا چلے ادھر کو ہی رخ کر لیتے ہیں، نہ تو علم کے نور سے کچھ روشنی حاصل کی اور نہ کسی مضبوط مددگار کی پناہ حاصل کی۔ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم عمل کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم کی محبت دین ہے جس کا اللہ کے ہاں سے بدلہ ملے گا۔ علم کی وجہ سے عالم کی زندگی میں اس کی بات مانی جاتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا اچھائی سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب مال چلا جاتا ہے تو مال کی کارگیری اور مال کی بنیاد پر چلنے والے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مال کے خزانے جمع کرنے والے زندہ بھی ہوں تو بھی وہ (روح اور دل کے اعتبار سے) مردہ شمار ہوتے ہیں اور علماء (مرنے کے بعد بھی) جب تک زمانہ رہے گا باقی رہیں گے۔ (ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا) ان کے جسم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کی عظمت کے نقوش دلوں میں باقی رہیں گے۔ اور یہ بات غور سے سنو اور سینے کی طرف اشارہ کر کے حضرت علیؓ نے فرمایا اس جگہ ایک زبردست علم ہے کاش! اس علم کو اٹھانے والے مجھے مل جاتے، اب یا تو ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی سمجھ تو تیز ہے لیکن (تقویٰ اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے) ان پر

اطمینان نہیں۔ یہ دین کے اسباب کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل بیان کئے ہیں ان سے قرآن کے خلاف ہی ثابت کرتے ہیں (کیونکہ علم کا نور انہیں حاصل نہیں ہے) اور اللہ کی نعمتوں کو اس کے بندوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں یا پھر ایسے لوگ ملتے ہیں جو اہل حق کے فرمانبردار تو ہیں لیکن انہیں دین کے زندہ کرنے کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور معمولی سا شبہ پیش آتے ہی ان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ اس طرف طبیعت جستی ہے اور نہ اس طرف۔ یا پھر ایسے لوگ ملتے ہیں جو لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آسانی سے خواہشات کی بات مان لیتے ہیں یا پھر ایسے لوگ ملتے ہیں جو مال جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کا ہی جذبہ رکھتے ہیں اور یہ آخری دو قسم کے انسان دین کے داعی بھی نہیں ہیں (پہلے دو دین کے داعی تو تھے لیکن ان میں اور خرابیاں تھیں) اور چرنے والے جانور ان دونوں کے زیادہ مشابہ ہیں اور علم والوں کے مرنے سے علم بھی ختم ہو جائے گا لیکن یہ بات بھی ہے کہ زمین کبھی بھی اللہ کے ایسے بندوں سے خالی نہیں ہونی جو اس لیے دلائل لے کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے دلائل اور واضح احکام بیکار اور معطل نہ قرار دیئے جائیں۔ ان بندوں کی تعداد چاہے بہت کم ہو لیکن اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی حجوتوں یعنی قرآنی آیات پر جو غلط اعتراضات کیئے جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ذریعے دور فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان حجوتوں کو اپنے جیسے بندوں تک پہنچا کر ان کے دلوں میں اتار دیتے ہیں اور کمال علم کی وجہ سے ہر امر کی حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے اور جس امر کی حقیقت عیش و عشرت والوں کو دشوار نظر آتی ہے۔ وہ ان کے لیے بہت آسان ہوتی ہے۔ اور جن کاموں سے جاہل لوگ گھبراتے ہیں اور وحشت محسوس کرتے ہیں ان میں ان کا دل لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنے بدن سے تو دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کی روحوں کا تعلق منظر اعلیٰ یعنی آخرت سے ہوتا ہے۔ یہی لوگ اللہ کی زمین پر اس کے خلیفہ ہیں۔ اور اس کے دین کے داعی ہیں۔ ہائے ہائے مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اب اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو۔

حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں علم سیکھو کیونکہ اللہ کے لیے علم سیکھنا اللہ سے ڈرنا ہے۔ علم کو تلاش کرنا عبادت ہے اور اس کا آپس میں مذاکرہ کرنا تسبیح (کا ثواب دلانا) ہے اور (سمجھنے کے لیے) اس میں بحث کرنا جہاد ہے اور نہ جاننے والے کو سکھانا صدقہ ہے اور جو لوگ علم کے اہل ہیں

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیف (ج ۱ ص ۷۹) واخرجه ابضا ابن الانباری فی المصاحف والمرہبی فی العلم ونصر فی الحجۃ وابن عساکر کما فی الکنز (ج ۵ ص ۲۳۱) بحوہ مع اختلاف سیر فی الفاظہ وزیادۃ وتد ذکر ابن عبدالبر طرفا منہ فی کتابہ جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۱۱۲) ثم قال هو حدیث مشہور عند اهل علم یستغنی عن الاسناد لشہرہ عندہم۔ انتہی

ان پر علم خرچ کرنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے کیونکہ علم کے ذریعہ سے حلال و حرام معلوم ہوتا ہے اور علم جنت والوں کے لیے (جنت کے راستے کا) مینار ہے اور وحشت میں انس کا ذریعہ ہے، مسافری میں ساتھی، تنہائی میں بات کرنے والا نفع و خوشی کے نقصان اور غم کے کاموں کو بتانے والا دشمنوں کے خلاف ہتھیار اور دوستوں کے نزدیک انسان کی زینت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ کرتے ہیں اور ان کو خیر کے کاموں میں پیشرو اور امام بناتے ہیں۔ ان کے طریقوں کو لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اور ان کی رائے اور فیصلہ پر سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ان کی دوستی اور ان کے ساتھ رہنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے پروں کو ان پر ملتے ہیں اور ہر طرح کی مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور دوسرے جانور اور خشکی کے درندے اور جانور بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کیونکہ علم دلوں کو جہالت سے نکال کر زندگی بخشتا ہے اور اندھیرے میں نگاہ کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ انسان علم کے ذریعہ سے بہترین لوگوں کے مرتبے کو اور دنیا و آخرت کے بلند درجوں کو پالیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے سے روزہ رکھنے کا اور اسے پڑھنے پڑھا۔۔۔ سے راتوں کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان صلہ رحمی کرتا ہے اور حلال اور حرام کا فرق جانتا ہے۔ علم عمل کا امام ہے۔ عمل اس کے تابع ہے خوش قسمت لوگوں کے دلوں میں علم کا الہام ہوتا ہے اور بد قسمت لوگ علم سے محروم رہتے ہیں۔

حضرت ہارون بن رشاب کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے تم صبح اس حال میں کرو کہ یا تو (سکھانے والے) عالم ہو یا سیکھنے والے ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو کیونکہ اس کے علاوہ تو آدمی جاہل ہوتا ہے اور جو آدمی علم حاصل کرنے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے اس عمل کو پسندیدہ سمجھنے کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے اپنے پر کھول دیتے ہیں۔

حضرت زید کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا تم اس حال میں صبح کرو کہ یا تو تم (سکھانے والے) عالم ہو یا سیکھنے والے ہو اور ایسے آدمی نہ بنو جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو اور وہ ہر ایک کے پیچھے چل پڑے۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اے لوگو! علم اٹھنے سے پہلے علم حاصل کرو اور اس کے اٹھنے کی صورت یہ ہے کہ علم والے دنیا سے چلے جائیں گے اور تم لوگ علم حاصل کرو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں اپنے علم کی کب ضرورت پڑ جائے اور علم حاصل کرو لیکن علم میں سبالتہ اور غلو سے

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۹) و اخرجہ ابن عساکر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۵۵) عن معاذ مرفوعاً مثله ثم قال هو حدیث حسن جدا ولكن ليس له اسناد قوي ورواه من طرق شتى موقوف فائم ذكر بعض اسانيد الموقوف ثم قال و ذكر الحدیث بحاله سواء موقوفا علی معاذ وقال المنذرى فی الترغیب (ج ۱ ص ۵۸) كذا قال ورفعه غریب جدا ۲۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۲۹) ۳۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامعہ (ج ۱ ص ۲۹)

بچو اور پرانا طرز اختیار کرو (جو صحابہ کرام میں تھا) کیونکہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی کتاب کو تو پڑھیں گے لیکن اسے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیں گے (اس پر عمل نہیں کریں گے)۔  
حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا آدمی عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا بلکہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں تم عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو۔ ان دو کے علاوہ کچھ اور نہ بنو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو علماء سے محبت کرو، ان سے بغض نہ رکھو۔

حضرت حسن کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء نے فرمایا تو (سکھانے والے) عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء سے محبت کرنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے بنو (ان چار کے علاوہ) پانچویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جائے گے۔ راوی حضرت حمید کہتے ہیں میں نے حضرت حسن سے پوچھا پانچویں قسم سے کون مراد ہے؟ انہوں نے کہا اپنی طرف سے دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے والا۔  
حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے فرمایا اے دمشق والو! تم لوگ میرے دینی بھائی ہو علاقے کے پڑوسی ہو اور دشمنوں کے خلاف میرے مددگار ہو لیکن تم مجھ سے دوستی کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ میرا خرچہ بھی تمہارے ذمہ نہیں ہے دوسروں پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء جارہے ہیں اور تمہارے جاہل لوگ ان سے علم نہیں سیکھ رہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جس روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور اللہ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں چھوڑ رکھا ہے۔ غور سے سنو! کچھ لوگوں نے بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں اور بہت مال جمع کیا اور بڑی دور کی امیدیں لگائیں لیکن پھر ان کی عمارتیں گر کر قبرستان بن گئیں اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئیں اور ایسے لوگ خود ہی ہلاک ہو گئے۔ غور سے سنو! علم سیکھو اور سکھاؤ کیونکہ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں اجر میں برابر ہیں۔ اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پھر لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔

حضرت حسان کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے دمشق والوں سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے کہ سالہا سال گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتے رہو؟ تمہاری مجلسوں میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ تمہیں کیا ہو گیا تمہارے علماء جارہے ہیں لیکن تمہارے جاہل علم حاصل نہیں کر رہے؟ اگر

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ص ۱۲۶) ابو قلابہ لم یسمع من ابن مسعود اہ  
واخرج طرفا منه عبدالرزاق عن ابوب عن ابی قلابہ عن ابن مسعود کما فی جامع ابن عبدالبر  
(ج ۱ ص ۸۷) واخرجہ ایضا ابن عبدالبر فیہ من طریق شفق عن ابن مسعود

۲۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامعہ (ج ۱ ص ۱۰۰) ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال  
الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۲) رجال الصحیح الا ان عبدالملک بن عمیر لم یدرک ابن مسعود  
۴۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی معراج (ص ۲۸) ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیق (ج ۱ ص ۲۱۳)

تمہارے علماء چاہتے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا تھا اگر تمہارے جاہل علم کو تلاش کرتے تو وہ اسے ضرور پالیتے۔ نقصان دینے والی چیزوں کے بجائے اپنے فائدے والی چیزیں اختیار کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو امت بھی ہلاک ہوئی ہے اس کی ہلاکت کے دو ہی اسباب تھے ایک تو وہ اپنی خواہشات پر چل رہے تھے اور دوسرے وہ اپنی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں علم کے اٹھنے سے پہلے اسے حاصل کر لو اور علم کے اٹھنے کی صورت یہ ہوگی کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور علم سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں اجر میں برابر ہیں۔ انسان کہلانے کے مستحق دو ہی آدمی ہیں علم سکھانے والا اور سیکھنے والا۔ ان دو کے علاوہ باقی انسانوں میں کوئی خیر نہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں جو بھی صبح سویرے مسجد کو کوئی خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے اس کے لیے اس مجاہد کا اجر لکھا جاتا ہے جو مال غنیمت لے کر واپس آتا ہے۔<sup>۳</sup>

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ صبح اور شام علم کے لیے جانا جہاد نہیں ہے وہ کم عقل اور ناقص رائے والا ہے۔<sup>۴</sup> حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔<sup>۵</sup>

حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آدمی کا علم کا ایک باب سیکھ لینا ہمیں اس کے ہزار رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جو طالب علم طالب علمی کی حالت میں مرے گا وہ شہید ہوگا۔<sup>۶</sup> ایک روایت میں ان دونوں حضرات کا یہ ارشاد نقل ہے کہ علم کا ایک باب سکھانا ہمیں سو رکعت نفل سے زیادہ محبوب ہے چاہے اس پر عمل ہو رہا ہو یا نہ رہا ہو۔

حضرت علیؓ ازدی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباسؓ سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے؟ تم کسی مسجد میں جا کر قرآن، فقہ یا سنت سکھاؤ۔<sup>۷</sup> حضرت ازدی کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباسؓ سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے جہاد

۱۔ عند ابی نعیم ایضاً (ج ۱ ص ۲۲۲) ۲۔ عند ابی نعیم ایضاً (ج ۱ ص ۲۱۳) عن معاویة

بن قرة عن ابیہ ۳۔ اخرجه ابن عبدالبر فی جامعہ (ج ۱ ص ۳۲) عن عبدالرحمن بن مسعود انفرادی

۴۔ عند ابن عبدالبر ایضاً (ج ۱ ص ۳۱) عن ابن ابی الہذیل

۵۔ عند ابن عبدالبر ایضاً (ج ۱ ص ۱۰۰) عن رجاء بن حیوة ۶۔ اخرجه البزار قال المنذری

فی الترغیب (ج ۱ ص ۶۱) رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط الا انه قال خیر له من الف رکعة.

انتهی و اخرجه ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۲۵) عنها نحوه بزيادة النطوع

۷۔ اخرجه ابن زنجويه کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۰)

سے بہتر ہے؟ تم ایک مسجد بناؤ اور اس میں قرآن۔ نبی کریم ﷺ کی سنتیں اور دین کے فقہی مسائل سکھاؤ۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ ۲

حضرت زر بن حبیشؓ کہتے ہیں میں حضرت صفوان بن عسال مراد کی خدمت میں صبح صبح گیا تو انہوں نے پوچھا اے زر! تم صبح صبح کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ فرمایا تو علم سکھانے والے عالم بنو یا سیکھنے والے بنو۔ ان دو کے علاوہ اور کچھ نہ بنو۔ حضرت صفوانؓ فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو فرشتے اس علم سیکھنے والے اور اسے علم سکھانے والے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ۳

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا علمی ولولہ اور شوق

جب حضرت معاذ بن جبلؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا دیکھو کیا صبح صادق ہوگئی ہے؟ ایک آدمی نے آکر بتایا کہ ابھی نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا دیکھو کیا صبح صادق ہوگئی ہے؟ پھر کسی نے آکر بتایا کہ ابھی نہیں ہوئی۔ بالآخر ایک آدمی نے آکر بتایا کہ صبح صادق ہوگئی ہے تو فرمایا میں اس رات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے۔ خوش آمدید ہو موت کو، خوش آمدید ہو اس مہمان کو جو بہت لمبے عرصے کے بعد ملنے آیا ہے جس سے مجھے بہت محبت ہے لیکن وہ ایسے وقت آیا ہے جبکہ میرے ہاں فاقہ ہے۔ اے اللہ! میں زندگی بھر تجھ سے ڈرتا رہا لیکن آج تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ! تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے دنیا سے اور اس میں زیادہ عرصہ تک رہنے سے اس وجہ سے محبت نہیں ہے تاکہ میں نہریں کھودوں اور درخت لگاؤں بلکہ اس وجہ سے ہے تاکہ میں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاس برداشت کروں یعنی گرمیوں میں روزے رکھوں اور مشقت کے مواقع پر مشقت اٹھاؤں اور علم کے حلقوں میں علماء کی خدمت میں دوزانو بیٹھوں۔ ۵

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا اگر تین کام نہ ہوتے تو میں اسے پسند کرتا کہ دنیا میں اور نہ رہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ تین کام کون سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک تو دن اور رات میں اپنے خالق کے سامنے سر زمین پر رکھنا جو میری آخرت کی زندگی میں آگے جمع ہو رہا

۱۔ عند ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۶۲) ۲۔ عند عبدالبر ایضاً (ص ۱۲۴)  
 ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۲) وفیہ حفص بن سلیمان وثقہ احمد  
 وضعفہ جماعة کثیرون انتہی ۴۔ عند الطبرانی ایضاً فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص  
 ۱۲۳) وفیہ عبدالکریم بن ابی الحارق وهو ضعیف. انتہی ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی  
 الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۹) وذكرہ ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۵۱) بلاسناد



ہے۔ دوسرے سخت گرمیوں کی دوپہر میں (روزہ رکھ کر) پیاسا رہنا تیسرے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو عمدہ کلام کو ایسے چنتے ہیں جیسے کہ پھل چننا جاتا ہے۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب حضورؐ کا انتقال ہوا تو میں نے ایک انصاری آدمی سے کہا آج صحابہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں آؤ ان سے پوچھ پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں۔ انہوں نے کہا اے ابن عباس! آپ پر بڑا تعجب ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضورؐ کے اتنے بڑے بڑے صحابہؓ کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی؟ (انہوں نے میری بات نہ مانی اور اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو) میں نے انہیں چھوڑ دیا اور حضورؐ کے صحابہؓ سے پوچھنے لگا اور مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صحابی فلاں حدیث بیان کرتے ہیں تو میں ان کے دروازے پر جاتا وہ دوپہر کو آرام کر رہے ہوتے۔ میں ان کے دروازے پر چادر پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی وہ صحابی (آرام سے فارغ ہو کر) باہر آتے تو مجھے دیکھتے اور کہتے اے حضورؐ کے چچا زاد بھائی! آپ کا کیسے آنا ہوا؟ آپ خود کیوں آئے؟ آپ کسی کو میرے پاس بھیج دیتے میں آپ کے پاس آجاتا۔ میں کہتا نہیں (مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے، اس لئے) میرا حق بنتا ہے۔ کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں پھر میں ان سے اس حدیث کے بارے پوچھتا (اس طرح میں نے تفسیر اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا جنہیں حاصل کرنے کے لئے لوگ میرے پاس آنے لگے) وہ انصاری بھی بہت عرصہ تک زندہ رہے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں اور مجھ سے قرآن و حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا یہ نوجوان واقعی مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب دنیا کے مختلف شہر فتح ہو گئے تو لوگ دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں نے اپنی ساری توجہ حضرت عمرؓ (سے قرآن و حدیث لینے) کی طرف لگا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت ابن عباسؓ کی اکثر حدیثیں حضرت عمرؓ ہی سے منقول ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضورؐ نے مجھ سے فرمایا جس طرح تیرے ساتھی مجھ سے مال غنیمت مانگتے ہیں تم نہیں مانگتے۔ میں نے عرض کیا میں تو آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی سکھائیں۔ اس کے بعد میں نے کمرے سے دھاری دار چادر اتار کر اپنے اور حضورؐ کے درمیان بچھادی اور یہ منظر مجھے ایسا یاد ہے کہ اب بھی مجھ کو

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۲)

۲۔ اخرجہ الحاکم فی المستدرک (ج ۱ ص ۱۰۶) قال الحاکم و وافقہ الذہبی ہذا حدیث صحیح علی شرط البخاری و اخرجہ ایضاً الدارمی و الحارث فی مسند یہما عن ابن عباس مثله

کما فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۳۳۱) و ابن سعد فی طبقاتہ (ج ۳ ص ۱۸۲) نحوہ

۳۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۱) رجالہ رجال الصحیح

اس پر جو میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پھر آپ نے مجھے حدیث سنائی جب میں نے وہ حدیث پوری سن لی تو حضور نے فرمایا اب اس چادر کو سمیٹ کر اپنے جسم سے باندھ لو۔ (میں نے ایسے ہی کیا) اس کے بعد حضور جو بھی ارشاد فرماتے مجھے اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے (اگر میں غلط حدیث بیان کروں گا تو اللہ میری پکڑ فرمائیں گے اور جو میرے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی پوچھیں گے) اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں دوسرے مہاجرین اور انصار صحابہ ابو ہریرہ جتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ میرے مہاجر بھائی تو بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے۔ اور میرے انصاری بھائیوں کو اپنی زمینوں اور مویشیوں کی مشغولی تھی اور میں ایک مسکین نادار آدمی تھا اور ہر وقت حضور ﷺ کی خدمت میں پیٹ بھر کھانے پر قناعت کر کے حاضر رہتا تھا۔ انصار و مہاجرین جب حضور کی خدمت سے چلے جاتے تو میں پھر بھی حاضر خدمت رہتا۔ وہ حضور سے سن کر اپنے کاموں میں لگ کر بھول جاتے، میں سب کچھ یاد رکھتا۔ ایک دن حضور نے فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی اپنا کپڑا میرے سامنے پھیلائے گا اور جب میں اپنی بات پوری کر لوں وہ اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے گا وہ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں بھولے گا۔ میں نے فوراً اپنی دھاری دار چادر بچھادی۔ میری کمر پر اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ پھر جب حضور نے اپنی وہ بات پوری فرمائی تو میں نے چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگالی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! مجھے اس میں سے ایک بات بھی آج تک نہیں بھولی۔ اللہ کی قسم! اگر اللہ کی کتاب (قرآن) میں یہ دو آیتیں نہ ہوتیں (جن میں علم کو چھپانے کی ممانعت ہے) تو آپ لوگوں کو کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا انّ اللذین یکتُمون ما اُنزلنا من البینات والہدی سے لے کر الرَّحیم تک (سورت بقرہ آیت ۱۵۹-۱۶۰) ترجمہ ”جو لوگ اہفاء کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے جو کہ (اپنی ذات میں) واضح ہیں اور (دوسروں کو) ہادی ہیں بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب الہی (تورات و انجیل) میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور (دوسرے بہترے) لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر دیں اور (ان مضامین کو) ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔“

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا تھا اور صرف پیٹ بھر کھانے پر گزارہ کر لیتا

تھا۔ ان دنوں نہ خمیری روٹی مجھے ملتی تھی اور نہ پہننے کو ریشم اور نہ خدمت کرنے والا کوئی مرد میرے پاس تھا اور نہ کوئی عورت۔ اور بعض دفعہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا پیٹ کنکریوں کے ساتھ چمادیتا تھا (تاکہ کنکریوں کی ٹھنڈک سے بھوک کی گرمی میں کمی آجائے) اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرآن کی آیت مجھے معلوم ہوتی تھی لیکن میں کسی آدمی سے کہتا کہ یہ آیت مجھے پڑھا دو تا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے اور مجھے کچھ کھلا دے اور مساکین کے حق میں سب سے بہتر حضرت جعفر بن ابی طالبؓ تھے۔ وہ ہمیں گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا، وہ سب کچھ ہمیں کھلا دیتے یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ شہد یا گھی کی کچی ہی ہمارے پاس باہر لے آتے۔ اس کچی میں کچھ ہوتا نہیں تھا تو ہم اسے پھاڑ کر اس کے اندر جو ہوتا اسے چاٹ لیتے۔

## علم کی حقیقت اور جس چیز پر علم کا لفظ بولا جاتا ہے

حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں حضورؐ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش جیسی ہے جو بہت زیادہ ہوئی ہو اور ایک زمین پر برسی ہو جس کا ایک ٹکڑا بہت عمدہ اور زرخیز تھا اس ٹکڑے نے بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا جس سے گھاس اور چارہ خوب اگا۔ اس زمین میں ایک بنجر اور سخت ٹکڑا تھا جس نے اس پانی کو روک لیا (نہ اپنے اندر جذب کیا اور ڈھلان نہ ہونے کی وجہ سے نہ اسے جانے دیا) تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے لوگوں کو نفع پہنچایا، چنانچہ انھوں نے اسے پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا اور اس سے کاشت کی اور اس زمین کا تیسرا ٹکڑا چھیل میدان تھا جس میں پانی بھی (ڈھلان کی وجہ سے) نہ رکا اور گھاس وغیرہ بھی نہ اگا۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دے کر بھیجا ہے اس سے اس کو نفع ہوا اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور اس آدمی کی مثال ہے جس نے تکبر کی وجہ سے اس علم و ہدایت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور اللہ کی جو ہدایت دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اسے بالکل قبول نہ کیا۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا مجھ سے پہلے اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا تو اس امت میں اس کے حواری اور خاص صحابی ضرور ہوتے جو اس کی ہر سنت کو مضبوطی سے پکڑتے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتے اور اس کے دین کو بعینہ محفوظ رکھتے لیکن بعد میں ایسے نالائق لوگ پیدا ہو جاتے جو ان کاموں کا دعویٰ کرتے جو انھوں نے کئے نہیں ہوتے تھے اور جن کاموں کا حکم نہیں دیا گیا تھا ان کاموں کو کرتے تھے (میری امت میں بھی ایسے لوگ

۱۔ اخرجہ البخاری ایضا کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۷۵)

۲۔ اخرجہ الشیخان کذا فی المشکوٰۃ (ص ۲۰)

آئندہ ہوں گے) جو ان لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا اصل علم تین چیزیں ہیں محکم آیت (یعنی قرآن مجید) قائم دائم سنت یعنی حضورؐ کی وہ حدیث جو قابل اعتماد سند سے ثابت ہو اور قرآن و حدیث کے برابر درجہ رکھنے والے فرائض یعنی اجماع اور قیاس ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد علم ہے (اسے حاصل کرنا ضروری نہیں ہے) ۲۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضورؐ نے فرمایا میں تم میں ایسی دو چیزوں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی ﷺ کی سنت۔ ۳۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک آدمی پر جمع ہیں۔ حضورؐ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک علامہ ہے۔ حضورؐ نے پوچھا اس کے علامہ ہونے کا کیا مطلب؟ لوگوں نے کہا یہ عربوں کے نسب، عربی زبان، اشعار اور عربوں کا جن چیزوں میں اختلاف ہے ان سب کو تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا یہ ایسا علم ہے جس کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں اور اس کے معلوم نہ ہونے میں کوئی نقصان نہیں۔ ۴۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ علم تین چیزیں ہیں۔ حق بولنے والی کتاب یعنی قرآن مجید، وہ سنت جو قیامت تک چلے گی اور جو بات نہ آئی ہو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ ۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اصل علم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر جو بھی اپنی رائے سے کچھ کہے گا اس کا پتہ نہیں کہ وہ اسے اپنی نیکیوں میں پائے گا یا اپنی برائیوں میں۔ ۶۔

حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابن عباسؓ کے شاگرد حضرت عطاءؓ، حضرت طاؤسؓ اور حضرت عکرمہؓ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابن عباسؓ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کیا یہاں کوئی مفتی ہے؟ میں نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں جب بھی

۱۔ اخرجہ مسلم کذا فی المشکوٰۃ (ص ۲۱) ۲۔ اخرجہ ابوداؤد و ابن ماجہ کذا فی

المشکوٰۃ (ص ۲۷) و اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۲۳) نحوه

۳۔ عند ابن عبدالبر ایضاً (ج ۱ ص ۲۳) ۴۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۲

ص ۲۳) ۵۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامعہ (ج ۲ ص ۲۳)

۶۔ عند ابن عبدالبر ایضاً (ج ۲ ص ۲۶)

پیشاب کرتا ہوں تو اس کے بعد منی نکل آتی ہے۔ ہم نے کہا وہی منی جس سے بچہ بنتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں! ہم نے کہا اس سے تمہیں غسل کرنا پڑے گا وہ انسا للہ پڑھتا ہوا پشت پھیر کر واپس چلا گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور سلام پھیرتے ہی کہا اے عکرمہ! اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت عکرمہ سے لے آئے تو حضرت ابن عباسؓ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے جو اس آدمی کو مسئلہ بتایا ہے وہ تم نے اللہ کی کتاب سے لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انھوں نے فرمایا کیا تم نے یہ مسئلہ حضورؐ کی سنت سے لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انھوں نے فرمایا کیا تم نے حضورؐ کے صحابہؓ سے لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انھوں نے فرمایا پھر کس سے لیا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے اپنی رائے سے اسے بتایا ہے۔ انھوں نے فرمایا اسی وجہ سے حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ذرا یہ بتاؤ پیشاب کے بعد جب منی نکلتی ہے تو کیا اس وقت تمہارے دل میں شہوت ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا اس کے نکلنے کے بعد تم اپنے جسم میں سستی محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں تو فرمایا یہ منی معدہ کی خرابی کی وجہ سے نکلتی ہے، لہذا تمہارے لئے وضو کافی ہے۔

## نبی کریمؐ کے لائے ہوئے علم کے علاوہ

### دوسرے علم میں مشغول ہونے پر انکار اور سختی

حضرت عمرو بن یحییٰ بن جعدہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ کی خدمت میں ایک کتاب لائی گئی جو کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی اس پر حضورؐ نے فرمایا کسی قوم کے بے وقوف اور گمراہ ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ اپنے نبی کے لائے ہوئے علم کو چھوڑ کر دوسرے نبی کے علم کی طرف متوجہ ہوں یا اپنے نبی کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف متوجہ ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ (سورت عنکبوت آیت ۵۱) ترجمہ ”کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے۔“

حضرت خالد بن عرفطہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی ان کے پاس لایا گیا جس کی رہائش سوس شہر میں تھی (یہ خوزستان کا ایک شہر ہے جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے) حضرت عمرؓ نے فرمایا تم فلاں بن فلاں عبدی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں حضرت عمرؓ کے پاس ایک لائٹھی تھی وہ انھوں نے اسے ماری، اس نے کہا

اے امیر المؤمنین میرا کیا قصور؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا، حضرت عمرؓ نے یہ آیات تمین دفعہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ۵ الرَّبُّ لَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۵ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۵ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۵ (سورت یوسف آیت ۱-۳) ترجمہ "ال۔ یہ آیتیں ہیں ایک کتاب واضح کی ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعہ سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں اور اس کے قبل آپ محض بے خبر تھے۔" اور اسے تمین دفعہ لاکھی ماری۔ اس آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! میرا قصور؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی کتابیں لکھی ہیں۔ اس آدمی نے کہا اس بارے میں آپ مجھے جو فرمائیں گے میں وہی کروں گا حضرت عمرؓ نے فرمایا جاؤ اور جا کر ان پر گرم پانی ڈال کر سفید اون سے مل کر ان کو مٹا دو نہ خود پڑھو اور نہ کسی کو پڑھاؤ۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے خود پڑھی ہیں یا کسی کو پڑھائی ہے تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ پھر اس سے فرمایا یہاں بیٹھو۔ وہ حضرت عمرؓ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ایک دفعہ میں گیا اور اہل کتاب کی ایک کتاب نقل کی اور اسے ایک کھال پر لکھ کر حضورؐ کی خدمت میں لایا۔ حضورؐ نے فرمایا اے عمر! یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کتاب میں اس لئے لکھ کر لایا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضورؐ کو غصہ آ گیا اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے پھر (حضورؐ کے ارشاد پر لوگوں کو جمع کرنے کے لئے) الصلوٰۃ جامعۃ کہہ کر اعلان کیا گیا انصار نے کہا تمہارے نبی ﷺ کو کسی وجہ سے سخت غصہ آیا ہوا ہے، اس لئے ہتھیار لگا کر چلو، ہتھیار لگا کر چلو۔ چنانچہ انصار تیار ہو کر آئے اور آ کر حضورؐ کے منبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضورؐ نے فرمایا اے لوگو! مجھے ایسے کلمات دیئے گئے ہیں جن کے الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہیں اور وہ مہر کی طرح آخری درجے کے اور فیصلہ کن نوعیت کے کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر کر کے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ اور میں تمہارے پاس ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح اور صاف ستھری ہے، لہذا تم حیرت اور پریشانی میں مت پڑو اور نہ حیرت میں پڑنے والوں یعنی اہل کتاب سے دھوکہ کھاؤ۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میں نے فوراً کھڑے ہو کر عرض کیا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر بالکل راضی ہوں۔ پھر حضورؐ منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔

۱۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۲) وفيہ عبدالرحمن الواسطی ضعفہ احمد وجماعۃ. انتہی و اخرجہ ایضاً ابن المنذر وابن ابی حاتم والعقيلي ونصر المقدسی وسعيد بن منصور كفاي الكنز (ج ۱ ص ۹۳) و اخرجہ عبدالرزاق وغيره عن ابراهيم المنهم مختصراً مقتصرأ على الموقف كفاي الكنز

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کو اہل کتاب سے ایک کتاب ملی وہ اسے لے کر نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اہل کتاب سے ایک بہت اچھی کتاب ملی ہے۔ یہ سنتے ہی حضورؐ کو غصہ آ گیا اور فرمایا اے ابن الخطاب کیا تم ابھی تک اسلام کے امور کے بارے میں حیران و پریشان ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں تمہارے پاس ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح اور صاف ستھری ہے۔ تم اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب میں تمہیں حق بات کہہ دیں اور تم اسے جھٹلا دو یا وہ غلط بات کہہ دیں اور تم اسے سچا مان لو (ان کے ہاں حق اور باطل آپس میں ملا ہوا ہے) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا (اس کے علاوہ ان کے لئے بھی کامیابی کا اور کوئی راستہ نہ ہوتا) حضرت عبداللہ بن ثابتؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرا اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزر رہا تھا کہ قبیلہ بنو قریظہ میں سے ہے۔ اس نے مجھے تورات میں سے جامع باتیں لکھ کر دی ہیں کیا میں انہیں آپ کے سامنے پیش کروں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ سنتے ہی غصہ کی وجہ سے حضورؐ کا چہرہ بدل گیا تو میں نے کہا (اے عمر!) کیا تم حضورؐ کے چہرے پر غصہ کے آثار نہیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے فوراً عرض کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ اس پر حضورؐ کا غصہ زائل ہو گیا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر تم میں حضرت موسیٰؑ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کر لیتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ دوسری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور دوسرے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔

حضرت میمون بن مہرانؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! ہم نے جب مدائن شہر فتح کیا تو مجھے ایک کتاب ملی جس کی باتیں مجھے بہت پسند آئیں۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا اس کی باتیں اللہ کی کتاب سے لی ہوئی ہیں؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کوڑا منگا کر اسے مارنا شروع کر دیا یہ آیتیں اسے پڑھ کر سنائیں اللہ ۞ یَلْکَ اٰیٰتِ الْکِتٰبِ الْمُبِیْنِ ۞ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا ۝ لَعَلَّکُمْ تَعْرِفُوْنَ ۝ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِیْنَ ۝ تک (سورت یوسف آیت ۱-۳) ترجمہ اسی باب کے شروع میں گزر چکا ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا

۱۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۴۲) من طریق ابن ابی شیبہ باسنادہ و اخرجہ ایضاً احمد و ابو یعلیٰ و البزار عن جابر نحوه قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۷۳) وفیہ مجالد بن سعید ضعفہ احمد و یحییٰ بن سعید و غیرہما

۲۔ اخرجہ احمد و الطبرانی قال الہیثمی و رجالہ رجال الصحیح الا جابر الجعفی و هو ضعیف و اخرجہ الطبرانی فی الکبیر عن ابی الدرداء بنحوہ کما فی المجمع.

تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے علماء اور پادریوں کی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ یہ دونوں کتابیں بوسیدہ ہو گئیں اور دونوں میں جو علم الہی تھا وہ سب جاتا رہا۔

حضرت حریش بن ظہیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل کتاب سے کچھ بھی نہ پوچھا کرو کیونکہ وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، اس لئے تمہیں کبھی بھی ہدایت کی بات نہیں بتائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق بات بیان کریں اور تم اسے جھٹلا دو۔

اور وہ غلط بات بیان کریں اور تم اس کی تصدیق کرو۔ ۲۔ عبدالرزاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اگر تم نے ان سے ضرور پوچھنا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو وہ لے لو اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کوئی بات کیسے پوچھتے ہو جبکہ تمہاری یہ کتاب جو اللہ نے اپنے نبی کریم پر نازل فرمائی ہے تمہارے سامنے موجود ہے۔ تمام کتابیں بہت زمانہ پہلے اللہ کے پاس سے آئی ہیں اور یہ ابھی اللہ کے ہاں سے آئی ہے۔ بالکل تروتازہ ہے۔ اس میں باہر کی کوئی چیز ملائی نہیں جا سکی کیا اللہ نے تمہیں اپنی کتاب میں یہ نہیں بتایا کہ ان اہل کتاب نے اللہ کی کتاب (تورات اور انجیل) کو بدل دیا ہے اور اس میں تحریف کی ہے اور بہت سی باتیں اپنے پاس سے لکھ کر اس میں شامل کر کے یوں کہنے لگے کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں۔ یہ اس لئے کیا تا کہ کچھ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ وہ علم الہی جو تمہارے پاس آیا ہے کیا وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں؟ (قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اہل کتاب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے) اللہ کی قسم! ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اہل کتاب کا کوئی آدمی اس علم کے بارے میں پوچھ رہا ہو جو اللہ نے تمہارے پاس نازل فرمایا ہے۔ ۳۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے بارے میں پوچھتے ہو حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو تمام کتابوں کے بعد سب سے آخر میں ابھی اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ تم اسے پڑھتے بھی ہو اور وہ بالکل تروتازہ ہے اور اس میں کوئی اور چیز ابھی

۱۔ اخرجہ نصر المقدسی کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۹۵)

۲۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۴۰) و اخرجہ عبدالرزاق ایضا عن حریش نحوہ عن القاسم بن عبدالرحمن عن عبداللہ قالہ ابن عبدالبر فی جامعہ (ج ۲ ص ۴۲) و اخرجہ الطبرانی فی الکبیر نحو السیاق الاول و رجالہ موثقون کما قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۹۲)

۳۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامعہ (ج ۲ ص ۴۲)



تک ملائی بھی نہیں جاسکی۔

## اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے علم سے اثر لینا

حضرت ولید بن ابی ولید ابو عثمان مدنی کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن مسلم نے ان سے بیان کیا کہ حضرت شفی اصبحی نے ان سے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ارد گرد بہت لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں ان کے قریب جا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کو حدیثیں سنارہے تھے۔ جب وہ خاموش ہو گئے اور سب لوگ چلے گئے اور وہ اکیلے رہ گئے تو میں نے عرض کیا کہ میرے آپ پر جتنے حق بنتے ہیں (کہ میں مسلمان ہوں مسافر ہوں اور طالب علم ہوں وغیرہ) ان سب کا واسطہ دے کر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے حضور سے سنی ہے اور خوب اچھی طرح سمجھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ضرور، میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حضور ﷺ نے مجھ سے بیان فرمائی اور میں نے اسے خوب اچھی طرح سمجھا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے ایسے زور سے سکلی لی کہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے پھر انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حضور نے مجھ سے اس گھر میں بیان فرمائی تھی اور اس وقت میرے اور حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا پھر اتنے زور سے سکلی لی کہ بے ہوش ہی ہو گئے۔ پھر انہیں افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنا چہرہ پونچھا اور فرمایا میں تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو حضور نے اس وقت مجھ سے بیان فرمائی تھی جبکہ ہم دونوں اس گھر میں تھے اور ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ نے اتنے زور سے سکلی لی کہ بے ہوش ہو گئے اور منہ کے بل زمین پر گرنے لگے لیکن میں نے انہیں سنبھال لیا اور بہت دیر تک انہیں سہارا دے کر سنبھالے رکھا پھر انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا کہ مجھ سے حضور نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس وقت کسی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوگی بلکہ ہر جماعت گھٹنوں کے بل سر جھکائے ہوئے ہوگی اور اللہ تعالیٰ پہلے تین آدمیوں کو بلائیں گے۔ ایک وہ آدمی جس نے سارا قرآن یاد کیا اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا اور تیسرا مالدار آدمی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری کو فرمائیں گے جو وحی میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی کیا میں نے وہ تجھے نہیں سکھائی تھی؟ وہ کہے گا اے میرے رب! سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو کچھ سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لئے کیا تا کہ لوگ تجھے قاری کہیں سو یہ تجھے کہا جا چکا

(اور تیرا مقصد حاصل ہو چکا) پھر مالدار کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھے اس قدر زیادہ وسعت نہیں دی تھی کہ تو کسی کا محتاج نہیں تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں بہت وسعت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میں نے تجھے اتنا زیادہ دیا تو تو نے اس کے مقابلہ میں کیا عمل کئے؟ وہ کہے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ خیرات دیتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو غلط کہتا ہے اور فرشتے بھی کہیں گے تو غلط کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے سب کچھ اس لئے کیا تھا تا کہ لوگ کہیں کہ فلاں بہت سخی ہے اور یہ کہا جا چکا اور پھر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا تو نے اپنے راستہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا اس وجہ سے میں نے کفار سے جنگ کی یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لئے کیا تھا تا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے اور یہ کہا جا چکا پھر حضور ﷺ نے میرے گھٹنوں پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ہریرہ! اللہ کی مخلوق میں یہی تین آدمی ہیں جن کے ذریعہ قیامت کے دن سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے سن کر حضرت شفی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور انہیں یہ حدیث سنائی حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ حضرت علاء بن ابی حکیم حضرت معاویہؓ کے تلواریں بردار تھے۔ انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی نے حضرت معاویہؓ کے پاس آ کر حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف سے یہ حدیث سنائی اسے سن کر حضرت معاویہؓ نے فرمایا جب ان تینوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر حضرت معاویہؓ نے رونا شروع کیا اور اتنا زیادہ روئے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ شاید وہ ہلاک ہو جائیں گے اور ہم نے کہا یہ آدمی تو ہمارے پاس بہت خطرناک خبر لے کر آیا ہے پھر حضرت معاویہؓ کو افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا اللہ اور اس کے رسولؐ نے سچ فرمایا ہے مَنْ كَانَ بِرَبِّهِ الدُّنْيَا وَرَبِّهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَخْشُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (سورہ ہود آیت ۱۵-۱۶) ترجمہ ”جو شخص (اپنے اعمال خیر سے) محض حیات دنیوی (کی منفعت) اور اس کی رونق (کا حاصل کرنا) چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے (ان) اعمال (کی جزا) ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں کچھ کی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لئے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ (ثواب وغیرہ) نہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ (ثابت) ہوگا اور (واقع میں تو) جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے۔“

۱۔ اخرجہ الترمذی (ج ۲ ص ۶۱) قال الترمذی هذا حديث حسن غريب وقال المنذرى فى الترغيب (ج ۱ ص ۲۸) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه نحو هذا لم يختلف الا فى حرف او حرفين وابن حبان فى صحيحه بلفظ الترمذى. انتهى بتغير يسير

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروہ پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی آپس میں ملاقات ہوئی وہ دونوں کچھ دیر آپس میں بات کرتے رہے پھر حضرت عبداللہ بن عمروؓ چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ وہاں روتے ہوئے رہ گئے تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا اے ابو عبدالرحمن! آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمروؓ ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انھوں نے حضورؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔!

بنو نوفل کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوالحسنؓ کہتے ہیں کہ جب سورت طسم شعراء نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہما روتے ہوئے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضورؐ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ترجمہ ”اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں“ پھر حضورؐ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ پر پہنچے ترجمہ ”ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے“ تو آپؐ نے فرمایا تم ہو یہ لوگ پھر پڑھا وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا ترجمہ ”اور انھوں نے (اپنے اشعار میں) کثرت سے اللہ کا ذکر کیا“ آپؐ نے فرمایا تم ہو یہ لوگ پھر پڑھا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ترجمہ ”اور انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے (اس کا) بدلہ لیا“ پھر فرمایا تم ہو یہ لوگ (سورت شعراء آیت ۲۲۳-۲۲۷) ۲

حضرت ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یمن والے آئے اور انھوں نے قرآن سنا تو وہ رونے لگے۔ حضرت ابوبکرؓ نے (تواضعا) فرمایا ہم بھی ایسے تھے پھر دل سخت ہو گئے۔ ابونعیم صاحب کتاب کہتے ہیں دل سخت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کر دل طاقتور اور مطمئن ہو گئے۔ ۳

## جو عالم دوسروں کو نہ سکھائے اور جو جاہل

### خود نہ سیکھے ان دونوں کو ڈرانا اور دھمکانا

حضرت ابوزی خزاعی ابو عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضورؐ نے بیان فرمایا اور مسلمانوں کی چند جماعتوں کی خوب تعریف کی پھر آپؐ نے فرمایا کیا بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ پیدا کرتے ہیں اور نہ ان کو سکھاتے ہیں اور نہ انہیں سمجھدار

۱۔ اخرجه احمد و رواه رواة الصحيح كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۳۴۵)

۲۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۳۸۸)

۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة كذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۳)

بناتے ہیں اور نہ ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور نہ انہیں برائی سے روکتے ہیں اور کیا بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتے اور ان سے سیکھتے نہیں اور سمجھ و عقل کی باتیں حاصل نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم! یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو سکھانے لگ جائیں اور انہیں سمجھدار بنانے لگ جائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کرنے لگ جائیں اور انہیں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے لگ جائیں اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں سے سیکھنے لگ جائیں اور ان سے سمجھ و عقل کی باتیں حاصل کرنے لگ جائیں اور دین کی سمجھ حاصل کرنے لگ جائیں ورنہ میں انہیں اس دنیا میں جلد سزا دوں گا پھر منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا خیال ہے حضورؐ نے کن لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے خیال میں تو قبیلہ اشعر کے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ وہ خود دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے کچھ پڑوسی ہیں جو چشموں پر زندگی گزارنے والے، دیہاتی اور اجڈ لوگ ہیں۔ جب یہ خبر ان اشعری لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے بہت سے لوگوں کی تو تعریف فرمائی لیکن ہمارے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا ہے تو ہماری کیا خامی ہے؟ حضورؐ نے فرمایا لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں سمجھدار بنائیں اور انہیں نیکی کا حکم کریں اور انہیں برائی سے روکیں اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں اور ان سے سمجھ و عقل کی باتیں حاصل کریں اور دین کی سمجھ حاصل کریں نہیں تو ان سب کو دنیا ہی میں جلد سزا دوں گا۔ ان اشعری لوگوں نے عرض کیا کیا دوسروں کی غلطی پر تم پکڑے جائیں گے؟ حضورؐ نے اپنی وہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ ہم دوسروں کی غلطی پر پکڑے جائیں گے؟ حضورؐ نے پھر وہی ارشاد فرمایا تو انہوں نے عرض کیا ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیں، چنانچہ حضورؐ نے انہیں ایک سال کی مہلت دی تاکہ وہ ان پڑوسیوں کو سکھائیں۔ ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں سمجھدار بنائیں۔ پھر حضورؐ نے یہ آیت تلاوت فرمائی لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۷۸﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿سورت مائدہ آیت ۷۸﴾۔

(۷۹) ترجمہ ”بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے واقعی ان کا فعل بے شک برا تھا۔“

۱۔ اخرجه ابن راهويه والبخاري في الوحدان وابن السكن وابن مندو والطبراني وابو نعيم وابن عساکر والبارودي وابن مردويه وقال ابن السكن ماله غيره واسناده صالح كذا في الكنز (۱۳۹)

## جو بھی علم اور ایمان حاصل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے

حضرت عبداللہ بن سلمہؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور رونے لگا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہ تو میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ دار ہے اور نہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ مجھے آپ سے کچھ دنیا ملا کرتی تھی (جو آپ کے انتقال کے بعد مجھے نہیں ملے گی) بلکہ اس وجہ سے روتا ہوں کہ میں آپ سے علم حاصل کیا کرتا تھا اور اب مجھے ڈر ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا مت رو کیونکہ جو بھی علم اور ایمان حاصل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ حالانکہ اس وقت علم اور ایمان نہ تھا۔

حضرت یزید بن عمیرہؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ رونے لگے۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ انھوں نے کہا ہم اس علم کی وجہ سے روتے ہیں جس کے حاصل کرنے کا سلسلہ آپ کے انتقال پر ٹوٹ جائے گا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا نہیں۔ علم و ایمان قیامت تک اپنی جگہ رہیں گے جو ان دونوں کو تلاش کرے گا وہ انہیں قرآن و سنت رسولؐ میں سے ضرور پالے گا (چونکہ قرآن مجید معیار ہے اس لئے) ہر کلام کو قرآن پر پیش کر دو اور قرآن کو کسی کلام پر پیش مت کرو حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے علم حاصل کرو اگر یہ حضرات نہ ملیں تو پھر ان چار سے حاصل کرو حضرت عویر (ابوالدرداء) حضرت ابن مسعود، حضرت سلمان اور حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہم یہ ابن سلام وہی ہیں جو یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے کیونکہ میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے کہ یہ جنت میں بلا حساب جانے والے دس آدمیوں میں سے ہیں اور عالم کی لغزش سے بچو اور جو بھی حق بات لے کر آئے اسے قبول کر لو اور جو غلط بات لے کر آئے اسے قبول نہ کرو چاہے وہ کوئی بھی ہو۔

حضرت یزید بن عمیرہؓ کہتے ہیں جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مرض الوفا شروع ہوا تو کبھی وہ بے ہوش ہو جاتے تھے اور کبھی انہیں افاقہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو ایسی بے ہوشی طاری ہوئی کہ ہم سمجھے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے پھر انہیں افاقہ ہوا تو میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ انھوں نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میں نہ تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۳)

۲۔ عند ابن عساکر و سیف کمالی الکنز (ج ۷ ص ۸۷)

مجھے آپ سے کوئی دنیا ملا کرتی تھی جو اب مجھے نہیں ملا کرے گی اور نہ اس وجہ سے رورہا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے بلکہ اس وجہ سے رورہا ہوں کہ آپ سے علم کی باتیں اور صحیح فیصلے سنا کر تا تھا وہ سب اب جاتا رہے گا حضرت معاذؓ نے فرمایا امت رو کیونکہ علم اور ایمان اپنی جگہ رہیں گے جو انہیں تلاش کرے گا وہ انہیں ضرور پالے گا، لہذا علم کو وہاں تلاش کرو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلاش کیا تھا کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا جیسے کہ قرآن میں ہے اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلَیْ رَبِّیْ سَیِّدِیْنِ (سورت صافات آیت ۹۹) ترجمہ ”میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں وہ مجھ کو (اچھی جگہ) پہنچا ہی دے گا۔“ میرے بعد ان چار آدمیوں سے علم حاصل کرنا اگر ان میں سے کسی سے نہ ملے تو پھر ممتاز اور عمدہ لوگوں سے علم کے بارے میں پوچھنا وہ چار یہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن سلام حضرت سلمان اور حضرت عویر ابو الدرداء رضی اللہ عنہم اور حکیم آدمی کی لغزش سے اور منافق کے فیصلے سے بچ کر رہنا۔ میں نے پوچھا مجھے کس طرح حکیم آدمی کی لغزش کا پتہ چل سکتا ہے؟ حضرت معاذؓ نے فرمایا وہ گمراہی کا کلمہ جسے شیطان کسی آدمی کی زبان پر اس طرح جاری کر دیتا ہے جسے وہ بے سوچے سمجھے فوراً بول دیتا ہے اور منافق بھی کبھی حق بات کہہ دیتا ہے، لہذا علم جہاں سے بھی آئے تم اسے لے لو کیونکہ حق بات میں نور ہوتا ہے اور جن باتوں کا حق اور باطل ہونا واضح نہ ہو ان سے بچو۔

حضرت عمرو بن میمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یمن میں رہا کرتے تھے۔ وہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا اے یمن والو! اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے۔ میں اللہ کے رسول ﷺ کی طرف سے تمہاری طرف قاصد بن کر آیا ہوں۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت ایسی بیٹھی کہ میں ان کے انتقال تک ان سے جدا نہیں ہوا ان کے ساتھ ہی رہا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو میں رونے لگا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا اس علم کی وجہ سے روتا ہوں جو آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ حضرت معاذؓ نے فرمایا نہیں۔ علم اور ایمان قیامت تک دنیا میں رہے گا۔ آگے اور حدیث ذکر کی۔

## ایمان اور علم و عمل کو بیک وقت اکٹھے سیکھنا

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا بڑا عرصہ اس طرح گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن سے پہلے ایمان سیکھتا تھا اور جو بھی سورت حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوتی تھی ہر ایک اس کے حلال و حرام ایسے سیکھتا تھا جیسے تم قرآن کو سیکھتے ہو اور جہاں وقف کرنا مناسب ہوتا تھا

۱۔ الخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۳۶۶) قال الحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخر

جاء ۲۔ عند ابن عساکر ایضا كما فی الکنز (ج ۷ ص ۸۷)

اس کو بھی سیکھتا تھا پھر اب میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو ایمان سے پہلے قرآن حاصل کر لیتے ہیں اور سورت فاتحہ شروع سے آخر تک ساری پڑھ لیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ سورت فاتحہ کن کاموں کا حکم دے رہی ہے اور کن کاموں سے روک رہی ہے اور اس سورت میں کون سی آیت ایسی ہے جہاں جا کر رک جانا چاہئے اور سورت فاتحہ کو ردی کھجور کی طرح بکھیر دیتا ہے۔ یعنی جلدی جلدی پڑھتا ہے۔

حضرت جناب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم نو عمر لڑکے حضور ﷺ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔  
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کے زمانے میں ایک آیت یا چند آیتیں یا پوری سورت نازل ہوتی تو اس سے مسلمانوں کا ایمان اور خشوع اور بڑھ جاتا اور وہ آیت یا سورت جس کام سے روکتی سارے مسلمان اس سے رک جاتے۔

حضرت ابو عبدالرحمن سلمیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے جو صحابہ ہمیں پڑھاتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ حضور ﷺ سے دس آیتیں پڑھتے اور اگلی دس آیتیں تب شروع کرتے جب پہلی دس آیتوں میں جو علم و عمل ہے اسے اچھی طرح جان لیتے، چنانچہ یوں ہم علم و عمل دونوں سیکھتے۔  
حضرت ابو عبدالرحمن سے اسی جیسی دوسری روایت میں یہ مضمون بھی منقول ہے کہ ہم قرآن کو اور اس پر عمل کو سیکھتے تھے اور ہمارے بعد ایسے لوگ قرآن کے وارث بنیں گے جو پانی کی طرح سارا قرآن پی جائیں گے لیکن یہ قرآن ان کی ہنسی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا اور حلق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بلکہ اس سے بھی نیچے نہیں جائے گا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم ﷺ سے قرآن کی دس آیتیں سیکھتے تو بعد والی آیتیں تب سیکھتے جب پہلی آیتوں میں جو کچھ ہوتا اسے اچھی طرح سیکھ لیتے۔  
حضرت شریک راوی سے پوچھا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی آیتوں میں جو عمل ہوتا اسے سیکھ لیتے حضرت شریک نے کہا جی ہاں۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۵) رجالہ رجال الصحیح. ۱  
۲۔ اخرجہ ابن ماجہ (ص ۱۱) ۳۔ اخرجہ العسکری وابن مردویہ و سندہ حسن کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۳۲) ۴۔ اخرجہ احمد (ج ۵ ص ۳۱۰) قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۵) وفی عطاء بن السائب اخطط فی آخر عمرہ. انتھی و اخرجہ ابن ابی شیبہ عن ابی عبدالرحمن السلمی نحوہ کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۳۲) ۵۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۶ ص ۱۷۲)  
۶۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۳۲)

## جتنے دینی علم کی ضرورت ہو اتنا حاصل کرنا

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہؓ سے فرمایا اے قبیلہ بنو عبس والے! علم تو بہت زیادہ ہے اور عمر بڑی تھوڑی ہے، لہذا دین پر عمل کرنے کے لئے جتنے علم کی ضرورت پڑتی جائے اتنا علم حاصل کرتے جاؤ اور جس کی ضرورت نہیں اسے چھوڑ دو اور اس کے حاصل کرنے کی مشقت میں نہ پڑو۔

حضرت ابوالبختریؓ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو عبس کا ایک آدمی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں تھا اس آدمی نے دریائے دجلہ سے پانی پیا۔ حضرت سلمانؓ نے اس سے فرمایا اور پی لو۔ اس نے کہا نہیں میں سیر ہو چکا ہوں۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے تمہارے پانی پینے سے دریائے دجلہ میں کوئی کمی آئی ہے؟ اس آدمی نے کہا میں نے جتنا پانی پیا ہے اس سے اس دریا میں کیا کمی آئے گی؟ حضرت سلمانؓ نے فرمایا علم بھی اسی دریا کی طرح ہے، لہذا جتنا علم تمہیں فائدہ دے اتنا حاصل کر لو۔

حضرت محمد بن ابی قیلہؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو خط لکھ کر علم کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابن عمرؓ نے اسے یہ جواب لکھا کہ تم نے مجھے خط لکھ کر علم کے بارے میں پوچھا ہے۔ علم تو بہت زیادہ ہے میں سارا لکھ کر تمہیں نہیں بھیج سکتا، البتہ تم اس بات کی پوری کوشش کرو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تمہاری زبان مسلمانوں کی آبرو سے رکی ہوئی ہو اور تمہاری کمر پر ان کے ناحق خون کا بوجھ نہ ہو اور تمہارا پیٹ ان کے مال سے خالی ہو اور تم مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے ہوئے ہو۔

## دین اسلام اور فرائض سکھانا

حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچا تو آپ بیان فرما رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ایک اجنبی پر دہلی آدمی اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے جسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کا دین کیا ہے؟ حضور بیان چھوڑ کر میرے پاس تشریف لائے پھر ایک کرسی لائی گئی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے اور اس پر حضور بیٹھ کر مجھے اللہ کا علم سکھانے لگے پھر منبر پر واپس جا کر اپنا بیان پورا فرمایا۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۸۹) عن حفص بن عمر السعدی عن عمہ  
 ۲۔ عند ابی نعیم ایضاً (ج ۱ ص ۱۸۸) ۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذافی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۰) ۴۔ اخرجہ مسلم (ج ۱ ص ۲۸۷) و اخرجہ البیہاری فی الادب (ص ۱۷۱) نحوہ  
 والنسائی فی الزیة کما فی ذخائر الموارث والطبرانی و ابو نعیم کما فی کنز العمال، (۵ ص ۲)



حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا مجھے اسلام سکھادیں۔ حضور نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو اور لوگوں کے لئے ہمسند و جہتم اپنے لئے پسند کرتے ہو اور ان کے لئے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لئے ناپسند کرتے ہو۔ حضرت محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں حضرت فروہ بن مسیک مرادی رضی اللہ عنہ کندہ کے بادشاہوں کو چھوڑ کر نبی کریم ﷺ کا اتباع کرنے کے لئے اپنی قوم کے نمائندے بن کر حضور کی خدمت میں آئے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے اور وہ قرآن، اسلام کے فرائض اور شرعی احکام سیکھتے تھے آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ضباع بنت زبیر بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ یمن سے بہرا قبیلہ کا وفد آیا جو کہ تیرہ آدمی تھے وہ اپنے اونٹوں کی تکیل پکڑ کر چلتے رہے یہاں تک کہ بنو جدیلہ قبیلہ کے محلہ میں حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت مقداد نے باہر آ کر انہیں خوش آمدید کہا اور انہیں اپنے گھر کے ایک حصے میں ٹھہرایا۔ وہ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور فرائض سیکھے اور چند دن قیام فرمایا اور پھر حضور کی خدمت میں الوداع کہنے کے لئے حاضر ہوئے۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں اب جاتے ہوئے ہدیئے دیئے جائیں پھر وہ لوگ اپنے علاقے کو واپس چلے گئے۔ ۱

حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو اسلام سکھایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور جو نماز اللہ نے تم پر فرض کی ہے اسے وقت پر ادا کرو کیونکہ نماز میں کوتاہی کرنا ہلاکت ہے اور دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور جسے امیر بنایا جائے اس کی بات سنو اور مانو۔ ۲

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا اے امیر المومنین! مجھے دین سکھادیں، حضرت عمر نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج بیت اللہ کرو، رمضان کے روزے رکھو لوگوں کے ظاہری اعمال دیکھو، ان کے پوشیدہ اور چھپے ہوئے اعمال کو مت تلاش کرو اور ہر اس کام سے بچو جس کو کرنے سے شرم آتی ہو (اور یہ تمام کام بالکل حق اور سچ

۱۔ اخروہ ابن ابی جریر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۷۰)

۲۔ اخروہ ابن سعد (ج ۱ ص ۳۲۷) ۳۔ اخروہ ابن سعد ایضا (ج ۱ ص ۲۳۱)

۴۔ اخروہ عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ و ابن جریر و السنۃ فی الایمان کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۱۹)

ہیں اس لئے) جب اللہ سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ عمرؓ نے مجھے ان کاموں کا حکم دیا تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! مجھے دین سکھائیں، اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اے اللہ کے بندے! ان تمام کاموں کو مضبوطی سے تھام لو اور جب اللہ سے ملو تو جودل میں آئے کہہ دینا۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور مجھے بہت کام ہوتے ہیں اس لئے مجھے ایسے عمل بتائیں جن پر پوری طرح اعتماد کر سکوں اور جن کے ذریعے میں منزل مقصود یعنی اللہ تک یا جنت تک پہنچ سکوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو اور اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ اس نے اپنا ہاتھ حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو اور (امیر کی) فرمانبرداری کرو، لوگوں کے ظاہری اعمال اور حالات دیکھو، ان کے پوشیدہ اور چھپے ہوئے اعمال اور حالات مت تلاش کرو، ہر وہ کام کر دو کہ جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو تمہیں نہ شرم اٹھانی پڑے اور نہ رسوائی برداشت کرنی پڑے اور ہر اس کام سے بچو کہ جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو تمہیں شرم بھی اٹھانی پڑے اور رسوا بھی ہونا پڑے اس آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! میں ان تمام باتوں پر عمل کروں گا اور جب اپنے رب سے ملوں گا تو کہہ دوں گا کہ عمر بن خطاب نے مجھے یہ کام بتائے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ان تمام کاموں کو لے جاؤ اور جب اپنے رب سے ملو تو جودل چاہے کہہ دینا۔

## نماز سکھانا

حضرت ابو مالک اشجعی کے والد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا تو حضور ﷺ اسے سب سے پہلے نماز سکھاتے۔

حضرت حکم بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں نماز سکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہونے لگو تو پہلے اللہ اکبر کہو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ لیکن کانوں سے اوپر نہ لے جاؤ اور پھر یہ پڑھو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ

۱۔ اخرجہ البیہقی والاصبہانی فی الحجۃ ۲۔ اخرجہ ابضا بن عدی واللانکاتی قال البیہقی

قال البخاری هذا مرسل لان الحسن لم یدرک عمر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۷۰)

۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۸)

۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والہزار قال البیہمی (ج ۱ ص ۲۹۳) رجالہ رجال الصحیح

جدک ولا الہ غیرک ترجمہ ”اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرا نام برکت والا ہے تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر اس طرح التحیات سکھاتے تھے جیسے کہ استاد مکتب میں بچوں کو سکھاتا ہے۔ ۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے التحیات سکھائی اور ارشاد فرمایا کہ حضور ﷺ نے بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں التحیات سکھائی تھی التحیات للہ الصلوات الطیبات المبارکت للہ ۲۔ حضرت عبدالرحمن بن عبدقاریؓ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو منبر پر لوگوں کو التحیات سکھاتے ہوئے سنا۔ فرما رہے تھے اے لوگو! کہو التحیات للہ سے لے کر آخر تک۔ ۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں التحیات اس طرح سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ ۴۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی حدیث منقول ہے۔ ۵۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے التحیات اس طرح سکھائی جس طرح مجھے آپ قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے اور اس وقت میرا ہاتھ حضورؐ کے ہاتھوں میں تھا پھر اس کے بعد التحیات کو ذکر کیا۔ ۶۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں سورتوں کا شروع والا حصہ اور قرآن سکھاتے تھے، چنانچہ ہمیں حضورؐ نے نماز کا خطبہ اور نکاح وغیرہ کسی ضرورت کا خطبہ بھی سکھایا پھر التحیات کا ذکر کیا۔ ۷۔ حضرت اسودؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہمیں التحیات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اس میں ہماری الف اور واؤ کی غلطی بھی پکڑتے تھے۔ ۸۔

حضرت زید بن وہبؓ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدہ پورا نہیں کر رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہؓ نے اس سے پوچھا کتنے عرصہ سے تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا چالیس سال سے، حضرت حذیفہؓ نے فرمایا تم نے چالیس سال سے ٹھیک نماز نہیں پڑھی اور اگر تم ایسی نماز پڑھتے ہوئے مرو گے تو تم اس حالت پر نہیں مرو گے جس پر حضرت محمد ﷺ پیدا کئے گئے تھے پھر اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے سکھانے لگے۔ پھر فرمایا آدمی کو چاہئے کہ وہ نماز میں قیام مختصر

۱۔ اخرجہ ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۰۳) ۲۔ اخرجہ مسدد الطحاوی کذا فی

الکنز (ج ۳ ص ۲۱۷) ۳۔ اخرجہ الدارقطنی وحسنہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۱۷)

۴۔ اخرجہ مالک والشافعی والطحاوی وعبدالرزاق وغیرہم ۵۔ عند ابن ابی شیبہ

۶۔ عند ابن ابی شیبہ ایضا ۷۔ عند ابن ابی شیبہ ایضا

۸۔ عند العسکری فی الامثال

۹۔ عند ابن النجار کذا فی کنز العمال (ج ۳ ص ۲۱۸، ۲۱۹)

کرے لیکن رکوع سجدہ پورا کرے۔

## اذکار اور دعائیں سکھانا

حضرت علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں پانچ ہزار بکریاں دے دوں یا ایسے پانچ کلمات سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پانچ ہزار بکریاں تو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ مجھے وہ کلمات ہی سکھا دیں۔ حضورؐ نے فرمایا یہ کہو اللھم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی و طیب لی کسبی و قنعنی بما رزقتنی و لا تذهب قلبی الی شئی صرفته عنی اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما اور میرے اخلاق وسیع فرما اور میری کمائی کو پاک فرما اور جو روزی تو مجھے عطا فرمائے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما اور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہنے دے۔<sup>۱</sup>

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما اپنی بیٹیوں کو یہ کلمات سکھاتے اور انہیں ان کے پڑھنے کی تاکید کرتے اور فرماتے میں نے یہ کلمات حضرت علیؓ سے سیکھے ہیں اور حضرت علیؓ نے فرمایا تھا کہ جب حضور کو کوئی پریشانی یا مشکل کام پیش آتا تو آپ یہ کلمات پڑھتے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحانہ تبارک اللہ رب العالمین و رب العرش العظیم و الحمد للہ رب العالمین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا بردبار بڑے کرم والا ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور بڑے عرش کا رب ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت عبداللہ بن جعفرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے میرے بھتیجے! میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جو میں نے حضورؐ سے سنے ہیں۔ موت کے وقت جو ان کلمات کو کہے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم تین مرتبہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا بردبار بڑے کرم والا ہے۔ اللہ رب العالمین تین مرتبہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک بحیی و یمیت و هو علی کل شیء قذیر“ وہ ذات بابرکت ہے جس کے قبضہ میں تمام بادشاہی ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق و ابن ابی شیبہ و البخاری و النسائی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۳۰)  
 ۲۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۵) ۳۔ اخرجہ النسائی و ابو نعیم کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۸)  
 ۳۔ اخرجہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق و سندہ حسن کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۱۱۱)

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف والوں میں سے میں سب سے پہلے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور طائف کے جنوب میں واقع پہاڑی سلسلے کے بالائی حصہ سے صبح صبح چلا اور عصر کے وقت منیٰ میں پہنچا پھر پہاڑ پر چڑھا اور اتر کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہوا۔ حضور نے مجھے قل هو اللہ احد اور اذنا لزلت سکھائی اور یہ کلمات بھی سکھائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور فرمایا یہی وہ نیک کلمات ہیں جو باقی رہنے والے ہیں۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ ہمیں سکھاتے کہ صبح کو ہم یہ دعا پڑھیں اصبحنا علی فطرة الاسلام و کلمة الاخلاص و سنة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ملة ابراهيم حنیفا و ما کان من المشرکین " ہم نے فطرت اسلام کلمہ اخلاص، اپنے نبی حضرت محمد ﷺ کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اور شام کو بھی یہ دعا پڑھیں (صرف اصبحنا کی جگہ امسینا کہہ لیں)۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح استاد بچوں کو لکھتا سکھاتا ہے اللھم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من العین و اعوذ بک ان ارد الی ارض العرب و اعوذ بک من لئنة الدنيا و عذاب القبر " اے اللہ! میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ناکارہ عمر کی طرف پہنچا دیا جائے اور دنیا کے فتنوں سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔"

حضرت حارث بن نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں مرجانے والے کے لئے یہ دعا سکھائی اللھم اغفر لاخواننا و اخواتنا و اصلح ذات بیننا و الف بین قلوبنا اللھم ہذا عبدک فلان ابن فلان و لا نعلم الاخیرا و انت اعلم بہ منا فاغفر لنا و له " اے اللہ! ہمارے بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما اور ہمارے آپس کے تعلقات کو ٹھیک فرما اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما اے اللہ! یہ تیرا بندہ فلاں بن فلاں ہے۔ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ یہ بہت نیک تھا اور آپ اسے ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ ہماری اور اس کی مغفرت فرمادیں۔" اپنی جماعت میں میں سب سے چھوٹا تھا میں نے عرض کیا اگر مجھے اس کی کوئی نیکی

۱۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی الضمیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۸۶)

۲۔ اخرجہ عبداللہ بن احمد فی زوائد کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۳) ۳۔ اخرجہ ابن جریر

کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۷)

معلوم نہ ہو تو؟ حضورؐ نے فرمایا تو تم وہی کہو جو تمہیں معلوم ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف آتا تو حضورؐ ہمیں دعا کے یہ کلمات سکھاتے تھے اللھم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی مقبلاً ترجمہ ”اے اللہ! مجھے رمضان کے لئے صحیح سالم رکھ اور رمضان کو میرے لئے صحیح سالم رکھ یعنی چاند وقت پر نظر آئے بادل وغیرہ نہ ہوں) اور پھر اسے قبول بھی فرمائیے۔

حضرت سلامہ کنذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو نبی کریمؐ پر درود پڑھنے کے لئے یہ کلمات سکھاتے تھے اللھم داعی المدحوات وباری المسموعات وبارک ورافة القلوب علی فطرتها شقیها وسعیها اجعل شرائف صلواتک و نواحی برکاتک ورافة تحننک علی محمد عبدک ورسولک الخاتم لما سبق والفتاح لما اغلق والمعین علی الحق بالحق والدامغ لبعیثات الابطال کما حمل فاضطلع بامرک بطاعتک مستوفزا فی مرضاتک غیر نکل عن قدم ولا وھن فی عزم و اعیالو حیک حافظا لعهدک ما ضیا علی نفاذ امرک حتی اوری قیسا لقابس بہ ہدیت القلوب بعد خوضات الفتن والائم وابعج موضحات الا علام و منیرات الاسلام وناثرات الاحکام فھو امینک العامون و خازن علمک المخزون و شہیدک یوم الدین وبعیثک نعمة ورسولک بالحق رحمة اللھم افسح له مفسحا فی عدنک و اجزه مضاعفات الخیر من فضلک مہنات غیر مکدرات من فوز ثوابک المعلول و جزیل عطائک المخزون اللھم اعل علی بناء الناس بناء واکرم مشواہ لدبک ونزلہ واتمم له نورہ و اجزه من ابتعاتک له مقبول الشہادة و مرضی المقالة ذا منطق عدل و کلام فصل و حجة و برهان عظیم۔ ترجمہ ”اے اللہ! اے نبھی ہوئی زمینوں کے بچھانے والے! بلند آسمانوں کے پیدا کرنے والے! بد بخت اور نیک بخت دلوں کو ان کی فطرت پر پیدا کرنے والے! اپنی معظم رحمتیں، بڑھنے والی برکتیں اور اپنی خاص مہربانی اور شفقت حضرت محمدؐ پر نازل فرما جو کہ تیرے بندے اور رسولؐ ہیں اور جو نبوتیں پہلے گزر چکی ہیں ان کے لئے مہر ہیں اور بند سعادتوں کو کھولنے والے ہیں اور صحیح طریقے سے حق کی مدد کرنے والے ہیں اور جس طرح انہیں ذمہ داری دی گئی اس طرح انھوں نے باطل کے لشکروں کو نیست و نابود کر دیا اور تیری اطاعت کے لئے تیرے حکم کو لے کر کھڑے ہو گئے اور تجھے خوش کرنے کے لئے ہر دم مستعد رہے۔ انھوں نے آگے بڑھنے میں بالکل سستی نہ کی اور نہ عزم و ارادہ میں کچھ کمزوری ظاہر کی تیری وحی کو خوب یاد کیا اور تیرے عہد کی حفاظت کی اور تیرے ہر حکم کو نافذ کیا یہاں

۱۔ اخرجه ابو نعیم عن عبد اللہ بن حارث بن نوفل کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۱۱۴)

۲۔ اخرجه الطبرانی فی الدعاء والد بلمی وسندہ حسن کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۲۳)

تک کہ روشنی لینے والوں کے لئے نور اسلام کا شعلہ روشن کر دیا۔ آپ ہی کے ذریعہ دلوں کو فتنوں اور گناہوں میں غوطے کھانے کے بعد ہدایت ملی اور آپ نے گھلی اور واضح نشانیوں کو اسلام کے روشن دلائل کو اور منور احکام کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا وہ تیرے معصوم اور محفوظ امین ہیں اور تیرے علمی خزانے کے خزانچی اور محافظ ہیں اور قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں تو نے انہیں نعمت بنا کر بھیجا ہے اور وہ تیرے سچے رسول ہیں جو رحمت بن کر آئے ہیں اے اللہ! اپنی جنت عدن میں ان کو خوب کشادہ جگہ عطا فرما اور اپنے بار بار دیئے جانے والے ثواب میں سے اور اپنی بڑی عطا کے خزانوں میں سے خوب بڑھا کر صاف ستھری جزا انہیں عطا فرما۔ اے اللہ! ان کی عمارت کو تمام لوگوں کی عمارت سے اونچا فرما اور اپنے ہاں ان کے ٹھکانے اور مہمانی کو خوب عمدہ فرما اور اپنے نور کو ان کے لئے پورا فرما اور تو ان کو یہ بدلہ دے کہ جب ان کو قیامت کے دن اٹھائے تو ان کی گواہی قبول ہو اور ان کی بات تیری پسند کے مطابق ہو اور عدل و انصاف والی ہو اور ان کا کلام صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والا ہو اور وہ مضبوط حجت اور بڑی دلیل والے ہوں۔

## مدینہ منورہ آنے والے مہمانوں کو سکھانا

حضرت شہاب بن عبد الرحمن اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلہ عبد القیس کا جو وفد حضور ﷺ کی خدمت میں گیا تھا ان میں سے ایک صاحب کو اپنے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے آپ ہمارے آنے سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب ہم حضور کی مجلس والوں تک پہنچ گئے تو انہوں نے ہمارے لئے کشادہ جگہ بنا دی۔ ہم وہاں بیٹھ گئے۔ حضور نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہمیں دعادی پھر ہماری طرف دیکھ کر فرمایا تمہارا سردار اور ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے فرمایا کیا یہ لہجہ سردار ہے (لہجہ اسے کہتے ہیں جس کے سر یا چہرے پر کسی زخم کا نشان ہو) ان کے چہرے پر گدھے کے کھر لگنے کے زخم کا نشان تھا اور یہ سب سے پہلا دن تھا جس میں ان کا نام لہجہ پڑا۔ یہ باقی لوگوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے وفد کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان سنبھالا پھر اپنا بیگ نکالا اور سفر کے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنے پھر وہ حضور کی طرف آئے اس وقت حضور نے پاؤں پھیلا کر تکیہ لگا رکھا تھا جب حضرت ابن شح حضور کے قریب پہنچے تو لوگوں نے ان کے لئے جگہ بنا دی اور

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط و ابو نعیم فی عوالی سعید بن منصور کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۱۳) قال ابن کثیر فی تفسیرہ (ج ۳ ص ۵۰۹) هذا مشہور من کلام علی رضی اللہ عنہ وقد تکلم علیہ ابن قتیبہ فی مشکل الحدیث و کذا ابو الحسن احمد بن فارس الکفوی فی جزء جمعہ فی فضل الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی اسنادہ نظر و قدری الحافظ ابو القاسم الطبرانی هذا الاثر۔ انتہی

یوں کہا اے اشج! یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضور ﷺ پاؤں سمیٹ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اے اشج یہاں آ جاؤ چنانچہ وہ حضور کے دائیں طرف آرام سے بیٹھ گئے۔ حضور نے انہیں خوش آمدید کہا اور بہت شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا پھر حضور نے ان سے ان کے علاقے کے بارے میں پوچھا اور ہجر کی ایک بستی صفا مشقر وغیرہ کا نام لیا۔ حضرت اشج نے کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے علاقے میں گیا ہوں اور میں نے خوب گھوم پھر کر دیکھا ہے۔ پھر حضور نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اپنے ان بھائیوں کا اکرام کرو کیونکہ یہ تمہاری طرح مسلمان بھی ہیں لیکن ان کے بالوں اور کھال کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں ان پر زبردستی نہیں کرنی پڑی اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر کے ان پر غلبہ پالیا ہو اور ان کا تمام مال مال غنیمت بنا لیا ہو یا انھوں نے اسلام سے انکار کیا ہو اور انہیں قتل کیا گیا ہو (وہ وفد انصار کے ہاں رہا) پھر حضور نے اس وفد سے پوچھا تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اور مہمانی کو کیسا پایا؟ انھوں نے کہا یہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں انھوں نے رات کو ہمیں نرم نرم بستروں پر سلا یا اور عمدہ کھانے کھلائے اور صبح کو ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی ﷺ کی سنتیں سکھائیں۔ حضور کو انصار کا یہ رویہ بہت پسند آیا اور آپ اس سے بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے ہم میں سے ہر ایک کی طرف توجہ فرمائی اور ہم نے جو کچھ سیکھا سکھایا تھا اس کا اندازہ لگایا تو ہم میں سے کسی نے التحیات سیکھ لی تھی، کسی نے سورت فاتحہ، کسی نے ایک سورت، کسی نے دو سورتیں، کسی نے ایک سنت اور کسی نے دو سنتیں۔ اگے لمبی حدیث ذکر کی۔!

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا تمہارے پاس عبدالقیس کا وفد آ رہا ہے لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ واقعی وہ وفد پہنچ گیا۔ انھوں نے آ کر حضور کو سلام کیا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہارے توشہ کی کھجوروں میں سے کچھ باقی ہے؟ انھوں نے کہا جی ہاں پھر حضور کے ارشاد فرمانے پر چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور انھوں نے اپنی بچی ہوئی کھجوریں اس پر ڈال دیں حضور نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور اس وفد سے مختلف کھجوروں کے بارے میں فرمانے لگے تم اس کھجور کو برنی اور اسے یہ اور اسے یہ کہتے ہو۔ انھوں نے کہا جی ہاں پھر آپ نے اس وفد کو تقسیم کر دیا کہ (مدینے کے رہنے والے) مسلمان ان میں سے ایک ایک کو لے جائیں اور اپنے ہاں ٹھہرائیں اور انہیں قرآن و حدیث پڑھائیں اور نماز سکھائیں۔ ایک ہفتہ وہ یوں ہی سیکھتے

۱۔ اخرجہ الامام احمد (ج ۴ ص ۲۰۶) قال المنذری فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۵۲) و هذا الحدیث بطولہ رواہ احمد باسناد صحیح وقال الہیثمی (ج ۸ ص ۱۷۸) ورجالہ ثقات



رہے پھر حضورؐ نے سارے وفد کو بلایا (اور ان کا امتحان لیا) تو آپؐ نے دیکھا کہ ابھی پورا سیکھے اور سمجھے نہیں ہیں کچھ کمی ہے پھر انہیں دوسرے مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور ایک ہفتہ ان کے ہاں رہنے دیا پھر انہیں بلایا (اور ان کا امتحان لیا) تو دیکھا کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے اور پوری طرح سمجھ لیا ہے پھر اس وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ نے ہمیں بڑی خیر سکھادی ہے اور دین کی سمجھ عطا فرمادی ہے۔ اب ہم اپنے علاقے کو جانا چاہتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا ضرور چلے جاؤ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں جو شراب پیتے ہیں اگر ہم اس کے بارے میں حضورؐ سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد آگے حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور ﷺ نے کدو کے تونے اور درخت کی کھوکھلی جڑ سے بنائے ہوئے برتن اور روغنی مرتبان میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔

## دوران سفر علم حاصل کرنا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نو سال مدینہ منورہ میں رہے اور اس عرصہ میں آپؐ نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر آپؐ نے لوگوں میں اعلان کروایا کہ اللہ کے رسول ﷺ اس سال حج کریں گے تو بہت سارے لوگ مدینہ منورہ آگئے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ حضورؐ کی اقتداء کرے اور وہی کام کرے جو حضورؐ کریں۔ جب ذیقعدہ میں پانچ دن باقی رہ گئے تو آپؐ حج کے لئے تشریف لے چلے۔ ہم بھی آپؐ کے ساتھ تھے۔ جب آپؐ ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں اب کیا کروں؟ حضورؐ نے فرمایا پہلے غسل کرو پھر کسی کپڑے کی لنگوٹی باندھ لو پھر احرام باندھ لو اور اونچی آواز سے لبیک کہو۔ پھر حضورؐ وہاں سے تشریف لے چلے یہاں تک کہ جب آپؐ کی اونٹنی آپؐ کو لے کر بیدانامی اونچے مقام پر پہنچی تو آپؐ نے ان الفاظ سے لبیک پڑھی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک۔

”اے اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اور ساری بادشاہت تیرے لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔“ اور لوگوں نے بھی لبیک پڑھی اور کچھ لوگ ذالمعارض جیسے کلمات پڑھ رہے تھے اور نبی کریم ﷺ سن رہے تھے لیکن آپؐ نے ان سے کچھ نہ فرمایا پھر میں نے حضورؐ کے سامنے نگاہ ڈالی تو مجھے حدنگاہ تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کوئی سوار تھا کوئی پیدل اور یہی حال آپؐ کے دائیں بائیں اور پیچھے تھا۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے درمیان تھے۔ آپؐ پر قرآن نازل ہوتا تھا۔ آپؐ اس کی تفسیر بھی

جانتے تھے اور قرآن پر جیسا عمل آپ کرتے تھے ویسا ہم بھی کرتے تھے۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے آئندہ حضور ﷺ کے خطبات حج کے عنوان کے ذیل میں حضور کے صحابہ کرام کو سفر حج میں سکھانے کے واقعات آجائیں گے اور جہاد میں نکل کر سیکھنے سکھانے کے باب میں اس باب کے کچھ واقعات گزر چکے ہیں۔

حضرت جابر بن ازرق غاضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں سواری پر اپنا سامان لے کر حاضر ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم منزل پر پہنچ گئے۔ حضور نے سواری سے اتر کر چڑے کے ایک خیمے میں قیام فرمایا اور آپ کے خیمے کے دروازے پر تیس کوڑے بردار آدمی کھڑے ہو گئے ایک آدمی مجھے دھکے دینے لگا۔ میں نے کہا اگر تم مجھے دھکے دو گے تو میں بھی تمہیں دھکے دوں گا اور اگر تم مجھے مارو گے تو میں بھی تمہیں ماروں گا۔ اس آدمی نے کہا اد سب سے برے آدمی! میں نے کہا اللہ کی قسم! تم مجھ سے زیادہ برے ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں اطراف یمن سے اس لئے آیا ہوں تاکہ نبی کریم ﷺ سے حدیثیں سنوں اور واپس جا کر اپنے پیچھے والوں کو وہ ساری حدیثیں سناؤں اور تم مجھے روکتے ہو۔ اس آدمی نے کہا تم نے ٹھیک کہا اللہ کی قسم! واقعی میں تم سے زیادہ برا ہوں۔ پھر حضور سواری پر سوار ہوئے اور منیٰ میں جمرہ عقبہ کے پاس سے لوگ آپ کے ساتھ چمٹنے لگے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ یہ سب لوگ حضور سے مختلف باتیں پوچھنا چاہتے تھے لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی آپ تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس نے اپنے بال کٹوا رکھے تھے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے دعائے رحمت فرمادیں۔ حضور نے فرمایا اللہ بال مندوانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اس آدمی نے پھر کہا میرے لئے دعائے رحمت فرمادیں۔ حضور نے فرمایا اللہ بال مندوانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اس آدمی نے پھر کہا میرے لئے دعائے رحمت فرمادیں۔ حضور نے فرمایا اللہ بال مندوانے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ دعا آپ نے تین مرتبہ فرمائی تو وہ آدمی گیا اور جا کر اس نے اپنے بال مندوا دیئے۔ اس کے بعد مجھے جو بھی نظر آیا اس کے بال مندوا ہوئے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَضَعُوا فِي الدِّينِ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة آیت ۱۲۲)

ترجمہ اور (ہمیشہ کے لئے) مسلمانوں کو یہ (بھی) نہ چاہئے کہ (جہاد کے واسطے) سب کے سب (ہی) نکل کھڑے ہوں سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی

جماعت (جہاد میں) جایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ لوگ اپنی (اس) قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس واپس آویں ڈراویں تاکہ وہ (ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے) احتیاط رکھیں۔ اس کی تفسیر کے بارے میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ ٹھیک قول ان علماء کا ہے جو فرماتے ہیں کہ جہاد کے لئے نکلنے والی چھوٹی جماعت سفر جہاد میں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے آئیں گے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں اور کفار کے خلاف اپنے دین والوں کی اور اپنے رسولؐ کے صحابہؓ کی مدد فرماتے ہیں تو اس طرح حقیقت اسلام اور اس کے تمام دینوں پر غلبہ پانے کا علم ان نکلنے والوں کو بھی حاصل ہو جائے گا جن کو پہلے سے یہ علم حاصل نہیں تھا۔ اور جب یہ لوگ اپنی قوم میں جا کر ان کو اللہ کی اس نبی مدد کے واقعات سنائیں گے جس کی وجہ سے مسلمان کافر مشرکوں پر غالب آئے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے کافروں پر اللہ کے عذاب اترنے کے عینی مشاہدہ کے واقعات سنائیں گے تو باقی ماندہ لوگ ان واقعات کو سن کر برے کاموں سے اور زیادہ احتیاط کرنے لگیں گے اور ان کا اللہ اور رسولؐ پر ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔

## جہاد اور علم کو جمع کرنا

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ غزوے میں جایا کرتے تھے اور ایک دو آدمی حضور ﷺ کی حدیثیں سننے اور یاد رکھنے کے لئے چھوڑ جاتے تھے جب ہم غزوے سے واپس آتے تو وہ حضورؐ کی بیان کردہ تمام حدیثیں ہمیں سنا دیتے اور ان سے سننے کی بنیاد پر ہم حدیث آگے بیان کرتے وقت یوں کہہ دیتے کہ حضورؐ نے فرمایا۔

## کمائی اور علم کو جمع کرنا

حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے ستر آدمی ایسے تھے جو رات ہوتے ہی اپنے ایک معلم کے پاس مدینہ میں چلے جاتے اور رات بھر اس سے قرآن پڑھتے رہتے اور صبح کو ان میں سے جو طاقتور اور صحت مند ہوتے وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور پینے کا بیٹھا پانی بھر کر لاتے اور جن کے پاس مال کی گنجائش ہوتی وہ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بناتے اور گوشت کے ٹکڑے حضور ﷺ کے حجرہوں پر ٹانگ

۱۔ قالہ ابن جریر (ج ۱۱ ص ۵۱)

۲۔ أخرجه ابن ابی خیشمة وابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۲۳۰)

دیتے۔ جب حضرت ضعیبؓ کو (مکہ میں) شہید کر دیا گیا تو ان ستر آدمیوں کو حضورؐ نے بھیجا ان میں میرے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک قبیلے کے پاس آئے۔ حضرت حرامؓ نے اس جماعت کے امیر سے کہا کیا میں جا کر ان لوگوں کو یہ نہ بتا دوں کہ ہم ان سے لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے اس طرح وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، جماعت والوں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ حضرت حرامؓ نے جا کر ان لوگوں کو یہ بات کہی۔ اس پر ایک آدمی نے انہیں ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ جب حضرت حرامؓ نے دیکھا کہ نیزہ پیٹ میں پہنچ گیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم! میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ قبیلہ والے ان تمام حضرات پر ٹوٹ پڑے اور سب کو قتل کر دیا اور ایک بھی باقی نہ رہا جو واپس جا کر حضورؐ کو خبر کر سکے۔ اس جماعت کی شہادت پر میں نے حضور ﷺ کو جتنا غمگین دیکھا اتنا کسی جماعت پر نہیں دیکھا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضورؐ جب بھی فجر کی نماز پڑھتے تو ہاتھ اٹھا کر اس قبیلے کے لئے بددعا کرتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند لوگوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آ کر کہا ہمارے ساتھ چند آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت سکھائیں چنانچہ حضورؐ نے ان کے ساتھ انصار کے ستر آدمی بھیج دیئے جن کو (حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے) قراء کہا جاتا تھا ان میں میرے ماموں حضرت حرامؓ بھی تھے۔ یہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور رات کو ایک دوسرے سے سنتے سنا تے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور دن میں پانی لا کر مسجد میں رکھ دیتے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور انہیں بیچ کر اہل صفہ اور فقراء صحابہ کے لئے کھانا خرید کر لاتے۔ حضورؐ نے ان حضرات کو ان لوگوں کے پاس بھیج دیا وہ لوگ ان کے آڑے آئے اور انہیں اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ! ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچادے کہ ہم تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے اور پیچھے سے آ کر میرے ماموں حضرت حرامؓ کو ایک آدمی نے ایسا نیزہ مارا جو پار نکل گیا۔ حضرت حرامؓ نے کہا رب کعبہ کی قسم! میں تو کامیاب ہو گیا۔ حضورؐ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تمہارے بھائی شہید کر دیئے گئے ہیں اور انہوں نے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ! ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچادے کہ ہم تیرے پاس پہنچ گئے ہیں اور ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی ہم دونوں قبیلہ بنو امیہ بن زید کے محلہ میں رہتے تھے جو کہ مدینہ کے علاقہ عوالی میں تھا اور ہم دونوں باری باری حضور ﷺ کی خدمت میں جاتے تھے۔ ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جب میں جاتا تو اس دن کی وحی وغیرہ کی تمام خبریں لا کر میں اس انصاری کو سنا دیتا۔ جب وہ

جاتا تو وہ آکر اس دن کی تمام خبریں مجھے سنا دیتا چنانچہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری والے دن حضورؐ کی خدمت میں گیا اور واپس آکر اس نے بہت زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور زور سے کہا کیا عمر اندر ہیں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس باہر آیا۔ اس نے کہا بہت بڑی بات پیش آگئی ہے (کہ حضورؐ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے) میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کیا تم سب کو حضورؐ نے طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، پھر میں حضورؐ کی خدمت میں گیا اور میں نے کھڑے کھڑے عرض کیا کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضورؐ نے فرمایا نہیں، میں نے (خوشی سے) کہا اللہ اکبر!

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب نے حضورؐ کی ہر حدیث نہیں سنی کیونکہ ہماری جائیداد اور دنیاوی مشاغل بھی تھے (جن کو وقت دینا پڑتا تھا) اور اس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے اس لئے جو مجلس میں حاضر ہو کر حضورؐ سے حدیث سن لیتا وہ غائب کو سنا دیتا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ہر حدیث حضورؐ سے نہیں سنی (کچھ سنی ہیں اور کچھ نہیں سنی ہیں) ہم لوگ اونٹ چرانے میں مشغول رہتے تھے ہمارے ساتھی حضورؐ سے حدیث سنتے تھے پھر وہ ہمیں سنا دیا کرتے تھے۔

حضرت ابوانس مالک بن ابی عامر اصحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس اندر آیا اور اس نے کہا اے ابو محمد! اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ یہ یمنی آدمی حضورؐ کو زیادہ جانتا ہے یا آپ لوگ؟ یہ تو حضورؐ کی طرف سے ایسی باتیں نقل کرتے ہیں جو حضورؐ نے نہیں فرمائی ہیں۔ وہ آدمی یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ حضرت طلحہؓ نے فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے (یعنی حضرت ابو ہریرہؓ نے) حضورؐ سے وہ حدیثیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی اور انہیں حضورؐ کے وہ حالات معلوم ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مالدار لوگ تھے ہمارے گھر اور بال بچے تھے۔ ہم حضورؐ کی خدمت میں صبح و شام حاضری دیتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ مسکین آدمی تھے نہ ان کے پاس مال تھا اور نہ اہل و عیال۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کریمؐ کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ جہاں حضورؐ تشریف لے جاتے یہ ساتھ جاتے، اس لئے ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں وہ کچھ معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں اور

۱۔ اخرجہ البخاری (ج ۱ ص ۱۹) ۲۔ اخرجہ الحاکم فی المستدرک (ج ۱ ص

۱۲۷) قال الحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه و وافقه الذہبی

۳۔ اخرجہ الحاکم ایضاً فی معرفة علوم الحدیث (ص ۱۲) و هكذا اخرجہ احمد و رجالہ رجال

الصحیح كما قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۵۳) و اخرجہ ابو نعیم بمعناه کما فی الکنز (ج ۵ ص ۲۳۸)

انہوں نے وہ کچھ سن رکھا ہے جو ہم نے نہیں سنا اور ہم میں سے کوئی بھی ان پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا کر وہ باتیں حضورؐ کی طرف سے بیان کی ہیں جو حضورؐ نے نہیں فرمائی۔

## کمائی سے پہلے دین سیکھنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے اس بازار میں وہی کاروبار کرے جس نے دین کی سمجھ حاصل کر لی ہو۔

## آدمی کا اپنے گھر والوں کو سکھانا

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان **فُورًا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا** (سورت تحریم آیت ۶) ترجمہ ”تم اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ“ کے بارے میں فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر والے اعمال سکھاؤ۔ ۳۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہیں تعلیم، اور ادب سکھاؤ۔ ۴۔

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند ہم عمر نو جوان حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم آپ کے ہاں بیس دن ٹھہرے پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں گھر جانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ گھر کن کن کو چھوڑ آئے ہو؟ آپ بہت شفیق، نرم اور رحم دل تھے، اس لئے آپ نے فرمایا اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور انہیں (جو سیکھا ہے وہ) سکھاؤ اور انہیں (نیک اعمال کا) حکم دو اور جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو اور جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے دیا کرے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کیا کرے۔ ۵۔

## دینی ضرورت کی وجہ سے دشمنوں کی زبان وغیرہ سیکھنا

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! یہ لڑکا قبیلہ بنو نجار کا ہے اور جتنا قرآن آپ پر نازل ہو چکا ہے اس میں سے سترہ سورتیں پڑھ چکا ہے۔ چنانچہ میں نے حضورؐ کو

۱۔ اخروجه الحاكم في المستدرک (ج ۳ ص ۵۱۲) قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط

الشيخين ولم يخرجه الشينخين ولم يخرجه الترمذی كذا في الكنز (ج ۲ ص ۲۱۸)

۳۔ اخروجه الحاكم و صححه على شرطهما كذا في الترغيب (ج ۱ ص ۸۵)

۴۔ اخروجه الطبري في تفسيره (ج ۲۸ ص ۱۰۷) ۵۔ اخروجه البخاري في الادب (۳۳)

قرآن پڑھ کر سنایا جو حضورؐ کو بہت پسند آیا تو آپؐ نے فرمایا اے زید! تم میرے لئے یہود کی لکھائی سیکھ لو کیونکہ اللہ کی قسم! مجھے لکھائی کے بارے میں یہود پر کوئی اطمینان نہیں ہے چنانچہ میں نے یہود کی زبان کو اور ان کی لکھائی کو سیکھنا شروع کر دیا مجھے آدھا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ میں ان کی زبان کا ماہر ہو گیا، چنانچہ پھر میں حضورؐ کی طرف سے یہود کے نام خطوط لکھا کرتا اور جب یہود حضورؐ کے نام خط لکھ کر بھیجتے تو میں حضورؐ کو پڑھ کر سناتا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا کیا تم سریانی زبان اچھی طرح جانتے ہو؟ کیونکہ میرے پاس سریانی زبان میں خط آتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ آپؐ نے فرمایا اسے سیکھ لو، چنانچہ میں نے سترہ دنوں میں سریانی زبان اچھی طرح سیکھ لی۔ ۲

حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے مجھ سے فرمایا میرے پاس (یہود کے) خطوط آتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہر آدمی انہیں پڑھے کیا تم عبرانی یا سریانی زبان کی لکھائی سیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، چنانچہ میں نے وہ زبان سترہ دنوں میں اچھی طرح سیکھ لی۔ ۳

حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے سوغلام تھے۔ ان میں سے ہر غلام الگ زبان میں بات کرتا تھا اور حضرت ابن زبیرؓ ان میں سے ہر ایک سے اسی کی زبان میں بات کرتے تھے۔ میں جب ان کے دنیاوی مشاغل پر نگاہ ڈالتا تو ایسے لگتا کہ جیسے کہ ان کا پلک جھپکنے کے بقدر بھی آخرت کا ارادہ نہیں ہے اور میں جب ان کی آخرت والے اعمال کی مشغولی پر نگاہ ڈالتا تو ایسے لگتا کہ جیسے کہ ان کا پلک جھپکنے کے بقدر بھی دنیا کا ارادہ نہیں ہے۔ ۴

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ستاروں کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح راستہ معلوم کر سکو اس سے زیادہ نہ حاصل کرو۔ ۵ حضرت عمرؓ نے فرمایا ستاروں کا اتنا علم حاصل کرو جس سے تم راستہ معلوم کر سکو اور نسب بھی اتنے معلوم کرو جس سے تم صلہ رحمی کر سکو۔ ۶

حضرت صعصعہ بن صوحان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ یہ آیت کس طرح پڑھتے ہیں لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِطُونَ (اس کا ترجمہ یہ ہے اسے صرف قدم اٹھانے والے کھائیں گے) اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم! قدم تو ہر آدمی اٹھاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علیؓ مسکرائے اور فرمایا یہ آیت اس طرح ہے لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِطُونَ اس کا ترجمہ یہ ہے ”یہ کھانا نافرمان لوگ ہی

۱۔ اخرجہ ابو یعلیٰ وابن عساکر ۲۔ عندهما ایضا وابن ابی داؤد

۳۔ عند ابن ابی داؤد و ابن عساکر ایضا کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۱۸۵) و اخرجہ ابن سعد

(ج ۲ ص ۱۷۲) عن زید نحوه ۴۔ اخرجہ الحاکم فی المستدرک (ج ۳ ص ۵۳۹) و ابو

نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۳) ۵۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابن عبدالبر فی العلم

۶۔ عند ہناد کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۲۳)

کھائیں گے۔“ اس دیہاتی نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا اے امیر المؤمنین! اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ اپنے بندے کو یونہی (دوزخ میں) جانے دیں۔ حضرت علیؓ نے حضرت ابوالاسود دؤلی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اب تو تمام محبی لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے ہیں اس لئے تم ان کے لئے ایسی علامتیں مقرر کرو جن سے وہ اپنی زبان سے صحیح قرأت کر سکیں چنانچہ انہوں نے اس کے لئے رفع، نصب اور جر کی اصطلاحات مقرر کیں۔ (جو علم نحو میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس طرح عربی کے علم نحو کی ابتداء ہوئی کا)

## امام کا اپنے کسی ساتھی کو لوگوں کے سکھانے کیلئے چھوڑ کر جانا

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ مکہ سے حنین تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے حضرت معاذ بن جبلؓ کو مکہ والوں پر امیر بنا کر چھوڑ گئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں پھر جب وہاں سے مدینہ واپس جانے لگے تو دوبارہ حضرت معاذ بن جبلؓ کو مکہ والوں پر مقرر فرمایا۔ ۲۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ جب مکہ سے حنین کی طرف تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو چھوڑ گئے تاکہ وہ مکہ والوں میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں قرآن پڑھائیں۔ ۳۔

## کیا امام وقت علمی ضرورت کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں

### سے کسی کو اللہ کے راستہ میں جانے سے روک سکتا ہے؟

حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنے پیچھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ ذمہ دار بنا جاتے۔ حضرت عمرؓ نے اور لوگوں کو تمام علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا (حضرت زیدؓ کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا) حضرت زیدؓ کو بہت ہی ضروری کام کی وجہ سے بھیجتے۔ حضرت عمرؓ سے نام لے کر آدمیوں کے بھیجنے کا مطالبہ ہوتا اور یوں کہا جاتا کہ حضرت زید بن ثابت کو بھیج دیں تو فرماتے میں حضرت زیدؓ کے مرتبہ سے ناواقف نہیں ہوں لیکن اس شہر (مدینہ) والوں کو حضرت زیدؓ کی ضرورت ہے کیونکہ مدینہ والوں کو پیش آنے والے مسائل میں جیسا عمدہ جواب حضرت زیدؓ سے ملتا ہے ایسا کسی اور سے نہیں ملتا۔ ۴۔

حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ

۱۔ اخروجه البيهقي وابن عساكر وابن النجار كذا في الكنز (ج ۵ ص ۲۳۷)

۲۔ اخروجه الحاكم (ج ۳ ص ۲۷۰) ۳۔ اخروجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۶۴)

۴۔ اخروجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۷۴)



عنه کا انتقال ہوا اس دن ہم لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا آج لوگوں کے بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا اللہ آج ان پر رحمت نازل فرمائے یہ تو حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں بھی لوگوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو تمام علاقوں میں بکھیر دیا تھا اور انہیں اپنی رائے سے فتویٰ دینے سے منع کر دیا تھا لیکن حضرت زید بن ثابتؓ مدینہ ہی میں رہے اور مدینہ والوں کو اور باہر سے آنے والوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔

حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے فرمایا اس طرح تو تم مجھے لوگوں کے کاموں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے ہٹا دو گے، اس لئے تم حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس چلے جاؤ کیونکہ انہیں اس کام کے لئے مجھ سے زیادہ فرصت ہے اور انہیں پڑھ کر سناؤ، میری اور ان کی قرأت ایک جیسی ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جلد اول صفحہ نمبر ۳۶۰ پر ابن سعد کی یہ روایت گزر چکی ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے تو حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معاذؓ کے شام جانے سے مدینہ والوں کو فقہی مسائل میں اور فتویٰ لینے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ کیونکہ حضرت معاذؓ مدینہ میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت ابوبکرؓ سے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے یہ بات کی تھی کہ وہ حضرت معاذؓ کو مدینہ میں روک لیں کیونکہ لوگوں کو (فتویٰ میں) ان کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک آدمی اس راستہ میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روک سکتا۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے۔

## صحابہ کرامؓ کو سکھانے کیلئے مختلف علاقوں میں بھیجنا

حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلہ جدیلہ کی دو شاخوں عضل اور قارہ کے کچھ لوگ غزوہ احد کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ہمارے علاقہ میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں آپ ہمارے ساتھ اپنے چند ساتھی بھیج دیں جو ہمیں قرآن پڑھائیں اور ہم میں دین کی سمجھ پیدا کریں، چنانچہ حضور نے ان کے ساتھ چھ آدمی بھیج دیئے جن میں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے حلیف حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ بھی تھے اور یہی ان کے امیر تھے پھر اس کے بعد غزوہ ربيع کا مختصر قصہ ذکر کیا۔ ۳

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ حضور ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم میں ایسا آدمی بھیج دیں جو ہم میں دین کی سمجھ پیدا کرے اور ہمیں سنتیں سکھائے اور اللہ کی

۲۔ عند ابن المبارک کذا فی منتخب

۱۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ۱۷۶)

۳۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۲۲)

الکنز (ج ۵ ص ۱۸۴)

کتاب کے مطابق ہمارے جھگڑوں کے فیصلے کرے۔ حضورؐ نے فرمایا اے علی! میں چلے جاؤ اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کرو اور ان کو سنتیں سکھاؤ اور ان کے جھگڑوں کے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو۔ میں نے عرض کیا یمن والے تو اجڈ لوگ ہیں اور وہ ایسے مقدمات میرے پاس لائیں گے جن کا صحیح فیصلہ مجھے معلوم نہیں ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضورؐ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا جاؤ اللہ تمہارے دل کو (صحیح فیصلہ کی) ہدایت دے دے گا اور تمہاری زبان کو (صحیح فیصلہ پر) جمادے گا چنانچہ (حضورؐ کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ) اس دن سے لے کر آج تک مجھے کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی شک یا تردد نہیں ہوا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ یمن والے حضورؐ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا ہمارے ساتھ ایسا آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن سکھائے۔ حضورؐ نے حضرت ابو عبیدہؓ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں یمن والوں کے ساتھ بھیج دیا اور فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں۔ ۱۲ ابن سعد کی روایت میں یہ ہے کہ یمن والوں نے حضورؐ سے یہ مطالبہ کیا کہ حضورؐ ان کے ساتھ ایک آدمی ایسا بھیج دیں جو انہیں سنت اور اسلام سکھائے۔

حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزمؓ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس حضورؐ کی تحریر ہے جو حضورؐ نے لکھ کر حضرت عمرو بن حزمؓ کو اس وقت عطا فرمائی تھی جب حضورؐ نے انہیں اس لیے یمن بھیجا تھا تاکہ وہاں والوں میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں سنت سکھائیں اور ان سے صدقات وصول کریں اور انہیں تحریر لکھ کر دی اور انہیں ہدایات بھی دیں۔ تحریر میں یہ تھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یٰۤاَللّٰهُمَّ اِنّٰی اِنّٰی رَسُوْلُکِیْ طَرَفٍ سَے تحریر ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (سورت مائدہ آیت ۱) ترجمہ اے ایمان والو! عہدوں کو پورا کرو (حضرت) محمد رسول اللہؐ عمرو بن حزم کو یمن بھیج رہے ہیں اور ان سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ وہ اپنی تمام باتوں میں اللہ سے تقویٰ اختیار کریں گے کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کریں اور نیک کردار ہوں۔ ۱۳

حضورؐ نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰؓ کو یمن بھیجا اور دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ ۱۴

حضرت عمار بن یاسرؓ فرماتے ہیں مجھے حضورؐ نے قیس کے ایک قبیلے کی طرف بھیجا تاکہ

۱۔ اخرجہ ابن جریر کذافی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۷۷)

۲۔ اخرجہ الحاکم فی المستلرک (ج ۳ ص ۲۶۷) قال الحاکم صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجه بل ذکر القرآن ووافقه الذہبی وقال وخرجہ مسلم بدون ذکر القرآن وخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۹۹) عن انس بنحوہ

۳۔ اخرجہ ابن ابی حاتم عن عبد اللہ بن ابی بکر بن

محمد بن عمرو بن حزم کذافی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳)

۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۵۶)

میں انہیں اسلام کے احکام سکھاؤں۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ تو بد کے ہوئے اونٹوں کی طرح تھے۔ ان کی نگاہیں ہر وقت اوپر اٹھی رہتی تھیں اور ان کو بکری اور اونٹوں کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں تھی، اس لیے میں حضور کی خدمت میں واپس آ گیا تو حضور نے فرمایا اے عمار! کیا کر کے آئے ہو؟ (اپنی کارگزاری سناؤ) میں نے ان کے تمام حالات سنائے اور ان میں جو لاپرواہی اور غفلت تھی وہ بھی بتائی۔ حضور نے فرمایا اے عمار! کیا میں تمہیں ان سے بھی زیادہ عجیب لوگ نہ بتاؤں جو کہ ان باتوں سے واقف تھے جن سے یہ ناواقف ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کی طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔!

حضرت حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے جو خط کوفہ والوں کو بھیجا تھا وہ میں نے پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد! میں تمہارے پاس حضرت عمارؓ کو امیر بنا کر اور حضرت عبداللہؓ کو استاد اور وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں حضور ﷺ کے چیدہ اور برترزیدہ صحابہ میں سے ہیں ان دونوں کی بات سنو۔ اور ان دونوں کی اقتداء کرو۔ اور حضرت عبداللہؓ کو بھیج کر میں نے بڑی قربانی دی ہے کیونکہ مجھے ان کی یہاں ضرورت تھی لیکن میں نے تمہاری ضرورت کو مقدم رکھا۔!

حضرت ابو الاسود دؤلی کہتے ہیں میں بصرہ گیا تو وہاں حضرت عمران بن حصین ابو نجیدؓ تشریف فرما تھے انہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے بصرہ اس لیے بھیجا تھا تا کہ وہ بصرہ والوں میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔!

حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں انصار میں سے صرف پانچ آدمیوں نے سارے قرآن کو یاد کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو ایوب اور حضرت ابو الدرداءؓ۔ حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانے میں حضرت یزید بن ابی سفیانؓ نے انہیں خط لکھا کہ شام والے بہت زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں اور سارے شہران سے بھر گئے ہیں اور انہیں ایسے آدمیوں کی شدید ضرورت ہے جو انہیں قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اے امیر المومنین! سکھانے والے آدمی بھیج کر آپ میری مدد کریں۔ پھر حضرت عمرؓ نے ان پانچوں حضرات کو بلایا اور ان سے فرمایا تمہارے شامی بھائیوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے کہ میں ان کے پاس ایسے آدمی بھیجوں جو انہیں قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اللہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ آپ لوگ اپنے میں سے تین آدمی اس کام کے لیے دے کر میری مدد کریں۔ اب اگر آپ لوگ چاہیں تو قرعہ اندازی کر لیں یا پھر جو اپنا نام از خود پیش کر دے وہ چلا جائے۔ ان حضرات نے کہا نہیں، قرعہ اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو ایوبؓ تو بہت بوڑھے ہیں اور یہ حضرت ابی بن کعبؓ بیمار

۱۔ اخروہ البزار والطبرانی کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۹۱) ۲۔ اخروہ ابن سعد (ج ۶ ص ۷۷)

۳۔ اخروہ ابن سعد (ج ۷ ص ۱۰)

ہیں، چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، حضرت ابوالدرداءؓ ملک شام گئے۔ ان سے حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہیں شہر سے شروع کرو کیونکہ تم لوگوں کو مختلف استعداد والا پاؤ گے۔ بعض ایسے بھی ہوں گے جو جلدی سیکھ جائیں گے۔ جب تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آئے تو دوسرے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دو (کہ وہ اس سے علم حاصل کریں) جب تم حصص والوں کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ تو پھر تم میں سے ایک وہاں ہی ٹھہر جائے اور ایک دمشق چلا جائے اور ایک فلسطین۔ چنانچہ یہ حضرات حصص تشریف لے گئے اور وہاں ٹھہر کر انہیں سکھاتے رہے۔ جب ان کے بارے میں اطمینان ہو گیا تو حضرت عبادہؓ وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ابوالدرداءؓ دمشق اور حضرت معاذؓ فلسطین چلے گئے۔ حضرت معاذؓ کا تو طاعون عموماً اس میں انتقال ہو گیا بعد میں حضرت عبادہؓ فلسطین چلے گئے ان کا بھی وہاں ہی انتقال ہوا، البتہ حضرت ابوالدرداءؓ دمشق ہی رہے اور ان کا وہاں ہی انتقال ہوا۔

## علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا

حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیلؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے ایک حدیث سنی ہے (اور میں نے وہ حدیث حضورؐ سے نہیں سنی تھی اور پتہ چلا کہ وہ صحابی شام میں رہتے ہیں، اس لیے) میں نے اونٹ خرید اور اس پر کجاوہ کسا اور ایک ماہ کا سفر کر کے ملک شام پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن انیسؓ ہیں۔ میں نے ان کے دربان سے کہا ان سے جا کہو کہ دروازے پر جابر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا عبداللہ کے بیٹے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ یہ سنتے ہی ایک دم اپنا کپڑا گھسیٹتے باہر آئے اور میرے گلے لگ گئے اور میں نے بھی انہیں گلے لگا لیا۔ پھر میں نے کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے قصاص کے بارے میں حضور ﷺ سے ایک حدیث سنی ہے تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس کے سننے سے پہلے آپ کا یا میرا انتقال نہ ہو جائے (اس لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے صرف اسی حدیث کو سننے آیا ہوں) انہوں نے کہا میں نے حضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اس حال میں جمع کریں گے کہ سب ننگے بدن، بغیر ختنے کے اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ ہم نے پوچھا خالی ہاتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضورؐ نے فرمایا ان کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایسی آواز سے اعلان فرمائیں گے جسے دور والا بھی اسی طرح سن لے گا جیسے نزدیک والا۔ میں بدلہ لینے والا ہوں اور میں (ہر چیز کا) مالک ہوں جس دوزخی پر کسی جنتی کا کوئی حق ہے وہ اس وقت تک دوزخ میں نہیں جاسکتا جب تک میں اس دوزخی سے اس جنتی کا بدلہ نہ لے لوں اور جس جنتی پر کسی دوزخی کا کوئی حق ہے وہ اس وقت تک

جنت میں نہیں جاسکتا جب تک میں اس سے اس دوزخی کا بدلہ نہ لے لوں اور اس میں کسی کی رعایت بالکل نہیں کروں گا اگر صرف تھپڑ ہی ظلم مارا ہوگا تو بھی اس سے تھپڑ کا بدلہ لوں گا۔ ہم نے پوچھا اللہ تعالیٰ بدلہ کس طرح لے کر دیں گے جب کہ ہم اس حال میں آئیں گے کہ ہم نیچے بدن، بغیر ختنے کے اور خالی ہاتھ ہوں گے۔ حضورؐ نے فرمایا یہ بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ذریعہ ہوگا (مظلوم کو ظالم کی نیکیاں مل جائیں گی مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے)۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے قصاص کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے ایک حدیث پہنچی اور لوگوں میں حدیث بیان کرنے والے صحابی مصر میں تھے، چنانچہ میں نے ایک اونٹ خرید اور سفر کر کے مصر پہنچا اور اس صحابی کے دروازے پر گیا آگے کھجلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔<sup>۲</sup>

حضرت مسلمہ بن مخلدؓ فرماتے ہیں جس زمانے میں میں مصر کا امیر تھا تو ایک دن دربان نے آکر کہا کہ دروازے پر ایک دیہاتی آدمی اونٹ پر آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جابر بن عبد اللہ انصاری۔ میں نے بالا خانے سے جھانک کر کہا میں نیچے آ جاؤں یا آپ اوپر آئیں گے۔ انہوں نے کہا نہ آپ نیچے اتریں اور نہ مجھے اوپر چڑھنے کی ضرورت ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ مسلمان کے عیب چھپانے کے بارے میں ایک حدیث حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں میں اسے سننے آیا ہوں۔ میں نے کہا میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کر دیا۔ یہ حدیث سن کر حضرت جابرؓ نے واپس جانے کے لیے سواری کو ہانکا۔<sup>۳</sup>

حضرت فیب کہتے ہیں کہ میرے چچا نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی کو یہ خبر ملی کہ حضور کے ایک اور صحابی حضور سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی (کے عیب) پر دنیا میں پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس (کے گناہوں) پر پردہ ڈالیں گے وہ

۱۔ اخرجه احمد والطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۳) و عبد اللہ بن محمد ضعیف، انتھی و اخرجه البخاری فی الادب المفرد و ابو یعلیٰ فی مسنده كما قال الحافظ فی الفتح (ج ۱ ص ۱۲۷) و اخرجه ابن عبد البر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۹۳) بطولہ و اخرجه الحاكم فی المستدرک (ج ۳ ص ۵۷۳) من طریق عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن جابر بطولہ و قال هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه و قال الذہبی صحیح

۲۔ قال الحافظ وله طریق اخرى اخرجه الطبرانی فی مسند الشامین و تمام فی فوائد من طریق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنکدر و اسناده صالح وله طریق ثالثة اخرجه الخطیب فی الرحلة من طریق ابی الجارود العسلی عن جابر قال بلغنی حدیث فی القصاص فذكر الحدیث نحوه و فی اسناده ضعف، انتھی ۳۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی و فیہ ابو سنان القسملی و لقیہ

ابن حبان و ابن خراش فی روایة و ضعفه احمد و البخاری و یحییٰ بن معین

روایت بیان کرنے والے صحابی مصر میں تھے تو پہلے صحابی سفر کر کے ان کے پاس معر گئے اور ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا جی ہاں میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی (کے عیب) پر دنیا میں پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس (کے گناہوں) پر پردہ ڈالیں گے۔ پہلے صحابی نے کہا میں نے بھی یہ حدیث حضور سے سنی ہے۔ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوبؓ سواری پر سفر کر کے مصر حضرت عقبہ بن عامرؓ کے پاس گئے اور فرمایا میں آپ سے ایک ایسی حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کے موقع پر جتنے صحابہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اب ان میں صرف میں اور آپ باقی رہ گئے ہیں۔ آپ نے مسلمان کی پردہ پوشی کے بارے میں حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟ حضرت عقبہؓ نے کہا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان (کے عیب) پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس (کے گناہوں) پر پردہ ڈالیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو ایوبؓ مدینہ واپس لوٹ گئے اور جب تک یہ حدیث بیان نہ کر دی اس وقت تک اپنا کجاوہ نہ کھولا۔ ۲ حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے ایک بڑے میاں حضرت ابو سعید اعمیٰؓ کو سنا کہ وہ حضرت عطاءؓ سے یہ واقعہ بیان کر رہے تھے حضرت ابو ایوبؓ نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے ملنے کے لیے (مصر کا) سفر کیا۔ جب وہ مصر پہنچ گئے تو لوگوں نے ان کے آنے کا تذکرہ حضرت عقبہؓ سے کیا۔ حضرت عقبہؓ ان کے پاس باہر آئے پھر اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ حدیث سن کر حضرت ابو ایوبؓ اپنی سواری کے پاس آئے اور اس پر سوار ہو کر مدینہ واپس لوٹ گئے اور اپنا کجاوہ بھی نہیں کھولا۔ ۳

حضرت عقبہ بن عامرؓ حضرت مسلمہ بن مخلدؓ سے ملنے گئے تو ان کے اور دربان کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا۔ حضرت مسلمہؓ نے اندر سے ان کی آواز سن لی اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عقبہؓ نے کہا میں آپ کو ملنے نہیں آیا بلکہ کسی ضرورت سے آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کو وہ دن یاد ہے کہ جس دن حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ جسے اپنے بھائی کی کسی برائی کا پتہ چلے اور وہ اس پر پردہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے۔ حضرت مسلمہؓ نے کہا جی ہاں۔ حضرت عقبہؓ نے کہا بس میں اسی لیے آیا تھا۔ ۴

۱۔ أخرجه أحمد عن عبد الملك بن عمير قال الهيثمي (ج ۱ ص ۱۳۳) يومئذ كان ابن عبد الله فقلوبه ابن حبان وان كان غيره فاني لم ارم ذكره ۲۔ رواه احمد هكذا منقطع الا سناد. انتهى مقاله الهيثمي ۳۔ رواه سفیان بن عیینة كذا ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (ج ۱ ص ۹۳) ۴۔ أخرجه الطبرانی عن مكحول قال الهيثمي (ج ۱ ص ۱۳۳) رواه الطبرانی في الكبير هكذا وفي الاوسط عن محمد بن سيرين قال خرج عقبه بن عامر فذكره مختصر اور جمال الكبير رجال الصحيح. انتهى

حضرت عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے صرف ایک حدیث سننے کے لیے حضرت فضالہ بن عبید کے پاس مصر کا سفر کیا۔ اِداری میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ وہ صحابی جب حضرت فضالہ کے پاس پہنچے تو وہ اپنی اونٹنی کو جو ملا ہوا پانی پلا رہے تھے انہیں آتا ہوا دیکھ کر حضرت فضالہ نے خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا میں آپ سے ملنے نہیں آیا بلکہ اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں نے اور آپ نے حضور ﷺ کی ایک حدیث سنی تھی مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو اب بھی یاد ہوگی۔ حضرت فضالہ نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں یہ اور یہ مضمون ہے۔

حضرت عبید اللہ بن عدی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت علیؑ کے پاس ایک حدیث ہے تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں اگر حضرت علیؑ کا انتقال ہو گیا تو پھر شاید مجھے یہ حدیث کسی اور کے پاس نزل سکے اس وجہ سے میں سفر کر کے ان کے پاس عراق گیا۔ ابن عساکر میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھے وہ حدیث سنائی اور مجھ سے یہ عہد لیا کہ میں یہ حدیث کسی اور سے بیان نہ کروں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں آپ لوگوں کو وہ حدیث ضرور سنا دیتا۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان آگے آرہا ہے جو بخاری میں منقول ہے کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہے تو میں ضرور سفر کر کے اس کے پاس جاؤں اور ابن عساکر میں ان کا یہ فرمان منقول ہے کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اونٹ مجھے اس تک پہنچا سکتے ہیں اور وہ حضرت محمد ﷺ پر نازل ہونے والے علوم کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں تاکہ میرے علم میں اور اضافہ ہو سکے۔

## علم کو قابل اعتماد اہل علم سے حاصل کرنا اور جب علم

### نا اہلوں کے پاس ہوگا تو پھر علم کا کیا حال ہوگا؟

حضرت ابو ثعلبہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ سے ملا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسے آدمی کے حوالے فرمادیں جو اچھی طرح سکھانے والا ہو۔ آپ نے مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے فرمادیا اور ارشاد فرمایا میں نے تمہیں ایسے آدمی کے حوالے کیا ہے جو تمہیں اچھی طرح تعلیم دے گا اور اچھی طرح ادب سکھائے گا۔ طبرانی میں اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ جب میں

۱۔ اخرجه ابو داؤد كذا في الفتح الباری (ج ۱ ص ۱۲۸) و اخرجه الدارمی (ص ۵۵) من طریق عبد الله  
مثله ۲۔ اخرجه الخطيب كذا في الفتح (ج ۱ ص ۱۰) و اخرجه ابن عساکر عن عبید الله  
نحوه كما في الكنز العمال (ج ۵ ص ۲۳۹)

۳۔ اخرجه ابن عساکر كذا في الكنز (ج ۷ ص ۹۵) و اخرجه الطبرانی عن ابی ثعلبة مثله

حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پہنچا تو وہ اور حضرت بشیر بن سعد ابو نعمان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا اے ابو عبیدہ! اللہ کی قسم! حضور ﷺ نے تو اس طرح مجھے بیان نہیں کیا یعنی وہ تو مجھے دیکھ کر خاموش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ہم تم کو حدیث سنائیں گے پھر فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا تم میں تو اس وقت نبوت کا دور ہے پھر نبوت کے طرز پر خلافت ہوگی پھر بادشاہت اور جبر ہوگا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم میں وہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ظاہر ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے نیک اور بہترین آدمیوں میں سستی اور تمہارے برے لوگوں میں بے حیائی ظاہر ہو جائے گی اور بادشاہت تمہارے چھوٹوں میں اور دینی علم تمہارے کینوں میں منتقل ہو جائے گا۔ حضرت ابو امیہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم چھوٹوں کے پاس تلاش کیا جانے لگے گا۔

حضرت عبداللہ بن عکیمؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے غور سے سنو! سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب سے اچھا طریقہ حضرت محمد ﷺ کا ہے اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کیئے جائیں۔ غور سے سنو! لوگ اس وقت تک خیر پر ہیں گے جب تک ان کے پاس علم ان کے بڑوں کی طرف سے آئے گا۔ حضرت بلال بن ریحیؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ لوگ کب سدھرتے ہیں اور کب بگڑتے ہیں؟ جب علم چھوٹوں کی طرف سے آئے گا تو بڑا اس کی نافرمانی کرے گا اور جب علم بڑوں کی طرف سے آئے گا تو چھوٹا اس کی اتباع کرے گا اور دونوں ہدایت پا جائیں گے۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک نیکو کار اور اپنے دین پر پختہ رہیں گے جب تک ان کے پاس علم حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ کی طرف سے اور ان کے اپنے بڑوں کی طرف سے آئے گا اور جب ان کے پاس علم ان کے چھوٹوں کی طرف سے آنے لگے گا تو پھر لوگ ہلاک

۱۔ قال الہیثمی (ج ۵ ص ۱۸۹) ولیہ رجل لم یسم ورجل مجهول ایضا۔ انتھی

۲۔ اخرجہ ابن عساکر وابن النجار کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۱۲۹) و اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۱۵۷) عن انس نحوہ ولی روایۃ والفقہ فی اذالکم ولی لفظ آخر عنہ عنہ والعلیم فی اذالکم ۳۔ عند ابن عبدالبر ایضا و اخرجہ الطبرانی عن ابی امیہ نحوہ قال الہیثمی

(ج ۱ ص ۱۳۵) ولیہ ابن لہیعة وهو ضعیف

۴۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۱۵۸) عن ہلال الوزن

۵۔ عن ابن عبدالبر ایضا:



ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ علم اپنے بڑوں سے حاصل کریں گے اور جب علم اپنے چھوٹوں اور اپنے بڑوں سے حاصل کرنے لگیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک علم تمہارے بڑوں میں رہے گا۔ اور جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا تو چھوٹے بڑے کو یہ قوف بنائیں گے۔ ۱

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھے پھر وہ بچے، غلام، عورت اور باندی کو قرآن سکھائے پھر یہ سب مل کر قرآن کے ذریعے علم والوں سے جھگڑا کریں۔ ۲

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس امت پر مجھے کسی مومن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اسے اس کا ایمان برے کام سے روک لے گا اور اس فاسق کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جس کا فاسق ہونا کھلا اور واضح ہو۔ مجھے تو اس امت پر اس آدمی کی طرف سے خطرہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن زبان سے اچھی طرح پڑھ کر وہ صحیح راستہ سے پھسل گیا یعنی زبان سے پڑھنے کو ہی اصل سمجھ لیا اور قرآن کی صحیح تفسیر چھوڑ کر اس نے اپنی طرف سے اس کا مطلب بنا لیا۔ ۳

حضرت عقبہ بن عامر کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹو! میں تمہیں تین باتوں سے روکتا ہوں انہیں اچھی طرح یاد رکھنا۔ حضور ﷺ کی طرف سے حدیث صرف معتبر اور قابل اعتماد آدمی سے ہی لینا کسی اور سے نہ لینا اور قرضہ لینے کی عادت نہ بنالینا چاہے چونکہ بہن کر گزارہ کرنا پڑے اور اشعار لکھنے میں نہ لگ جانا اور نہ ان میں تمہارے دل ایسے مشغول ہو جائیں گے کہ قرآن سے رہ جاؤ گے۔ ۴

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے جابہ مقام میں لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو! تم میں سے جو قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس جائے اور جو میراث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس جائے اور جو کوئی فقہی مسائل پوچھنا چاہتا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس

۱۔ اخرجه الطبرانی فی الکبیر والایوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۳۵) ورجاله مؤفقون. ۱۰

۲۔ اخرجه ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۱۵۹) عن ابن مسعود نحوه

۳۔ عند ابن عبدالبر ایضا ۳۔ عند ابن عبدالبر ایضا

۴۔ اخرجه ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۱۹۲)

۵۔ اخرجه ابن عبدالبر ایضا ۶۔ اخرجه الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص

۱۲۰) فی اسنادہ ابن لہیعہ وبہتمل فی هذا علی ضعفہ

جائے اور جو مال لینا چاہتا ہے وہ میرے پاس آجائے کیونکہ اللہ نے مجھے مال کا والی اور اس کا تقسیم کرنے والا بنایا ہے۔

## طالب علم کو خوش آمدید کہنا اور بشارت سنانا

حضرت صفوان بن عسال مرادی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مسجد میں اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں علم حاصل کرنے آیا ہوں آپ نے فرمایا طالب علم کو خوش آمدید ہو پھر آگے اور حدیث ذکر کی جیسے کہ باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔

حضرت ابو ہارون کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت ابوسعیدؓ کی خدمت میں جاتے تو فرماتے خوش آمدید ہو ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضور ﷺ نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا لوگ تمہارے تابع ہوں گے اور زمین کے آخری کناروں سے تمہارے پاس دین کی سمجھ حاصل کرنے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت مجھ سے قبول کر لو۔ حضرت ابوسعیدؓ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تمہارے پاس مشرق کی طرف سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ حضرت ابوسعیدؓ جب ہمیں دیکھتے تو فرماتے خوش آمدید ہو ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضور ﷺ نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ یہ ترمذی کی ایک روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں جو علم عطا فرما رکھا ہے وہ انہیں بھی سکھاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مختلف دور دراز علاقوں سے لوگ آئیں گے جو تم سے دین کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے لیے جگہ میں گنجائش پیدا کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو اور ان کو سکھاؤ۔ ابن عساکر کی روایت میں یہ ہے کہ انہیں سکھاؤ اور انہیں کہو خوش آمدید، خوش آمدید، قریب ہو جاؤ۔

حضرت ابوسعیدؓ کے پاس جب یہ نوجوان آتے تو فرماتے خوش آمدید ہو ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضور ﷺ نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ ہمیں حضور نے حکم دیا تھا کہ ہم ان کے لیے

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۳۵) یوفیہ سلیمان بن داؤد بن الحصین

لم ارمن ذکرہ ۱۰۵۔ ۲۔ اخرجہ الطبرانی واحمد

۳۔ اخرجہ الترمذی ۴۔ عند الترمذی ایضا واخرجہ ابن ماجہ (ص ۳۷) عنہ عن ابی سعید بمعناہ

مختصرا واخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۸۸) ایضا من طریق ابی نضرۃ عن ابی سعید مختصرا وقال

الحاکم هذا حدیث صحیح ثابت ووافقه الذہبی وقال لا علة له واخرجہ ابن جریر و ابن عساکر

بالسباق الاول عند الترمذی ۵۔ كما فی الکنز (ج ۵ ص ۲۳۵)

مجلس میں گنجائش پیدا کریں اور ان کو حدیث سمجھائیں کیونکہ آپ لوگ ہی ہمارے بعد جگہ سنبھالنے والے ہیں اور احادیث دوسروں کو سنانے والے ہیں اور ان نوجوانوں سے فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے سمجھ لینا کیونکہ تم سمجھ کر اٹھو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم بے سمجھے اٹھ جاؤ۔

حضرت اسماعیلؑ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حسنؑ کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا تو انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ کر فرمایا ہم لوگ حضرت ابو ہریرہؓ کی عیادت کرنے گئے ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا۔ انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ کر فرمایا ہم لوگ حضور ﷺ کی عیادت کرنے گئے اور ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا آپ پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے ہمیں دیکھا تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور فرمایا میرے بعد تمہارے پاس بہت لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے تم انہیں خوش آمدید کہنا اور ان سے سلام اور مصافحہ کرنا اور انہیں خوب سکھانا۔ حضرت حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم! ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے نہ تو ہمیں خوش آمدید کہا اور نہ ہم سے سلام اور مصافحہ کیا اور نہ ہمیں سکھایا بلکہ جب ہم ان کے پاس گئے تو ہمارے ساتھ جفا کا معاملہ کیا حضرت حسن بصری صحابہ کے بعد والے لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں)۔

حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کوئی حدیث بیان کرتے تو ضرور مسکراتے تو میں نے ان سے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس طرح لوگ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگیں گے۔ انہوں نے فرمایا حضور ﷺ جب بھی بات فرماتے تو ضرور مسکراتے۔

## علمی مجالس اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ! ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کون سب سے بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آئے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے۔

حضرت قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کے صحابہ آپ کے پاس کئی حلقے بنا کر بیٹھ جاتے (اور آپس میں سیکھنے سکھانے لگ جاتے اور جب

۱۔ أخرجه ابن النجار كذا في الكنز (ج ۵ ص ۲۳۳) ۲۔ أخرجه ابن ماجه (ص ۳۷)

۳۔ أخرجه احمد والطبرانی في الكبير قال الهيثمي (ج ۱ ص ۱۳۱) وفيه حبيب بن عمرو قال الدار فطنی مجهول

۴۔ أخرجه ابو يعلى قال المنذرى (ج ۱ ص ۷۶) رواه رواة الصحيح الامبارك بن حسان

ضرورت پڑتی تو حضورؐ سے پوچھ لیتے کیا

حضرت یزید رقاشیؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت انسؓ ہمیں حدیث سنا تے تو یہ بھی فرماتے یہ حدیث ایسے نہیں سیکھی جاتی تھی جس طرح تم اور تمہارے ساتھی کرتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے اور سب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان میں بیان کرتا ہے بلکہ صحابہ کرامؓ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کئی حلقے بنا لیتے اور ان حلقوں میں قرآن پڑھتے اور فرائض اور سنتیں سیکھتے۔ ۲

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مہاجرین کی ایک جماعت میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے پاس کپڑے بہت کم تھے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک قاری قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم سب اللہ کی کتاب سن رہے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی بنائے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور کے تشریف لانے پر گول حلقہ بن گیا اور سب نے چہرے حضور کی طرف کر لئے لیکن آپ نے میرے علاوہ اور کسی کو نہیں پہچانا پھر حضور نے فرمایا اے فقراء مہاجرین تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہیں قیامت کے دن پورا نور حاصل ہوگا اور تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور یہ آدھا دن پانچ سو برس کا ہوگا۔ ۳

حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا اپنی مسجد میں دو حلقوں پر گزر ہوا۔ ایک حلقہ والے دعا میں اور اللہ سے راز و نیاز کی باتوں میں لگے ہوئے تھے اور دوسرے حلقہ والے دینی علم سیکھ سکھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا دونوں حلقوں والے خیر پر ہیں لیکن ایک حلقہ والے دوسرے سے بہتر ہیں یہ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس سے راز و نیاز میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ چاہے گا تو ان کو دے گا اور اگر چاہے گا تو نہیں دے گا۔ یہ دوسرے حلقے والے سیکھ رہے ہیں اور جسے نہیں آتا اسے سکھا رہے ہیں اور مجھے تو سکھانے والا بنا کر ہی بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ۴

حضرت ابوبکر بن ابی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کیسے آتا ہوا؟ حضرت ابوموسیٰ نے کہا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس وقت؟ حضرت ابو

۱۔ اخرجہ البزار وفيه سعيد بن سلام كذبہ احمد ۲۔ وبزید الرقاشی ضعيف كذا في مجمع الزوائد (ج ۱ ص ۱۳۲) ۳۔ اخرجہ البيهقي كذا في البداية (ج ۶ ص ۵۷) و اخرجہ ابو نعيم في الحلية (ج ۱ ص ۳۲۲) اطول منه ۴۔ اخرجہ ابن عبد البر في جامع العلم (ج ۱ ص ۵۰) و اخرجہ الدارمي نحوه

موسیٰ نے کہا ہاں ایک ضروری دینی مسئلہ ہے چنانچہ حضرت عمرؓ ان کے پاس بیٹھ گئے اور دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب باتوں سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا اے امیر المؤمنین! تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم تو نماز میں ہی تھے۔

حضرت جناب بن عبد اللہ بجلي رحمة اللہ علیہ کہتے ہیں میں علم حاصل کرنے مدینہ آیا۔ میں حضور ﷺ کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ میں حلقوں کے پاس سے گزرتا رہا اور چلتے چلتے ایک حلقہ کے پاس پہنچا تو اس میں ایک صاحب تھے جن کا رنگ بدلا ہوا تھا اور ان کے جسم پر دو کپڑے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی سفر سے آئے ہوں۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ کعبہ کی قسم! لوگوں سے بیعت لینے والے بادشاہ ہلاک ہو گئے اور مجھے ان کا غم نہیں اور یہ بات انہوں نے کئی مرتبہ کہی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک حدیثیں بیان فرماتے رہے۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہونے کے بعد میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ مسلمانوں کے سردار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں میں ان کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا گھر بالکل پرانا سا تھا۔ اس کی شکل و صورت بوسیدہ سی تھی اور ان میں دنیا کی رغبت بالکل نہ تھی۔ بالکل دنیا سے الگ تھلگ تھے۔ ان کی تمام باتیں آپس میں ملتی جلتی تھیں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر مجھ سے پوچھا تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا عراق والوں میں سے۔ انہوں نے فرمایا عراق والے تو مجھ سے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ چہرے تک اٹھائے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور میں نے دعا کرنی شروع کی۔ اے اللہ! ہم تجھ سے ہی ان لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت مال خرچ کیا اور اپنے جسموں کو خوب تھکایا اور اپنی سوار یوں کو چلایا۔ یہ سب کچھ ہم نے علم حاصل کرنے کے لئے کیا۔ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو یہ ہمیں ترش روئی سے ملے اور ہمیں ایسے سخت کلمات کہہ دیئے۔ یہ سن کر حضرت ابی رونا لگے اور مجھے راضی کرنے لگے اور فرمانے لگے تیرا بھلا ہوا میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ پھر فرمانے لگے اے اللہ! اگر تو نے مجھے آئندہ جمعہ تک زندہ رکھا تو میں نے جو کچھ حضور ﷺ سے سن رکھا ہے وہ سب ضرور بیان کر دوں گا اور کسی کی ملامت کی پروا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس سے واپس آ گیا اور اگلے جمعہ کا انتظار کرنے لگا، لیکن جمعرات کو میں کسی کام سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ تمام گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جس گلی میں جاتا ہوں وہاں لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں میں نے پوچھا ان لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہمارا خیال ہے

آپ اجنبی مسافر ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ لوگوں نے کہا مسلمانوں کے سردار حضرت ابی بن کعب کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت جناب کہتے ہیں میں عراق واپس آیا تو میری ملاقات حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور میں نے انہیں حضرت ابی کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا ہائے افسوس! کاش وہ زندہ رہ جاتے تاکہ ہمیں ان کی وہ خاص بات پہنچ جاتی۔

حضرت ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بصرہ آیا اور ایک مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑے میاں جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہیں ایک ستون سے ٹیک لگا کر لوگوں میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما ہیں۔

حضرت ابو صالحؓ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایسی زبردست مجلس دیکھی ہے کہ سارے قریش والے اس پر فخر کریں تو بجا ہے۔ یہ واقعی قابل فخر مجلس ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ بہت سے لوگ ان کے گھر کے باہر راستہ پر جمع ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ آنے جانے کی بالکل جگہ نہیں ہے۔ میں نے اندر جا کر حضرت ابن عباسؓ کو بتایا کہ دروازے پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے لئے وضو کا پانی رکھو چنانچہ وہ وضو کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا باہر جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو کہ جو قرآن اور اس کے حروف اور اس کی کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے، چنانچہ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو ایک

بہت بڑی تعداد اندر آئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا اور انہوں نے جو بات بھی پوچھی حضرت ابن عباسؓ نے اس کا جواب دیا اور جتنا انہوں نے پوچھا اتنا بلکہ اس سے کہیں اور زیادہ اپنے پاس سے انہیں بتایا پھر فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کو اندر آنے کا موقع دے دو چنانچہ وہ لوگ باہر چلے گئے پھر مجھ سے فرمایا باہر جا کر اب یہ اعلان کرو کہ جو قرآن کی تفسیر اور شرح کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے، چنانچہ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو ایک بہت بڑی تعداد اندر آئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا اور انہوں نے جو بات بھی پوچھی حضرت ابن عباسؓ نے اس کا جواب دیا اور جتنا ان لوگوں نے پوچھا اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے پاس سے بیان کر دیا پھر فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کو اندر آنے کا موقع دے دو۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے پھر مجھ سے فرمایا باہر جا کر اعلان کرو کہ جو حلال حرام اور فقہی مسائل پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے، چنانچہ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کر دیا تو بہت بڑی تعداد اندر آئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا اور ان لوگوں نے جو بھی پوچھا اس کا انہیں جواب دیا اور اتنا ہی اور اپنے پاس سے بیان کر دیا پھر ان

سے فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کو موقع دے دو چنانچہ یہ لوگ باہر چلے گئے پھر مجھ سے فرمایا باہر جا کر یہ اعلان کر دو کہ جو میراث وغیرہ جیسے مسائل پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے چنانچہ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کر دیا تو بہت بڑی تعداد اندر آئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا اور ان لوگوں نے جو بھی پوچھا حضرت ابن عباسؓ نے اس کا جواب دیا اور اتنا ہی اور اپنے پاس سے بیان کر دیا پھر فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کو موقع دے دو چنانچہ وہ لوگ باہر چلے گئے پھر مجھ سے فرمایا باہر جا کر اعلان کر دو کہ جو عربی لغت، اشعار اور انوکھے کلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے، میں نے باہر جا کر یہ اعلان کر دیا جس پر ایک بہت بڑی تعداد اندر داخل ہوئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا اور ان لوگوں نے جو بات بھی پوچھی اس کا حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا اور اتنا ہی اور اپنے پاس سے بیان کر دیا۔ اگر سارے قریش حضرت ابن عباسؓ کی اس مجلس پر فخر کریں تو انہیں فخر کرنے کا حق پہنچتا ہے اور میں نے اس جیسا منظر اور کسی کے ہاں نہیں دیکھا۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس میں حکمت کی باتیں بیان کی جائیں۔ ۱۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بہترین مجلس وہ ہے جس میں خوب حکمت کے موتی بکھیرے جائیں اور رحمت خداوندی کی پوری امید ہو (کیونکہ اس میں ایسے اعمال کئے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے) ۲۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں متقی لوگ سردار ہیں اور فقیہ لوگ امت کے رہنما ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے (ایمان و علم میں) اضافہ ہوتا ہے۔ ۳۔  
حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیمتی اور کارآمد نصیحت کے طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کرو اور علماء سے دوستی لگاؤ اور حکمت والے سمجھدار لوگوں سے میل جول رکھو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے دینی سمجھ رکھنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا چلنا اور آنا جانا علم والوں کے پاس ہو۔ ۴۔ ایک روایت میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں اور اس کا بیٹھنا بھی ان کے ساتھ ہو۔ ۵۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۲۰) واخرجہ العاکم (ج ۳ ص ۵۳۸) بنحوہ

۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر کما قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۷)

۳۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۵۰)

۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۶) ذکر ہذا فی حدیث طویل و رجالہ

مولقون ۵۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامعہ (ج ۱ ص ۱۲۶)

۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۱) عن ابی العرواء مقلہ

## علمی مجلس کا احترام اور اس کی تعظیم

حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی مجلس میں حضور ﷺ کی حدیثیں بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کرنے لگے۔ انہیں غصہ آ گیا اور فرمایا میں انہیں حضور ﷺ کی وہ حدیثیں سنارہا ہوں جنہیں میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے کانوں نے سنا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں (اور حدیث نہیں سن رہے ہیں) غور سے سنو اللہ کی قسم! اب میں تمہارے درمیان میں سے چلا جاؤں گا اور کبھی بھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں چلے جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اب جہاد کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے کیونکہ نہ آپ گھوڑے پر بیٹھ سکتے ہیں نہ تلوار چلا سکتے ہیں اور نہ نیزہ مار سکتے ہیں (آپ بہت بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں) انہوں نے فرمایا اے ابو حازم! میں جا کر جہاد کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا کوئی نامعلوم تیر یا پتھر آ کر مجھے لگے گا اور اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمادیں گے۔

## علماء اور طلبہ کے آداب

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کا ایک جوان حضور ﷺ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ! مجھے زنا کی اجازت دے دیں تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے ایسی بات نہ کہو ایسی بات نہ کہو۔ حضور نے فرمایا یا ذرا قریب آ جاؤ۔ وہ حضور کے قریب آ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا تم زنا کو اپنی ماں کے لئے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ اللہ کی قسم! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور نے فرمایا نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی ماں کے لئے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اسے اپنی بیٹی کے لئے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور نے فرمایا اور نہ ہی اور لوگ اسے اپنی بیٹیوں کے لئے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اسے اپنی بہن کے لئے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور نے فرمایا نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی بہنوں کے لئے پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اسے اپنی پھوپھی کے لئے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں، اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور نے فرمایا اور نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی پھوپھیوں



کے لئے پسند کرتے ہیں پھر آپ نے فرمایا کیا تم اسے اپنی خالہ کے لئے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضور نے فرمایا اور نہ ہی دوسرے لوگ اسے اپنی خالادوں کے لئے پسند کرتے ہیں پھر حضور نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر یہ دعا مانگی اے اللہ! اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں حضور کے سمجھانے اور دعا فرمانے کے بعد اس جوان کی توجہ اس طرف سے بالکل ہٹ گئی۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے تین مرتبہ کہتے تاکہ سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔

حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ والوں کے واعظ حضرت ابن ابی سائب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تین کاموں میں میری بات مانو ورنہ میں تم سے سخت لڑائی کروں گی۔ حضرت ابن ابی سائب نے عرض کیا وہ تین کام کیا ہیں؟ اے ام المومنین! میں آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ تم دعا میں بتکلف قافیہ بندی سے بچو کیونکہ حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ اس طرح قصداً نہیں کیا کرتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرو اور زیادہ کرنا چاہو تو دو دفعہ ورنہ زیادہ سے زیادہ تین دفعہ کیا کرو اس سے زیادہ نہ کرو ورنہ لوگ (اللہ کی) اس کتاب سے اکتا جائیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم کسی جگہ جاؤ اور وہاں والے آپس میں بات کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنا بیان شروع کر دو بلکہ انہیں اپنی بات کرنے دو اور جب وہ تمہیں موقع دیں اور کہیں تو پھر ان میں بیان کرو۔

حضرت شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا مجھے خبر مل جاتی ہے کہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں لیکن بعض دفعہ میں جان بوجھ کر آپ لوگوں کے پاس باہر نہیں آتا تاکہ میرے زیادہ بیانات اور زیادہ حدیثیں سنانے کی وجہ سے آپ لوگ اکتانہ جائیں کیونکہ حضور ﷺ وعظ اور بیان میں ہمارا خیال فرماتے تھے تاکہ ہم اکتانہ جائیں۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک آدمی پر گزر رہا جو ایک قوم میں وعظ کہہ رہا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا اے وعظ و

۱۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۹) رواہ احمد والطبرانی فی الکبیر ورجالہ

رجال الصحیح ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر واسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۹)

۳۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۹۱) رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح ورواہ

ابویعلیٰ بنحوہ ۴۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۱۰۵)

نصیحت کرنے والے لوگوں کو (اللہ کی رحمت سے) ناامید نہ کرنا۔  
حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی سمجھ رکھنے والا حقیقی عالم نہ بتاؤں؟ یہ وہ عالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید نہ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہیں کھلی چھٹی دے اور نہ انہیں اللہ کی پکڑ سے بے خوف اور بے فکر ہونے دے اور نہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ایسا لگے کہ قرآن چھوٹ جائے۔ اس عبادت میں خیر نہیں ہے جس میں دینی علم نہ ہو اور اس دینی علم میں خیر نہیں ہے جسے آدمی سمجھانہ ہو یا جس کے ساتھ پرہیزگاری نہ ہو اور قرآن کی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں انسان قرآن کے معنی اور مطلب میں غور و فکر نہ کرے۔<sup>۲</sup>

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا تو ان دونوں کو یہ ہدایات دیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور ایک دوسرے کی بات ماننا اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اور لوگوں کو مت بھگانا چنانچہ (یمن جا کر) حضرت معاذ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور انہیں اسلام لانے کی اور دینی سمجھ حاصل کرنے کی اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دی اور فرمایا میں تمہیں جنت والے اور دوزخ والے بتا دیتا ہوں۔ جب کسی آدمی کا بھلائی کے ساتھ ذکر ہو تو سمجھ لو کہ وہ جنت والوں میں سے ہے اور جب کسی کا برائی کے ساتھ ذکر ہو تو سمجھ لو وہ دوزخ والوں میں سے ہے۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرامؓ جب آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو ان کی باتیں دینی امور کے بارے میں ہی ہوتی تھیں یا پھر خود کوئی سورت پڑھتے یا کسی کو پڑھاتے۔<sup>۴</sup>

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں آدمی علم کے اعلیٰ مرتبہ پر اس وقت ہوگا جب اپنے سے اوپر والے سے حسد نہ کرے اور اپنے سے نیچے والے کو حقیر نہ سمجھے اور علم کے بدلہ میں کوئی قیمت نہ چاہے۔<sup>۵</sup>  
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خود علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ اور علم کے لئے وقار اور سکون و اطمینان سیکھو اور جس سے علم سیکھو اس کے سامنے بھی تواضع اختیار کرو اور جسے علم سکھاؤ اس کے سامنے بھی تواضع اختیار کرو اور متکبر عالم نہ بنو۔ اس طرح تمہارا جہل تمہارے علم کے سامنے نہیں

۱۔ عند الطبرانی فی الکبیر و رجالہ رجال الصحیح ولكن الاعمش لم یدرک ابن مسعود کما قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۹۱) ۲۔ اخرجہ ابن الفریس و ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۷۷) و ابن عساکر و غیرہم کذا فی الكنز العمال (ج ۵ ص ۲۳۱) و اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۴۴) مرفوع نحوہ ثم قال لایاتی هذا الحدیث مرفوعا الا من هذا الوجه و اکثرہم یوقفونہ علی علی۔ انتہی ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۶) و رجالہ موثقون ۴۔ اخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۹۴) قال النحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و وافقہ الہیثمی ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۶)

ٹھہر سکے گا بلکہ ختم ہو جائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا (تمہیں سکھانے والے) عالم کا یہ حق ہے کہ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرو اور اسے جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو یعنی اسے مجبور نہ کرو اور جب وہ تم سے منہ دوسری طرف پھیر لے تو پھر اس پر اصرار نہ کرو اور جب وہ تھک جائے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو اور نہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو اور نہ آنکھوں سے۔ اور اس کی مجلس کا کچھ نہ پوچھو اور اس کی لغزشیں تلاش نہ کرو اور اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو تم اس کا لغزش سے رجوع کا انتظار کرو اور جب وہ رجوع کر لے تو تم اسے قبول کر لو اور یہ بھی نہ کہو کہ فلاں نے آپ کی بات کے خلاف بات کہی ہے اور اس کے کسی راز کا افشاء نہ کرو اور اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو اور اس کے سامنے اور اس کے پیٹھے پیچھے دونوں حالتوں میں اس کے حق کا خیال کرو اور تمام لوگوں کو سلام کرو لیکن اسے بھی خاص طور سے کرو اور اس کے سامنے بیٹھو اگر اسے کوئی ضرورت ہو تو دوسروں سے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرو اور اس کے پاس جتنا وقت بھی تمہارا گزر جائے تنگدل نہ ہونا کیونکہ یہ عالم کھجور کے درخت کی طرح ہے جس سے ہر وقت کسی نہ کسی فائدے کے حاصل ہونے کا انتظار رہتا ہے اور یہ عالم اس روزہ دار کے درجہ میں ہے جو اللہ کے راستہ میں جہاد کر رہا ہو جب ایسا عالم مرجاتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا اور آسمان کے ستر ہزار مقرب فرشتے طالب علم کے ساتھ (اکرام کے لئے) چلتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ام ولد باندی حضرت جمیلہ رحمۃ اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انسؓ کی خدمت میں آتے تو حضرت انسؓ فرماتے اے لونڈیا! ذرا خوشبو لانا تاکہ میں اپنے ہاتھوں کو لگالوں یہ ثابت کی ماں کا بیٹا یعنی خود حضرت ثابت، جب تک میرے دونوں ہاتھوں کو چوم نہیں لے گا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں حضرت عمر بن خطابؓ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا لیکن ان کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے میں ان سے دو سال تک نہ پوچھ سکا یہاں تک کہ کسی سفر حج یا سفر عمرہ میں حضرت عمرؓ کسی ضرورت کے لئے مر الظہر ان کی وادی میں اراک مقام پر اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئے اور مجھے تنہائی کا موقع مل گیا تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین! میں آپ سے دو سال سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں لیکن صرف آپ کی ہیبت کی وجہ

۱۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۱۳۵) و اخرجہ احمد فی الزهد والبیہقی وابن ابی شیبہ وغیرہم کمالی الكنز (ج ۵ ص ۲۲۸) وفی نقلہ علمکم بجہلکم.

۲۔ اخرجہ المرہبی وابن عبد البر فی العلم کذافی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۲) والمنتخب (ج ۴ ص ۷۳) و اخرجہ الخطیب فی الجامع عن علی بمعناہ مختصراً کمالی الكنز (ج ۵ ص ۲۲۹).

۳۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۳۰) و جمیلۃ ہذہ لم ارمن لم ترجمہا.

سے نہ پوچھ سکا۔ انہوں نے فرمایا ایسا مت کرو۔ جب کسی بات کے مجھ سے پوچھنے کا ارادہ ہوا کرے تو فوراً پوچھ لیا کرو اگر مجھے وہ بات معلوم ہوگی تو میں تمہیں بتا دوں گا ورنہ کہہ دوں گا مجھے معلوم نہیں۔ پھر تم اس آدمی سے پوچھ لینا جو اسے جانتا ہو۔ میں نے کہا وہ دو عورتیں کون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے (سورت تحریم میں) فرمایا ہے کہ وہ دونوں حضور ﷺ کے مقابلہ میں ایک دوسرے کی مددگار بنی تھیں حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ اس کے بعد اور لمبی حدیث ذکر کی ہے۔!

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ حضرت سعدؓ نے کہا اے میرے بھتیجے! مجھ سے نہ ڈرو جب تمہیں معلوم ہو کہ وہ چیز مجھے معلوم ہے تو تم مجھ سے ضرور پوچھ لو۔ میں نے عرض کیا جب غزوہ تبوک میں حضور ﷺ اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو ان سے کیا فرمایا تھا؟ حضرت سعدؓ نے کہا حضورؐ نے فرمایا تھا اے علی! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لئے ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے (کوہ طور پر جاتے وقت حضرت موسیٰؑ حضرت ہارونؑ کو پیچھے چھوڑ گئے تھے) ۲

حضرت عثمان بن عبد اللہ بن موہبؓ کہتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا پانی کے ایک چشمہ پر گزر ہوا۔ اس چشمہ والوں نے ان سے میراث کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبیرؓ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں لیکن تم لوگ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو میں معلوم کر کے اسے جواب بتا دوں گا، چنانچہ چشمہ والوں نے ان کے ساتھ ایک آدمی بھیج دیا۔ حضرت جبیرؓ نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جو عالم اور فقیہ بنا چاہتا ہے اسے ایسے ہی کرنا چاہئے جیسے کہ حضرت جبیر بن مطعمؓ نے کیا۔ ان سے ایسی بات پوچھی گئی جو انہیں معلوم نہیں تھی تو یوں کہہ دیا اللہ اعلم اللہ جانتے ہیں (میں نہیں جانتا) ۳

حضرت مجاہدؓ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اولاد کی میراث کے بارے میں پوچھا حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ کسی نے ان سے کہا آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے فرمایا ابن عمر سے وہ چیز پوچھی گئی جو اسے معلوم نہیں اس نے کہہ دیا میں نہیں جانتا (ٹھیک تو کیا) ۴ حضرت عمروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ سے کسی چیز کے

۱۔ اخرجہ ابن عبد البر فی العلم (ج ۱ ص ۱۱۲)

۲۔ اخرجہ ابن عبد البر ایضاً و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۱۲) عن سعید نحوہ مع زیادات

۳۔ اخرجہ ابن سعد کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۲۱)

۴۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۵۲)

بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ جب وہ پوچھنے والا پشت پھیر کر چل پڑا تو حضرت ابن عمرؓ نے اپنے آپ سے کہا ابن عمر سے ایسی چیز پوچھی گئی جو اسے معلوم نہیں تو اس نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں۔

حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مسلسل چونتیس مہینے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی صحبت میں رہا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی تو آپ کہہ دیتے میں نہیں جانتا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے کیا تم جانتے ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ ہماری پشتوں کو جہنم تک جانے کے لئے بل بنا نا چاہتے ہیں۔

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت ابن عمرؓ نے اپنا سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابن عمرؓ نے اس کا سوال ہی نہیں سنا، اس لئے اس آدمی نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے کیا آپ نے میرا سوال نہیں سنا؟ انہوں نے فرمایا سنا ہے لیکن شاید آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ہم سے جو کچھ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں باز پرس نہیں کرے گا۔ اللہ تم پر رحم کرے ہمیں ذرا مہلت دو تاکہ ہم تمہارے سوال کے بارے میں سوچ لیں۔ اگر ہمیں اس کا کوئی جواب سمجھ میں آ گیا تو ہم تمہیں بتادیں گے اور اگر نہ آیا تو تمہیں بتادیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! جس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جو اسے معلوم ہے تو وہ بتادے اور جسے معلوم نہیں ہے وہ کہہ دے اللہ زیادہ جانتا ہے (میں نہیں جانتا) کیونکہ یہ بھی علم میں سے ہے کہ جس بات کو آدمی نہیں جانتا اس کے بارے میں کہہ دے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرمایا ہے قل ما اسئلكم عليه من اجر وما انا من المتكلمين (سورت ص آیت ۸۶) ترجمہ ”آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس قرآن (کی تبلیغ) پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں سے ہوں۔“

حضرت عبداللہ بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں پھر فرمایا اس بول سے میرے جگر کو بہت زیادہ ٹھنڈک پہنچی ہے کہ مجھ سے ایسی بات پوچھی گئی جو مجھے معلوم نہیں اور میں نے کہہ دیا مجھے معلوم نہیں۔

حضرت یحییٰ بن سعیدؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب کوئی عالم

۱۔ عن ابن سعد (ج ۲ ص ۱۲۲) ۲۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۵۲)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۱۶۸) ۴۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۵۱)

۵۔ اخرجہ سعدان بن نصر کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۲۲۱) و اخرجہ الدارمی عن ابی البختری

وذاذان عن علی مقتصراً علی قوله کما فی الکنز (ج ۵ ص ۲۲۳)

میں نہیں جانتا کہنا چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنی ہلاکت کی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی عالم میں نہیں جانتا کہنے سے چوک جائے تو سمجھ لو کہ وہ اپنی ہلاکت کی جگہ پر پہنچ گیا ہے۔

حضرت مکحول کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ لوگوں کو حدیثیں سناتے اور جب دیکھتے کہ یہ تھک گئے ہیں اور اکتا گئے ہیں تو انہیں پودے لگانے میں مشغول کر دیتے۔<sup>۲</sup>

حضرت عبداللہ بن مصعب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا عورتوں کا مہر چالیس اوقیہ (ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے) سے زیادہ مقرر نہ کرو چاہے ذی الغصہ قیس بن حصین حارثی (جیسے سردار) کی بیٹی کیوں نہ ہو جو اس سے زیادہ مقرر کرے گا میں وہ زائد رقم لے کر بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ اس پر عورتوں کی صف میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا قد لمبا تھا اور ناک چھٹی تھی اور اس نے کہا آپ کو ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں؟ اس عورت نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنْ اتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ فَنَطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِنَّ شَيْئًا (سورت نساء آیت ۲۰) ترجمہ ”اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔“ تو حضرت عمرؓ نے فوراً کہا عورت نے ٹھیک کہا مرد نے غلطی کی یعنی عمر نے۔<sup>۳</sup>

حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت علیؓ سے کوئی مسئلہ پوچھا حضرت علیؓ نے اس کا کچھ جواب دیا اس آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین! مسئلہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے حضرت علیؓ نے فوراً کہا تم نے ٹھیک کہا میری بات غلط تھی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (سورت یوسف آیت ۷۶) ترجمہ ”اور ہر جاننے والے کے اوپر اس سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔“<sup>۴</sup>

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفانؓ کا آپس میں کسی مسئلہ میں اتنا جھگڑا ہو جاتا تھا کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ اب شاید یہ دونوں کبھی آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے لیکن وہ دونوں جب اس مجلس سے اٹھتے تو ایسے لگتا کہ کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے۔<sup>۵</sup>

۱۔ اخرجہ ابو داؤد فی تصنیفہ لحدیث مالک کذا فی جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۵۲)

۲۔ اخرجہ ابن السمعانی کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۱)

۳۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۱۳۱)

۴۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامعہ و اخرجہ ابن جریر بلفظہ کما فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۱)

۵۔ اخرجہ الخطیب فی رواة مالک کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۱)

## آدمی کا اس وجہ سے علم کی مجلس میں آنا چھوڑ دینا تاکہ دوسرے لوگ علم حاصل کر سکیں

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارہ سواروں کی جماعت میں (اپنی بستی سے) چلا اور سفر کر کے مدینہ حضور کی خدمت میں پہنچا۔ ہم آپ کے ہاں ٹھہر گئے میرے ساتھیوں نے کہا ہمارے اونٹ کون چرائے گا تاکہ (وہ تو ہمارے اونٹ لے کر چلا جائے اور فارغ ہو کر) ہم جا کر حضور سے علم کی روشنی حاصل کر سکیں اور شام کو جب وہ اونٹ چرا کر واپس آئے گا تو ہم نے جو کچھ دن بھر میں حضور سے سنا ہو گا وہ سب اسے بتادیں گے؟ میں اونٹ چرانے کے لئے تیار ہو گیا اور چند دن اونٹ چراتا رہا پھر میں نے دل میں سوچا کہ کہیں میرا نقصان تو نہیں ہو رہا کیونکہ میرے ساتھی حضور ﷺ سے وہ حدیثیں سنتے ہیں جو میں نہیں سنتا اور آپ سے وہ کچھ سیکھ رہے ہیں جو میں نہیں سیکھ رہا چنانچہ ایک دن (میں اونٹ لے کر نہ گیا اور دوسرے ساتھی اپنے اپنے اونٹ لے کر گئے اور) میں مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا جو پورا وضو کرے گا وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ میں یہ فضیلت سن کر بہت خوش ہوا اور واہ واہ کرنے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ارے مہیاں اگر تم اس سے پہلے والا کلام سن لیتے تو اور زیادہ حیران ہوتے میں نے کہا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے ذرا مجھے وہ کلام تو سنادیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دیں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ اس کے بعد حضور ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا لیکن آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور تین مرتبہ حضور نے ایسے ہی فرمایا۔ جب آپ نے چوٹی مرتبہ بھی ایسے ہی کیا تو میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ مجھ سے کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟ اس پر آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہیں ایک آدمی (کا مجلس میں آنا) زیادہ پسند ہے یا بارہ (کا) جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں اسی وقت اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ثقیف کے وفد کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے نبی کریم ﷺ کے دروازے پر اپنے نئے جوڑے پہنے

میرے ساتھیوں نے کہا ہماری سواریوں کو کون تھام کر رکھے گا؟ لیکن سب کو حضور کی خدمت میں فوراً حاضری دینے کا شوق تھا اور کوئی بھی اس کام کے لئے ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ان سب میں چھوٹا تھا میں نے کہا اگر آپ لوگ چاہیں تو میں سواریوں کے لئے یہاں ٹھہرنے کے لئے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ لوگ اندر سے باہر آجائیں تو پھر آپ لوگوں کو میری سواری کی وجہ سے یہاں رکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور وہ سب اندر حضور کی خدمت میں چلے گئے اور وہاں سے فارغ ہو کر باہر واپس آئے اور کہنے لگے آؤ چلیں میں نے کہا، کہاں؟ تمہارے گھر، میں نے کہا میں نے اپنے گھر سے اتنا سفر کیا لیکن جب نبی کریم ﷺ کے دروازے پر پہنچا تو حضور کی خدمت میں حاضری دیئے بغیر میں واپس چلا جاؤں حالانکہ آپ لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس پر ساتھیوں نے کہا اچھا جلدی کرو ہم حضور سے ہر بات پوچھ آئے ہیں تمہیں اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ میرے لئے اللہ سے دعا فرمادیں کہ مجھے علم اور دین کی سمجھ عطا فرمادے۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی درخواست دوبارہ پیش کی تو حضور نے فرمایا تم نے ایسی فرمائش کی ہے کہ وہی تمہارے ساتھیوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ جاؤ اب تم ہی اپنے ان ساتھیوں کے بھی امیر ہو اور تمہاری قوم میں سے جو بھی تمہارے پاس آئے تم اس کے امیر ہو۔ آگے اور حدیث بھی ذکر کی ہے۔ دوسری مختصر روایت میں یہ ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور کے پاس ایک قرآن رکھا ہوا تھا وہ میں نے حضور سے مانگا حضور نے مجھے عطا فرمادیا۔

## علم کا پڑھنا پڑھانا اور علم کو آپس میں دہرانا اور کن چیزوں کا

پوچھنا مناسب ہے اور کن کا مناسب نہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور کبھی ہماری تعداد ساٹھ تک بھی ہو جاتی تھی۔ حضور ہم لوگوں میں حدیث بیان فرماتے پھر اپنی کسی ضرورت سے اندر تشریف لے جاتے ہم لوگ بیٹھ کر اسے آپس میں اتنا دہراتے کہ جب وہاں سے اٹھتے تو وہ حدیث ہمارے دل میں پختہ ہو چکی ہوتی۔<sup>۱</sup>

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ہم

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۷۱) رواہ الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح غیر حکیم بن حکیم بن عبادہ قدوثق ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۱) ولیہ یزید الرقاشی وهو ضعیف



سب آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم میں سے کوئی آپ سے قرآن کے بارے میں کوئی فرائض کے بارے میں اور کوئی خواب کی تعبیر پوچھتا۔

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے پاس جب ان کے ساتھی آیا کرتے تو ان سے فرمایا کرتے کہ مل کر پڑھا کرو، بشارتیں سنایا کرو اور (علم کو) بڑھاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری خیر کو بڑھائے اور تم سے محبت کرے اور جو تم سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کرے اور مسائل کو ہمارے سامنے دہراتے رہا کرو کیونکہ مسائل کے آخری حصے کا ثواب پہلے حصے کی طرح ہے اور اپنی گفتگو میں استغفار شامل کر لیا کرو۔

حضرت ابو نصرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعیدؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں حدیثیں لکھ کر دے دیں۔ فرمایا ہرگز لکھ کر نہیں دیں گے، ہم ہرگز حدیث کو قرآن نہیں بنائیں گے بلکہ تم ہم سے حدیثیں ایسے لو جیسے ہم نے نبی کریم ﷺ سے (بغیر لکھے ہوئے زبانی) لی تھیں اور حضرت ابوسعیدؓ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حدیثیں آپس میں دہرایا کرو کیونکہ اس طرح پختہ یاد ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا حدیثوں کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہا کرو اس سے حدیثیں اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا حدیثوں کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہا کرو کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمام حدیثیں بھول جاؤ گے۔ ابن عبد البر کی روایت کے شروع میں یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہا کرو۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا حدیثوں کا آپس میں مذاکرہ کرتے رہو کیونکہ مذاکرہ کرنے سے حدیثیں زندہ رہتی ہیں یعنی یاد رہتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم کا پڑھنا پڑھانا نفل نماز کا ثواب دلاتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رات کے کچھ حصے میں علم کا آپس میں مذاکرہ کرنا مجھے رات بھر عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو حسن! کئی مرتبہ آپ حضور کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر۔ تین باتیں میں آپ سے پوچھنا

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۵۹) ولیہ محمد بن عمر الرومی ضعفہ  
 ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۱) ورجاله موقوفون  
 ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۱) ورجاله رجال الصحیح  
 ۴۔ اخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۹۳) و ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۱۱۱)  
 ۵۔ اخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۹۵) و اخرجہ ابن ابی شیبہ  
 ۶۔ اخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۹۵) عن علی مثله  
 ۷۔ عند ابن عبد البر فی العلم (ج ۱ ص ۲۲)

چاہتا ہوں کیا آپ کو وہ معلوم ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا وہ تین باتیں کیا ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی ہوتی اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علیؑ نے فرمایا ہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی رو میں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی ہیں وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی ہیں جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ ایک بات کا جواب مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے کبھی اسے بھول جاتا ہے کبھی یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علیؑ نے فرمایا میں نے حضورؐ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے دل کے لئے بھی بادل ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور جب بادل ہٹ جاتا ہے چاند پھر چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آدمی حدیث بیان کرتا ہے وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا دو باتوں کا جواب مل گیا تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے کوئی جھوٹا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علیؑ نے فرمایا جی ہاں اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں ان تین باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پایا۔

حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطابؓ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے دل میں کچھ سوچ رہے تھے پھر آدمی بھیج کر حضرت ابن عباسؓ کو بلایا۔ جب وہ آگئے تو ان سے فرمایا اس امت میں کیسے اختلاف ہو سکتا ہے جب کہ ان کی کتاب ایک ہے اور ان کا نبی ایک ہے اور ان کا قبلہ ایک ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! ہم پر قرآن نازل ہوا ہم نے اسے پڑھا اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۲) وفیہ ازہو بن عبداللہ قال العقیلی حدیثہ غیر محفوظ عن ابن عجلان وهذا الحدیث یعرف من حدیث اسرائیل عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی موقوفا وبقیة رجالہ موثقون۔ انتہی

ہے لیکن ہمارے بعد کے لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی ہے اس طرح ہر جماعت کی اس بارے میں الگ الگ رائے ہوگی۔ جب ہر جماعت کی الگ الگ رائے ہوگی تو ان میں اختلاف ہو جائے گا اور جب ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا تو پھر آپس میں لڑ پڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ ان پر برسے اور انہیں خوب ڈانٹا۔ حضرت ابن عباسؓ واپس چلے گئے لیکن حضرت ابن عباسؓ نے جو بات کہی تھی وہ بعد میں حضرت عمرؓ کو سمجھ آگئی تو انہیں بلایا اور ان سے فرمایا وہ اپنی بات ذرا دوبارہ کہنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج رات میں نے ایک آیت پڑھی جس کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ آیت یہ ہے اَبْوَدًا اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَّ اَعْنَابٍ الْاَيَةُ (سورت بقرہ آیت ۲۶۶) ترجمہ ”بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا۔ اس کے (درختوں کے) نیچے نہریں چلتی ہوں اس شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے (مناسب) میوے ہوں اور اس شخص کا بڑھاپا آگیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں (کمانے کی) قوت نہیں۔ سو اس باغ پر ایک گولہ آدے جس میں آگ (کا مادہ) ہو پھر وہ باغ جل جاوے“ میں ساری رات یہ سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں لیکن میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ معلوم ہے یا اس نے اس بارے میں کچھ سن رکھا ہے تو وہ بتا دے اور لوگ تو خاموش رہے لیکن میں نے دھیمی آواز سے کچھ کہا اس پر حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا کہو اے میرے بھتیجے! کہو اپنے آپ کو اتنا کم درجہ کا نہ سمجھو میں نے کہا اس مثال سے مراد عمل ہے انھوں نے فرمایا عمل مراد لینے کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا (دلیل تو کوئی نہیں ہے لیکن) میرے دل میں یہ بات آئی ہے جو میں نے کہہ دی ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ مجھے چھوڑ کر خود تفسیر کرنے لگے اور فرمایا اے میرے بھتیجے! تم نے ٹھیک کہا واقعی اس سے عمل ہی مراد ہے۔ ابن آدم جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسے اپنے باغ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی قیامت کے دن اسے عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اے میرے بھتیجے! تم نے بالکل ٹھیک کہا۔

۱۔ اخرجہ سعید ابن منصور و البيهقي و الخطيب في الجامع كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۲۸)

۲۔ اخرجہ عبد بن حميد و ابن المنذر و اخرجہ ايضا ابن المبارك و ابن جرير و ابن ابی حاتم و الحاكم . بمعناه مختصرا كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۳۲) و صححه الحاكم (ج ۳ ص ۵۳۲) علی

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بوڑھوں کے ساتھ اپنی مجلس میں شریک فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ شریک کرتے ہیں حالانکہ اس جتنے تو ہمارے بیٹے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو تم جانتے ہو۔ ایک دن حضرت عمرؓ نے انہیں بھی بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے صرف اس لئے بلایا ہے تاکہ وہ لوگ میری (علمی) حیثیت دیکھ لیں اور فرمایا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) سے لے کر آخر تک ساری سورت پڑھی۔ ترجمہ ”اے محمد ﷺ) جب خدا کی مدد اور (ملکہ کی) فتح (مع اپنے آثار کے) آپہنچے (یعنی واقع ہو جائے) اور (آثار جو اس پر متفرع ہونے والے ہیں کہ) آپ لوگوں کو اللہ کے دین (یعنی اسلام) میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوادیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔“

ان میں سے کسی نے کہا اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آجائے اور ہمیں فتح نصیب ہو جائے تو ہم اس کی تعریف کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں اور کسی نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ بعضوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموش رہے پھر حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا اے ابن عباس! کیا تم بھی ایسے ہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں انہوں نے فرمایا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس میں حضور ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا ہے کہ جب اللہ کی مدد آجائے اور مکہ فتح ہو جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو تو یہ آپ کے دنیا سے جانے کے قریب آنے کی نشانی ہے، لہذا آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے بھی اس سورت کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تمہیں معلوم ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطابؓ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا یا ایہا الذین امنوا الا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم نسوکم (سورت مائدہ آیت ۱۰۱) ترجمہ ”اے ایمان والو! ایسی (فضول) باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کردی جاویں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو“ حضرت عمرؓ نے فرمایا کچھ مہاجرین کو اپنے نسب

۱۔ اخرجہ سعید بن منصور وابن سعید وابو یعلیٰ وابن جریر وابن المنذر والطبرانی وابن مردويه وابو نعیم والبیہقی معافی الدلائل کذا فی الکتب (ج ۱ ص ۲۷۶) و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۱۷) نحوہ و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۳۹) عن ابن عباس قال کان عمر لیلنی مع اصحاب النبی ﷺ فقال له عبدالرحمن بن عوف اتساله فذکرہ نحوہ مختصراً ثم قال هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ووافقه الذہبی

میں کچھ شبہ تھا ایک دن یہ لوگ آپس میں کہنے لگے اللہ کی قسم! ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے نسب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ قرآن نازل فرمادیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو تم نے ابھی پڑھی تھی پھر حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا تمہارے یہ ساتھی یعنی حضرت علی بن ابی طالب اگر امیر بن گئے تو یہ زاہد تو ہوں گے لیکن مجھے خود بنی کا ڈر ہے کہ کہیں اس میں بتلانہ ہو جائیں۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! ہمارے ساتھی (کے فضائل اور درجے) کو تو آپ جانتے ہیں اللہ کی قسم! آپ کیا فرما رہے ہیں؟ (حضور ﷺ کے دینا سے تشریف لے جانے کے بعد) ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جتنے دن وہ حضور کے ساتھ رہے کبھی حضور کو ناراض نہیں کیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا حضرت فاطمہؓ کے ہوتے ہوئے حضرت علیؓ نے ابو جہل کی بیٹی کو شادی کا پیغام دینا چاہا تھا جس پر حضور کو گرانی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کی نافرمانی کے قصے میں فرمایا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (سورت طہ آیت ۱۱۵) ترجمہ ”ہم نے (اس حکم کے اہتمام میں) ان میں پختگی (اور ثابت قدمی) نہ پائی۔ ایسے ہی ہمارے ساتھی نے حضور ﷺ کو ناراض کرنے میں پختگی نہ دکھائی (بلکہ جو نبی پتہ چلا کہ یہ کام حضور ﷺ کو پسند نہیں ہے انہوں نے فوراً اس ارادہ کو چھوڑ دیا) اور یہ تو دل کے وہ خیالات ہیں جن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ کے دین کی سمجھ رکھنے والے فقیہ اور اللہ کے احکام کے جاننے والے عالم سے بھی کبھی لغزش ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے اس پر متنبہ کیا جائے تو فوراً اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے ابن عباس! جو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے (علوم کے) سمندروں میں گھس کر تمہارے ساتھ غوطہ لگائے اور گہرائی تک جا پہنچے وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے بس میں نہیں (یعنی تم نے اپنے دلائل سے مجھے لا جواب کر دیا ہے)۔

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں سامنے سے مقصورہ والے حضرت خبابؓ ظاہر ہوئے اور کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر! کیا آپ نے وہ حدیث سنی ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو گھر سے ہی جنازہ کے ساتھ چلے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے اور پھر دفن تک اس کے پیچھے رہے اس کو دو قیراط اجر ملے گا۔ ایک قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اور جو نماز جنازہ پڑھ کر واپس آجائے اس کو احد پہاڑ کے برابر اجر ملے گا یعنی ایک قیراط اجر ملے گا۔ حضرت ابن عمرؓ نے حضرت خباب کو حضرت عائشہؓ کے پاس بھیج دیا کہ ان سے حضرت ابو ہریرہؓ کی اس حدیث کے بارے میں پوچھو اور وہ جو جواب دیں وہ آکر بتاؤ پھر حضرت ابن عمرؓ ایک منھی مسجد کی کنکریاں لے کر ہاتھ میں الٹ پلٹ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ قاصد یعنی حضرت خباب واپس آگئے اور آکر بتایا کہ حضرت عائشہؓ فرما رہی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے ٹھیک کہا ہے تو ہاتھ

میں جو کنکریاں تھیں انہیں حضرت ابن عمرؓ نے زمین پر پھینک کر کہا پھر تو ہم نے اجر و ثواب کے بہت سے قیراط کھودیے۔ احاکم کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ہمیں نہ تو زمیندارہ کی مشغولی تھی اور نہ بازار کے کاروبار اور تجارت کی۔ جس کی وجہ سے ہمیں حضور ﷺ کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہو۔ میری چاہت تو بس اتنی تھی کہ حضور ﷺ مجھے یا تو کوئی کلمہ اور بات سکھا دیں یا کھانے کا کوئی لقمہ کھلا دیں اس پر حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! واقعی تم ہم سب سے زیادہ حضور کو چھڑے رہتے تھے اسی وجہ سے تم ہم سب سے زیادہ حضور کی حدیثوں کو جاننے والے ہو۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے صحابہ سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی کہ انہوں نے حضور کی وفات تک حضور سے صرف تیرہ مسئلے ہی پوچھے جن کا قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہے: **يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ**، **وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ**، **وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ**، **وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِيِّ**، **وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ** (صحابہ آپ سے قابل احترام مینے شراب اور جوئے، یتیموں، حیض اور مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں) **وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا بَنِي فُقُورًا** (صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں) اور وہ صرف اپنے فائدہ کی بات ہی پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا بیت اللہ کا سب سے پہلے فرشتوں نے طواف کیا تھا اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کئی نبیوں کی قبریں ہیں۔ جب کسی نبی کو اس کی قوم بہت زیادہ تکلیف دینے لگتی تو وہ انہیں چھوڑ کر بیت اللہ کے پاس آجاتا تو پھر وفات تک یہاں ہی اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں دینی مسئلہ پوچھنے اور دین کی سمجھ حاصل کرنے میں حیا نہیں کرتی ہیں۔

حضرت ام سلیمؓ فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہؓ کی پڑوسن تھی۔ میں نے (ان کے گھر میں جا کر) عرض کیا یا رسول اللہ! ذرا یہ بتائیں کہ جب کوئی عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے خاندان نے اس سے صحبت کی ہے تو کیا اسے غسل کرنا پڑے گا؟ یہ سن کر حضرت ام سلمہؓ نے کہا اے ام سلیم! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں تم نے تو اللہ کے رسول کے سامنے عورتوں کو رسوا کر دیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ ہمیں جب کسی مسئلہ میں مشکل پیش آئے تو اسے نبی کریم ﷺ سے پوچھ لینا اس سے بہتر ہے کہ ہم ایسے ہی اندھیرے

۱۔ اخرجہ مسلم عن عامر بن سعد بن ابی وقاص حدثہ عن ایہ كذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۳۰۲) واخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۱۰) عن الوليد بن عبد الرحمن بسياق آخر بمعناه

۲۔ وبهنا السياق اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۳۲) عن الوليد الا انه لم يذكر قول ابن عمر قال الحاکم هذا حديث صحيح الامنادولم يخرجه

۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الكبير قال الهيثمي (ج ۱ ص ۵۸) يوفيه عطاء بن السائب وهو ثقة و لكنه اختلط بقیة رجاله لقات. انتهى واخرجہ البزار

۴۔ اخرجہ ابن عبد البر فی العلم (ج ۱ ص ۸۸)

میں ہیں۔ پھر حضورؐ نے فرمایا! اے ام سلیم! تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں اگر اسے (کیڑوں پر یا جسم پر) پانی نظر آئے تو اسے غسل کرنا پڑے گا۔ حضرت ام سلمہؓ نے کہا کیا عورت کا بھی پانی ہوتا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا تو پھر بچہ ماں کے کیسے مشابہ ہو جاتا ہے؟ یہ عورتیں مزاج اور طبیعت میں مردوں جیسی ہیں۔

حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کوئی بات ارشاد فرمادیتے تو بعض لوگ ایک دوسرے سے اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کرتے اور پھر حضورؐ سے پوچھنے لگ جاتے جب پوچھنا شروع کرتے تو اس وقت تو وہ چیز حلال ہوتی لیکن وہ حضورؐ سے اس کے بارے میں اتنے سوالات کرتے کہ آخر وہ چیز اللہ کی طرف سے حرام کر دی جاتی۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ لعان کی آیتیں زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے نازل ہوئیں۔ ایک دن لوگوں نے حضرت ابن مسعودؓ سے بہت زیادہ سوالات کیئے تو انہوں نے حضرت حارث بن قیسؓ سے فرمایا اے حارث بن قیس! (شفقتاً حارث کو حارکہہ کر پکارا) تمہارا کیا خیال ہے یہ لوگ اتنا زیادہ پوچھ کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت حارث نے کہا یہ لوگ تو بس سیکھ کر چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں! تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اے لوگو! جو چیز ابھی ہوئی نہیں اس کے بارے میں مت پوچھو کیونکہ حضرت عمرؓ اس آدمی پر لعنت بھیجتے تھے جو اس چیز کے بارے میں پوچھے جو ابھی ہوئی نہیں۔ حضرت طاؤسؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کسی کے لیئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں پوچھے جو ابھی ہوئی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور کے بارے میں فیصلہ فرما رکھا ہے جو آئندہ ہونے والے ہیں۔

حضرت خارجہ بن زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت زید بن ثابتؓ سے جب کوئی چیز پوچھی جاتی تھی تو اس وقت تک اس کے بارے میں اپنی سمجھ سے کوئی جواب نہ دیتے تھے جب تک یہ نہ پوچھ لیتے کہ یہ بات ہو چکی ہے یا نہیں؟ اگر وہ ہوئی نہ ہوتی تو اس کا جواب نہ دیتے اور اگر ہو چکی ہوئی تو پھر اس کے بارے میں گفتگو فرماتے اور جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو پوچھتے کہ کیا یہ پیش آچکا ہے؟ تو کوئی آدمی ان سے کہتا اے ابو سعید! ابھی پیش تو نہیں آیا لیکن ہم پہلے سے اس کا جواب تیار کر رہے ہیں۔ یہ فرماتے اسے چھوڑ دو اور اگر پیش آچکا ہوتا تو اس کا جواب

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۵) وہو فی الصحیح باختصار وفی اسناد احمد انقطاع

بین ام سلیم وامحاق ۲۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۵۸) ولیہ قیس بن الربیع وثقہ

شعبۃ وسفیان وضعفہ احمد ویحیی بن معین وغیرہما انتھی

۳۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی ورجالہ ثقات ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی ورجالہ

موثقون ۵۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۱۲۳) ۶۔ عند ابن عبدالبر ایضا

بتا دیتے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعبؓ سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا یہ پیش آپکا ہے؟ میں نے کہا نہیں تو فرمایا جب تک یہ پیش نہ آئے اس وقت تک مجھے آرام سے رہنے دو۔ اب ابن سعد کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت ابیؓ نے فرمایا کہ جب تک یہ پیش نہ آجائے اس وقت تک ہمیں آرام سے رہنے دو جب یہ پیش آجائے گا تب ہم تمہارے لیے کوشش کر کے اپنی رائے بتادیں گے۔

حضرت عامرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمارؓ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو پوچھا کیا یہ مسئلہ پیش آپکا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں تو فرمایا جب تک یہ مسئلہ پیش نہ آجائے اس وقت تک ہمیں چھوڑے رکھو جب یہ پیش آجائے گا تب زور لگا کر اس کا صحیح جواب نکال کر تمہیں بتائیں گے۔

## قرآن سیکھنا اور سکھانا اور پڑھ کر لوگوں کو سنانا

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے فلاں قبیلہ کا حصہ خریدا تو مجھے اس میں اتنا اور اتنا نفع ہوا۔ حضورؐ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ نفع کی صورت نہ بتا دوں؟ اس نے کہا کیا اس سے زیادہ نفع ہو سکتا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں۔ آدمی دس آیتیں سیکھ لے (تو اسے اس سے زیادہ نفع مل جائے گا) چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس نے دس آیتیں سیکھیں اور آ کر حضورؐ کو اس کی اطلاع کی۔

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی سورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل، زبور اور قرآن (کسی آسمانی کتاب) میں نازل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ضرور سکھائیں۔ حضورؐ نے فرمایا امید ہے اس دروازے سے نکلنے سے پہلے ہی تم اس سورت کو سیکھ لو گے پھر حضورؐ گھرے ہو گئے اور آپ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا پھر آپ مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا اور میں اس خیال سے پیچھے ہٹنے لگا کہ حضورؐ کہیں مجھے بتانے سے پہلے باہر نہ چلے جائیں۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ سورت جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا سورت فاتحہ۔ آپ نے فرمایا بس یہی ہے یہی وہ سات آیتیں ہیں جن کو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مَبْعَأً مِّنَ الْمَثْنِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ (سورت حجر آیت ۸۷) ترجمہ ”اور ہم نے

۱۔ اخرجہ ابن عبد البر ایضاً (ج ۲ ص ۱۳۲) و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۵۰۰) عن مسروق  
 ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۵۶) ۳۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۱۶۵) و رواہ  
 الطبرانی فی الکبیر والاوسط و رجالہ رجال الصحیح



آپ کو سات آیتیں دیں جو (نماز میں) مکرر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا۔“ یہی وہ چیز ہے جو مجھے خاص طور سے دی گئی ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو طلحہؓ سامنے سے آئے تو دیکھا کہ حضور ﷺ کھڑے ہوئے اصحاب صفہ کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور آپؐ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ مبارک پر پتھر کا ٹکڑا باندھا ہوا ہے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو موسیٰؓ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ بہت سے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے تو وہ ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپؐ کو حضرت ابو موسیٰؓ کی عجیب بات نہ بتاؤں؟ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے پھر ان کے پاس لوگ جمع ہو گئے تو وہ ان کے سامنے قرآن پڑھنے لگے۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ تم مجھے ایسی جگہ بٹھا دو جہاں ان میں سے مجھے کوئی نہ دیکھ سکے؟ اس نے کہا جی ہاں حضور تشریف لے گئے اور اس آدمی نے حضورؐ کو ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں حضورؐ کو ان میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہاں سے حضورؐ حضرت ابو موسیٰؓ کی تلاوت کو سننے لگے پھر حضورؐ نے فرمایا یہ حضرت داؤدؑ کے لہجہ جیسی آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔

حضرت انسؓ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضرت اشعریؓ نے مجھے حضرت عمرؓ کے پاس بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے مجھ سے فرمایا اشعری بھائی کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے کہا میں نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھا رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ذرا غور سے سنو! وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں لیکن یہ بات انہیں نہ سنانا پھر فرمایا تم نے دیہاتیوں کو کس حال میں چھوڑا؟ میں نے کہا اشعری قبیلہ والے؟ آپؐ نے فرمایا نہیں بلکہ بصرہ والے میں نے کہا اگر یہ بات بصرہ والے سن لیں تو انہیں بہت بری لگے گی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ بات انہیں نہ بتانا لیکن ہیں وہ لوگ دیہاتی ہی، البتہ ان میں سے جسے اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی توفیق دے دے (تو وہ دیہاتی نہیں رہے گا)۔

حضرت ابو رجاء عطار دیؓ کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بصرہ کی اس مسجد میں ہمارے پاس بار بار تشریف لاتے اور ایک ایک حلقہ میں بیٹھتے اور ان کا یہ منظر اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے دو سفید چادریں پہنی ہوئی ہیں اور مجھے قرآن پڑھا رہے ہیں اور میں نے سورت ابراہیم ربک الذی خلق ان سے ہی سیکھی تھی اور یہ سورت حضرت محمد ﷺ پر سب سے پہلے

۱۔ اخرجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۴۰) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص

۳۴۲) ۳۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۶۰) ورواہ ابو یعلیٰ و اسنادہ حسن ۴۔

واخرجہ ابن عساکر مثله کما فی الكنز (ج ۷ ص ۹۲) ۵۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۶۲)

نازل ہوئی تھی۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا تو میں نے قسم کھائی کہ دو پٹھوں کے درمیان جو قرآن ہے جب تک میں اس سارے کو جمع نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں اپنی پیٹھ سے چادر نہیں اتاروں گا یعنی آرام نہیں کروں گا، چنانچہ جب تک میں نے سارا قرآن جمع نہیں کر لیا یعنی یاد نہ کر لیا اپنی پیٹھ سے چادر نہیں اتاری بالکل آرام نہیں کیا۔ ۲

حضرت میمونؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ نے چار سال میں سورت بقرہ سکھی۔ ۳

قبیلہ انجم کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ مدائن شہر میں لوگوں نے سنا کہ حضرت سلمان مسجد میں ہیں تو لوگ ان کے پاس آنے لگے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ہزار کے قریب آدمی جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان کھڑے ہو کر کہنے لگے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گئے تو انہوں نے سورت یوسف پڑھنی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ بکھرنے لگے اور جانے لگے اور تقریباً سو کے قریب رہ گئے تو حضرت سلمان کو غصہ آ گیا اور فرمایا تم لوگ چکنی چڑی خوشنابا تیں سنا چاہتے ہو۔ میں نے تمہیں اللہ کی کتاب سنانی شروع کی تو تم چلے گئے۔ ۴

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آدمی کو ایک آیت پڑھاتے اور فرماتے جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے یاروئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں یہ آیت ان سب سے بہتر ہے۔ اس طرح آپ پورا قرآن سکھاتے اور ہر آیت کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب صبح ہوتی تو لوگ حضرت ابن مسعودؓ کے پاس ان کے گھر آنے لگتے۔ یہ ان سے فرماتے رہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں پھر ان لوگوں کے پاس سے گزرتے جنہیں قرآن پڑھا رہے ہوتے اور ان سے فرماتے اے فلا نے! تم کون سی سورت تک پہنچ گئے ہو؟ وہ اس سورت کی آیت بتاتا تو یہ اس سے آگے والی آیت اسے پڑھاتے پھر فرماتے اس آیت کو سیکھ لو یہ تمہارے لئے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور کسی کاغذ پر صرف ایک آیت لکھی ہو اسے دیکھنا بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے پھر دوسری آیت پڑھاتے اور یہی ارشاد فرماتے اور ان سب لوگوں کو یہی بات کہتے۔ ۵

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے اس قرآن کو اپنے اوپر لازم سمجھو کیونکہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے اللہ کے اس دسترخوان سے ہر ایک کو ضرور لینا چاہیے اور علم سکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ۶

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے اس قرآن کو اپنے اوپر لازم سمجھو کیونکہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے جو آدمی اسے جتنا زیادہ سیکھ سکتا ہے اسے اتنا سیکھنا چاہئے خیر سے سب سے زیادہ خالی گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہ ہو اور جس گھر میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں ہے اس

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۵۶) ۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۶۷)

۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۲۱) ۴۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۰۳)

۵۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۱۶۷) رواہ کله الطبرانی ورجال الجمع لغات

۶۔ اخرجه البزار قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۹) رواہ البزار فی حدیث طویل ورجالہ موثقون ۱۰

اجاز اور ویران گھر کی طرح ہے جس میں رہنے والا کوئی نہ ہو اور جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔<sup>۱</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کے دروازے پر بہت زیادہ آیا کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا جا اللہ کی کتاب سیکھ، چنانچہ وہ چلا گیا اور کئی دن تک حضرت عمرؓ کو نظر نہ آیا پھر اس سے حضرت عمرؓ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے نہ آنے پر اس پر کچھ خفگی کا اظہار کیا تو اس نے کہا مجھے اللہ کی کتاب میں وہ کچھ مل گیا ہے جس کے بعد عمر کے دروازے کی ضرورت نہیں رہی۔<sup>۲</sup>

## ہر مسلمان کو کتنا قرآن سیکھنا چاہئے

حضرت عمرؓ نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے کم از کم چھ سورتیں سیکھنا ضروری ہے دو سورتیں فجر کی نماز کے لیے دو سورتیں مغرب کی نماز کے لیے اور دو سورتیں عشاء کی نماز کے لیے۔<sup>۳</sup>

حضرت مسور بن مخزومؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا سورت بقرہ، سورت نساء، سورت مائدہ، سورت حج اور سورت نور ضرور سیکھو کیونکہ اللہ نے جو اعمال فرض کیئے ہیں وہ سب ان سورتوں میں مذکور ہیں۔<sup>۴</sup> حضرت حارثہ بن مضربؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہمیں خط میں یہ لکھا کہ سورت نساء، سورت احزاب اور سورت نور سیکھو۔<sup>۵</sup> حضرت عمرؓ نے فرمایا سورت براءت سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورت نور سکھاؤ اور انہیں چاند کے زیور پہناؤ۔<sup>۶</sup>

## جسے قرآن پڑھنا دشوار ہو وہ کیا کرے

نبی کریم ﷺ کے صحابی حضرت ابوریحانہؓ نے فرمایا کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ قرآن میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یاد نہیں رہتا اور اسے پڑھنا بھی دشوار ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ایسے کام کی ذمہ داری مت اٹھاؤ جو تمہارے بس میں نہیں اور تم سجدے زیادہ کرو یعنی نفل نماز کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت عمیرہؓ کہتے ہیں حضرت ابوریحانہؓ عسقلان تشریف لائے تھے اور وہ سجدے بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔<sup>۷</sup>

۱۔ عند ابی نعیم فی الحیلة (ج ۱ ص ۱۳۰) ۲۔ اخرجه ابن ابی شیبہ کذالی الکنز (ج ۱ ص

۶۱۷) ۳۔ اخرجه عبدالرزاق فی الکنز (ج ۱ ص ۲۱۷)

۴۔ اخرجه الحاكم وليهقي ۵۔ عند ابی عیید ۶۔ عند ابی عیید ایضا وسعید بن

منصور و ابی الشیخ والبیہقی کذالی الکنز (ج ۱ ص ۲۲۲)

۷۔ اخرجه عبدالغافر بن سلامه الحمصی فی تاریخہ کذالی الاصابہ (ج ۲ ص ۱۵۶)

## قرآن کی مشغولی کو ترجیح دینا

حضرت قرظ بن کعبؓ فرماتے ہیں ہم عراق کے ارادے سے (مدینہ سے) نکلے تو حضرت عمر بن خطابؓ بھی ہمارے ساتھ حراء مقام تک چلے (جو مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے) پھر آپ نے وضو کر کے فرمایا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں چلا؟ ساتھیوں نے کہا جی ہاں ہم لوگ حضور ﷺ کے صحابہ ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا (یہ وجہ تو خیر ہے لیکن اصل میں میں آپ لوگوں کو ایک خاص بات کہنا چاہتا تھا اور وہ یہ ہے کہ) تم لوگ ایسے علاقہ میں جا رہے ہو کہ وہاں کے لوگ شہد کی مکھی جیسی دھبی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کے سامنے احادیث بیان نہ کرنا ورنہ وہ (قرآن کو چھوڑ کر) تمہارے ساتھ (احادیث میں) مشغول ہو جائیں گے بلکہ قرآن کو (احادیث سے) الگ تھلگ رکھو اور حضور ﷺ کی طرف سے روایت کم کرو اور اب جاؤ میں تمہارے ساتھ (اجر میں) شریک ہوں جب حضرت قرظ (عراق) پہنچے تو لوگوں نے کہا آپ ہمیں حدیثیں سنائیں فرمایا حضرت ابن خطابؓ نے ہمیں اس کام سے روکا ہے۔ ابن عبد البر کی ایک روایت میں یہ ہے ان کو احادیث نہ سنانا ورنہ تم ان کو ان ہی میں مشغول کر دو گے اور قرآن عمدہ طریقہ سے پڑھنا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ پھر حضرت عمرؓ نے ہم سے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نکلا؟ ہم نے کہا آپ ہمیں رخصت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا اکرام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ تو ہے ہی لیکن میں ایک اور ضرورت کی وجہ سے نکلا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم ایسے علاقہ میں جا رہے ہو اور پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۲

## قرآن کی وہ آیات جن کی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں

### جاننا ان کے بارے میں سوال کرنے والے پر سختی

حضرت ابن عمرؓ کے ایک آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ صبیغ عراقی ملک شام کے مسلمان لشکروں میں قرآن کی (ان) چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگا (جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا) وہ چلتے چلتے مصر پہنچ گیا تو حضرت عمرو بن عاصؓ نے اسے حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس بھیج دیا۔ جب

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۱ ص ۱۰۲) قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد له طرق تجمع وبذا كره بهاء قرظة بن كعب الانصاري صحابي سمع من رسول الله ﷺ واما ما نرواه فقد احتجابه انتهى ووافقنا الذهبي فقال صحيح وله طرق. اهـ واخرجه ابن عبد البر في جامع العلم (ج ۲ ص ۱۲۰) عن قرظة مثله

۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۷۷) بسياق ابن عبد البر الا ان في رواية جردوا القرآن

ان کا قاصد خط لے کر حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو حضرت عمرؓ نے خط پڑھ کر فرمایا وہ آدمی کہاں ہے؟ قاصد نے کہا قیام گاہ میں ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس پر نگاہ رکھنا وہ کہیں چلا نہ جائے ورنہ تمہیں سخت سزا دوں گا۔ قاصد اسے حضرت عمرؓ کے پاس لے آیا حضرت عمرؓ نے اس سے پوچھا تم کیا پوچھتے ہو؟ اس نے اپنے سوالات بتائے۔ حضرت عمرؓ نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ کجھور کی ٹہنی لاؤ (میں نے جا کر ان کو ٹہنی لادی) انہوں نے صبیح کو اس ٹہنی سے اتنا مارا کہ اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی پھر حضرت عمرؓ نے اسے چھوڑ دیا جب اس کی پیٹھ ٹھیک ہو گئی اور اسے مارنے کے لیے تیسری مرتبہ بلایا تو صبیح نے کہا اے امیر المؤمنین! اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح قتل کریں اور اگر آپ میرا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں (قرآن کی متشابہ آیات کے بارے میں پوچھنے اور گفتگو کرنے سے میں نے توبہ کر لی ہے) اس پر حضرت عمرؓ نے اسے اپنے علاقہ میں جانے کی اجازت دے دی اور (وہاں کے گورنر) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ صبیح کے ساتھ کوئی مسلمان نہ بیٹھا کرے۔ اس سے صبیح بہت زیادہ پریشان ہوا پھر حضرت ابو موسیٰ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ اب صبیح کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں لکھا کہ اب لوگوں کو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ حضرت سلیمان بن یسارؓ کہتے ہیں کہ بتویم کے ایک آدمی کو صبیح بن عسل کہا جاتا تھا۔ وہ مدینہ منورہ آیا۔ اس کے پاس چند کتابیں تھیں اور وہ قرآن کی متشابہ آیات کے بارے میں پوچھا کرتا تھا (جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا) حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے لیے کجھور کی ٹہنیاں تیار کروائیں اور آدمی بھیج کر اسے بلایا جب وہ حضرت عمرؓ کے پاس آیا تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ صبیح ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ پھر حضرت عمرؓ نے اشارہ کر کے اسے ٹہنیوں سے مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون اس کے چہرے پر بہنے لگا تو صبیح نے کہا اے امیر المؤمنین! اب بس کر دیں اللہ کی قسم! میرے دماغ میں جو (شیطان) گھسا ہوا تھا وہ اب جاتا رہا۔ ابو عثمان کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہمیں لکھا کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھو، چنانچہ جب وہ آتا اور ہم سو آدمی بھی ہوتے تو ہم بکھر جاتے۔ حضرت سعید بن مسیبؓ کہتے ہیں کہ صبیح تمہی حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور اس نے سورت ذاریات کے بارے میں ان سے پوچھا آگے اور حدیث ذکر کی۔ ابن انباری کی روایت میں یہ ہے کہ پہلے تو صبیح اپنی قوم کا سردار تھا لیکن اس واقعہ کے بعد اس کی قوم میں اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔

۱۔ اخرجه الدارمی وابن عبدالحکم وابن عساکر ۲۔ عند الدارمی ایضا وابن الانباری

وغیر ہما کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۸) و اخرجه ایضا الخطیب وابن عساکر من طریق النس والسائب بن

یزید و ابی عثمان الہندی مطولا ومختصرا ۳۔ اخرجه الدار قطنی فی الافراد بسند ضعیف

۴۔ اخرجه ابن الانباری من وجه آخر عن السائب بن یزید عن عمر بسند صحیح و اخرجه الا

سماعیلی فی جمعه حدیث یحیی بن سعید من هذا الوجه کذا فی الاصابہ (ج ۲ ص ۱۹۸)

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کچھ لوگ مصر میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے ملے اور ان سے کہا ہمیں اللہ کی کتاب میں ایسی چیز نظر آرہی ہیں جن پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہم اس بارے میں امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں چنانچہ حضرت ابن عمروؓ مدینہ آئے اور یہ لوگ بھی ان کے ساتھ مدینہ آئے۔ حضرت ابن عمروؓ نے حضرت عمرؓ سے ملاقات کی اور عرض کیا اے امیر المومنین! کچھ لوگ مجھ سے مصر میں ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب میں ایسی چیزیں نظر آرہی ہیں جن پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا، اس لیے اس بارے میں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا انہیں اکٹھا کر کے میرے پاس لے آؤ، چنانچہ حضرت ابن عمروؓ انہیں اکٹھا کر کے حضرت عمرؓ کے پاس لے آئے ان میں سے جو حضرت عمرؓ کے سب سے زیادہ قریب تھا اسے حضرت عمرؓ نے بلایا اور فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے سارا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم نے سارا دل میں جمایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم نے سارا قرآن یاد کر لیا ہے؟ کیا تم نے سارے پر عمل کر لیا ہے؟ پھر ان میں سے ایک ایک کو بلا کر ہر ایک سے یہی سوالات کئے پھر فرمایا عمر کو اس کی ماں گم کرے کیا تم عمر کو اس بات کا مکلف بناتے ہو کہ وہ تمام لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کے لیے کھڑا کر دے۔ ہمارے رب کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم سے خطا میں سرزد ہوں گی پھر یہ آیت پڑھی اِنْ نَجْتَبُوا كِتَابَنَا لَوْ مَا تَنَّهُوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ بَايَعْتُمْ وَ نَدَخَلْتُمْ مَدْخَلًا كَرِيْمًا (سورت نساء آیت ۳۱) ترجمہ ”جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرمادیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے۔“ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا مدینہ والوں کو معلوم ہے کہ تم لوگ کس وجہ سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر انہیں معلوم ہوتا تو میں تمہارے اوپر رکھ کر ان کو بھی یہی نصیحت کرتا۔

## قرآن کے سیکھنے سکھانے پر اجرت لینے کو ناپسند سمجھنا

حضرت عبادہ بن صامتؓ فرماتے ہیں کہ خود تو حضور ﷺ (اجتماعی کاموں میں) زیادہ مشغول رہتے تھے، اس لیے جب کوئی آدمی آپ کے پاس ہجرت کر کے آتا تو آپ اسے قرآن سکھانے کے لیے ہم میں سے کسی کے حوالے فرمادیتے چنانچہ حضور نے ایک آدمی میرے حوالے کیا وہ گھر میں میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں اسے رات کو گھر میں کھانا کھلاتا اور اسے قرآن پڑھاتا۔ وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اسے یہ خیال ہوا کہ اس پر (میرا) کچھ حق ہے، اس لیے اس

نے مجھے ایک ایسی کمان ہدیے میں دی کہ میں نے اس سے عمدہ لکڑی والی اور اس سے اچھی مڑنے والی کمان کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا (اس کمان کے بارے میں) کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم اسے گلے میں لگاؤ گے تو یہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ایک چنگاری ہوگی۔

حضرت ابی بن کعبؓ نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک سورت سکھائی اس نے حضرت ابی کو ایک کپڑا یا چادر ہدیے میں دی۔ حضرت ابیؓ نے حضور ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا اگر تم اسے لو گے تو تمہیں آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔

حضرت طفیل بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابی بن کعبؓ نے قرآن پڑھایا۔ میں نے انہیں ہدیے میں ایک کمان دی۔ وہ اس کو گلے میں لگا کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گئے۔ حضور نے فرمایا اے ابی! یہ کمان تمہیں کس نے دی؟ انہوں نے کہا حضرت طفیل بن عمروؓ نے۔ میں نے انہیں قرآن پڑھایا تھا حضور نے فرمایا تم اسے گلے میں ڈال لو لیکن ہے یہ جہنم کا ایک ٹکڑا۔ حضرت ابیؓ نے کہا یا رسول اللہ! ہم ان کا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو کھانا کسی اور کے لیے پکایا گیا ہو لیکن موقع پر تم بھی پہنچ گئے تو اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے اور جو تمہارے لیے ہی پکایا گیا ہو تو اگر تم اسے کھاؤ گے تو آخرت میں تمہارا اتنا حصہ کم ہو جائے گا۔

حضرت عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آدمی تھا جسے میں قرآن سکھاتا تھا اس نے مجھے ایک کمان ہدیے میں دی۔ میں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور نے فرمایا اے عوف! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان جہنم کی ایک چنگاری ہو۔

حضرت ثنی بن وائلؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن بسرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں نے ان کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا ان سے ایک آدمی

۱۔ اخرجہ الطبرانی والحاکم والبیہقی کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۳۱) قال الحاکم (ج ۳ ص

۲۵۶) بعد ما اخرجہ بنحوہ هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخر جاہ ووافقه الذہبی

۲۔ اخرجہ عبد بن حمید قال فی الکنز (ج ۱ ص ۲۳۱) رواہ ثقات. ۵۱. و اخرجہ ایضا ابن ماجہ

والروبانی والبیہقی وضعہ وسعید بن منصور عنہ قال علمت رجلا فاهدی الی قوسا فذکر بنحوہ

کما فی الکنز (ج ۱ ص ۲۳۰) ۳۔ اخرجہ البغوی وابن عساکر قال البغوی حدیث غریب

کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۳۱) و اخرجہ الطبرانی فی الاوسط بنحوہ وفیہ عبد ربہ بن سلیمان بن عمیر

ولم اجد من ترجمہ ولا اظنہ اندرک الطعیل قالہ الہیثمی (ج ۳ ص ۹۵)

۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۳۲) و ذکرہ الہیثمی فی المجمع (ج ۳ ص

۹۶) عنہ فیہ اطول منہ وقال وفیہ محمد بن اسماعیل بن عیاش وهو ضعیف. انتہی

نے (قرآن) سکھانے والے کی تنخواہ کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا حضور ﷺ کے پاس ایک آدمی اندر آیا جس نے اپنے کندھے پر کمان ڈالی ہوئی تھی وہ کمان حضور کو بہت پسند آئی۔ حضور نے فرمایا تمہاری کمان بہت عمدہ ہے کیا تم نے یہ خریدی ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میں نے ایک آدمی کے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا اس نے مجھے یہ ہدیہ میں دی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ آگ کی کمان تمہارے گلے میں ڈالے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا تو پھر اسے واپس کر دو۔

حضرت اسیر بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ کو خبر ملی کہ حضرت سعدؓ نے کہا ہے کہ جو قرآن سارا پڑھ لے گا اسے میں دو ہزار وظیفہ لینے والوں میں شامل کر دوں گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اوہ! کیا اللہ کی کتاب پر وظیفہ دیا جائے گا۔

حضرت سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا کہ لوگوں کو قرآن سیکھنے پر کچھ وظیفہ دو اس طرح تو وہ بھی قرآن سیکھنے لگے گا جو صرف وظیفہ کے رجسٹر میں اندراج کروانا چاہتا ہو اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں لکھا کہ اچھا لوگوں کو (حضور ﷺ کی) صحبت اور (حضور کی) دوستی کی بنیاد پر دو۔

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا اے علم اور قرآن والو! علم اور قرآن پر قیمت مت لو ورنہ زنا کار لوگ تم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ (چونکہ دوسری احادیث میں قرآن پڑھانے پر اجرت لینے کی اجازت بھی آئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اجرت نہ لے اور اگر لے تو پڑھانے میں جو وقت خرچ ہوا ہے اجرت کو اس کا بدل سمجھو، پڑھانے کے عمل کا بدل نہ سمجھو۔)

## لوگوں میں قرآن کے بہت زیادہ پھیل

### جانے کے وقت اختلاف پیدا ہونے کا ڈر

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطابؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کوفہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے اتنا اتنا قرآن پڑھ لیا۔ یہ پڑھ کر (خوشی کی وجہ سے) حضرت عمرؓ نے اللہ اکبر کہا اللہ ان پر رحم فرمائے

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۳ ص ۹۶) لمثنی وولده ذکر ہما ابن ابی حاتم ولم یخرج واحد منهما بقیة رجالہ نقات ۲۔ اخرجہ ابو عبیدہ وغیرہ کذافی الکنز (ج ۱ ص ۲۲۸)

۳۔ اخرجہ ابو عبیدہ کذافی الکنز (ج ۱ ص ۲۲۹)

۴۔ اخرجہ الخطیب فی الجامع کذافی الکنز (ج ۱ ص ۲۲۹)



میں نے کہا ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا اوہو! تمہیں یہ کہاں سے پتہ چل گیا؟ اور حضرت عمرؓ کو غصہ آ گیا تو میں اپنے گھر چلا گیا اس کے بعد انہوں نے میرے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ میں نے انہیں کوئی عذر کر دیا پھر انہوں نے یہ کہلا کر بھیجا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تمہیں ضرور آنا ہوگا، چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے فرمایا تم نے کوئی بات کہی تھی؟ میں نے کہا استغفر اللہ! اب وہ بات دوبارہ نہیں کہوں گا۔ فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم نے جو بات کہی تھی وہ دوبارہ کہنی ہوگی۔ میں نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس خط میں یہ لکھا ہوا آیا ہے کہ کوفہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے اتنا اتنا قرآن پڑھ لیا ہے اس پر میں نے کہا تھا کہ ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تمہیں یہ کہاں سے پتہ چلا؟ میں نے کہا میں نے یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ سَلَىٰ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسٰدَ تک پڑھی (سورت بقرہ ۲۰۴-۲۰۵) ترجمہ ”اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیوی غرض سے ہوتی ہے مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور وہ اللہ کو حاضر و ناظر بتاتا ہے اپنے مافی الضمیر پر حالانکہ وہ (آپ کی مخالفت میں) نہایت شدید ہے اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کر دے اور (کسی کے) کھیت یا مویشی کو تلف کر دے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔“ جب لوگ اس طرح کریں گے تو قرآن والا صبر نہیں کر سکے گا پھر میں نے یہ آیت پڑھی وَاذْقَبَلْ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلِنَسِ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (سورت بقرہ آیت ۲۰۶-۲۰۷) ترجمہ ”اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر تو نخوت اس کو اس گناہ پر (دونا) آمادہ کر دیتی ہے سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہیں۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تم نے ٹھیک کہا۔!

حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیرؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایک دفعہ میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا حضرت عمرؓ نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ قرآن لوگوں میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے میں نے کہا اے امیر المؤمنین! مجھے تو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ نے میرے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ کر فرمایا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب سب لوگ قرآن پڑھیں گے (اور صحیح مطلب سمجھنے کی استعداد نہیں ہوگی) تو اپنے طور سے معنی اور مطلب تلاش کرنے لگیں گے اور جب معنی و مطلب تلاش کرنے لگیں گے تو ان میں

اختلاف ہو جائے گا اور جب ان میں اختلاف ہو جائے گا تو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے مجھے چھوڑ دیا اور الگ بیٹھ گئے۔ بس وہ دن میں نے جس پریشانی میں گزارا یہ اللہ ہی جانتا ہے پھر ظہر کے وقت ان کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے کہا امیر المؤمنین بلا رہے ہیں چلو۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا تم نے کیا بات کہی تھی؟ میں نے اپنی ساری بات دہرا دی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا (سمجھتا تو میں بھی اسے تھا لیکن) میں لوگوں سے یہ بات چھپاتا تھا۔

## قرآن کے قاریوں کو نبی کریم ﷺ کے صحابہ کی نصیحتیں

حضرت کنانہ عدویؓ کہتے ہیں کہ ملک شام میں مسلمانوں کے جو لشکر تھے ان کے امراء کو حضرت عمر بن خطابؓ نے خط میں یہ لکھا کہ قرآن کے تمام حافظوں کی فہرست میرے پاس بھیج دو تاکہ میں ان کا وظیفہ بڑھاؤں اور انہیں اطراف عالم میں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیج دوں۔ اس پر حضرت (ابوموسیٰ) اشعریؓ نے لکھا کہ ہمارے ہاں حافظوں کی تعداد تین سو سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جواب میں حضرت عمرؓ نے ان حافظوں کو یہ نصیحتیں لکھیں:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے حضرت عبداللہ بن قیس (ابوموسیٰ اشعری) اور ان کے ساتھ جتنے حافظ قرآن ہیں ان سب کے نام ہے۔ سلام علیکم! اما بعد! یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر، سبب شرف و عزت اور (آخرت میں کام آنے والا) ذخیرہ ہے، اس لیے تم اس کے پیچھے چلو (اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس پر عمل کرو) قرآن تمہارے پیچھے نہ چلے (یعنی قرآن کو اپنی خواہشات کے تابع نہ بناؤ) کیونکہ قرآن جس کے پیچھے چلے گا تو قرآن اسے گدی کے بل گرا دے گا۔ پھر اسے آگ میں پھینک دے گا اور جو قرآن کے پیچھے چلے گا قرآن اسے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ تم اس بات کی پوری کوشش کرو کہ قرآن تمہارا سفارشی بنے اور تم سے جھگڑا نہ کرے کیونکہ قرآن جس کی سفارش کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس سے قرآن جھگڑا کرے گا وہ آگ میں داخل ہوگا اور یہ جان لو کہ قرآن ہدایت کا چشمہ اور علم کی رونق ہے اور یہ رحمن کے پاس سے آنے والی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھولتے ہیں اور جان لو کہ بندہ جب رات کو کھڑا ہوتا ہے اور مسواک کر کے وضو کرتا ہے پھر تکبیر کہہ کر (نماز میں) قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہتا ہے اور پڑھ۔ اور پڑھ۔ تم خود پاکیزہ ہو قرآن تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور اگر وہ وضو کرے لیکن مسواک نہ کرے تو فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے

اور اسی تک محدود رہتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کرتا۔ غور سے سنو! نماز کے ساتھ قرآن کا پڑھنا محفوظ خزانہ اور اللہ کا مقرر کردہ بہترین عمل ہے، لہذا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ نماز نور ہے اور زکوٰۃ دلیل ہے اور صبر روشن اور چمکدار عمل ہے اور روزہ ڈھال ہے اور قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف، لہذا قرآن کا اکرام کرو اور اس کی توہین نہ کرو کیونکہ جو قرآن کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا اور جو اس کی توہین کرے گا اللہ اس کی توہین کرے گا اور جان لو کہ جو قرآن پڑھے گا اور اسے یاد کرے گا اور اس پر عمل کرے گا اور جو اس میں ہے اس کا اتباع کرے گا تو اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو اس کی دعا دنیا میں پوری کر دے گا ورنہ وہ دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوگی اور جان لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے جو ایمان والے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔“

حضرت ابو کنانہؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے قرآن کے حافظوں کو جمع کیا۔ ان کی تعداد تقریباً تین سو تھی پھر حضرت ابو موسیٰؓ نے قرآن کی عظمت بیان کی اور فرمایا یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بوجھ اور وبال بن جائے، لہذا تم قرآن کا اتباع کرو (اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس پر عمل کرو) قرآن کو اپنے تابع نہ کرو کیونکہ جو قرآن کے تابع ہوگا اسے قرآن جنت کے باغوں میں لے جائے گا اور جو قرآن کو اپنے تابع کرے گا تو قرآن اسے گدی کے بل گرا کر آگ میں پھینک دے گا۔ حضرت ابو اسود دلیؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے قرآن کے حافظوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے پاس اندر صرف قرآن کے حافظوں کو ہی لاؤ، چنانچہ ہم تقریباً تین سو حافظان کی خدمت میں اندر گئے پھر انہوں نے ہمیں نصیحت کی اور فرمایا تم لوگ شہر والوں کے حافظ ہو۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ لمبی مدت گزر جانے پر تمہارے دلوں میں سختی آجائے جیسے کہ اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے تھے پھر فرمایا ایک سورت نازل ہوئی تھی جو سورت براءت جتنی لمبی تھی اور سورت براءت کی طرح اس میں سختی اور ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ اس وجہ سے ہم کہتے تھے کہ یہ سورت براءت کے مشابہ ہے۔ اس کی ایک آیت مجھے یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرنے لگے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف (قبر کی) مٹی ہی بھر سکتی ہے اور ایک اور سورت بھی نازل ہوئی تھی جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ سورت مسجات کے مشابہ ہے کیونکہ وہ بھی سبح لله سے شروع ہوتی تھی۔ اس کی ایک آیت مجھے یاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمُتَّقُونَ

۱۔ أخرجه ابن زنجويه كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۱۷)

۲۔ أخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۵۷)

مَا لَا تَفْعَلُونَ (سورت صف آیت ۲) ترجمہ ”اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو“ ہر بات گواہی بنا کر تمہاری گردنوں میں ڈالی جائے گی پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا ہوگی۔

حضرت ابن مسعودؓ کے پاس کوفہ کے کچھ لوگ آئے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے انہیں سلام کیا اور انہیں اس بات کی تاکید کی کہ وہ اللہ سے ڈریں اور قرآن کے بارے میں آپس میں جھگڑانہ کریں کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے اور نہ اسے چھوڑا جاسکتا ہے نہ اسے زیادہ پڑھنے سے دل اکتاتا ہے اور کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ شریعت اسلام کے حدود، فرائض اور اوامر سب ایک ہی ہیں۔ اگر قرآن میں ایک جگہ کسی کام کا حکم ہوتا اور دوسری جگہ اس کی ممانعت ہوتی تو پھر تو قرآن میں اختلاف ہوتا۔ قرآن میں تمام مضامین ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں میں علم اور دین کی سمجھ اور لوگوں سے زیادہ ہے اور اگر مجھے کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حضرت محمد ﷺ پر نازل ہونے والے علوم کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اونٹ مجھے اس تک پہنچا سکتے ہیں تو میں (اس سے علم حاصل کرنے کے لیے) ضرور اس کے پاس جاتا تا کہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ حضورؐ پر ہر سال قرآن ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا اور جس سال آپؐ کا انتقال ہوا اس سال آپؐ پر دو مرتبہ پیش کیا گیا تھا (رمضان میں حضرت جبرائیلؑ حضورؐ کو سارا قرآن سناتے تھے اور حضورؐ حضرت جبرائیلؑ کو) اور میں جب بھی حضورؐ کو قرآن پڑھ کر سناتا تو حضورؐ ہمیشہ فرماتے کہ میں نے قرآن بہت اچھا پڑھا ہے، لہذا جو میری طرح قرآن پڑھتا ہے وہ میری طرح پڑھتا رہے اور اسے غلط سمجھ کر چھوڑے نہیں۔ اور حضورؐ سے اور بھی کئی طرح قرآن پڑھنا ثابت ہے جو ان میں سے کسی ایک طرح قرآن پڑھتا ہو وہ اسے نہ چھوڑے کیونکہ جو ان میں سے کسی ایک طرح کا انکار کرے گا وہ باقی تمام کا انکار کرنے والا شمار ہوگا۔

حضرت عبداللہؓ کے ساتھیوں میں سے ہمدان کے رہنے والے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہؓ کا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں میں دین، دینی سمجھ اور قرآن کا علم مسلمانوں کے باقی تمام لشکروں سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں اور نہ یہ زیادہ پڑھنے سے پرانا ہوتا ہے اور نہ اس کی عظمت دل میں کم ہوتی ہے۔

۱۔ عند ابی نعیم ایضا ۲۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۳۲)

۳۔ اخرجه الامام احمد (ج ۱ ص ۳۰۵) و اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۱۵۳) یوفیه من لم

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ قرآن کے حافظ میں مندرجہ ذیل نشانیاں ہونی چاہیں جن سے وہ پہچانا جائے (اس زمانے میں قرآن کا ہر حافظ قرآن کا عالم بھی ہوتا تھا) رات کو لوگ جب سو رہے ہوں تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ دن کو لوگ بغیر روزہ کے ہوں تو وہ روزہ دار ہو اور جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو وہ (امت کے غم میں) غمگین ہو اور جب لوگ ہنس رہے ہوں تو وہ (اللہ کے سامنے) رورہا ہو اور جب لوگ آپس میں مل کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں تو وہ خاموش ہو اور جب لوگ اکڑ رہے ہوں تو وہ عاجز اور مسکین بنا ہوا ہو۔ اور اسی طرح حافظ قرآن کو رونے والا، غمگین، حکمت والا، بردبار، علم والا اور خاموش رہنے والا ہونا چاہئے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ تم سننے والے (یعنی سنانے سے زیادہ اچھے لوگوں کی سنا کرو) اور جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو! تو اپنے کان اس کے حوالے کرو (یعنی پورے غور سے اسے سنو) کیونکہ اللہ تعالیٰ خیر کے کام کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی برے کام سے روک رہے ہوں گے۔ ۲

## حضور ﷺ کی احادیث میں مشغول ہونا احادیث میں

### مشغول ہونے والے کو کیا کرنا چاہیے؟

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ایک مجلس میں لوگوں سے بات فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی نے آکر کہا قیامت کب ہوگی؟ حضورؐ نے اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ (بات فرماتے رہے) کیونکہ حدیث کے درس کا ادب یہ ہے کہ بیچ میں سوال نہ کرنا چاہئے اور نہ جواب دینا چاہئے (بعض لوگوں نے کہا حضورؐ نے اس کی بات تو سن لی ہے لیکن حضورؐ کو پسند نہیں آئی ہے اور بعض لوگوں نے کہا حضورؐ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپؐ نے بات پوری فرمائی تو فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس دیہاتی نے پوچھا امانت کا ضائع کرنا کس طرح ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا جب کام ناپاہل کے سپرد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ ۳

حضرت وابصہؓ رقبہ شہر کی سب سے بڑی مسجد میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے جب حضور ﷺ نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطبہ دیا تھا اس وقت میں بھی وہاں موجود

تھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو! کونسا مہینہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے؟ لوگوں نے کہا یہی (حج والا مہینہ) پھر آپ نے فرمایا کونسا شہر سب سے زیادہ قابل احترام ہے؟ لوگوں نے کہا یہی (مکہ شہر) پھر آپ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے کہ تمہارا یہ (حج کا) دن، تمہارا یہ (حج والا) مہینہ اور تمہارا یہ شہر (مکہ مکرمہ) قابل احترام ہے اور یہ اس دن تک قابل احترام ہیں جس دن تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ کیا میں نے (اللہ کا پیغام سارا) پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اللہ! تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا اے لوگو! تم میں سے جو یہاں موجود ہے وہ غائبین تک پہنچائے (اس کے بعد حضرت وابصہؓ نے کہا اے لوگو!) تم بھی میرے قریب آ جاؤ تاکہ ہم (حضور کا دین) تم تک پہنچائیں جیسا کہ حضور نے ہم سے فرمایا تھا۔

حضرت مخولؓ کہتے ہیں کہ تمہیں میں میں، حضرت ابن ابی زکریا اور حضرت سلیمان بن ابی حسیب، ہم تینوں حضرت ابوامامہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا تمہارا یہ (ہمارے ساتھ) بیٹھنا اللہ کی طرف سے تم تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی تم پر رحمت ہے اور حضور ﷺ نے خود (اللہ کا دین) پہنچایا، لہذا تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ۲ ایک روایت میں حضرت سلیم بن عامرؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابوامامہؓ کے پاس بیٹھا کرتے وہ ہمیں حضور ﷺ کی طرف سے بہت سی حدیثیں سنایا کرتے۔ جب خاموش ہونے لگتے تو فرماتے کیا تم لوگ سمجھ گئے؟ جیسے تم تک یہ حدیثیں پہنچائی گئی ہیں ایسے ہی تم بھی آگے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ۳

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے اللہ! میرے خلفاء و نائبین پر رحم فرما۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے خلفاء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث کی روایت کریں گے اور لوگوں کو حدیثیں سکھائیں گے۔ ۴

حضرت عاصم بن محمدؓ اپنے والد حضرت محمدؐ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن باہر تشریف لاتے اور منبر کے دو مٹھوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ہمیں ابو القاسم رسول اللہ الصادق المصدوق ﷺ نے یہ حدیث بیان کی اور پھر مسلسل احادیث بیان کرتے رہتے۔ جب امام کے نماز کے لیے باہر آنے پر حجرہ کے دروازے کے کھلنے کی آواز

۱۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۳۹) اور جالہ موقوفون.

۲۔ اخرجہ الطبرانی ۳۔ قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۳۰) ورواہما الطبرانی فی الکبیر وامناد ہما

حسن ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط کنذالی الترغیب (ج ۱ ص ۷۴) و اخرجہ ایضا ابن

النجار والخطیب فی شرف اصحاب الحدیث وغیر ہما کمالی الکنز (ج ۵ ص ۲۴۰)

سننے تو پھر بیٹھتے۔

حضرت اسلم کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمرؓ کی خدمت میں عرض کیا کرتے کہ آپ ہمیں حضور ﷺ کی طرف سے حدیث بیان فرمادیں تو وہ فرماتے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں کہیں کوئی حرف گھٹایا بڑھانہ دوں اور حضورؐ نے فرمایا ہے جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ آگ میں جائے گا۔

حضرت عبدالرحمن بن حاطب کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے کسی صحابی کو حضرت عثمانؓ سے زیادہ مکمل اور زیادہ عمدہ طریقہ سے حدیث بیان کرنے والا نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ حدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت عثمانؓ فرماتے تھے کہ حضور ﷺ کی طرف سے حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے صحابہ میں (آپ کی حدیثوں کا) سب سے زیادہ حافظ نہیں ہوں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو میرے بارے میں ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنالے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو میرے بارے میں جھوٹی بات کہے تو وہ اپنا گھر آگ میں بنالے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب تمہیں حضور ﷺ کی طرف سے حدیث بیان کرتا ہوں تو (کمال احتیاط کی وجہ سے) میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ آسمان سے زمین پر گر جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے کہ میں حضورؐ کی طرف سے ایسی بات کہہ دوں جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور جب میں تم سے آپس کے معاملات کے بارے میں بات کرتا ہوں تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی (اور اس میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی) کیونکہ انسانوں سے جنگ تو تدبیر و حکمت اور داؤ سے ہی جیتی جاسکتی ہے۔

حضرت عمرو بن مہمون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ پورا سال گزر جاتا لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی طرف سے کوئی حدیث بیان نہ کرتے، چنانچہ ایک سال ایسا ہی گزرا اس کے بعد ایک حدیث بیان کی تو ایک دم پریشان ہو گئے اور پیشانی پر پسینہ بہنے لگا اور

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۱۲) قال الحاکم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخبرنا ووافقه

الذہبی ۲۔ اخرجہ احمد وابن عدی والعقيلي وابو نعیم فی المعرفة کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۹)

۳۔ اخرجہ ابن سعد وابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۹)

۴۔ عند احمد و ابی یعلی والبخاری قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۳) هو حديث رجاله رجال الصحيح

والطریق الاول فیہا عبدالرحمن بن ابی الزناد و هو ضعيف وقد وثق . انتهى

۵۔ اخرجہ الشیخان وغيرهما کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۴۰)

فرمانے لگے یہی الفاظ حضورؐ نے فرمائے تھے یا ان جیسے یا ان کے قریب الفاظ تھے۔ ۱۔  
حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہؓ ایک دن حدیث بیان کرنے لگے اور  
فرمایا میں نے حضورؐ کو فرماتے ہوئے سنا (پھر حدیث بیان کی) تو کانپنے لگے اور کپکپی کی وجہ  
سے کپڑے ہٹنے لگے اور فرمایا حضورؐ نے یہی الفاظ فرمائے تھے یا ان جیسے یا ان کے مشابہ الفاظ  
تھے۔ ۲۔

حضرت ابو اور لیس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالدرداء رضی  
اللہ عنہ جب حضورؐ کی طرف سے حدیث بیان کرنے سے فارغ ہو چھٹے تو فرماتے کہ حضورؐ  
نے یا تو یہی الفاظ فرمائے تھے یا ان جیسے یا ان سے ملتے جلتے الفاظ تھے۔ ۳۔ ابن عبد البر کی روایت  
میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ! اگر یہ الفاظ نہیں ہیں تو ان جیسے الفاظ تھے۔ ۴۔

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ  
حضورؐ کی طرف سے حدیث بیان کر لیتے تو فرمایا کرتے کہ یا تو حضورؐ نے یہی الفاظ فرمائے  
تھے یا پھر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا۔ ۵۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ  
حضورؐ کی طرف سے بہت کم حدیث بیان کیا کرتے اور جب بیان کرتے۔ آگے بچھلی حدیث  
جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۶۔

حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضورؐ کے کوئی صحابی حضورؐ سے حدیث  
سن کر اس کے بیان کرنے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے زیادہ احتیاط برتنے والا نہیں تھا۔ یہ حدیث  
کے الفاظ نہ بڑھاتے تھے اور نہ گھٹاتے تھے اور نہ ان میں کچھ تبدیلی کرتے تھے۔ بے حضرت شعبی  
رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک سال تک حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ میری نشست رہی۔ میں نے انہیں  
اس عرصہ میں حضورؐ کی طرف سے ایک بھی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ۷۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے حضورؐ سے بہت سی حدیثیں سنی ہیں

- 
- ۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۱۳) قال الحاکم هذا مرث صحيح على شرط الشيخين ونم يخرجه  
جاه و الفقه الذہبی ۲۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۷۹) و اخرجہ ابن سعد  
(ج ۳ ص ۱۵۶) عن عمرو بمعناه وعن مسروق نحوه
  - ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ ثقات کذا فی مجمع الزوائد (ج ۱ ص ۱۲۱) و اخرجہ ابن  
عبدالبر فی الجامع (ج ۱ ص ۷۸) عن ربيعة ابن زيدان ابالدرداء رضی اللہ عنہ کان فذکر نحوه.
  - ۴۔ و اخرجہ ابو یعلیٰ و الرویانی و ابن عساکر عن ابی الدرداء نحوه کما فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۳)
  - ۵۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۷۹)
  - ۶۔ اخرجہ ایضا احمد و ابو یعلیٰ و الحاکم کما فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۰)
  - ۷۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۲۲) ۸۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ۱۳۵)



جو مجھے یاد بھی ہیں لیکن میں انہیں صرف اس وجہ سے بیان نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کے صحابہ ان حدیثوں میں میری مخالفت کریں گے۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے فرمایا اے مطرف! (مجھے بہت زیادہ حدیثیں یاد ہیں) اللہ کی قسم! مجھے اس کا یقین ہے کہ اگر میں چاہوں تو دودن مسلسل حضور کریم ﷺ کی طرف سے حدیثیں اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ کوئی حدیث دودفعہ بیان نہ ہو لیکن مجھے زیادہ حدیثیں بیان کرنا پسند بھی نہیں اور میں زیادہ بیان بھی نہیں کرتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ کے بعض صحابہ بھی اسی طرح (حضور کی مجلس میں) حاضر ہوا کرتے تھے جس طرح میں حاضر ہوا کرتا تھا اور انہوں نے بھی (حضور سے) اسی طرح سنا جس طرح میں نے سنا لیکن وہ کچھ حدیثیں ایسی بیان کرتے ہیں جن کے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، چنانچہ حضرت عمرانؓ بعض دفعہ تو یوں فرماتے کہ اگر آپ لوگوں کو میں یہ حدیث بیان کروں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میں ان الفاظ میں بالکل سچا ہوں گا اور کبھی پورے وثوق سے کہتے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔

حضرت سلیمان بن ابی عبد اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی قسم! میں جان بوجھ کر آپ لوگوں کو حدیثیں نہیں سناتا اور یوں نہیں کہتا کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے ہاں اگر آپ لوگ کہیں تو میں حضور کے غزوات میں شریک ہوا ہوں اور ان میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ سنانے کو تیار ہوں لیکن یوں کہوں کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے اس کے لئے تیار نہیں ہوں۔ ۳۔

حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضرت ابوالازہر دونوں حضرت واہلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ابوالاسقع! ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور سے سنی ہو جس میں نہ تو وہم ہو نہ کمی زیادتی ہو انہوں نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے آج رات کچھ قرآن پڑھا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں لیکن ہمیں قرآن اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ الف یا واو کی زیادتی ہو جاتی ہے تو فرمایا یہ قرآن کتنے عرصہ سے تمہارے درمیان ہے اور تم لوگ اب تک اسے اچھی طرح یاد نہیں کر سکتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم لوگوں سے قرآن میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر تمہارا ان حدیثوں کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں ہم نے حضور سے سنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نے حضور سے وہ حدیث ایک دفعہ ہی سنی ہو، اس لئے حضور والے الفاظ

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی ورجالہ موثقون۔

۲۔ عند احمد قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۱) وفيہ ابو ہارون الغنوی لم ار من ترجمہ

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۲۹) و ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۰۳)

بعینہ بیان کرنا تو ہمارے لئے بہت مشکل ہے، البتہ ان کا معنی اور مطلب ہم بیان کر سکتے ہیں تم اسی کو کافی سمجھو۔

حضرت ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے حضور ﷺ کے جن صحابہؓ کے پاس آدمی بھیج کر انہیں اطراف عالم سے (مدینہ منورہ میں) جمع کیا وہ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ، حضرت ابوالدرداء، حضرت ابوذر اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم جب یہ حضرات آگئے تو ان سے حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ لوگوں نے اطراف عالم میں حضورؐ کی طرف سے یہ کیا حدیثیں پھیلا دی ہیں؟ انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں (حدیثیں بیان کرنے سے) روکنا چاہتے ہیں؟ آپؓ نے فرمایا نہیں بلکہ آپ لوگ میرے پاس رہیں۔ اللہ کی قسم! جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے (یہاں رہ کر حدیثیں بیان کریں) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی حدیثیں خوب جانتے ہیں، اس لئے آپ لوگوں کی حدیثوں کو دیکھیں گے کہ کونسی لٹنی چاہئے اور کونسی چھوڑنی چاہئے۔ چنانچہ یہ حضرات حضرت عمرؓ کے انتقال تک ان کے پاس ہی (مدینہ منورہ میں) رہے۔ ان سے جدا نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود، حضرت ابو مسعود انصاری اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم کے پاس پیغام بھیج کر انہیں بلایا اور ان سے فرمایا آپ لوگ حضورؐ کی طرف سے حدیثیں کثرت سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پھر شہید ہونے تک حضرت عمرؓ نے انہیں (وہیں مدینہ میں) روک رکھا۔ ۳

حضرت ابن ابی اوفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم لوگ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے کہ ہمیں حضورؐ کی طرف سے حدیث بیان فرمادیں وہ فرماتے اب ہم زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھولنے لگ گئے ہیں اور حضورؐ کی طرف سے حدیث بیان کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے (اگر اس میں غلطی ہوگی تو سخت پکڑ ہوگی) ۴

## علم کے اہتمام سے زیادہ عمل کا اہتمام ہونا چاہئے

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضورؐ نے فرمایا تم جو چاہے سیکھو لیکن اللہ کی طرف سے فائدہ تب ہی ہوگا جب تم سیکھے ہوئے پر عمل کرو گے۔ ۵ حضرت انس رضی اللہ عنہ

۱۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۷۹) ۲۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۹) ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی ہذا التر منقطع و ابراہیم ولد سنۃ عشرين ولم یدرک من حیاة عمر الا ثلاث سنین انتہی و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۳) عن ابراہیم نحوہ و ذکر اباذر بدل ابی مسعود ۴۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۹) ۵۔ اخرجہ ابن عدی والخطیب

فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا تم جتنا چاہے علم حاصل کر لو تمہیں علم حاصل کرنے کا ثواب تب ملے گا جب اس پر عمل کرو گے۔ ۱۔ حضرت عبدالرحمن بن غنم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضورؐ کے دس صحابہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہم مسجد قبا میں علم سیکھ سکھا رہے تھے کہ اتنے میں حضورؐ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم جتنا چاہے علم حاصل کر لو۔ اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۲۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ! کون سی چیز میری جہالت کی حجت کو ختم کرے گی؟ آپؐ نے فرمایا علم۔ پھر اس نے پوچھا کون سی چیز علم کی حجت کو ختم کرے گی؟ آپؐ نے فرمایا عمل۔ ۳۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی کتاب (قرآن) سیکھو۔ اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہوگی اور اس پر عمل کرو اس سے تم اللہ کی کتاب والے ہو جاؤ گے۔ ۴۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم حاصل کرو اس سے تمہاری پہچان ہوگی اور جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو اس سے تم علم والے ہو جاؤ گے کیونکہ تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا جس میں حق کے دس حصوں میں سے نو کا انکار کر دیا جائے گا اور اس زمانے میں صرف وہ نجات پاسکے گا جو گنہگار اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنے والا ہوگا۔ یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہوں گے۔ یہ لوگ جلد باز، بری بات پھیلانے والے اور باتونی نہیں ہوں گے۔ ۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حاملین علم! (اے علماء!) علم پر عمل کرو کیونکہ عالم وہ ہے جو علم حاصل کرے پھر اس پر عمل کرے اور اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو۔ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو علم حاصل کریں گے لیکن ان کا علم ان کی ہنسی کی ہڈی سے آگے نہیں جائے گا (اور اللہ کے ہاں نہیں پہنچے گا) ان کا باطن ظاہر کے خلاف ہوگا اور ان کا عمل ان کے علم کے خلاف ہوگا وہ اپنے اپنے حلقے میں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور ان کے حلقے میں بیٹھنے والا انہیں چھوڑ کر دوسرے کے پاس آکر بیٹھے گا تو یہ اس پر ناراض ہوں گے۔ ان کی مجلسوں میں ان کے جو اعمال ہوں گے وہ اللہ کی طرف اوپر نہیں جائیں گے۔ ۶۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! علم حاصل کرو اور آدمی جو علم حاصل

۱۔ عند ابی الحسن بن الاحزم المدینی فی امالیہ کذا فی الجامع الصغیر

۲۔ ذکرہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۶) ۳۔ اخرجہ الخطیب فی الجامع وفیہ عبداللہ بن

خراش و هو ضعیف کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۲۲۹) ۴۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الکنز

(ج ۵ ص ۲۲۹) ۵۔ اخرجہ احمد فی الزهد و ابو عیید والذینوری فی الغریب و ابن عساکر

کذا فی الکنز (ج ۵ ص ۲۲۹) ۶۔ ذکرہ ابن عبدالبر (ج ۲ ص ۷) و اخرجہ المدارق فی

الجامع و ابن عساکر والزسی عن علی مثله کما فی الکنز (ج ۵ ص ۲۲۳)

کرے اس پر عمل بھی کرے۔ حضرت عبداللہ بن علیؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سنا کہ انہوں نے گفتگو سے پہلے قسم کھا کر فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے تنہائی میں اکیلے ملے گا جیسے کہ تم میں سے ہر ایک چودھویں کا چاند تنہائی میں الگ دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم! تجھے کس چیز نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ (کہ میری نافرمانی کرتا رہا) اے ابن آدم! تو نے رسولوں کو (ان کی دعوت کا) کیا جواب دیا؟ اے ابن آدم! تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ حضرت عدی بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو علم حاصل نہ کرے اس کے لئے ایک مرتبہ ہلاکت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسے علم عطا فرما دیتے اور جو علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے اس کے لئے سات مرتبہ ہلاکت ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا باتیں تو تمام لوگ بہت اچھی کرتے ہیں لیکن جس کا عمل اس کے قول کے مطابق ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور جس کا فعل قول کے خلاف ہوگا وہ (قیامت کے دن) اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو (لوگوں سے مستغنی ہو کر) اللہ (کے کام) میں مشغول ہو جائے گا تمام لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے اور جو اس علم پر عمل کرے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے تو تمام لوگ اس علم کے محتاج ہو جائیں گے جو اس کے پاس ہے۔

حضرت لقمان بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں اپنے رب سے اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے تمام مخلوق کے سامنے بلا کر فرمائے اے عویر! میں کہوں لیکن اے میرے رب! پھر وہ فرمائے تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا تھا؟ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈراں اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن مجھے یہ کہا جائے اے عویر! کیا تم نے علم حاصل کیا تھا یا جاہل ہی رہے تھے؟ اگر میں کہوں گا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو نیک کام کا حکم دینے والی ہر آیت اور برے کام سے روکنے والی ہر آیت اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ حکم دینے والی آیت کہے گی کیا تو نے میرا حکم مانا

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۳) رجالہ موثقون الا ان اباعبیدۃ لم یسمع من ابیہ۔

انتہی و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۱) عن علقمۃ عن عبداللہ نحوہ۔

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ و اخرجہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۱ ص ۲) عن عبداللہ بن عکیم

عن ابن مسعود نحو ما تقدم ۳۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۶)

۴۔ عند ابن عبدالبر ایضا (ج ۲ ص ۱۰) و اخرج ابن عساکر ایضا الحدیث الاول مثله کما فی

الکفر (ج ۵ ص ۲۳۳) ۵۔ اخرجہ البیهقی کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۹۰) و اخرجہ

ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۲) عن لقمان نحوہ ۵۔ عند ابی نعیم ایضا

تھا؟ اور روکنے والی آیت کہے گی کیا تو اس برے کام سے رک گیا تھا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک علم حاصل نہ کرے اور علم کے ذریعہ سے حسن و جمال تب حاصل ہو سکتا ہے جب اس پر عمل کرے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برے مرتبے والا وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا ہو (یعنی اس پر عمل نہ کیا ہو)۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے چار باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا؟ اپنی عمر کہاں لگائی؟ اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم علم تو جو چاہے سیکھ لو لیکن اللہ تمہیں علم پر اجر تب دیں گے جب تم اس پر عمل کرو گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم علم تو جو چاہے سیکھ لو لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں علم پر اجر تب دیں گے جب تم اس پر عمل کرو گے۔ علماء کا اصل مقصد تو علم کی حفاظت کرنا ہے (کہ اسے یاد رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے) اور نادان لوگوں کا مقصد تو خالی آگے بیان کر دینا ہے۔

## سنت کا اتباع اور سلف صالحین کی اقتداء اور

### دین میں اپنی طرف سے ایجاد کردہ کام پر انکار

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ (اللہ والے) صحیح راستہ اور سنت کو لازم پکڑ لو کیونکہ روئے زمین پر جو بندہ بھی صحیح راستہ پر اور سنت پر ہوگا پھر وہ اللہ کا ذکر کرے گا اور اس کے ڈر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آجائیں گے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہیں دیں گے اور روئے زمین پر جو بندہ بھی صحیح راستہ اور سنت پر ہوگا پھر وہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے گا اور اللہ کے ڈر سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو اس کی مثال اس درخت جیسی ہو جائے گی جس کے پتے سوکھ گئے ہوں اور تیز ہوا چلنے سے اس کے پتے بہت زیادہ گرنے لگیں تو ایسے ہی اس کے

۱۔ عند ابی نعیم ایضا ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۳) و عندہ ایضا (ج ۱ ص

۲۱۱) عنہ مثل قول ابن مسعود من طریق عدی ۳۔ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۲۲۳)

۴۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۳) ۵۔ عند ابن عبدالبر ایضا (ج ۲ ص ۶)

و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۶) عن معاذ مثله

۶۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۶)

گناہوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گرانے لگ جائیں گے اور اللہ کے راستے اور سنت پر درمیانی رفتار سے چلنا اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے راستے کے خلاف اور سنت کے خلاف بہت زیادہ محنت کرے، اس لئے تم دیکھ لو چاہے تم زیادہ محنت کرو چاہے درمیانی رفتار سے چلو لیکن تمہارا ہر عمل انبیاء علیہم السلام کے طریقے اور سنت کے مطابق ہونا چاہئے۔!

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو بیان کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو! تمہارے لئے سنتیں جاری ہو چکی ہیں اور فرائض مقرر ہو چکے ہیں اور تمہیں ایک صاف اور واضح راستہ دے دیا گیا ہے۔ اب تم لوگ ہی اس راستے میں دائیں بائیں ہٹ کر لوگوں کو گمراہ کر دو تو یہ الگ بات ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کے دن کھڑے ہو کر فرماتے اصل چیزیں دو ہیں۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور دوسرا کلام۔ سب سے افضل اور سب سے زیادہ سچا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور سب سے عمدہ طریقہ حضرت محمد ﷺ کا ہے اور تمام کاموں میں سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کئے جائیں اور ہر نیا کام (جو قرآن و حدیث سے نہ نکالا گیا ہو وہ) بدعت ہے۔ غور سے سنو! ایسا نہ ہو کہ مدت لمبی ہو جائے اور اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں اور لمبی امیدیں تمہیں (آخرت سے) غافل کر دیں کیونکہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے اور جو آنے والی نہیں ہے وہ دور ہے۔<sup>۳</sup>

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت پر میانہ روی سے چلنا بدعت پر زیادہ محنت کرنے سے اچھا ہے۔<sup>۴</sup>

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے فرمایا قرآن بھی نازل ہوا اور حضور ﷺ نے بھی سنتیں مقرر فرمائیں پھر حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ ہمارا اتباع کرو (کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کو پورا اختیار کیا ہوا ہے) اگر ایسا نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔<sup>۵</sup>

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی سے کہا تم احمق ہو کیا تمہیں اللہ کی کتاب میں یہ صاف طور سے لکھا ہوا ملتا ہے کہ ظہر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں اور اس میں قرأت اونچی آواز

۱۔ اخرج اللالكاني في السنة كذا في الكنز (ج ۱۰ ص ۹۷) و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۵۳) نحوه ۲۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۱۸۷)

۳۔ اخرجہ ابن عبد البر فی العلم (ج ۲ ص ۱۸۱) ۴۔ اخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۱۰۳) قال الحاکم هذا حدیث مسند صحیح علی شرطہما ولم یخرجا و وافقہ الذہبی و اخرجہ الطبرانی فی الکبیر کما فی المجمع (ج ۱ ص ۱۷۳)

۵۔ اخرجہ احمد قال الهیثمی (ج ۱ ص ۱۷۳) وفيه علی بن زید بن جدعان وهو ضعيف

سے نہ کرو؟ پھر حضرت عمرانؑ نے باقی نمازوں اور زکوٰۃ وغیرہ کا نام لیا (کہ کیا ان کے تفصیلی احکام قرآن میں ہیں؟) کیا تمہیں ان اعمال کی تفصیل اللہ کی کتاب میں ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب میں یہ تمام چیزیں اجمالاً ذکر ہوئی ہیں اور سنت رسولؐ نے ان سب کو کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں سے جو کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ کی اقتداء کرے کیونکہ وہ اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے کم تکلف والے، سب سے زیادہ سیدھے طور طریقے والے اور سب سے زیادہ اچھی حالت والے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کی صحبت کے لئے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے چنا تھا۔ لہذا تم ان کے فضائل و درجات کا اعتراف کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو کیونکہ وہ سیدھی راہ پر تھے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے جماعت علماء! اللہ سے ڈرو اور اپنے سے پہلے لوگوں کے راستہ کو پکڑے رکھو میری زندگی کی قسم! اگر تم اس راستہ پر چلو گے تو تم دوسروں سے بہت آگے نکل جاؤ گے اور اگر تم اسے چھوڑ کر دائیں بائیں چلے جاؤ گے تو تم بہت زیادہ بھٹک جاؤ گے۔

حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد جب مسجد میں نماز پڑھتے تو مختصر پڑھتے، البتہ رکوع اور سجدہ پورا کرتے اور گھر میں جب نماز پڑھتے تو نماز، رکوع اور سجدہ سب کچھ لبا کرتے۔ میں نے کہا ابا جان! جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو مختصر پڑھتے ہیں اور جب گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو لمبی پڑھتے ہیں؟ انھوں نے کہا اے میرے بیٹے! ہم امام ہیں لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ہماری اقتداء کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چلو، اپنی طرف سے نئے نئے طریقے مت چلاؤ (تمہیں عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے) اللہ کے رسول اور صحابہ تمہیں سب کچھ کر کے دے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا اور ان کی فضیلت کا اعتراف کرنا دونوں سنت

۱۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۱۹۱) ۲۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۱۹۷) و اخرج ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۵) بمعناہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کما تقدم فی صفة الصحابة الکرام

۳۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۹۷) و اخرجہ ابن ابی شیبہ ابن عساکر عن مصعب بن سعد کما فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۳)

۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۲) رجالہ رجال الصحیح

۵۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۱) رجالہ رجال الصحیح

میں سے ہیں۔ ۱

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے زمانہ کے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے بچو کیونکہ ایک آدمی جنت والوں کے عمل کرتا ہے پھر اللہ کے علم کے مطابق وہ پلٹا کھا جاتا ہے اور دوزخ والوں کے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور وہ دوزخی بن کر مرتا ہے اور ایک آدمی دوزخ والوں کے عمل کر رہا ہوتا ہے پھر وہ اللہ کے علم کے مطابق پلٹا کھا جاتا ہے اور جنت والوں کے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جنتی بن کر مرتا ہے۔ اگر تم نے ضرور ہی کسی کے پیچھے چلنا ہے تو پھر تم ان لوگوں کے پیچھے چلو جن کا خاتمہ ایمان و اعمال صالحہ پر ہو چکا ہے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو ابھی زندہ ہیں ان کے پیچھے مت چلو! کیونکہ کسی زندہ انسان کے بارے میں اطمینان نہیں کیا جاسکتا نہ معلوم کب گمراہ ہو جائے ۲

حضرت ابوالبختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ کچھ لوگ مغرب کے بعد سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے اتنی مرتبہ اللہ اکبر اتنی مرتبہ سبحان اللہ اور اتنی مرتبہ الحمد للہ کہو حضرت عبداللہ نے پوچھا پھر کیا وہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا جی ہاں۔ فرمایا آئندہ جب تم انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو مجھے آکر بتانا (چنانچہ اس نے آکر بتایا تو) حضرت عبداللہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے ٹوپی والا جبہ پہن رکھا تھا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ ذرا تیز مزاج آدمی تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کو وہ کلمات اس ترتیب سے کہتے ہوئے سنا تو کھڑے ہو کر فرمایا میں عبداللہ بن مسعود ہوں۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم نے اس بدعت کو لا کر بڑا ظلم کیا ہے اور تم اس طرح تو حضرت محمد ﷺ کے صحابہ سے علم میں آگے نکل گئے ہو (وہ تو اس طرح ذکر نہیں کیا کرتے تھے) حضرت معتمد نے کہا ہم تو کوئی بدعت لا کر ظلم نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہم علم میں حضور کے صحابہ سے آگے نکل گئے ہیں۔ پھر حضرت عمرو بن عتبہ نے کہا اے ابو عبد الرحمن! ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا تم صحیح راستہ پر چلتے رہو بلکہ اسے ہی چمٹے رہو اللہ کی قسم! اگر تم ایسا کرو گے تو تم بہت آگے نکل جاؤ گے اور راستہ سے ہٹ کر دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو بہت زیادہ بھٹک جاؤ گے۔ ۳ حضرت ابوالبختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ کچھ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان بیٹھے ہیں۔ آگے پھیلی حدیث

۱۔ عند ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۱۸۷)

۲۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۱۱۵)

۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۳ ص ۳۸۱) و اخرجہ ایضا من طریق ابی الزعراء قال جاء المسیب بن نجیۃ الی عبداللہ فقال انی ترکت قومافی المسجد فذکر نحوہ



جیسا مضمون ذکر کیا اور بعد میں یہ ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تم نے اس بدعت کو شروع کر کے بڑا ظلم کیا ہے کیونکہ اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر ہمیں حضرت محمد ﷺ کے صحابہ کو (نعوذ باللہ من ذلک) گمراہ قرار دینا پڑے گا۔ اس پر حضرت عمرو بن عبسہ بن فرقہ نے کہا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اے ابن مسعود اور اس کام سے توبہ کرنا ہوں پھر آپ نے انہیں بکھر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابوالخترؓ کی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں دو حلقے دیکھے تو ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا کون سا حلقہ پہلے شروع ہوا تھا؟ ایک حلقہ والوں نے کہا ہمارا تو دوسرے حلقے والوں سے فرمایا تم لوگ اٹھ کر اسی میں آ جاؤ اور یوں دو حلقوں کو ایک کر دیا۔ الطبرانی کی ایک صحیح اور مختصر روایت میں یہ ہے کہ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کپڑا اوڑھے ہوئے آئے اور فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا تو میں تعارف کر دیتا ہوں کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں کیا تم لوگ حضرت محمد ﷺ اور ان کے صحابہ سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا تم نے گمراہی کی دم پکڑ رکھی ہے؟

حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا اے ابو عبد الرحمن! ذرا ہمارے پاس باہر آئیں؟ چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ باہر آئے اور فرمایا اے ابو موسیٰ! آپ اس وقت کیوں آئے؟ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں نے ایک ایسا کام دیکھا ہے جو ہے تو خیر لیکن اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں، ہے تو وہ خیر لیکن اس نے مجھے چونکا دیا ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اتنی دفعہ سبحان اللہ کہو، اتنی دفعہ الحمد للہ کہو، چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ اسی وقت چل پڑے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا تم لوگ کتنی جلدی بدل گئے ہو، حالانکہ حضور ﷺ کے صحابہ ابھی زندہ ہیں اور حضورؐ کی بیویاں ابھی جوان ہیں اور حضورؐ کے کپڑے اور برتن ابھی اپنی اصلی حالت پر ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تم اپنی برائیاں گنو، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں گنے لگیں گے۔

حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے والد (حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما) کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں تھے؟ میں نے کہا مجھے کچھ لوگ ملے تھے، میں نے ان سے بہتر آدمی کبھی نہیں دیکھے وہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر ان

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۱) رواہ الطبرانی فی الکبیر وفيہ عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط  
 ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر ايضا قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۱) وفيہ مجالد بن سعید وثقه النسائی وضعفه البخاری و احمد بن حنبل و یحییٰ

میں سے ایک آدمی کانپنے لگا اور تھوڑی دیر میں اللہ کے ڈر سے بے ہوش ہو گیا۔ اس لئے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے کہا، اس کے بعد ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی اس بات کا میں نے اثر نہیں لیا تو فرمایا میں نے حضور ﷺ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ان حضرات پر تو ایسی حالت طاری نہیں ہوتی تھی تو تمہارا کیا خیال ہے یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ اس پر مجھے بات سمجھ میں آگئی کہ بات یونہی ہے اور میں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔

حضرت ابو صالح سعید بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ تجھی کھڑے ہو کر لوگوں میں قصہ گوئی کر رہا تھا تو اس سے حضور ﷺ کے صحابی حضرت صلہ بن حارث غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے حضور کے عہد کو چھوڑا نہیں ہے اور کوئی قطع رحمی نہیں کی ہے تو پھر تم اور تمہارے ساتھی کہاں سے ہمارے درمیان (قصہ گوئی کے لئے) کھڑے ہو گئے ہو (اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے یہ قصہ گوئی کر رہے ہو)۔ ۲

حضرت عمرو بن زرارہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بیان کر رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم نے گمراہی والی بدعت ایجاد کی ہے یا تم حضرت محمد ﷺ اور ان کے صحابہ سے زیادہ ہدایت والے ہو گئے ہو، میں نے دیکھا کہ یہ بات سنتے ہی تمام لوگ اٹھ کر ادھر ادھر چلے گئے اور میری جگہ پر ایک آدمی بھی نہ رہا۔ ۳

## جس رائے کا قرآن و حدیث سے ثبوت

### نہ ہو ایسی بے اصل رائے سے بچنا

حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا اے لوگو! حتمی اور درست رائے تو صرف حضور کی ہی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں یہ رائے سمجھاتے تھے اور ہماری رائے تو بس گمان اور تکلف ہی ہے۔ (اس کا صحیح ہونا ضروری

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۳ ص ۱۶۷) ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۹) واسنادہ حسن۔ ۳۔ اخرجہ ایضاً البخاری والبیہقی و محمد بن الربیع الجیزی وقال ابن السکن لیس لصلۃ غیر هذا الحدیث کذا فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۱۹۳) ۴۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۹) رواہ الطبرانی فی الکبیر وله اسنادان احدهما رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی

نہیں) حضرت صدقہ بن ابی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی رائے پر چلنے والے سنتوں کے دشمن ہیں۔ سستی کی وجہ سے سنتیں یاد نہیں کیں اور جتنی یاد کی تھیں انہیں محفوظ نہیں رکھا۔ اور جب ان سے ایسی بات پوچھی گئی جس کا جواب نہیں آتا تھا تو شرم کے مارے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے اس لئے سنتوں کے مقابلہ میں اپنی رائے لے آئے۔ ایسے لوگوں سے بالکل بچ کر رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت تو وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مقرر فرمایا۔ تم اپنی غلط رائے کو امت کے لئے سنت بناؤ۔ کنز کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْكَ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (سورت نجم آیت ۲۸) ترجمہ "اور یقیناً بے اصل خیالات امر حق (کے اثبات) میں ذرا بھی مفید نہیں ہوئے۔"

حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمرؓ سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ سمجھایا ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ایسی بات نہ کہو کیونکہ یہ تو حضور کی خصوصیت تھی (کہ ان کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ ہمارے دل میں جو بات آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے یہ حضرت عمرؓ کی تو اضع ہے۔) ۴

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یوں مت کہا کرو کہ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ تم سے پہلے والے اس طرح کہنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور ایک چیز پر دوسری چیز کا قیاس نہ کیا کرو ورنہ تمہارے قدم جسنے کے بعد پھسل جائیں گے اور جب تم میں سے کسی سے ایسی بات پوچھی جائے جو وہ نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کیونکہ یہ (کہنا) بھی ایک تہائی علم ہے۔ ۵

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر آنے والا سال پہلے سال سے برا ہوگا (اپنی ذات کے اعتبار سے تو) کوئی سال کسی سال سے بہتر نہیں۔ کوئی جماعت کسی جماعت سے بہتر نہیں لیکن ہوگا یوں کہ تمہارے علماء اور تمہارے بھلے اور بہترین لوگ چلے جائیں گے اور پھر ایسے لوگ آجائیں گے۔ جو اپنی رائے سے تمام کاموں میں قیاس کرنے لگ جائیں گے۔ اس طرح اسلام میں شکاف پڑ جائے گا اور وہ گر جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں (دین

۱۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۱۳۳)

۲۔ عند ابن عبدالبر ایضاً (ج ۲ ص ۱۳۵) ۳۔ عند ابن عبدالبر ایضاً (ج ۲ ص ۱۳۶) و اخرج الحدیث الاول ابن ابی حاتم والبیہقی ایضاً عن عمر مثله کما فی الكنز (ج ۵ ص ۲۴۱)

۴۔ اخرجہ ابن المنذر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۴۱)

۵۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۰) والشعبی لم یسمع من ابن مسعود ولیہ جابر الجعفی وهو ضعیف۔ انتہی ۶۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۸۰) ولیہ مجالد بن سعید وقد اخلط ۱۰ و اخرجہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۱۳۵) بنحوہ

میں) اصل تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے اس کے بعد جو اپنی رائے سے کچھ کہے گا تو مجھے معلوم نہیں کہ اسے وہ اپنی نیکیوں میں پائے گا یا برائیوں میں۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا گیا۔ انھوں نے فرمایا مجھے اپنے رب سے اس بات سے حیا آتی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کی امت کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہوں۔

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کا اجتہاد کرنا

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے مجھے یمن بھیجا تو فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوگا تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب کے مطابق حضور نے فرمایا اگر تم اسے اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو پھر؟ میں نے کہا رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق حضور نے فرمایا اگر تم اسے رسول اللہ کی سنت میں نہ پاؤ تو پھر؟ میں نے کہا تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور (سوچ بچار میں) کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اس پر حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کے رسول خوش ہیں۔

حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے بعد کوئی آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اس چیز سے ڈرنے والا نہیں تھا جسے وہ نہ جانتا ہو اور حضرت ابو بکر کے بعد کوئی آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ڈرنے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا۔ انھوں نے اس کے لئے اللہ کی کتاب میں کوئی اصل نہ پائی اور نہ ہی سنت میں کوئی نشان پایا تو فرمایا اب میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اگر ٹھیک فیصلہ ہوا تو اللہ کی طرف سے اور اگر غلط فیصلہ ہوا تو میری طرف سے اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ خط لکھا کہ جب تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو اس میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو اور اگر تمہارے پاس ایسا مقدمہ آئے جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو پھر اس میں سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق فیصلہ کرو اور اگر ایسا مقدمہ آئے جو نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ سنت رسول میں تو پھر وہ فیصلہ کرو جس پر علماء کا اجماع و اتفاق ہو اور اگر ایسا مقدمہ آئے جو نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ سنت رسول میں اور نہ اس

۱۔ اخرجہ ابن عبد البر فی العلم (ج ۲ ص ۱۳۶)

۲۔ اخرجہ ابن عبد البر فی العلم (ج ۲ ص ۳۳)

۳۔ اخرجہ ابو داؤد و الترمذی و الدارمی کذا فی المشکوٰۃ (ج ۲ ص ۳۱۶)

۴۔ اخرجہ ابن سعد و ابن عبد البر فی العلم کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۴۱)

میں کسی عالم نے کوئی بات کی ہے تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لو چاہو تو آگے بڑھ کر اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ کر لو اور چاہو تو پیچھے ہٹ جاؤ (اور کوئی فیصلہ نہ کرو) اور میرے خیال میں پیچھے ہٹنا تمہارے لئے بہتر ہی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جسے کسی معاملہ میں فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو اسے چاہئے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر ایسا معاملہ ہو جو کتاب اللہ میں نہیں ہے تو پھر اس میں وہ فیصلہ کرے جو اللہ کے نبی کریم ﷺ نے کیا اور اگر ایسا معاملہ پیش آجائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو پھر اس میں وہ فیصلہ کرے جو نیک لوگوں نے کیا ہو اور اگر ایسا معاملہ پیش آجائے جو نہ کتاب اللہ میں ہو اور نہ اللہ کے نبی اور نیک بندوں نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہو تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور اپنی اس بات پر پکار ہے اور شرمائے نہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرے اور یہ ہرگز نہ کہے میرا خیال تو ایسا ہے، البتہ میں ڈرتا بھی ہوں کیونکہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے درمیان بہت سے مشتبہ امور ہیں (جن کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہے) اس لئے وہ کام چھوڑ دو جن میں کسی قسم کا شک ہے اور وہ کام اختیار کرو جن میں کوئی شک نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ معمول دیکھا کہ جب ان سے کوئی چیز پوچھی جاتی اور وہ اللہ کی کتاب میں ہوتی تو وہ فرمادیتے اور وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی لیکن اس کے بارے میں حضور سے کچھ منقول ہوتا تو وہ فرمادیتے اور اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی اور حضور سے بھی کچھ منقول نہ ہوتا لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے کچھ منقول ہوتا تو وہ فرمادیتے اور اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی اور حضور سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے بھی کچھ منقول نہ ہوتا تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی مضبوط دلیل آجاتی تو ہم اس کے برابر کسی کو نہ سمجھتے (بلکہ اسی کو اختیار کر لیتے)۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کیا یہ چیز پیش آچکی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو فرمایا جب تک یہ پیش نہ آجائے اس وقت تک ہمیں آرام کرنے دو۔ جب پیش آجائے گی تو پھر ہم کوشش کر کے اپنی رائے

۱۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۵۶) عن الشعبي

۲۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۵۷) ۳۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی العلم (ج ۲ ص ۵۷)

۴۔ عند ابن عبدالبر ابضا و اخرج ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۱) الحدیث الاول بمعناه

بتادیں گے۔

## فتویٰ دینے میں احتیاط سے کام لینا اور صحابہؓ

### میں کون فتویٰ دیا کرتے تھے؟

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضور ﷺ کے ایک سو بیس صحابہؓ کو مسجد میں پایا کہ ان میں جو حدیث بیان کرنے والے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی حدیث بیان کر دے اور انہیں حدیث بیان نہ کرنی پڑے اور ان میں جو بھی مفتی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی فتویٰ دے دے اور خود انہیں فتویٰ نہ دینا پڑے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آدمی پاگل ہے کہ اس سے جو بھی فتویٰ پوچھا جائے وہ فوراً فتویٰ دے دے۔<sup>۲</sup>

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو فتویٰ دینے والے آدمی تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی جو قرآن کے نسخ و منسوخ کو جانتا ہے، دوسرا وہ امیر جماعت جسے فتویٰ دیئے بغیر چارہ نہیں اور تیسرا احمق۔<sup>۳</sup>

حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہما سے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں ملی کہ تم امیر نہیں ہو پھر بھی تم لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو؟ جسے امارت کی راحت ملی ہے اسے ہی امارت کی مشقت بھی اٹھانے دو یعنی جو امیر ہے اسے ہی فتویٰ کی ذمہ داری اٹھانے دو تم فتویٰ نہ دو۔<sup>۴</sup>

حضرت ابو منہال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت زید بن ارقم اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہم سے سونے چاندی کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا تو میں نے جس سے بھی پوچھا اس نے یہی کہا تم دوسرے سے پوچھ لو کیونکہ وہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ جانتے والا ہے۔ اس کے بعد سونے چاندی کی خرید و فروخت کے بارے میں حدیث ذکر کی۔<sup>۵</sup>

۱۔ اخرجہ ابن عبد البر فی العلم (ج ۲ ص ۵۸) ۲۔ اخرجہ ابن عبد البر فی الجامع (ج

۲ ص ۱۶۳) و اخرجہ ابن سعد (ج ۶ ص ۱۱۰) عن عبدالرحمن بن عوف وزاد من الانصار

۳۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۱۶۵) و هكذا اخرجہ عن ابن عباس رضی اللہ

عنہما و اخرجہ الطبرانی فی الکبیر عن ابن مسعود بنحوه و رجاله موثقون كما قال الهیثمی (ج ۱

ص ۱۸۳) ۴۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۱۶۶)

۵۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۱۶۶) و زاد فی رواية اخرى (ج ۲ ص ۱۴۳)

۶۔ اخرجہ ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۲ ص ۱۶۶)

حضرت ابو حصین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو ہر آدمی اس مسئلہ میں فتویٰ دے رہا ہے حالانکہ اگر یہ مسئلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوتا تو اس کے لئے وہ تمام بدری صحابہ گونج کر لیتے (اور پھر ان کے مشورہ سے فتویٰ دیتے)!

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضور کے زمانے میں کون فتویٰ دیا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور میرے علم میں ان دو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم حضور کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ۳۔

حضرت فضیل بن ابی عبد اللہ بن دینار اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو حضور کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے میں حضور سے سنی ہوئی احادیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ۴۔

حضرت ابو عطیہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا حضرت ابن مسعود نے فرمایا کیا تم نے یہ مسئلہ میرے علاوہ کسی اور سے بھی پوچھا ہے؟ اس آدمی نے کہا ہاں میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا۔ جواب سن کر حضرت عبد اللہ نے اس کی مخالفت کی۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ کھڑے ہوئے اور فرمایا جب تک یہ بڑے عالم تم میں ہیں مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ ۵۔ حضرت ابو عمرو شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک یہ بڑے عالم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم میں ہیں مجھ سے کچھ نہ پوچھا کرو۔ ۶۔

حضرت ہبل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے والے حضرات تین مہاجرین میں سے تھے اور تین انصار میں سے تھے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم۔ ۷۔

۱۔ اخروجه ابن عساکر کذالی الکنز (ج ۵ ص ۲۴۱)

۲۔ اخروجه ابن سعد (ج ۲ ص ۱۵۱) ۳۔ عند ابن سعد ایضا

۴۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۴ ص ۱۵۷) و اخروجه ابن عساکر عن عبد اللہ بن دینار الاسلمی عن ابیہ مثلہ کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۷۷) ۵۔ اخروجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۶۰)

۶۔ عند ابن سعد ایضا و اخروجه ابو نعیم فی الفتویٰ (ج ۱ ص ۱۲۹) عن ابی عطیہ و عامر عن ابی موسیٰ قوله نحوه ۷۔ اخروجه ابن سعد (ج ۳ ص ۱۶۷)

حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور کے صحابہ میں سے فتویٰ دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت زید، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم۔

حضرت قبیصہ بن ذؤب بن حلقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں اور جب تک حضرت علیؓ مدینہ میں رہے اس وقت تک وہ مدینہ میں قضاء، فتویٰ، قرأت اور فرائض و میراث میں امام تھے اور حضرت علیؓ کے مدینہ سے چلے جانے کے بعد بھی وہ پانچ سال مزید امام رہے پھر سنہ چالیس میں حضرت معاویہؓ خلیفہ بنے تو بھی یہی امام تھے یہاں تک کہ سنہ پینتالیس میں حضرت زید کا انتقال ہو گیا۔

حضرت عطاء بن یسار کہتے ہیں حضرت عمر اور حضرت عثمانؓ حضرت ابی بن عباسؓ کو بلایا کرتے تھے اور وہ بھی بدری صحابہ کے ساتھ مشورہ دیا کرتے تھے اور حضرت ابی بن عباسؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور پھر انتقال تک حضرت ابی بن عباسؓ کا یہی مشغلہ رہا۔

حضرت زیاد بن میناء کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ، حضرت جابر بن عبداللہؓ، حضرت رافع بن خدیجؓ، حضرت سلمہ بن اکوعؓ، حضرت ابو واقد لہثیؓ اور حضرت عبداللہ بن کسینہؓ اور ان جیسے اور صحابہؓ مدینہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور حضور ﷺ کی طرف سے حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمانؓ کے انتقال پر یہ دونوں دینی خدمتیں ان حضرات کو میسر ہوئیں اور یہ سب اپنے انتقال تک ان میں ہی لگے رہے اور پھر ان میں سے فتویٰ میں زیادہ قابل اعتماد حضرت ابی بن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ، حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت جابر بن عبداللہؓ تھے۔

حضرت قاسم کہتے ہیں حضرت عائشہؓ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں مستقل فتویٰ دیا کرتی تھیں اور پھر انتقال تک ان کا یہی مشغلہ رہا۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتا تھا اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا کرتی تھیں (حضرت قاسمؓ حضرت عائشہؓ کے بھتیجے تھے) آگے اور حدیث ذکر کی۔

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرامؓ کے علوم

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں اس حال میں چھوڑ کر گئے کہ آسمان میں جو بھی

۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۱۷۵)

۱۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۸ ص ۱۶۸)

۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۱۸۷)

۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۱۸۱)

۵۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۱۸۹)



پرنده اپنے دونوں پروں کو ہلاتا ہے اس سے ہمیں (حضور کا سکھایا ہوا) کوئی نہ کوئی علم یاد آجاتا ہے۔ طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو چیز بھی جنت کے قریب کرنے والی اور دوزخ کی آگ سے دور کرنے والی ہے۔ وہ تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔

حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے ایک ہزار مثالیں (کہاوتیں) سمجھی ہیں۔

حضرت عائشہؓ نے ایک حدیث ذکر کی جس میں یہ بھی فرمایا کہ (حضور ﷺ کی وفات کے موقع پر) جس چیز کے بارے میں صحابہ کرامؓ میں اختلاف ہو جاتا تو میرے والد (حضرت ابو بکر) ایسی حدیث سناتے جسے سن کر سب مطمئن ہو جاتے اور فیصلہ کن بات سامنے آ جاتی۔ صحابہؓ نے یہ سوال کیا کہ حضور ﷺ کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو اس بارے میں ہمیں کسی کے پاس کوئی علم (قرآن یا حدیث کا) نہ مل سکا لیکن حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی جس جگہ روح قبض کی جاتی ہے اسی جگہ اسے دفن کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضور کی میراث کے بارے میں صحابہؓ میں اختلاف ہوا تو ہمیں اس بارے میں کسی کے پاس کوئی علم نہ مل سکا لیکن حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم انبیاء کی جماعت کسی کو وارث نہیں بناتے اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔

حضرت ابوالفضلؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ اگر حضرت عمرؓ کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام زمین والوں کے علم کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو حضرت عمرؓ کے علم والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضرت اعمشؓ کہتے ہیں میرے دل نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ میں نے جا کر حضرت ابراہیمؓ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم اسے نہیں مان رہے ہو اور اللہ کی قسم! حضرت عبداللہؓ نے تو اس سے آگے کی بھی بات کہہ رکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جس دن حضرت عمرؓ دنیا سے گئے اس دن علم کے دس حصوں میں سے نو حصے چلے گئے۔ حضرت عمرؓ کی وفات کے بارے میں ایک لمبی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ ارشاد منقول

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۶۳) رواہ احمد والطبرانی ورجال الطبرانی رجال الصحیح غیر محمد بن عبداللہ بن یزید المقرئ وهو ثقة ولفی اسناد احمد من لم یسم انتہی و اخرجہ الطبرانی عن ابی اللرداء مثل حدیث ابی ذر عند احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۶۳) ورجالہ رجال الصحیح. ۱۰۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۷۰) عن ابی ذر مثله

۲۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۶۳) و اسنادہ حسن

۳۔ اخرجہ البہوی وابن عساکر وغیرہما کذا فی منتخب الکنز (ج ۳ ص ۳۲۶)

۴۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۶۹) رواہ الطبرانی باسناد ورجال و هذا رجال الصحیح غیر اسد بن موسیٰ وهو ثقة. انتہی و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۳) نحوہ

ہے کہ حضرت عمرؓ ہم میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے، اللہ کی کتاب کو ہم سب سے زیادہ پڑھنے والے اور اللہ کے دین کی ہم سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والے تھے۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ کا علم اتنا زیادہ تھا کہ اس کے سامنے تمام لوگوں کا علم اتنا کم لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی سوراخ میں چھپا کر رکھا ہوا ہو۔ ۲۔ ینہ کے ایک صاحب کہتے ہیں میں حضرت عمرؓ کے پاس گیا تو مجھے ان کے سامنے فقہا بچوں کی طرح نظر آئے۔ وہ دینی سمجھ اور علم کی وجہ سے تمام فقہا پر حاوی تھے۔ ۳۔

حضرت ابو اسحقؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ سے شادی کی تو حضرت فاطمہؓ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے میری ان سے شادی کر دی ہے ان کی آنکھیں کمزور ہیں پیٹ بڑا ہے (شکل و صورت اچھی نہیں) حضورؐ نے فرمایا میں نے تمہاری جن سے شادی کی ہے ان کے فضائل یہ ہیں کہ میرے صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لائے اور ان کا علم ان سب سے زیادہ ہے اور یہ ان میں سب سے زیادہ بردبار ہیں (اے فاطمہ! صورت نہ دیکھو سیرت دیکھو)۔ ۴۔ حضرت معقل بن یسارؓ کی روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا (اے فاطمہ!) کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہاری شادی ایسے آدمی سے کی ہے جو میری امت میں سب سے پرانے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ کس معاملہ میں نازل ہوئی؟ اور کہاں نازل ہوئی؟ اور کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ میرے رب نے مجھے سمجھا دل اور خوب بولنے والی فصیح زبان دی ہے۔ ۵۔ حضرت سعید بن مسیبؓ نے فرمایا حضرت عمرؓ اس مشکل مسئلہ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جس کے حل کے لیے حضرت ابو حسنؓ یعنی حضرت علیؓ موجود نہ ہوں۔ ۶۔

حضرت مسروقؓ کہتے ہیں حضرت عبداللہؓ نے فرمایا جو سورت بھی نازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی؟ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے اور اونٹ اور سواریاں مجھے اس تک پہنچا سکتی ہیں تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ ۷۔ حضرت مسروقؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ کی مجلسوں میں بہت بیٹھا

۱۔ اخرجہ الطبرانی کذافی مجمع الزوائد (ج ۹ ص ۶۹) ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۳)

۳۔ عند ابن سعد ایضاً ۴۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۰۲) ہو مرسل صحیح الاسناد

۵۔ اخرجہ الطبرانی واحمد عن معقل بن یسار فذکر الحدیث قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۰۱) یوفیہ

خالد بن طهمان وثقه ابو حاتم وغیرہ بقیة رجالہ ثقات ۵۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۳)

۶۔ عند ابن سعد ایضاً (ج ۳ ص ۱۵۳) ۷۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۵۹)

ہوں۔ میں نے انہیں (دینی فیضان میں) تالاب کی طرح پایا کسی تالاب سے ایک آدمی سیراب ہوتا ہے اور کسی تالاب سے دو اور کسی سے دس اور کسی سے سو آدمی سیراب ہوتے ہیں اور بعض تالاب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ساری زمین والے اس سے سیراب ہو جائیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو اسی بڑے تالاب کی طرح پایا (ان سے ساری دنیا سیراب ہوتی تھی)۔

حضرت زید بن وہبؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمرؓ بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے سے حضرت عبداللہؓ آئے۔ جب حضرت عمرؓ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ دین کی سمجھ اور علم سے بھری ہوئی کوٹھی ہیں۔ حضرت اسد بن وداعہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابن مسعودؓ کا ذکر فرمایا اور فرمایا یہ تو علم سے بھری ہوئی کوٹھی ہیں اور انہیں قادیسیہ بھیج کر میں نے قادیسیہ والوں کو اپنے پر ترجیح دی ہے۔

حضرت ابوالختریؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علیؓ کی خدمت میں گئے اور ہم ان سے حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہوں نے فرمایا کس صحابی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ہم نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں ہمیں کچھ بتادیں۔ انہوں نے فرمایا انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور علم کی انتہا کو پہنچ گئے اور یہی بات ان کے زیادہ علم والا ہونے کے لیے کافی ہے پھر ہم نے عرض کیا حضرت ابو موسیٰؓ کے بارے میں کچھ فرمادیں۔ فرمایا انہیں علم میں اچھی طرح رنگا گیا پھر اچھی طرح رنگ ہو کر باہر نکلے پھر ہم نے عرض کیا حضرت عمار بن یاسرؓ کے بارے میں کچھ بتادیں۔ فرمایا وہ ایسے مومن ہیں جو بھول گئے تھے اور جب انہیں یاد دلایا گیا تو انہیں یاد آ گیا تھا پھر ہم نے عرض کیا ہمیں حضرت حذیفہؓ کے بارے میں کچھ فرمادیں۔ فرمایا وہ حضرت محمد ﷺ کے صحابہؓ میں منافقوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ پھر ہم نے عرض کیا حضرت ابو ذرؓ کے بارے میں کچھ بتادیں فرمایا انہوں نے علم تو خوب اچھی طرح حاصل کیا تھا اور خوب یاد تھا لیکن پھر اس کے پھیلانے میں کامیاب نہ ہو سکے (آخر میں طبیعت میں سختی زیادہ ہو گئی تھی) پھر ہم نے عرض کیا حضرت سلمان فارسیؓ کے بارے میں کچھ بتائیں فرمایا انہوں نے پہلا علم بھی حاصل کیا تھا (جو پہلے نبی لے کر آئے تھے) اور بعد والا علم بھی حاصل کیا (جو حضور ﷺ لے کر آئے تھے) وہ علم کا ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اور وہ ہمارے گھرانے میں سے ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! اب آپ اپنے بارے میں کچھ بتادیں فرمایا تم لوگ اصل میں یہ بات پوچھنا چاہتے تھے۔ میں جب حضور ﷺ سے کچھ پوچھتا تو آپ اس کا جواب ارشاد فرمادیتے اور جب میں خاموش ہو جاتا تو آپ از خود گفتگو کی ابتداء فرماتے۔

۱۔ عند ابن سعد ایضاً

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۶۱)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۶۲)

حضرت ابن مسعود نے فرمایا حضرت معاذ بن جبلؓ مقتدا تھے اور اللہ کے فرمانبردار تھے اور سب طرف سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے (حضرت فروہ بن نوفل اجمعی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا ابو عبد الرحمن یعنی حضرت ابن مسعود سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں استعمال فرمائے ہیں اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (سورت نحل آیت ۱۲۰) ترجمہ ”بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدا تھے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔“ حضرت ابن مسعود نے دوبارہ ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبلؓ مقتدا تھے اور اللہ کے فرمانبردار تھے اور سب طرف سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے اس پر میں سمجھا کہ وہ حضرت معاذ کے بارے میں یہ الفاظ جان بوجھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر میں خاموش ہو گیا۔ پھر انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو لفظ امت کا کیا مطلب ہے؟ لفظ قانت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اللہ ہی جانتے ہیں (میں نہیں جانتا) فرمایا امت وہ انسان ہے جو لوگوں کو بھلائی اور خیر سکھائے اور قانت وہ ہے جو اللہ و رسول کا فرمانبردار ہو تو حضرت معاذؓ لوگوں کو خیر سکھایا کرتے تھے اور اللہ و رسول کے فرمانبردار تھے۔

حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضور ﷺ کے صحابہؓ کو غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ صحابہؓ کا علم چھ حضرات پر پہنچ کر ختم ہو گیا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ، حضرت معاذ، حضرت ابوالدرداء اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم پھر میں نے ان چھ حضرات کو غور سے دیکھا تو ان کا علم حضرت علیؓ اور حضرت عبد اللہؓ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔

حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مدینہ گیا اور نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ کے بارے میں پوچھا تو مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مضبوط علم والوں میں سے نظر آئے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما (چھوٹی عمر کے نہ ہوتے اور) ہماری عمر کو پالیتے تو ہم میں سے کوئی آدمی ان کے (علم کے) دسویں حصے کو نہ پاسکتا۔ اس روایت میں حضرت نضر راوی نے یہ بھی بڑھایا ہے کہ حضرت ابن عباس قرآن کے بہترین ترجمان تھے۔۲

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیادہ علم کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سمندر کہا جاتا تھا۔۳

حضرت لیث بن ابی سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۷۶)

۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۱)

۳۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۱)

اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ حضور ﷺ کے اکابر صحابہؓ کو چھوڑ کر ان نو عمر (صحابی) یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے حضورؐ کے ستر صحابہؓ کو دیکھا کہ جب ان میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تو وہ حضرت ابن عباسؓ کے قول کی طرف رجوع کرتے۔

حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں میں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاصؓ) کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے زیادہ حاضر و ماخ، زیادہ سمجھدار، زیادہ علم والا اور زیادہ بردبار کوئی نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نہیں مشکل مسائل کیلئے بلایا کرتے اور ان سے فرماتے تیار ہو جاؤ یہ مشکل مسئلہ تمہارے پاس آیا ہے (اور ان کے سامنے وہ مشکل مسئلہ رکھتے) پھر حضرت عمرؓ ان ہی کے قول پر فیصلہ کر دیتے حالانکہ ان کے ارد گرد بہت سے بدری مہاجر اور انصاری صحابہ بیٹھے ہوتے۔

حضرت ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بخار ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا تمہاری بیماری کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔

حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کو (اللہ کی طرف سے) بڑی سمجھ، عقل اور بہت علم دیا گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے کسی (کی رائے) کو ان (کی رائے) پر ترجیح دی ہو۔

حضرت محمد بن ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پھر حضرت ابن عباسؓ اٹھ کر چلے گئے تو میں نے حضرت ابی بن کعبؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ اس امت کے بہت بڑے عالم بن جائیں گے کیونکہ انہیں (اللہ کی طرف سے) عقل اور سمجھ بھی خوب ملی ہے اور حضور ﷺ نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔

حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تمام لوگوں میں علم کے اعتبار سے ایسے اونچے تھے جیسے کھجور کے چھوٹے درختوں میں لمبا درخت ہوتا ہے۔

حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی حج پر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حج کے امیر تھے وہ سورت نور پڑھنے لگے اور ساتھ کے ساتھ اس کی تفسیر کرنے

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱۔ اخروجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۱) | ۲۔ اخروجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۳) |
| ۳۔ اخروجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۵) | ۴۔ اخروجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۵) |
| ۵۔ اخروجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۵) | ۶۔ اخروجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۵) |

لگے جسے سن کر میرے ساتھی نے کہا سبحان اللہ! اس آدمی کے سر سے کیا کچھ نکل رہا ہے؟ اگر ترک لوگ اسے سن لیں مسلمان ہو جائیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو داؤد اہل کہتے ہیں (تفسیر سن کر) میں نے کہا ان جیسی باتیں نہ تو میں نے کسی آدمی سے سنی ہیں اور نہ کہیں دیکھی ہیں۔ اگر فارس اور روم والے یہ سن لیتے تو مسلمان ہو جاتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جو انہیں یمن سے حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔ میں نے انہیں اس کا جواب دیا تو فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نبوت کے گھرانے سے بولتے ہو۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اشعار کے لئے آتے کچھ لوگ نسب اور کچھ لوگ عرب کے واقعات معلوم کرنے آتے وہ ہر طرح کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور جس طرح چاہتے خوب گفتگو کرتے۔

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی عمدہ صفات کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تمام لوگوں پر فوقیت رکھتے تھے وہ گزشتہ علوم کو خوب جانتے تھے اور جب ان کے مشورے کی ضرورت ہوتی تو بہت سمجھداری کا مشورہ دیتے اور بردباری اور جو دو سخاں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ حضور ﷺ کی حدیثوں کو اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے فیصلوں کو جاننے والا ہو اور ان سے زیادہ سمجھداری کی رائے والا ہو اور اشعار کو، عربی لغت کو، قرآن کی تفسیر کو، حساب اور میراث کو اور گزشتہ واقعات کو ان سے زیادہ جاننے والا ہو اور ان سے زیادہ درست رائے والا ہو کسی دن وہ اپنی مجلس میں بیٹھتے تو صرف دین کی سمجھ کے بارے میں بات کرتے اور کسی دن صرف قرآن کی تفسیر کے بارے میں بات کرتے اور کسی دن صرف حضور ﷺ کے غزوات کے بارے میں بات کرتے اور کسی دن اشعار کے بارے میں اور کسی دن عرب کی لڑائیوں کے بارے میں بات کرتے اور میں نے یہی دیکھا کہ جو عالم بھی ان کی مجلس میں آیا وہ آخر کار ان (کی علمی عظمت) کے سامنے ضرور جھک گیا اور جو بھی ان سے کچھ پوچھنے آیا اسے اپنے سوال کا جواب ضرور ملا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کے مہاجر اور انصاری بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ہر وقت رہا کرتا تھا اور میں ان سے حضور کے غزوات کے بارے میں اور ان

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۳۷) قال الحاکم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخبرنا

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۳) ۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۲)

۴۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۳)

غزوات کے متعلق اترنے والے قرآن کے بارے میں خوب سوالات کرتا تھا اور میں ان میں سے جس کے پاس جاتا وہ میرے آنے سے بہت خوش ہوتا کیونکہ میں حضورؐ کا رشتہ دار (چچا زاد بھائی) تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مضبوط اور پختہ علم والوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے ایک دن مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا مدینہ میں ستائیس سورتیں نازل ہوئیں اور باقی مکہ میں۔

حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گزرے ہوئے علوم اور واقعات کو ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور جو نیا مسئلہ پیش آجائے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کچھ نہ آیا ہو اس کے متعلق وہ سب سے زیادہ دینی سمجھ رکھنے والے ہیں۔ حضرت عکرمہ کہتے ہیں میں نے یہ بات حضرت ابن عباسؓ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے پاس بہت علم ہے کیونکہ وہ حضور ﷺ سے حلال و حرام کے بارے میں خوب پوچھا کرتے تھے (یعنی حضرت ابن عباسؓ ان کے فضائل کا اعتراف فرما رہے ہیں)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کی راتوں میں دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارد گرد بہت سے حلقے ہیں اور ان سے مناسک حج کے بارے میں لوگ خوب پوچھ رہے ہیں تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا اب جتنے صحابہ باقی رہ گئے ہیں۔ یہ ان میں سے سب سے زیادہ مناسک حج کو جاننے والے ہیں۔

حضرت یعقوب بن زید رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے انتقال کی خبر ملی تو انہوں نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار انسان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے انتقال سے اس امت کا ایسا نقصان ہوا ہے جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکے گی۔

حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج اس شخصیت کا انتقال ہو گیا جس کے علم کے مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام لوگ محتاج تھے۔

حضرت ابو کلثوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ دفن ہو گئے تو حضرت ابن حنفیہ

۲۔ اخروہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۸۶)

۱۔ اخروہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۸۶)

۳۔ اخروہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۸۶)

۳۔ اخروہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۸۴)

۵۔ اخروہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۸۷)

رحمت اللہ علیہ نے کہا اس امت کے عالم ربانی کا انتقال ہو گیا۔  
حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نو عمر فقہا میں شمار کئے جاتے تھے۔۲

حضرت خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اب ملک شام میں حضور ﷺ کے صحابہ ہمیں سے کوئی صحابی حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہما سے زیادہ قابل اعتماد، زیادہ دینی سمجھ رکھنے والا اور ان سے زیادہ پسندیدہ باقی نہیں رہا۔۳

حضرت حنظلہ بن ابی سفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کے نو عمر صحابہ ہمیں سے کوئی صحابی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا نہیں ہے۔۴

مروان بن حکم کے فشی ابو زعیمہ کہتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور مجھے تخت کے پیچھے بٹھا دیا۔ مروان ان سے پوچھنے لگا اور میں ان کے جواب لکھنے لگا۔ جب ایک سال ہو گیا تو مروان نے انہیں بلا کر پردے کے پیچھے بٹھایا اور ان سے وہی پچھلے سال والے سوالات کئے۔ انہوں نے بعینہ وہی پچھلے سال والے جواب دیئے نہ کوئی حرف کم کیا اور نہ زیادہ اور نہ آگے کیا اور نہ پیچھے۔۵

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضور کے صحابہ کو کسی چیز میں شک ہوا اور انہوں نے اس کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا تو انہیں ان کے پاس اس چیز کا علم ضرور ملا۔۶

حضرت قبیسہ بن ذویب فرماتے ہیں حضرت عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والی تھیں۔ حضور ﷺ کے اکابر صحابہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ بے حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ حضور کی سنتوں کو جاننے والا اور بوقت ضرورت ان سے زیادہ سمجھداری کی رائے والا، آیت کی شان نزول کو اور میراث کو ان سے زیادہ جاننے والا نہیں دیکھا۔۷  
حضرت مسروق سے پوچھا گیا کیا حضرت عائشہ علم میراث کو اچھی طرح جانتی تھیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں نے حضور ﷺ کے بزرگ

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۳) ۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۷)

۳۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۸) ۴۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۸)

۵۔ اخراجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۱۰) قال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقال الذہبی صحیح۔ ۶۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۹)

۷۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۸۹) ۸۔ عند ابن سعد ایضاً



اکابر صحابہ گودیکھا کہ وہ حضرت عائشہؓ سے میراث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔  
حضرت محمود بن لبید کہتے ہیں نبی کریم ﷺ کی تمام ازواج مطہرات کو حضور کی بہت سی حدیثیں یاد تھیں لیکن حضرت عائشہ اور ام سلمہؓ جیسی کوئی نہ تھی اور حضرت عائشہؓ حضرت عمر اور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتی تھیں اور پھر انتقال تک ان کا یہ مشغلہ رہا۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اور حضور کے اکابر صحابہؓ حضرت عمر اور حضرت عثمانؓ حضور کے بعد ان کے پاس آدمی بھیج کر سنتیں پوچھا کرتے تھے۔

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! میں نے حضرت عائشہؓ سے زیادہ فصیح بلیغ اور ان سے زیادہ عقلمند کوئی خطیب نہیں دیکھا۔  
حضرت عروہؓ فرماتے ہیں میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو حضرت عائشہؓ سے زیادہ طب، فقہ اور اشعار کو جاننے والی ہو۔

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہؓ کی خدمت میں عرض کیا میں آپ کے معاملہ میں جتنا سوچتا ہوں اتنا ہی مجھے تعجب ہوتا ہے۔ آپ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی نظر آتی ہیں تو میں کہتا ہوں اس میں کیا بات ہے۔ آپ حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضرت ابو بکرؓ کی صاحبزادی ہیں (آپ کو دین کی سب سے زیادہ سمجھ والا ہونا ہی چاہئے) آپ مجھے عرب کی لڑائیوں کو، ان کے نسب ناموں کو اور ان کے اشعار کو جاننے والی نظر آتی ہیں تو میں کہتا ہوں اس میں کیا بات ہے؟ آپ کے والد (حضرت ابو بکرؓ) قریش کے بہت بڑے عالم تھے (لہذا ان کی بیٹی کو ایسا ہونا ہی چاہئے) لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ آپ طب بھی جانتی ہیں یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لی؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر (پیار سے نام بدل کر) کہا اے عرب! جب حضور ﷺ کی بیماریاں زیادہ ہو گئیں تو عرب و عجم کے اطباء ان کے پاس دوائیاں بھیجنے لگے۔ اس طرح میں نے علم طب سیکھ لیا۔ احمد کی روایت میں یہ ہے کہ میں ان دوائیوں سے حضور کا علاج کیا کرتی تھی یہاں سے میں نے طب سیکھی (حضرت عروہؓ حضرت عائشہؓ کے بھانجے تھے)۔

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۱۸۹) واخرجه الطبرانی بلفظه واسناده حسن كما قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۳۲)  
۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۱۸۹)  
۳۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۳۳) رجاله رجال الصحیح  
۴۔ عند الطبرانی ایضا واسناده حسن كما ذكر الهیثمی (ج ۹ ص ۲۳۲)  
۵۔ اخرجه البزار واللفظ له واحمد والطبرانی فی الاوسط والكبير قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۳۲) ولیه عبداللہ بن معاربہ الزبیری قال ابو حاتم مستقیم الحدیث ولیه ضعف وبقیة رجال احمد والطبرانی فی الكبير لقات. انتهى

## ربانی علماء اور برے علماء

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم علم کے چشمے، ہدایت کے چراغ، اکثر گھروں میں رہنے والے، رات کے چراغ، نئے دل والے اور پرانے کپڑوں والے بنو۔ آسمان میں پہچانے جاؤ گے اور زمین والوں پر پوشیدہ رہو گے۔ ابو نعیم میں حضرت علیؓ کی روایت میں زمین والوں پر پوشیدہ رہنے کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے تمہارا زمین پر بھی ذکر خیر ہوگا۔

حضرت وہب بن منبہؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کو خبر ملی کہ باب بنی سہم کے پاس کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ اٹھ کر ان کی طرف چلے اور چھڑی حضرت عکرمہ کو دی اور اپنا ایک ہاتھ اس چھڑی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت طاؤسؓ پر رکھا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے خوش آمدید کہا اور اپنی مجلس میں ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی لیکن وہ بیٹھے نہیں بلکہ ان سے فرمایا تم اپنا نسب نامہ بیان کرو تا کہ میں تمہیں پہچان لوں۔ ان سب نے یا ان میں سے کچھ نے اپنا نسب نامہ بیان کیا تو فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو گونگے اور بولنے سے عاجز نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں۔ یہی لوگ فصاحت والے، فضیلت والے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے واقعات کو جاننے والے علماء ہیں۔ جب انہیں اللہ کی عظمت کا دھیان آتا ہے تو ان کی عقلیں اڑ جاتی ہیں ان کے دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ان کو اس کیفیت سے آفاقہ ہوتا ہے تو وہ پاکیزہ اعمال کے ذریعے سے اللہ کی طرف تیزی سے چلتے ہیں حالانکہ وہ عقلمند اور طاقتور ہوں گے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو کوتاہی کرنے والوں میں شمار کریں گے اور اسی طرح وہ نیک اور خطاؤں سے پاک ہوں گے لیکن اپنے آپ کو ظالم اور خطا کار لوگوں میں شمار کریں گے اور اللہ کے لیے زیادہ (اعمال اور قربانی) کو زیادہ نہیں سمجھیں گے اور اللہ کے لیے کم پر وہ راضی نہیں ہوں گے اور اعمال میں اللہ کے سامنے نخرے نہیں کریں گے۔ تم انہیں جہاں بھی ملو گے وہ اہتمام اور فکر سے چلنے والے، ڈرنے والے اور کپکپانے والے ہوں گے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں یہ باتیں ارشاد فرما کر حضرت ابن عباسؓ وہاں سے اٹھے اور اپنی مجلس میں واپس تشریف لے آئے۔ ۲

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اگر علم والے علم کی حفاظت کرتے اور جو علم کے اہل ہیں ان ہی کو علم دیتے تو اپنے زمانے والوں کے سردار ہو جاتے لیکن انہوں نے دنیا والوں کے سامنے اپنا علم

۱۔ اخرجه ابن عبد البر فی جامع العلم (ج ۱ ص ۱۲۶) و اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۲۵) عن علی

۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۲۵)

رکھ دیا تاکہ ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کر لیں اس وجہ سے علم والے دنیا والوں کی نگاہ میں بے قیمت ہو گئے میں نے تمہارے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو تمام فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کی کفایت فرمائیں گے اور جسے دنیاوی افکار نے پراگندہ کر دیا تو اللہ کو بھی اس بات کی پروا نہیں ہوگی کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو گیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ہمیں حضرت ابن عباسؓ کی طرف سے ان کا یہ ارشاد پہنچا کہ اگر حاطین علم، علم کو اس کے حق کے ساتھ لیتے اور اس کے مناسب جو آداب ہیں انہیں اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور نیک لوگ ان سے محبت کرتے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت ہوتی لیکن انہوں نے علم کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مبغوض بن گئے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی بے حیثیت ہو گئے۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں ایک زبردست فتنہ اٹھے گا جس میں کم عمر تو بڑھ جائے گا اور زیادہ عمر والا بوڑھا ہو جائے گا اور نئے طریقے ایجاد کر کے اختیار کر لیے جائیں گے اور اگر کسی دن انہیں بدلنے (اور صحیح اور مسنون طریقہ لانے) کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہنے لگیں گے یہ تو بالکل اجنبی اور اوپر طریقہ ہے۔ اس پر لوگوں نے پوچھا ایسا فتنہ کب ہوگا؟ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا جب تمہارے امین لوگ کم ہو جائیں گے اور تمہارے امراء و حکام زیادہ ہو جائیں گے اور تمہارے دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور تمہارے قرآن پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دین کے غیر یعنی دنیا کے لیے دینی علم حاصل کیا جائے گا اور آخرت والے عمل سے دنیا طلب کی جائے گی۔ ۳ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نئے طریقے گھڑے جائیں گے جس پر لوگ چلنے لگیں گے اور جب اس میں کچھ تبدیلی کی جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے ہمارا معروف طریقہ بدلا جا رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ تمہارے دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے اور تمہارے امراء و حکام خزانے بھرنے لگیں گے۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ یہ احادیث جن میں اصل یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے اگر انہیں کو دنیا کا سامان حاصل کرنے کے لیے سیکھے گا تو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پاسکے گا۔

حضرت عمرؓ نے حضرت کعبؓ (جو کہ تو رات کے بھی بڑے عالم تھے) سے پوچھا جب علماء علم

۱۔ اخروجه ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۳) و اخروجه ابن عبدالبر فی جامع العلم (ج ۱ ص

۱۸۷) عن ابن مسعود نحوه ۲۔ اخروجه ابن عبدالبر فی العلم (ج ۱ ص ۱۸۸)

۳۔ اخروجه عبدالرزاق کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۸۲) و اخروجه ابن عبدالبر فی العلم (ج ۱ ص ۱۸۸)

۴۔ اخروجه عبدالرزاق کذا فی الترغیب (ج ۱ ص ۸۲) و اخروجه ابن عبدالبر فی العلم (ج ۱ ص ۱۸۸)

۵۔ اخروجه ابن عبدالبر فی العلم (ج ۱ ص ۱۸۷)

کو یاد کر لیں گے اور اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر کون سی چیز ان کے دلوں سے علم کو لے جائے گی؟ حضرت کعب نے کہا دو چیزیں ایک تو دنیا کی لالچ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں لے جانا۔

ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو آخری زمانہ میں ہوں گے تو حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا اے علیؑ! یہ فتنے کب ہوں گے؟ فرمایا جب غیر دین یعنی دنیا کے لیے دینی علم حاصل کیا جائے گا اور عمل کے غیر یعنی عزت اور مال کے لیے علم سیکھا جائے گا اور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کی جائے گی۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دو آدمیوں سے ڈرتا ہوں ایک تو وہ آدمی جو قرآن کی غلط تفسیر کرے گا اور دوسرا وہ آدمی جو ملک کے بارے میں اپنے بھائی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں بصرہ کا وفد حضرت عمرؓ کے پاس آیا ان میں احنف بن قیس بھی تھے اور سب کو تو حضرت عمرؓ نے جانے دیا لیکن حضرت احنف بن قیس کو روک لیا اور انہیں ایک سال روک رکھا اس کے بعد فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں روکا تھا؟ میں نے اس وجہ سے روکا تھا کہ ہمیں حضور ﷺ نے ہر اس منافق سے ڈرایا جو عالمانہ زبان والا ہو مجھے ڈر ہوا کہ شاید تم بھی ان میں سے ہو لیکن (میں نے ایک سال رکھ کر دیکھ لیا کہ) انشاء اللہ تم ان میں سے نہیں ہو۔

حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس منافق سے بچو جو عالم ہو۔ لوگوں نے پوچھا منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ فرمایا بات تو حق کہے گا لیکن عمل منکرات پر کرے گا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس امت کو وہ منافق ہلاک کرے گا جو زبان کا علم ہوگا۔

حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق سے ہے جو عالم ہو۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المؤمنین! منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ زبان کا تو عالم ہوگا لیکن دل اور عمل کا جاہل ہوگا۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں ایسی جگہوں سے بچو جہاں کھڑے ہونے سے انسان فتنوں

۱۔ عند ابن عبد البر ایضا (ج ۲ ص ۶) عن ابی معن ۲۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الترغیب

(ج ۱ ص ۸۲) ۳۔ اخرجہ ابن عبد البر فی العلم (ج ۲ ص ۱۹۳) کما فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۳)

۴۔ اخرجہ ابن سعد و ابو یعلیٰ کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۲)

۵۔ اخرجہ البیهقی و ابن النجار ۶۔ عند جعفر الفریابی و ابی یعلیٰ و نصر و ابن عساکر

۷۔ عند مسعود جعفر الفریابی کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۳۳)

میں جتلا ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا اے ابو عبد اللہ! فتنوں کی یہ جگہیں کونسی ہیں؟ فرمایا امراء اور حکام کے دروازے۔ آدمی کسی حاکم یا گورنر کے پاس جاتا ہے اور غلط بات میں اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تعریف میں ایسی خوبیاں ذکر کرتا ہے جو اس میں نہیں ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جیسے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اونٹ ہوتے ہیں ایسے سلاطین کے دروازوں پر فتنے ہوتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تم ان سلاطین سے جتنی دنیا حاصل کر لو گے وہ سلاطین تمہارے دین میں اتنی کمی کر دیں گے یا اس سے دگنی کمی کر دیں گے۔

## علم کا چلا جانا اور اسے بھول جانا

حضرت عوف بن مالک اشجعیؓ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اس وقت مجھے وہ وقت بتایا گیا ہے جس میں علم اٹھالیا جائے گا۔ ابن لبید ثامی ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب علم کتابوں میں لکھ دیا جائے گا اور دل اسے سمجھ لیں گے اور محفوظ کر لیں۔ تو علم کیسے اٹھالیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا میں تو تمہیں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ سمجھدار آدمی سمجھتا تھا پھر حضور نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہود و نصاریٰ کے پاس اللہ کی کتاب ہے لیکن پھر بھی گمراہ ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر میری حضرت شداد بن اوسؓ سے ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت عوف بن مالکؓ والی حدیث انہیں سنائی۔ حضرت شدادؓ نے فرمایا حضرت عوفؓ نے ٹھیک کہا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو علم میں سب سے پہلے اٹھائی جائے گی؟ میں نے کہا ضرور فرمایا خشوع۔ یہاں تک کہ تمہیں کوئی خشوع والا نظر نہ آئے گا۔ ابن عبد البر کی روایت میں یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا جنہیں زیاد بن لبید کہا جاتا تھا یا رسول اللہ! علم ہم میں سے اٹھالیا جائے گا جبکہ ہم میں اللہ کی کتاب ہوگی اور ہم وہ اپنے بیٹوں اور عورتوں کو سکھائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت شداد نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ علم کے اٹھائے جانے کی کیا صورت ہوگی؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا فرمایا علم کے برتن یعنی علماء اٹھ جائیں گے اور کیا تم جانتے ہو کہ علم کی کونسی صفت اٹھالی جائے گی؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ فرمایا خشوع۔ کوئی خشوع والا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابوالدرداءؓ کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا یہ تورات

۱۔ اخرجہما ابن عبد البر فی العلم (ج ۱ ص ۱۶۷)

۲۔ اخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۹۹) قال الحاکم هذا صحيح وقد احتج الشيخان بجمع رواه وكذا قال اللہبی واخرجہ البزار والطبرانی فی الکبیر عن عوف نحوه كما فی مجمع الزوائد (ج ۱ ص ۲۰۰) واخرجہ ابن عبد البر فی العلم (ج ۱ ص ۱۵۲) بنحوہ.

۳۔ واخرجہ الحاکم ایضا من حدیث ابی الدرداء وابن لبید الانصاری والطبرانی فی الکبیر عن صفوان بن عسال ووحشی بن حرب كما فی المجمع بمعناه

اور انجیل یہود و نصاریٰ کے پاس ہے لیکن ان کے کس کام آ رہی ہے؟ حضرت وحشی کی روایت میں ہے کہ وہ یہود و نصاریٰ تورات و انجیل کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں اور حضرت ابن لبید کی روایت میں ہے کہ ان یہود و نصاریٰ کو تورات و انجیل سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے پوچھا تم لوگ جانتے ہو کہ اسلام کیسے کم ہوگا؟ لوگوں نے کہا جیسے کپڑے کا رنگ اور جانور کا موٹا پانچ کم ہو جاتا ہے اور زیادہ چھپائے اور دبائے رکھنے سے درہم کم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اسلام کے کم ہونے کی بھی یہی صورت ہوگی لیکن اس کے کم ہونے کی اس سے زیادہ بڑی وجہ علماء کا انتقال کر جانا اور دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت سعید بن مسیبؓ کہتے ہیں میں حضرت زید بن ثابتؓ کے جنازہ میں شریک تھا۔ جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اے لوگو! جو یہ جانتا چاہتا ہے کہ علم کیسے چلا جائے گا تو یہ علم اس طرح جائے گا اللہ کی قسم! آج بہت زیادہ علم چلا گیا۔ حضرت عمار بن ابی عمارؓ کہتے ہیں جب حضرت زید بن ثابتؓ کا انتقال ہوا تو ہم جمہور پیڑی کے سائے میں حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا اس طرح علم چلا جاتا ہے آج بہت زیادہ علم دفن ہو گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یوں علم چلا جاتا ہے ایک آدمی ایک چیز جانتا ہے اس چیز کو اور کوئی نہیں جانتا۔ جب یہ آدمی مر جاتا ہے تو جو علم اس کے پاس تھا وہ بھی چلا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم جانتے ہو علم کیسے جاتا ہے اس کے جانے کی صورت یہ ہے کہ علماء زمین سے چلے جائیں۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی علم سیکھ کر بھول جاتا ہے اس کی وجہ گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔

حضرت عبداللہؓ نے فرمایا علم کی آفت، اسے بھول جانا ہے۔

- 
- ۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۲۰۲) ورجالہ مولفون ۱۰  
 ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۲۰۲) ولیہ علی بن زید جد عان ولیہ ضعف ۱۰  
 ۳۔ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۱۷۷) ۲۔ عند ابن سعد ایضا  
 ۴۔ کذا فی المجمع (ج ۱ ص ۲۰۲) ۶۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی جامع العلم  
 (ج ۱ ص ۱۰۸) ۷۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۱) و اخرجہ الطبرانی فی الکبیر  
 ورجالہ مولفون الا ان القاسم لم یسمع من جدہ کما قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۹۹) و المنزوری فی  
 العریب (ج ۱ ص ۹۲)

## ایسے علم کا دوسروں تک پہنچانا جس پر خود عمل نہ کر رہا ہو اور نفع نہ دینے والے علم سے پناہ مانگنا

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں ہم سے حضرت حذیفہؓ نے فرمایا ہمیں یہ علم دیا گیا ہے۔ اب ہم یہ علم تم تک پہنچا رہے ہیں اگرچہ ہم اس پر خود عمل نہ کر رہے ہوں۔  
حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ینفع وقلب لا یخشع و نفس لا تشیع و دعاء لا یسمع اے اللہ! میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو سنی نہ جائے۔

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ کے ذکر کا کتنا شوق تھا اور وہ کس طرح صبح اور شام، دن رات، سفر اور حضر میں ذکر کی پابندی کرتے تھے اور وہ کس طرح دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا شوق دلاتے تھے اور ان کے اذکار کیسے تھے؟

## نبی کریم ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ترغیب دینا

حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے اتنے میں مہاجرین نے کہا جب سونے اور چاندی کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا (جس میں بتایا گیا کہ جو لوگ مال و دولت اکٹھی کریں اور زکوٰۃ وغیرہ نہ دیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں انہیں درد ناک عذاب ہوگا) تو اب ہمیں کس طرح پتہ چل جائے کہ کونسا مال بہتر ہے؟ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر کہو تو میں آپ لوگوں کو یہ بات حضور سے پوچھ دوں۔ انہوں نے کہا ضرور۔ حضرت عمرؓ حضور کی طرف چل دیئے۔ میں بھی اپنے اونٹ کو تیز دوڑاتا ہوا ان کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابھی سونے اور چاندی کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس پر مہاجرین کہہ رہے ہیں جب سونے اور چاندی کے بارے میں قرآن نازل ہو چکا تو اب ہمیں کسی طرح پتہ چل جائے کہ کونسا مال بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا تم اپنی زبان کو ذکر کرنے والا

۱۔ اخرجہ البیہقی وابن عساکر کذالی الكنز (ج ۷ ص ۲۴)

۲۔ اخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۳۰۱) قال الحاکم هذا حدیث صحیح ولم یخرجاه و قال اللہبی صحیح و اخرجہ ایضا من حدیث انس رضی اللہ عنہ و صححہ علی شرط مسلم

اور دل کو شکر کرنے والا بنا لو اور ایسی مومن عورت سے شادی کرو جو ایمان (والے کاموں) میں تمہاری مدد کرے دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ آخرت (والے کاموں) میں تمہاری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (سورت توبہ آیت ۳۴) ترجمہ ”جو لوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔“ اس کے بارے میں حضرت علیؑ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا ہلاکت ہو سونے کے لیے ہلاکت ہو چاندی کے لیے۔ یہ فرمان حضورؐ کے صحابہ پر بڑا گراں گزرا اور انہوں نے عرض کیا اب ہم کس چیز کو مال بنا کر اپنے پاس رکھیں؟ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا آگے پچھلی حدیث سے مختصر حدیث ذکر کی۔ ۲

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ مکہ کے راستہ میں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کا گدرا ایک پہاڑ کے پاس سے ہوا جسے حمد ان کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا چلتے رہو یہ حمد ان ہے مفردون آگے نکل گئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ ۳

ترمذی میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفردون کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر پر فریفتہ ہوں اور ذکر ان کے سارے بوجھ اتار دے گا اور وہ قیامت کے دن بالکل ہلکے پھلکے ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ۴

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ جا رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہاں ہیں آگے نکل جانے والے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کچھ لوگ آگے جا چکے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا (سفر میں آگے نکل جانا مراد نہیں ہے بلکہ) وہ آگے نکل جانے والے کہاں ہیں جو اللہ کے ذکر پر فریفتہ ہوں؟ جو جنت کے باغوں میں چرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ ۵

حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کون سے بندے سب سے افضل درجہ والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ (ج ۱ ص ۱۸۲) واخرجہ احمد والترمذی وحسنہ وابن ماجہ عن

ثوبان بمعناه ۲۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۵۱)

۳۔ اخرجہ مسلم ۴۔ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۵۹) واخرجہ الطبرانی عن ابی الدرداء بسباق الترمذی كما فی المجمع (ج ۱۰ ص ۷۵)

۵۔ اخرجہ الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۷۵) وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اه



اللہ کے راستہ میں غزوہ کرنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اگر غازی اپنی تلوار کفار اور مشرکین پر اتنی زیادہ چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ خود خون میں رنگا جائے تو بھی اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے اس سے درجے میں افضل ہوں گے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کسی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ عذاب سے نجات دینے والا ہو۔ کسی نے عرض کیا کہ کیا اللہ کے راستہ میں جہاد بھی اللہ کے ذکر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں سوائے اس کے کہ مجاہد اپنی تلوار اتنی چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے۔

حضرت معاذ بن انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے ایک آدمی نے پوچھا کون سا مجاہد سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کون سا نیک بندہ سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ پھر اس نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ میں سے ہر ایک عمل کا ذکر کیا۔ حضورؐ ہر ایک کے جواب میں یہی فرماتے رہے کہ جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا اے ابو حفص! ذکر والے تو ساری خیر لے گئے۔ حضورؐ نے فرمایا بالکل۔

حضرت عبداللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اسلام کے نقلی اعمال بہت زیادہ ہیں آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔

حضرت مالک بن یخامرؓ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا حضور ﷺ سے جدائی کے وقت میری جو آخری گفتگو حضورؐ سے ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے عرض کیا کونسا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ

۱۔ اخرجہ الترمذی قال الترمذی حدیث غریب واخرجه البيهقي مختصرا كذا في الترغيب ج ۳ ص ۵۶  
۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الصغیر والوسط قال المنذری ج ۳ ص ۵۶ والہیثمی (ج ۱ ص ۷۴) رجالہما رجال الصحیح واخرجہ الطبرانی عن معاذ بن جبل نحوه كما فی المجمع (ج ۱ ص ۷۳)

۳۔ واخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱ ص ۷۴) رواہ احمد الطبرانی الا انه قال ساله فقال ای المجاہدین اعظم اجرا وفيه زبان بن فائده وهو ضعيف وقيل لوق وكذا لك ابن لهيعة وبقية رجال احمد ثقات. انتهى

۴۔ اخرجہ الترمذی قال الترمذی حدیث حسن غریب واخرجہ الحاكم وقال صحیح الا سناد وابن ماجه وابن حبان فی صحیحہ كما فی الترغيب (ج ۳ ص ۵۴)

تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایزار کی روایت میں ہے کہ مجھے سب سے افضل اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب عمل بتائیں۔

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کا ذکر کی ترغیب دینا

حضرت عمرؓ نے فرمایا اپنے آپ کو انسانوں کے تذکرے میں مشغول نہ کرو کیونکہ یہ تو بلاء اور مصیبت ہے بلکہ اللہ کا ذکر اہتمام سے کرو۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ کا ذکر پابندی سے کرو کیونکہ یہ تو سراسر شفاء ہے اور انسانوں کے تذکرے سے بچو کیونکہ یہ سراسر بیماری ہے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو اللہ کے ذکر سے کبھی نہ اکتاتے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم صرف ایسے آدمی کے ساتھ رہو جو اللہ کے ذکر میں تمہاری مدد کرے (اصل یہ ہے کہ انسان اصول و آداب کے ساتھ سب سے مل جل کر رہے اور یہی افضل ہے اور جو صبر نہ کر سکے تو مجبوری کی وجہ سے الگ تھلگ رہا کرے)۔

حضرت سلمانؓ نے فرمایا اگر ایک آدمی رات بھر گوری چٹی پاندیاں تقسیم کرتا رہے اور دوسرا آدمی رات بھر قرآن پڑھتا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے تو یہ ذکر والا افضل ہوگا۔ حضرت حبیب بن عبید کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابوالدرداءؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمادیں حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا تم خوشی میں اللہ کو یاد رکھو اللہ تکلیف میں تمہیں یاد رکھے گا اور جب تمہارا دل دنیا کی کسی چیز کی طرف جھانکے تو تم اس میں غور کرو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، تمہارے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن کی لڑائی کرو اور وہ تم کو قتل کریں اور تم ان کو

۱۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۷۳) رواہ الطبرانی باسنادہ فی هذه الطريق خالد بن یزید بن عبدالرحمن بن ابی مالک وضعفه جماعة ووثقه ابو زرعة الدمشقی وغیره وبقیة رجالہ ثقات ورواہ البزار من غیر طریقہ واسنادہ حسن۔ انتہی وخرجه ابن ابی الدنيا وابن حبان فی صحیحہ کما فی الترغیب (ج ۳ ص ۵۵) وابن النجار کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۰۸)

۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا ۳۔ عند ابن ابی الدنيا ایضا واحمد فی الزهد وھناد کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۰۷) ۴۔ اخرجہ ابن المبارک کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۸)

۵۔ اخرجہ الیہقی کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۰۸) ۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۰۳) ۷۔ اخرجہ احمد کذا فی الصفوة (ج ۱ ص ۱۵۸)

قتل کرو اور درہم اور دینار تقسیم کرنے سے بھی بہتر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اے ابوالدرداء! وہ عمل کونسا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی نیکی ہے۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا جن لوگوں کی زبانیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہیں گی ان میں سے ہر آدمی جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔

حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا کسی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ نجات دینے والا نہیں؟ فرمایا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ولذکر اللہ اکبر (سورت عنکبوت آیت ۵۴) ترجمہ ”اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔“ ہاں اگر مجاہد اتنی تلوار چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے (تو یہ اس سے زیادہ نجات دینے والا ہے)۔

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے راستے میں تلواریں توڑ دینے سے اور مال لٹا دینے سے زیادہ افضل ہے۔

## نبی کریم ﷺ کا ذکر کرنے کا شوق

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتی رہے یہ مجھے اولاد اسماعیلؑ میں سے ایسے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے جن میں سے ہر ایک کا خون بہا بارہ ہزار ہو اور میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرتی رہے یہ مجھے اولاد اسماعیلؑ میں سے ایسے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے جس میں سے ہر ایک کا خون بہا بارہ ہزار ہو۔ ۵۔ احمد ابو یعلیٰ حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو عصر پڑھ کر بیٹھ جائے اور شام ہونے تک خیر کی باتوں کا املا کرے یہ اس آدمی سے افضل ہے جو اولاد اسماعیلؑ میں سے آٹھ غلام آزاد کرے اور ابو یعلیٰ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو صبح سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۹) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۹)  
 ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۵) ۴۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی  
 الكنز (ج ۱ ص ۲۰۷) ۵۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۵) ولیہ  
 محتسب ابو عائد وثقة ابن حبان و ضعفہ غیرہ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۵) ولیہ روایة ابی یعلیٰ  
 یزید الرقاشی ضعفہ الجمهور وقد وثق وفي رواية احمد لم يذكر یزید الرقاشی اه  
 ۶۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط باسانید ضعیفة کذا فی مجمع الزوائد (ج ۱۰ ص ۱۰۵)

حضرت سہل بن سعد ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں صبح کی نماز میں شریک ہو کر سورج نکلنے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سورج نکلنے تک اللہ کے راستے میں (مجاہدوں کو) عمدہ گھوڑے دیتا رہوں۔ ۱

حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں صبح کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک (اللہ کے ذکر کے لیے) بیٹھا رہوں یہ مجھے اولاد اسمعیلؑ میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ بزار اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں یہ مجھے اللہ کے راستے میں سورج نکلنے تک گھوڑا دوڑانے سے زیادہ محبوب ہے۔ ۲

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ ۳

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں فجر کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں اور اللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ کہتا رہوں یہ مجھے اولاد اسماعیلؑ میں سے دو غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک یہ کلمات کہتا رہوں یہ مجھے اولاد اسماعیلؑ میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہوں اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وسبحان اللہ کہتا رہوں یہ مجھے اولاد اسماعیلؑ میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور عصر کی نماز سے لے کر سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیلؑ میں سے اتنے اور اتنے غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ۴

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا

### ذکر کرنے کا شوق

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح سے لے کر شام تک سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک سارا دن لوگوں

۱۔ أخرجه البزار ۲۔ قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۶) رواه البزار والطبرانی ولفی اسنادہما  
 محمد بن ابی حمید وهو ضعیف. انتہی  
 ۳۔ أخرجه مسلم والترمذی کذالی  
 الترغیب (ج ۳ ص ۸۳) ۴۔ أخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۴) رواه کله  
 احمد والطبرانی بنحو الروایة الثانية و اسانیدہ حسنة. انتہی

کو سواری کے لئے عمدہ گھوڑے دیتا رہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور بات کرنے سے بہت گرائی ہوتی تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صبح صادق سے لے کر فجر کی نماز تک کسی کو بات کرتے ہوئے سنتے تو اس سے ان کو بہت گرائی ہوتی طبرانی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عطاءؓ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ باہر آئے تو دیکھا کہ فجر کے بعد کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں انھوں نے ان لوگوں کو بات کرنے سے منع کیا اور فرمایا تم لوگ یہاں نماز کے لئے آئے ہو، اس لئے یا تو نماز پڑھو یا چپ رہو۔ ۳۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا سو دفعہ اللہ اکبر کہنا مجھے سو دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ۴۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبح سے لے کر رات تک اللہ کا ذکر کرنا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح سے لے کر رات تک اللہ کے راستہ میں (مجاہدوں کو) عمدہ گھوڑے سواری کے لئے دیتا رہوں۔ ۵۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے انھوں نے لوگوں کو فصیح اور بلیغ باتیں کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اے انس! مجھے ان لوگوں سے کیا تعلق؟ آؤ ہم اپنے رب کا ذکر کریں کیونکہ یہ لوگ تو اپنی زبان سے کھال ادھیڑ دیں گے۔ اس کے بعد آگے ویسی حدیث ذکر کی جیسی آخرت پر ایمان لانے کے باب میں گزر چکی ہے۔ ۶۔

حضرت معاذ بن عبد اللہ بن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مجلس میں تھا جس میں حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن جعفر اور حضرت عبد اللہ بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ حضرت ابن ابی عمیرہ نے فرمایا میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کلمے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک تو عرش تک پہنچ کر ہی رکتا ہے اس سے پہلے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور دوسرا زمین آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیتا ہے اور وہ ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابن عمرؓ نے حضرت ابن ابی عمیرہؓ سے کہا کیا آپ نے خود ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا؟

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۷۵) رواہ الطبرانی من طریق القاسم عن جدہ ابن

مسعود ولم یسمع منہ ۲۔ رواہ الطبرانی من طریق القاسم قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۱۹) وابو

عبیدہ لم یسمع من ابیہ وبقیۃ رجالہ لقات ۳۔ قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۱۹) وعطاء لم یسمع

من ابن مسعود وبقیۃ رجالہ لقات ۱ ۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۹)

۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۵)

۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۵۹)

انہوں نے کہا جی ہاں اس پر حضرت ابن عمر اتار دئے کہ آنسوؤں سے ان کی ڈاڑھی تر ہو گئی (انہیں اس بات کا غم تھا کہ مجھے اب تک حضورؐ کی یہ بات معلوم کیوں نہیں تھی) پھر فرمایا ہمیں ان دونوں کلمات سے بہت تعلق اور محبت ہے۔

حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ذات عرق مقام سے احرام باندھا اور پھر احرام کھولنے تک ہم نے انہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ احرام کھول کر مجھ سے فرمایا اے بھتیجے! احرام اس طرح ہوا کرتا ہے۔

## اللہ کے ذکر کی مجلس

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے عنقریب حشر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کرم والے کون ہیں؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! کرم والے کون ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا ذکر کی مجلسوں والے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا یہ لشکر بہت سا مال غنیمت لے کر جلد ہی واپس آ گیا۔ ایک آدمی جو اس لشکر کے ساتھ نہیں گیا تھا اس نے کہا ہم نے اس جیسا کوئی لشکر نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ مال غنیمت لے کر اتنی جلدی لوٹ آیا ہو۔ حضورؐ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتا دوں جو ان سے زیادہ مال غنیمت لے کر ان سے بھی زیادہ جلدی واپس آ گئے ہوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں شریک ہو کر پھر اپنی جگہوں میں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ان سے زیادہ مال غنیمت لے کر ان سے بھی زیادہ جلدی واپس آ گئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز پڑھیں پھر اپنی جگہوں میں بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں پھر دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس جائیں یہ ہیں وہ لوگ جو ان سے زیادہ مال غنیمت لیکر ان سے زیادہ جلدی واپس آ گئے ہیں۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال المنذری فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۳) رواہ الی معاذ بن عبداللہ ثقات سوی ابن لہیعہ و لحدیثہ ہذا شواہد وقال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۸۶) و معاذ بن عبداللہ لم اعرفہ وابن لہیعہ حدیثہ حسن و بقیہ رجالہ ثقات ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۷ ص ۲۲)

۳۔ اخرجہ احمد و ابو یعلیٰ و ابن حبان فی صحیحہ و البہقی و غیر ہم کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۶۳) قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۷۶) رواہ احمد باسنادین واحدہما حسن و ابو یعلیٰ کذلک

۴۔ اخرجہ ابن زنجویہ و الترمذی قال الترمذی غریب لانعرفہ الا من ہذا الوجه و فیہ حماد بن ابی حمید ضعیف کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۸) و اخرجہ البزار عن ابی ہریرہ بمعناہ و فی روائہ فقال ابو بکرؓ یا رسول اللہ مارا یناہ بعثا قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۷) و فیہ حمید مولیٰ ابن علقمہ و هو ضعیف. ۵۱

حضرت عبدالرحمن بن ہبل بن حنیف فرماتے ہیں حضور ﷺ اپنے ایک گھر میں تھے آپ پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ آخِثِينَ (سورت کہف آیت ۲۸) ترجمہ ”اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام (یعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔“ حضور ان کو تلاش کرنے نکلے تو دیکھا کہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کی کھالیں خشک ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیئے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم دیا۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کا حضرت عبداللہ بن رواحہؓ پر گزر ہوا وہ اپنے ساتھیوں میں بیان کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا غور سے سنو تم لوگ ہی وہ جماعت ہو جن کے پاس بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ سے لے کر وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا تک غور سے سنو تم لوگ جتنے بیٹھے ہو اتنے ہی تمہارے ساتھ فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر تم سبحان اللہ کہو گے تو وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے اور اگر تم الحمد للہ کہو گے تو وہ بھی الحمد للہ کہیں گے اگر تم اللہ اکبر کہو گے تو وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے پھر (مجلس ختم ہو جانے پر) وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر چلے جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب! تیرے بندے سبحان اللہ کہتے رہے تو ہم بھی سبحان اللہ کہتے رہے اور وہ الحمد للہ کہتے رہے تو ہم بھی الحمد للہ کہتے رہے اور وہ اللہ اکبر کہتے رہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے رہے اور وہ الحمد للہ کہتے رہے تو ہم بھی الحمد للہ کہتے رہے پھر ہمارے رب فرمائیں گے اے میرے فرشتو! میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ ان میں تو فلاں فلاں خطا کار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

حضرت ثابت بنائی کہتے ہیں حضرت سلمانؓ ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے حضور ﷺ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ذکر کرتے رہو کیونکہ میں نے آپ لوگوں پر رحمت کو اتارتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس رحمت میں شامل ہو جاؤں پھر فرمایا تمام تعریفیں

۱۔ اخروجه الطبرانی كذا في الضمير لابن كثير (ج ۳ ص ۸۱) ۲۔ اخروجه الطبرانی فی

الصغير قال الهیثمی (ج ۱ ص ۷۶) ولیہ محمد بن حماد الکوفی وهو ضعيف اه

اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بہت سی جماعتیں مقرر فرما رکھی ہیں جو کہ زمین پر اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں اترتی ہیں اور ان کے پاس ٹھہرتی ہیں، لہذا تم جنت کے باغوں میں چرا کرو۔ صحابہؓ نے پوچھا جنت کے باغ کہاں ہیں حضور نے فرمایا ذکر کی مجلس (جنت کے باغ ہیں) صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے نزدیک اللہ کا کیا مرتبہ ہے؟ کیونکہ بندہ اللہ کو اپنے نزدیک جو درجہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاں اس بندے کو وہی درجہ دیتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو بیٹھ جاتے اور سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔

حضرت عبد اللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ذکر کی مجلسوں کا ثواب کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا ذکر کی مجلسوں کا ثواب، جنت ہے جنت۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ذکر کی مجلسیں علم کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہیں اور یہ مجلسیں دلوں میں خشوع پیدا کرتی ہیں۔

## مجلس کا کفار

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھ لیتے تو کچھ کلمات پڑھا کرتے۔ میں نے حضور سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ان کلمات کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی نے اگر خیر کی بات کی ہو تو یہ کلمات اس پر قیامت کے دن تک کے لیے مہر بن جائیں گے اور اگر بری باتیں کی ہوں تو یہ کلمات ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں اور وہ کلمات یہ

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۳۲) ۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا و ابو یعلیٰ و البزار و الطبرانی و الحاکم و صحیحہ و البیہقی قال المنذری فی الترغیب (ج ۳ ص ۶۵) فی اسانید ہم کلھا عمر مولیٰ غفرۃ و یاتی الکلام علیہ و بقیۃ اسانید ہم ثقات مشہورون یحتج بہم و الحدیث حسن۔ ۱۰۔ قال الہیثمی (ج ۱ ص ۷۷) یوفیہ عمر بن عبداللہ مولیٰ غفرۃ و قد وثقہ غیر واحد و ضعفہ جماعة و بقیۃ رجالہم رجال الصحیح۔ ۱۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الصغیر قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۰۷) رجالہ ثقات و هو فی الصحیح غیر قولہ یذکر اللہ۔ ۱۲۔ اخرجہ الطبرانی و اسناد احمد اللہ کما قال الہیثمی (ج ۱ ص ۷۸) و المنذری (ج ۳ ص ۶۵)۔ ۱۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۰۸)



ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ترجمہ "اے اللہ! میں تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔"

حضرت ابو بزرہ اسلمیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک اشہدان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ! آپ کچھ کلمات پڑھتے ہیں پہلے تو آپ یہ کلمات نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا مجلس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ کلمات ان کے لیے کفارہ ہیں۔ طبرانی نے حضرت رافع بن خدیج سے اس جیسی حدیث ذکر کی ہے اس میں واتوب الیک کے بعد یہ کلمات بھی ہیں عملت سوء او ظلمت نفسی فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت ترجمہ "اور میں نے جو بھی برا کام کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا تو اسے معاف کر دے تیرے سوا اور کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔" ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کلمات آپ نے ابھی کہنے شروع کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا جی ہاں حضرت جبرائیلؑ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ کلمات مجلس کا کفارہ ہیں۔

حضرت زبیر بن عوامؓ فرماتے ہیں ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے تو ہم زمانہ جاہلیت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا جب تم ایسی مجلسوں میں بیٹھو جن میں تمہیں اپنے بارے میں ڈر ہو (کہ تم سے غلط باتیں ہو گئی ہوں گی) تو اٹھتے وقت یہ کلمات پڑھ لیا کرو سبحانک اللہم وبحمدک نشہدان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اس مجلس میں جو کچھ ہوا ہو گا یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی کسی حق کی یا باطل کی مجلس سے اٹھتے وقت ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھ لے گا تو یہ کلمات اس کی طرف سے (اس مجلس کی تمام غلطیوں کا) کفارہ ہو جائیں گے اور اگر (اس مجلس میں اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو بلکہ وہ مجلس خیر کی اور ذکر کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعہ ایسے مہر لگا دیتے ہیں جیسے انگوٹھی سے لکھی ہوئی تحریر پر لگائی جاتی ہے پھر آگے حضرت عائشہؓ جیسی حدیث ذکر کی۔

۱۔ اخرجه ابن ابی الدنيا والنسائی واللفظ لهما والحاكم والبیہقی

۲۔ عند ابی داؤد واخرجه النسائی ایضا واللفظ له والحاكم وصححه والطبرانی فی الثلاثة

مختصر باسناد جید عن رافع بن خدیج نحوه حدیث ابی بزرہ

۳۔ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۷۲)

۴۔ اخرجه الطبرانی فی الصغیر والا وسط قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۲۲) یوفیه من لم اعرفه

۵۔ اخرجه ابوداؤد وابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۷۲)

## قرآن مجید کی تلاوت

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ اور وصیت فرمادیں۔ آپؐ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کو ضروری سمجھو کیونکہ تلاوت زمین پر تمہارے لیے نور اور آسمان میں تمہارے لیے ثواب کا ذخیرہ ہے۔

حضرت اوس بن حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ہم قبیلہ ثقیف کا وفد بن کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم میں سے جو اعلیٰ تھے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے ہاں ٹھہرے اور مانگی حضرات کو حضورؐ نے اپنے خیمہ میں ٹھہرایا حضورؐ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور ہم سے (کھڑے کھڑے) باتیں کرتے اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپؐ (تھک جاتے اور) باری باری دونوں پاؤں پر آرام فرماتے زیادہ تر آپؐ قریش کی شکایت کرتے اور فرماتے مکہ میں ہمیں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ جب ہم مدینہ آگئے تو ہم نے ان سے بدلہ لینا شروع کر دیا اور لڑائیوں میں کبھی وہ جیتتے اور کبھی ہم۔ حضورؐ روزانہ جس وقت ہمارے پاس تشریف لاتے ایک رات اس سے دیر سے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ روزانہ جس وقت ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے آج اس سے دیر سے تشریف لائے ہیں (اس کی کیا وجہ ہے؟) آپؐ نے فرمایا میں نے قرآن کی ایک مقدار روزانہ پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے وہ آج کسی وجہ سے پوری نہ ہو سکی اس لیے میں نے چاہا کہ اسے پورا کر کے پھر آپؐ لوگوں کے پاس آؤں۔ اگلے دن صبح کو ہم نے حضورؐ کے صحابہؓ سے پوچھا کہ انہوں نے قرآن ختم کرنے کے کتنے حصے بنا رکھے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ (قرآن ختم کرنے کے کیلئے سات حصے بنا رکھے ہیں) پہلے حصے میں سورت فاتحہ کے بعد والی تین سورتیں، دوسرے حصے میں اس کے بعد والی پانچ سورتیں، تیسرے حصے میں اس کے بعد والی سات سورتیں، چوتھے حصے میں اس کے بعد والی نو سورتیں، پانچویں حصے میں اس کے بعد والی گیارہ سورتیں، چھٹے حصے میں اس کے بعد والی تیرہ سورتیں اور ساتویں حصے میں مفصل والی سورتیں۔ ۲۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اسے پورا کیے بغیر میں آ جاؤں اسے میں نے اچھا نہ سمجھا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ مکہ اور مدینہ کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے حضورؐ سے اندر آنے کی اجازت مانگی حضورؐ نے فرمایا روزانہ میں جتنا

۱۔ اخرجه ابن حبان فی حدیث طویل کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۸)

۲۔ اخرجه الطیالسی و احمد و ابن جریر و الطبرانی و ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۴۲) و اخرجه ابو

داؤد (ج ۲ ص ۳۱۰) عن اوس بن حذیفہ بنحوه مطولا

قرآن پڑھتا تھا آج رات وہ رہ گیا ہے اس پر میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتا (میں وہ پڑھ رہا ہوں اس لیے ابھی اجازت نہیں ہے)۔

حضرت ابو سلمہؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ حضرت ابو موسیٰؓ سے فرمایا کرتے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ تو حضرت ابو موسیٰؓ قرآن پڑھ کر سنایا کرتے۔

حضرت حبیب بن ابی مرزوقؓ کہتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ بعض دفعہ حضرت عمر بن خطابؓ حضرت ابو موسیٰؓ سے فرمایا کرتے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ تو حضرت ابو موسیٰؓ قرآن پڑھا کرتے۔ وہ بہت اچھی آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو نضرہؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰؓ سے فرمایا ہمیں ہمارے رب کا شوق دلاؤ وہ قرآن پڑھنے لگے۔ لوگوں نے کہا نماز۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا ہم نماز میں نہیں ہیں؟

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ جب گھر تشریف لے جاتے تو قرآن کھول کر اسے پڑھا کرتے۔

حضرت عثمانؓ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دن یا رات آئے میں اس میں قرآن دیکھ کر پڑھا کروں۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم اپنے رب کے کلام سے کبھی بھی سیر نہ ہوتے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا آئے جس میں میں دیکھ کر قرآن نہ پڑھوں، چنانچہ حضرت عثمانؓ دیکھ کر اتنا زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ ان کے انتقال سے پہلے ہی ان کا قرآن پھٹ گیا تھا۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہمیشہ دیکھ کر قرآن پڑھا کرو۔ حضرت حبیب بن شہیدؓ کہتے ہیں کہ حضرت نافعؓ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابن عمرؓ اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا جو وہ کیا کرتے تھے لوگ اسے نہیں کر سکتے وہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے اور ہر دو نمازوں کے درمیان قرآن پڑھا کرتے۔ حضرت ابن ابی ملیکہؓ کہتے ہیں حضرت عکرمہ بن ابی جہلؓ قرآن لے کر اپنے چہرے پر رکھا کرتے اور رونے لگ جاتے اور فرماتے یہ میرے رب کا کلام ہے یہ میرے رب کی کتاب ہے۔

۱۔ اخرجہ ابن ابی داؤد فی المصاحف کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۶) ۲۔ اخرجہ ابو

نعیم فی الطیق (ج ۱ ص ۲۵۸) و اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۱۰۹) عن ابی سلمة نحوه

۳۔ اخرجہ ابن ابی داؤد کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۳) ۴۔ اخرجہ احمد فی الزهد وابن

عساکر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۵) ۵۔ عند احمد وابن عساکر ایضا کذا فی

الکنز (ج ۱ ص ۲۱۸) ۶۔ عند البیہقی فی الاسماء والصفات (ص ۱۸۲)

۷۔ اخرجہ ابن ابی داؤد فی المصاحف کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۶)

۸۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۳۳) قال الذہبی مرسل

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا جو نبی ﷺ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بازار سے اپنے گھر واپس آئے تو اسے چاہئے کہ وہ قرآن کھول کر پڑھا کرے کیونکہ اسے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں لکھیں گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آتم پر دس نیکیاں ملیں گی بلکہ الف پر دس نیکیاں ملیں گی اور لام پر دس اور میم پر دس۔

## دن اور رات میں، سفر اور حضر میں قرآن کی سورتیں پڑھنا

حضرت عقبہ بن عامرؓ جہنیؓ فرماتے ہیں میری حضور ﷺ سے ملاقات ہوئی تو حضور نے مجھے فرمایا اے عقبہ بن عامر! جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو جو تمہیں محروم رکھے (اور تمہیں نہ دے) تم اسے دو اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اس کے بعد میری حضور سے پھر ملاقات ہوئی تو مجھ سے فرمایا اے عقبہ بن عامر! کیا میں تمہیں چند ایسی سورتیں نہ سکھا دوں کہ ان جیسی سورتیں اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کسی میں بھی نازل نہیں فرمائیں اور میں ہر رات انہیں ضرور پڑھتا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ جب سے حضور ﷺ نے مجھے ان سورتوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس وقت سے میں ہر رات ان کو ضرور پڑھتا ہوں اور جب حضور نے مجھے ان کے پڑھنے کا حکم دیا ہے تو مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ انہیں نہ چھوڑوں۔ ۳۱ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ جب رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے اوپر دم کرتے اور جہاں تک ہو سکتا دونوں ہاتھ سارے جسم پر پھیرتے اپنے سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے اس کی ابتداء فرماتے اور اس طرح تین مرتبہ فرماتے۔ ۳۲ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ جب بستر پر تشریف لاتے تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور معوذتین (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور انہیں چہرے، بازو، ہینے اور جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے پھیرتے۔ جب حضور کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کروں۔ ۳۳

۱۔ اخرجہ ابن ابی داؤد ۲۔ عند ابن ابی داؤد ایضاً فی رواية اخرى وفي اسانيد هما ثوبير

مولی جعدہ ابن ہبیرہ کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۹)

۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۳) ۴۔ اخرجہ النسائی

۵۔ عند ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۶۸) وعزاه فی جمع القوائد قرآن الی الستة الا النسائی

بمعنی حلیث ابن النجار الا انه قال المعوذات وقل هو الله احد

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب تک الّسم تنزّیل اور تبارک الذی بیدو الملک دونوں سورتیں پڑھ لیتے نہ سوتے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں یہ دونوں سورتیں قرآن کی ہر سورت پر ستر نیکیاں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت عریاض بن ساریہ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب بستر پر لیٹتے تو سونے سے پہلے مسلمات پڑھتے یعنی وہ سورتیں پڑھتے جن کے شروع میں سبح یا سبح آتا ہے اور حضور نے فرمایا ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تک حضور ﷺ سورت زمر اور سورت بنی اسرائیل پڑھ نہ لیتے سویا نہ کرتے۔ حضرت فروہ بن نوفل فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا قل یا ایہا الکفرون پڑھا کرو کیونکہ اس سورت میں شرک سے بیزاری ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آدمی کے پاس اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آئیں گے وہ پاؤں کی طرف سے آئیں گے تو پاؤں کہیں گے تمہارے لیے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ سورت ملک پڑھا کرتا تھا پھر وہ سینے کی طرف سے آئیں گے تو سینہ کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ سر کی طرف سے آئیں گے تو سر کہے گا تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ یہ سورت مانع ہے۔ یہ عذاب قبر کو روکتی ہے۔ اور تورات میں ہے کہ جس نے کسی رات میں اس سورت کو پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب حاصل کیا اور بہت عمدہ کام کیا۔ ۵۔ نسائی میں حدیث مختصر ہے اور ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ جو ہر رات نبارک الذی بیدو الملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائے گا اور ہم لوگ اسے حضور ﷺ کے زمانے میں مانع کہا کرتے تھے یعنی عذاب قبر کو روکنے والی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ ہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ جو اسے ہر رات پڑھے گا وہ بہت زیادہ ثواب کمانے والا اور بہت عمدہ کام کرنے والا ہوگا۔ ۶۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا جو شخص سورت بقرہ، سورت آل عمران اور سورت نساء کسی رات میں پڑھے گا اسے قاتلین یعنی فرمانبرداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ ۷۔ حضرت جبیر بن مطعمؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے جبیر! کیا تم یہ پسند کرتے

۱۔ اخرجه الترمذی کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۷۶)

۲۔ اخرجه الترمذی و ابو داؤد ۳۔ عند الترمذی و فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۶۰)

۴۔ عند الترمذی ایضا (ج ۲ ص ۱۷۶) ۵۔ اخرجه الحاكم قال الحاكم صحيح الاسناد

۶۔ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۳۸) و اخرجه البیهقی فی کتاب عذاب القبر عن ابن مسعود بطوله

کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۳) ۷۔ اخرجه ابو عبیدہ و سعید بن منصور و عبد بن

حمید و البیهقی فی شعب الایمان کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۲)

ہو کہ جب تم سفر میں جایا کرو تو تمہاری حالت سب سے اچھی اور تمہارا توشہ سب سے زیادہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہ پانچ سورتیں پڑھا کرو قل یا ایہا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ والفتح، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہر سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو (اس طرح سورتیں پانچ ہوں گی اور بسم اللہ چھ مرتبہ ہوگی) حضرت جب فرماتے ہیں حالانکہ میں غنی اور مالدار تھا لیکن جب میں سفر میں جایا کرتا تھا تو میں سب سے زیادہ خستہ حالت والا اور سب سے کم توشہ والا ہوتا تھا تو جب مجھے حضور نے یہ سورتیں سکھائیں اور میں نے انہیں پڑھنا شروع کیا تو میں سب سے اچھی حالت والا اور سب سے زیادہ توشہ والا ہو گیا اور پورے سفر میں واپسی تک میرا یہی حال رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن خبیب فرماتے ہیں ایک رات بہت زیادہ بارش ہوئی تھی اور سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا ہم لوگ حضور ﷺ کو تلاش کرنے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھادیں آخر آپ ہمیں مل گئے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے کچھ نہ کہا آپ نے دوبارہ فرمایا کہ میں نے کچھ نہ کہا آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا صبح اور شام تین مرتبہ قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھا کرو ان کا پڑھنا ہر چیز سے کفایت کرے گا۔

حضرت علیؑ نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا چاہے شیطان کتنا ہی زور لگائے۔

## دن اور رات میں سفر اور حضر میں قرآنی آیات کا پڑھنا

حضرت علیؑ فرماتے ہیں میں نے اس منبر کی لکڑیوں پر حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی اور جو اسے بستر پر لیٹتے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر پر اس کے پڑوسی کے گھر پر اس کے ارد گرد کے چند اور گھروں پر امن عطا فرمائیں گے۔

حضرت علیؑ نے فرمایا مجھے ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آتا جو پیدائشی مسلمان ہو یا بالغ ہو کر مسلمان ہوا ہو اور اس آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم کو پڑھے بغیر رات گزارتا ہو کاش کہ آپ لوگ

۱۔ اخرجه ابو يعلى الهيثمي (ج ۱۰ ص ۱۳۳) بوليه من لم اعرفهم ۱۰

۲۔ اخرجه ابو داؤد والترمذی والنسائی بالا سانيد الصحیحہ قال الترمذی حدیث حسن صحیح

کذا فی الا ذکار للنووی (ص ۹۶) ۳۔ اخرجه سعید بن منصور وابن الفریس کذا فی

الکنز (ج ۱ ص ۲۲۳) ۴۔ اخرجه البیهقی فی شعب الایمان قال البیهقی اسنادہ

ضعیف کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۲۱)

جان لیتے کہ اس آیت کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ یہ آیت آپ لوگوں کے نبی کو اس خزانے سے دی گئی ہے جو عرش کے نیچے ہے اور آپ لوگوں کے نبی سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور میں اسے ہر رات تین مرتبہ پڑھ کر سوتا ہوں۔ عشاء کے بعد کی دو رکعتوں میں اور وتر میں بھی اسے پڑھتا ہوں اور بستر پر لیٹتے وقت بھی پڑھتا ہوں۔ ۱۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا عاقل بالغ آدمی نہیں دیکھا جو سورت بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھے بغیر سو جاتا ہو کیونکہ یہ آیتیں اس خزانے سے آئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ ۲۔  
حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں جو آدمی رات کو سورت آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا اس کے لیے رات بھر کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ ۳۔

حضرت شعبیؒ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا جو رات کو کسی گھر میں سورت بقرہ کی دس آیتیں پڑھے گا اس گھر میں صبح تک کوئی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ وہ دس آیتیں یہ ہیں سورت بقرہ کی شروع کی چار آیتیں، آیت الکرسی، اس کے بعد کی دو آیتیں اور سورت بقرہ کی آخری تین آیتیں۔ ۴۔

حضرت ابی بن کعبؓ کے کھلیان میں کچھوریں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ان کی نگرانی کرتے تھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ کچھوریں کم ہو رہی ہیں تو انہوں نے ایک رات ان کچھوروں کا پہرہ دیا تو انہوں نے ایک جانور دیکھا جو بالغ لڑکے جیسا تھا فرماتے ہیں میں نے اسے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا جنات کی شکل و صورت ایسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات کو معلوم ہے کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے (کھلیان سے کچھوریں چرانے کا کام) کیوں کیا؟ اس نے کہا ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا بہت پسند ہے تو ہم نے چاہا کہ ہمیں بھی آپ کی کچھ کچھوریں مل جائیں۔ میں نے کہا کونسی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ہماری تم لوگوں سے حفاظت ہو جائے؟ اس نے کہا یہ آیت الکرسی جو سورت بقرہ میں ہے جو اسے شام کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے محفوظ رہے گا اور جو اسے صبح کو پڑھے گا وہ شام تک ہم سے محفوظ رہے گا۔ صبح کو حضرت ابیؓ نے جا کر یہ سارا واقعہ حضور ﷺ کو بتایا تو حضور نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ ۵۔

۱۔ اخرجہ ابو عبید فی فضائلہ وابن ابی شیبہ والدارمی وغیرہم کذافی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۱)  
۲۔ اخرجہ الدارمی ومسلو د محمد بن نصر وابن الفریس وابن مردودہ کذافی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۲) ۳۔ اخرجہ الدارمی کذافی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۲)  
۴۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۱۸) رجالہ رجال الصحیح الا ان الشعبی لم یسمع من ابن مسعود۔ انتہی ۵۔ اخرجہ النسائی والحاکم والطبرانی وابو نعیم والبیہقی مع فی الدلائل ومسعود بن منصور وغیرہم کذافی الكنز (ج ۱ ص ۲۲۱) وقال  
الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۱۸) رواہ الطبرانی ورجالہ لقات

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں سے چلا اور رات کو زمین کے ایک خاص ٹکڑے میں پہنچا تو اس علاقے کے جنات میرے پاس آگئے اس پر میں نے سورت اعراف کی یہ آیت آخر تک پڑھی اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اٰخِرَتِكَ (سورت اعراف آیت ۵۴) ترجمہ ”بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا۔ چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آلتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔“ اس پر ان جنات نے ایک دوسرے سے کہا اب تو صبح تک اس کا پہرہ دو (چنانچہ انہوں نے ساری رات میرا پہرہ دیا) صبح کو میں سواری پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔

حضرت علاء بن لبلج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں سے کہا جب تم مجھے قبر میں رکھنے لگو تو بسم اللہ وعلیٰ ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مجھے قبر میں رکھنا اور میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور میرے سرہانے سورت بقرہ کی شروع کی اور آخر کی آیتیں پڑھنا کیونکہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ ایسا کرنے کو بہت پسند کرتے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بہت بڑے اور مکمل پیمانے میں تولا جائے تو وہ یہ آیتیں تین مرتبہ پڑھے سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (سورت صافات آیت ۱۸۰) ترجمہ ”آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ (کافر) بیان کرتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اس کے تمام کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے۔

## کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قیامت کے دن لوگوں میں سے کسے آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی؟ حضور نے فرمایا

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۳) وفيه المسيب بن واضح وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح انتهى

۲۔ اخرجہ ابن عساکر کذافی الکنز (ج ۸ ص ۱۱۹)

۳۔ اخرجہ ابن زنجويه فی ترغیبه کذافی الکنز (ج ۱ ص ۲۲۲)

۴۔ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۸) رجاله ثقات الا ان عبد الله لم يسمع من ابن عوف. ۵۱



چونکہ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں احادیث حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے اس وجہ سے میرا خیال یہی تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جو لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضورؐ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ انسان کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے۔<sup>۱</sup>

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضورﷺ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد سکھا دیں جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انھوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار! یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا اے میرے رب! میں تو کوئی ایسی خاص چیز مانگتا ہوں جو مجھ ہی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔<sup>۲</sup> اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ انہیں آباد کرنے والے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔<sup>۳</sup>

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضورﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی؟ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے! میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں میں لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے آسمان اور زمینیں رکھ دی جائیں تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر سارے آسمان ایک حلقہ بن جائیں تو بھی یہ کلمہ انہیں توڑ کر آگے چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا اور دوسری وصیت یہ کرتا ہوں کہ سبحان اللہ العظیم وجمہہ کہا کرو کیونکہ یہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ان کو رزق دیا جاتا ہے اور فرمایا تمہیں دو باتوں سے روکتا ہوں ایک شرک دوسرا تکبر کیونکہ یہ دونوں بری صفات اللہ

۱۔ اخرجہ البخاری کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۷۳)

۲۔ عند الطبرانی فی الاوسط کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۷۴)

۳۔ اخرجہ النسائی وابن حبان فی صحیحہ والحاکم و صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۷۵) و

اخرجہ ابو یعلیٰ عن ابی سعید نحوہ ۴۔ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۸۲) ورجاله وثقوا و فیہم ضعف

سے روک دیتی ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا یہ بات تکبر میں سے ہے کہ آدمی کھانا تیار کرے اور اس کھانے پر ایک جماعت کو بلائے اور انہیں کھلائے یا صاف سحرے کپڑے پہنے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ دونوں باتیں تکبر میں سے نہیں ہیں۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم مخلوق کو بے وقوف بناؤ اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب ایک حلقہ بن جائے اور ان پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان سب کو توڑ دے گا۔

حضرت یعلیٰ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے جب مجھے یہ واقعہ بیان کیا اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اور وہ میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی اجنبی آدمی اہل کتاب میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا کوڑا بند کر دو۔ اس کے بعد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے (اور کلمہ طیبہ پڑھا) پھر فرمایا الحمد للہ! تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کے پڑھنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اور اس پر تو نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا پھر فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری مغفرت فرمادی۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کرو اس سے وہ برائی مٹ جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو تمام نیکیوں سے افضل ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم! یہی ہے یہی ہے لوگوں نے پوچھا یہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تقویٰ والا کلمہ ہے مسلمان ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کے اہل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والنزہم کلمۃ التقویٰ (سورت فتح آیت ۲۶) ترجمہ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ

۱۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۸۲) وفيہ محمد بن اسحاق وهو مدلس وهو ثقہ وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی و اخرجہ الحاکم عن عبد اللہ لحوہ وقال صحیح الاسناد کما فی

الترغیب (ج ۳ ص ۷۷) ۲۔ اخرجہ احمد باسناد حسن والطبرانی وغیرہما کما فی

الترغیب (ج ۳ ص ۷۵) وقال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۸۱) رواہ احمد وفيہ راشد بن داؤد و قدوثہ

غیر واحد وفيہ ضعف وبقیۃ رجالہ ثقات۔ انتہی ۳۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱۰

ص ۸۱) رجالہ ثقات الا ان شمر بن عطیۃ حدث بہ عن اشباخہ عن ابی ذر ولم یسم احد امنہم

۴۔ اخرجہ ابن خسر و کنافی الکنز (ج ۱ ص ۲۰۷)

نے فرمایا یہ تقویٰ والی بات لا الہ الا اللہ ہے۔ ابن جریر وغیرہ میں اس کے بعد اللہ اکبر بھی ہے۔

سبحان اللہ و الحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

ولا حول ولا قوة الا باللہ کے اذکار

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضورؐ نے فرمایا باقیات صالحات کثرت سے پڑھا کرو۔ صحابہؓ نے پوچھا باقیات صالحات کیا چیزیں ہیں؟ آپؐ نے فرمایا اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد لله ولا حول ولا قوة الا باللہ کہنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضورؐ نے فرمایا تم لوگ اپنی حفاظت کا سامان لے لو۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا کوئی دشمن آگیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا نہیں آگ سے حفاظت کا سامان لے لو اور سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو کیونکہ یہ کلمات تم سے آگے جا کر آخرت میں کام آئیں گے اور تمہارے اچھے انجام کا سبب بنیں گے اور یہی وہ اعمال صالحہ ہیں جن کا ثواب باقی رہتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ نجات دینے والے کلمات ہیں اور اوسط میں طبرانی کی روایت میں لا حول ولا قوة الا باللہ کا اضافہ بھی ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضورؐ نے فرمایا کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرو؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا تم سب کر سکتے ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیسے؟ آپؐ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا احد سے بڑا ہے اور الحمد لله کہنا احد سے بڑا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنا احد سے بڑا ہے اور اللہ اکبر کہنا احد سے بڑا ہے۔

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق وابن جریر وابن المنذر و ابن ابی حاتم والحاکم والبیہقی فی الاسماء والصفات کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۶۵) ۲۔ اخرجہ احمد ابو یعلیٰ والنسائی واللفظ له وابن حبان فی صحیحہ والحاکم و صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۱) وقال الہیثمی (ج ۱ ص ۸۷) لروایۃ احمد وابی یعلیٰ اسنادہما حسن ۳۔ اخرجہ النسائی اللفظ له والحاکم والبیہقی قال الحاکم صحیح علی شرط مسلم وفی روایۃ منجیات بتقدیم النون علی الجیم و کذا رواہ الطبرانی فی الاوسط ورواہ فی الصغیر من حدیث ابی ہریرہ فجمع بین اللفظین فقال ومجینات واسنادہ جید قوی کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۲) و اخرجہ الطبرانی فی الاوسط عن انس رضی اللہ عنہ وفی روایۃ فانہن مقلدات و هن منجیات ومن معقات و هن الباقیات والصلحت وفیہ کثیر بن سلیم وهو ضعیف کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۸۹) ۴۔ اخرجہ ابن الدنیا والنسائی والطبرانی والبخاری وقال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۹۱) رواہ الطبرانی والبخاری و رجالہما رجال الصحیح وقال المنذری فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۳) رواہ ابن ابی الدنیا والنسائی والطبرانی والبخاری کلہم عن الحسن عن عمران ولم یسمع و رجالہم رجال الصحیح الا شیخ النسائی عمرو بن منصور و ہونقہ۔ انتہی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پودا لگا رہا تھا کہ اتنے میں حضور ﷺ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اے ابو ہریرہ! کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا پودا لگا رہا ہوں، فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان میں سے ہر کلمہ کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجدیں میں نے عرض کیا ان میں چرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ایک ٹہنی پکڑ کر اسے ہلایا تاکہ اس کے پتے گریں لیکن کوئی پتہ نہ گرا۔ آپ نے اسے پھر ہلایا تو پھر بھی کوئی پتہ نہ گرا آپ نے تیسری مرتبہ ہلایا تو پھر پتے گرنے لگے اس پر حضور نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے ایسا کلام بتادیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کبیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم اس نے کہا یہ تمام کلمات تو میرے رب کی تعریف کے ہو گئے میرے لئے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو اللھم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی ”اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق نصیب فرما۔“ حضرت ابومالک اجمعی کی روایت میں وعافنی بھی ہے۔ ”مجھے عافیت نصیب فرما“ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دعا میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں آئیں۔ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے قرآن سیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن سیکھ نہ سکا۔ اب آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو قرآن کی جگہ بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو اس نے انگلیوں پر گنتے ہوئے یہ کلمات کہے اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ! یہ سارے کلمات تو میرے رب کی تعریف کے ہو گئے خود

۱۔ اخرجہ ابن ماجہ باسناد حسن واللفظ لہ والحاکم وقال صحیح الاسناد کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۸۳) ۲۔ اخرجہ الترمذی قال الترمذی حدیث غریب لقال المنذری فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۷) وهو مع غرابة حسن الاسناد ۳۔ اخرجہ احمد قال فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۳) رجالہ رجال الصحیح. ۱ و اخرجہ الترمذی بمعناه ۲۔ اخرجہ مسلم

میرے لئے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو اللھم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واھدنی یہ سن کر وہ دیہاتی چل دیا۔ آپ نے فرمایا یہ دیہاتی دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر کر جا رہا ہے۔ بیعتی کی روایت میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے وہ کلام ضرور بتائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند کلام سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ ترمذی کی روایت میں سبحان ربی وبحمدہ ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کونسا کلام سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے یا اپنے بندوں کے لئے چنا اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا یا فرمایا جنت اس کے لئے واجب ہو جائے گی اور جو آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں لیکن بات یہ ہے کہ آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ دب جائے لیکن پھر نعمتیں آئیں گی اور ان کے بدلہ میں وہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت اور فضل سے دیکھیری فرمائیں گے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا کیا تم لوگ روزانہ ایک ہزار نیکیاں کمانے سے عاجز ہو؟ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم کس طرح ایک ہزار نیکیاں کما سکتے ہیں؟ فرمایا آدمی سو دفعہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کی ہزار خطائیں گرا دی جائیں گی۔ ترغیب میں ہے کہ مسلم کی روایت میں تو ”او“ ہے جس کا ترجمہ یا لکھا گیا ہے لیکن ترمذی اور نسائی کی روایت میں ”و“ ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اور اس کی ہزار خطائیں گرا دی جائیں گی واللہ اعلم۔

۱۔ عند ابن ابی الدنیا و رواہ البیہقی مختصر و امناہ جید کلامی الترغیب (ج ۳ ص ۹۰) و  
 ۲۔ اخرجه ابوداؤد بتمامہ ۴۔ اخرجه مسلم والنسائی و رواہ الترمذی الا انه قال سبحان  
 ربی وبحمدہ وقال حلیث حسن صحیح ۳۔ اخرجه الحاکم و صححه من حدیث اسحاق  
 بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن ابیہ کلامی الترغیب (ج ۳ ص ۸۱)  
 ۴۔ اخرجه مسلم و الترمذی و صححه والنسائی و اخرجه ایضا ابن ابی شیبہ و عبد بن حمید و ابن  
 حبان و ابو نعیم مافی الکنز (ج ۱ ص ۲۱۱)

حضرت قیس بن سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں خدمت کرنے کے لیے پیش کیا ایک دن حضور میرے پاس تشریف لائے میں دو رکعت نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا آپ نے مجھے پاؤں مبارک مار کر فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ (برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔) حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اتنے میں آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر! کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

حضرت عبد اللہ بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو مجھے حضور ﷺ نے سکھایا تھا؟ میں نے کہا اے چچا جان! ضرور سکھائیں فرمایا جب حضور میرے مہمان بنے تھے تو ایک دن آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ضرور بتادیں۔ فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں معراج کی رات میں حضور ﷺ کا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا اے جبرائیل! یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ حضرت محمد ﷺ ہیں تو حضرت ابراہیم نے حضور سے فرمایا اے محمد! اپنی امت سے کہنا کہ وہ جنت کے پودے کثرت سے لگائیں کیونکہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور وہاں بہت کشادہ زمین ہے۔ حضور نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نے مجھے سلام کیا اور مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا اپنی امت سے کہنا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جس نے بسم اللہ کہا اس نے اللہ کا ذکر کیا اور جس نے الحمد لله کہا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جس نے اللہ اکبر کہا اس نے اللہ کی عظمت بیان کی اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اللہ کی توحید بیان کی اور جس نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا

۱۔ اخراجہ الحاکم وصحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۰۴)

۲۔ اخراجہ ابن ماجہ وابن ابی الدنیا وابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۰۵)

۳۔ اخراجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۹۸) رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط باسنادین ورجال احدہما ثقات انتہی ۴۔ اخراجہ احمد باسناد حسن وابن ابی الدنیا وابن حبان فی صحیحہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۰) قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۹۷) ورجال احمد رجال الصحیح

غیر عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن عمرو ہو ثقہ

اس نے فرمانبرداری کا اظہار کیا اور اس نے خود کو اللہ کے سپر کر دیا اور اسے جنت میں اس کی وجہ سے رونق اور خزانہ ملے گا۔

حضرت مطرفؓ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمرانؓ نے فرمایا آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بعد میں نفع دیں گے اور وہ یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے بہترین بندے وہ ہوں گے جو (دنیا میں) اللہ کی خوب حمد و ثناء کرنے والے ہوں گے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا تو ہمیں پتہ چل گیا لیکن الحمد للہ کیا ہے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا ایسا کلمہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے کہا جائے۔ حضرت ابو ظبیانؓ کہتے ہیں حضرت ابن کواءؓ نے حضرت علیؓ سے سبحان اللہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت علیؓ نے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس میں ہر بری صفت سے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے دو آدمیوں کو مارنے کا حکم دیا تو ان میں سے ایک بسم اللہ اور دوسرا سبحان اللہ کہنے لگا حضرت عمرؓ نے مارنے والے سے کہا تیرا بھلا ہو سبحان اللہ کہنے والے کی پٹائی ذرا ہلکی کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا صرف مومن ہی کے دل میں پختہ ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے جب بھی میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی اللہ کی کتاب میں سے وہ آیت ضرور لاتا ہوں جس سے میری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ مسلمان بندہ جب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وبارک اللہ کہتا ہے تو ایک فرشتہ ان کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے رکھ لیتا ہے پھر انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے تو وہ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرتا ہے وہ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں آخر وہ ان کلمات کو لے کر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تک پہنچ جاتا ہے پھر حضرت عبداللہؓ نے یہ آیت پڑھی اَللّٰهُ يَضَعُ لِكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ (سورت فاطر آیت ۱۰) ترجمہ ”اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے۔“

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ (ج ۱ ص ۳۲۲) ۲۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی

(ج ۱ ص ۹۵) رواہ احمد موقوف وهو شبه المرفوع ورجالہ رجال الصحیح

۳۔ اخرجہ ابن ابی حاتم ۴۔ عند المسکری فی الامثال و اخرجہ ابو الحسن البکائی عنہ نحوه

کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۰) ۵۔ اخرجہ البیهقی فی شعب الایمان کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۰)

۶۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱ ص ۹۰) یوفیہ المسعودی وهو ثقة ولكنه اختلط وبقیة

رجالہ لقات. انتہی و اخرجہ الحاکم وقال صحیح الا سناد وفي رواية حتى يحيا بهن وجه الرحمن

قال المنذرى فی ترجمہ (ج ۳ ص ۹۳) کذا فی نسختی یحیا بالحاء المهملة وتشدید المشاة تحت

ورواه الطبرانی فقال حتى یجنی بالجیم ولعله الصواب





حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور ﷺ نے دیکھا کہ میں اپنے ہونٹوں کو ہلارہا ہوں آپ نے پوچھا اے ابو امامہ! تم ہونٹ ہلا کر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تمہارے دن رات ذکر کرنے سے زیادہ بھی ہے اور افضل بھی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور بتائیں۔ فرمایا تم یہ کلمات کہا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملا ما خلق سبحان اللہ عدد ما فی الارض سبحان اللہ ملا ما فی الارض والسماء سبحان اللہ عدد ما احصى كتابه سبحان اللہ ملا ما احصى كتابه سبحان اللہ عدد کل شیء سبحان اللہ ملا کل شیء الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملا ما خلق والحمد لله عدد ما فی الارض والسماء والحمد لله ملا ما فی الارض والسماء والحمد لله عدد ما احصى كتابه والحمد لله ملا ما احصى كتابه والحمد لله عدد کل شیء والحمد لله ملا کل شیء۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں مخلوق کی تعداد کے برابر، اللہ کی پاکی مخلوق کے بھر دینے کے بقدر، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کے برابر جو زمین میں ہیں، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کے بھر دینے کے بقدر جو زمین و آسمان میں ہیں، اللہ کی پاکی ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جن کو اس کی کتاب نے شمار کیا، اللہ کی پاکی ہر چیز کی تعداد کے برابر اور اللہ کی پاکی ہر چیز کو بھر دینے کے بقدر بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں (چاروں چیزوں کے شمار کرنے اور بھر دینے کے برابر)۔ طبرانی میں یہ مضمون ہے کہ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی زبردست چیز نہ بتاؤں کہ اس کے کہنے پر تمہیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ اگر تم دن رات عبادت کر کے تھک جاؤ تو بھی اس کے ثواب تک نہ پہنچ سکو؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا الحمد للہ آخر تک لیکن یہ کلمات مختصر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ اسی طرح سے اور اللہ اکبر اسی طرح سے۔ طبرانی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ان کلمات کو سیکھ لو اور اپنے بعد اپنی اولاد کو سکھاؤ۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے دیکھا کہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں فرمایا اے ابو الدرداء! کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ سکھاؤں جو رات کے شروع سے دن تک اور دن کے شروع سے رات تک

۱۔ اخرجہ احمد وابن ابی الدیاء واللفظ له والنسائی وابن خزيمة وابن حبان فی صحیحہما باختصار والحاکم وصححه علی شرط الشیخین ۲۔ اخرجہ الطبرانی باسنادین احدهما حسن کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۹) و اخرجها الطبرانی ایضا بسناد آخر قال افلا ادلک علی ما هو اکبر من ذکر الیل علی النهار تقول الحمد لله (فذكره مختصر اولی رواية وتسبح الله مثلین وفيه لیث بن ابی سلیم وهو مدلس كما قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۹۳)

مسلسل ذکر کرنے سے افضل ہے۔ میں نے کہا ضرور سکھائیں فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ عدد کل شیء سبحان اللہ ملا ما احصى كتابه والحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملا ما خلق والحمد لله ملا ما احصى كتابه ج۱

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حلقہ میں حضور ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے حضور کو اور لوگوں کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور نے جواب میں فرمایا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب وہ آدمی بیٹھا تو اس نے کہا الحمد لله حمدا کثیرا طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ان یحمد وینبغی له میں اللہ کی ایسی تعریف کرتا ہوں جو بہت زیادہ ہو عمدہ اور بابرکت ہو اور ایسی ہو جیسی ہمارے رب کو پسند ہے اور جیسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حضور نے اس سے فرمایا تم نے کیا کہا؟ اس نے دوبارہ یہی کلمات دہرائے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! دس فرشتے ان کلمات کی طرف جھٹے تھے ان میں سے ہر ایک انہیں لکھتا چاہتا تھا لیکن انہیں سمجھ نہ آیا کہ انہیں کیسے لکھیں، اس لئے وہ کلمات لے کر اوپر اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جیسے کہے ہیں ویسے ہی لکھ دو۔ ۲

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کی مجلس میں ایک آدمی نے کہا الحمد لله حمد اکبر طیباً مبارکاً فیہ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے؟ وہ آدمی خاموش رہا اور یوں سمجھا کہ یہ کلمات جو اچانک اس کی زبان سے نکلے ہیں یہ حضور گونا گوار گزرے ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا وہ کون ہے؟ اس نے ٹھیک بات ہی کہی ہے۔ اس پر اس آدمی نے کہا میں نے کہے ہیں اور مجھے ان سے خیر کی امید ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں نے تیرے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے ان کلمات کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے کے لئے جھپٹ رہے ہیں۔ ۳

حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس تسبیح ہے جس پر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تسبیح پر لمبے چوڑے ذکر کرنے کے بجائے اسے یہ کلمات کہنا کافی ہیں (کہ ان میں الفاظ کم ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہیں) سبحان

۱۔ اخرجہ الطبرانی والبیہقی (ج ۱۰ ص ۹۲) وفيه ليث بن ابي سليم وهو ثقة ولكنه اخطأ واهو اسرائيل الملائي حسن الحديث وبقية رجالها رجال الصحيح (انتهى) وفي هامشه عن ابن حجر بل الاكثر على تضعيفه وبعضهم وصفه مع سوء الحفظ والا اضطراب بالصدق

۲۔ اخرجہ احمد قال المنذرى فى الترغيب (ج ۳ ص ۱۰۳) رواه احمد ورواه ثقات والنسائي وابن حبان فى صحيحه الا انهما قال کما یحب ربنا ويرضى انتهى ۳۔ عند الطبرانی باسناد حسن واللفظ له والبیہقی وابن ابی الدنيا کذا فى الترغيب (ج ۳ ص ۱۰۲)

اللہ ملا السموات وملا ماشاء من شیئ بعد میں اللہ کی پاکی اتنی بیان کرتا ہوں جو آسمانوں کو بھر دے اور آسمانوں کے بعد اللہ جس چیز کو چاہے، اسے بھر دے والحمد لله ملا السموات والارض وملا ماشاء من شیئ بعد واللہ اکبر ملا السموات والارض وملا ماشاء من شیئ بعد۔

## نمازوں کے بعد کے اذکار اور سونے کے وقت کے اذکار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقراء مہاجرین نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مالدار لوگ سارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ان کے حصہ میں آگئیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ پے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں لیکن یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ یہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم اس پر عمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑ لو اور بعد والوں سے بھی آگے بڑھے رہو اور کوئی شخص تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک وہ بھی اس چیز کو نہ کر لے؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتادیتے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمد لله ۳۳-۳۳ مرتبہ پڑھ لیا کرو (ان حضرات نے شروع کر دیا مگر اس زمانے کے مالدار بھی اسی نمونہ کے تھے۔ انہوں نے بھی معلوم ہونے پر شروع کر دیا) تو فقراء مہاجرین دوبارہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ! ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ راوی حضرت سہمی کہتے ہیں میں نے گھر والوں کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ آپ کے استاد نے یوں کہا ہوگا سبحان اللہ الحمد لله ۳۳-۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ پڑھا کرو اس پر میں (اپنے استاد) حضرت ابو صالح کے پاس گیا اور گھر والوں کی بات انہیں بتائی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد لله ایک مرتبہ اللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد لله دو مرتبہ اس طرح انہوں نے ۳۳ مرتبہ ان کلمات کو گنا (کہ اللہ اکبر بھی اس حدیث میں ۳۳ بار ہے ۳۴ بار نہیں) ابو داؤد میں یہ روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مالدار تو سارا اجر و ثواب لے گئے آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور اس روایت میں یوں ہے کہ تم ہر نماز کے بعد اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ، الحمد لله ۳۳ اور سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ کہا کرو اور ان کے آخر میں یہ کہا

۱۔ اخرجه ابن ابی شیبۃ کلنافی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۰)

۲۔ اخرجه البخاری ومسلم واللفظ له

کرو لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على کل شئی قدير جب تم یہ سب کچھ کہہ لو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی اور نسائی میں یہ روایت حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضور ﷺ نے فقراء مہاجرین سے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ ۳۳ مرتبہ اکبر اللہ اکبر ۳۳ مرتبہ کہہ لیا کرو۔ ۲

حضرت ام درداءؓ فرماتی ہیں حضرت ابوالدرداءؓ کے ہاں ایک مہمان آیا۔ حضرت ابوالدرداءؓ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ٹھہرنا ہے تو تمہاری سواری چرنے کے لیے بھیج دیں؟ اور اگر ابھی جانا ہے تو چارہ ساتھ کر دیں اس نے کہا نہیں میں نے ابھی جانا ہے۔ فرمایا میں تمہیں ایسا عمدہ توشہ دوں گا کہ اگر اس سے بہتر توشہ مجھے ملتا تو میں تمہیں وہ دیتا۔ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مالدار لوگ تو دنیا اور آخرت دونوں لے اڑے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ صدقہ دیتے ہیں ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ حضور نے فرمایا کیا میں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو پہلے والوں میں سے کوئی تم سے آگے نہ نکل سکے گا اور بعد والوں میں سے کوئی تم کو پا نہ سکے گا، البتہ جو یہ عمل کر لے گا وہ تمہیں پالے گا۔ ہر نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ ۳

حضرت قتادہؓ مرسلاروایت کرتے ہیں کہ کچھ مسلمان فقراء نے عرض کیا یا رسول اللہ! مالدار تو سارا اجر و ثواب لے گئے۔ وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے وہ خرچ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ اگر دنیا کا سارا مال ایک دوسرے پر رکھا جائے تو کیا یہ آسمان تک پہنچ جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ! فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی جز زمین میں ہے اور اس کی شاخ آسمان میں؟ تم ہر نماز کے بعد لا اله الا الله واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمد للہ دس مرتبہ کہا کرو۔ ان کلمات کی جز زمین اور شاخ آسمان میں ہے۔ ۴

۱۔ واخرجه الترمذی وحسنه والنسائی من حدیث ابن عباس نحوہ

۲۔ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۱۰) واخرجه ابن عساکر عن ابی ہریرۃ نحو رواۃ ابی داؤد کما فی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۶) والبخاری فی التاریخ والطیلمسی وابن عساکر عن ابی ذر نحوہ وزادا بعد ذلک ذکر الصدقات کما فی الکنز (ج ۳ ص ۳۱۵) یقال سندہ حسن واخرجه البزار عن ابن عمر مطولا جانا کما فی المجمع (ج ۱۰ ص ۱۰۱) ۳۔ اخرجه احمد والبیہقی والطبرانی با

سانید قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۰) وواحد اسانید الطبرانی رجالہ رجال الصحیح (۱۵) واخرجه عبدالرزاق کما فی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۶) نحوہ وزادو یجاہدون کما نجاہد و صلوة مکتوبہ

۴۔ اخرجه عبدالرزاق وابن زنجویہ کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۷)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نے مجھ سے حضرت فاطمہؓ کی شادی کی تو ان کے ساتھ ایک چادر، چمڑے کا ایک گدا جس میں کجھور کی چھال بھری ہوئی تھی، دو چکیاں، ایک مشکیزہ اور دو گھڑے بھیجے۔ میں نے ایک دن حضرت فاطمہؓ سے کہا کنویں سے اول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف شروع ہوگئی ہے اور تمہارے والد محترم کے پاس اللہ نے قیدی بھیجے ہیں جاؤ اور ان سے خادم مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہؓ نے کہا اللہ کی قسم! میں نے بھی اتنی چکی پیسی ہے کہ میرے ہاتھوں میں گئے پڑ گئے ہیں، چنانچہ وہ حضورؐ کی خدمت میں گئیں۔ حضورؐ نے فرمایا اے بیٹا! کیسے آئی ہو؟ حضرت فاطمہؓ نے کہا بس آپ کو سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے غلام نہ مانگ سکیں اور یوں ہی واپس آگئیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں شرم کی وجہ سے غلام نہ مانگ سکی پھر ہم دونوں اکٹھے حضورؐ کی خدمت میں گئے اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہوگئی ہے حضرت فاطمہؓ نے کہا چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گئے پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیں۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ کی قسم! صفروا لے سخت فقر و فاقہ میں ہیں اور بھوک کے مارے ان کا برا حال ہے ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ ہے نہیں، اس لیے یہ غلام بیچ کر میں ساری رقم ان پر خرچ کروں گا، اس لیے میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا۔ ہم دونوں واپس آگئے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا کھل تھا جب اس سے سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ رات کو ہم دونوں اس میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک حضورؐ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم دونوں اٹھنے لگے تو فرمایا اپنی جگہ لیٹے رہو پھر فرمایا تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ ہم نے کہا ضرور بتادیں۔ فرمایا یہ چند کلمات مجھے حضرت جبرائیلؑ نے سکھائے ہیں تم دونوں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمد للہ دس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو اور جب بستر پر لیٹا کرو تو ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر حضرت علیؓ نے فرمایا اللہ کی قسم! جب سے میں نے یہ تسبیحات حضورؐ سے سنی ہیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ راوی کہتے ہیں ابن کواء نے حضرت علیؓ سے پوچھا کیا جنگ صفین کی رات کو بھی نہیں چھوڑیں؟ فرمایا اے عراق والو! اللہ تمہیں مارے، جنگ صفین کی رات کو بھی نہیں چھوڑیں۔ ابن ابی شیبہ میں حضرت علیؓ کی یہی حدیث اس طرح سے ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے؟ تم دونوں ہر نماز

۱۔ اخرجه احمد قال المنذرى فى الترغيب (ج ۳ ص ۱۱۲) رواه احمد واللفظ له ورواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى وفى هذا السياق ما يستغرب واسناده جيد ورواه ثقات وعطاء بن السائب ثقة وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه انتهى واخرجه ابن سعد (ج ۸ ص ۲۵) عن علي بن ابي طالب واخرجه ايضا الحميدى وابن ابى شيبه وعبد الرزاق والعدنى وابن جرير والحاكم وغيرهم عن عطاء بن السائب عن ابيه عن علي بن مطول وروى النسائى وابن ماجه بعضه كما فى الكنز (ج ۸ ص ۶۶)

کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ اس طرح یہ سو ہو جائیں گے اور جب رات کو بستر پر لیٹا کرو تو بھی یہی کلمات کہا کرو۔

حضرت ام سلمہؓ عمر ماتی ہیں حضرت فاطمہؓ گھر کے کام کاج کی شکایت کرنے حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! چکی پیسنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے خود ہی چکی پیستی ہوں۔ خود ہی آٹا گوندھتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تمہیں کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ تمہارے پاس خود ہی آجائے گی لیکن میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں گا جب تم بستر پر لیٹا کرو تو ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو اس طرح یہ کلمات سو ہو جائیں گے اور یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد دس۔ دس مرتبہ یہ کلمات کہا کرو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قذیر ان میں سے ہر کلمہ کے بدلے میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور دس گناہ گرائے جائیں گے اور ان میں سے ہر کلمہ کا ثواب اتنا ہوگا جتنا اولاد اسماعیلؑ میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اور اس دن کا شرک کے علاوہ کا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له جب تم صبح کو ان کلمات کو کہہ لو گی تو شام کو کہنے تک ہر شیطان سے اور ہر بری حالت سے ان کلمات کی وجہ سے حفاظت ہوگی۔ ۲

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نماز پڑھ لیتے تو ان کلمات کو فرماتے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قذیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجنتہ البئس کما کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں (سارا) ملک اسی کا ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! جو نعمت تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو توروک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جو فیصلہ تو کر دے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں اور تیرے سامنے کسی مالدار کو اس کی دولت کام نہیں دیتی۔“ ۳

۱۔ کذا فی الكنز وقد بسط فیہ فی طرق حدیث علی هذا

۲۔ عند احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۸) رواہ احمد والطبرانی بنحوہ اخضر منہ وقال ہی تحر سک مکان وهو واسنادہما حسن۔ انتہی۔ ۳۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۳) رواہ اسنادہ حسن واخرجہ البزار ایضا عن ابن عباسؓ مثله الا ان فی رواہ اذا انصرف من صلاتہ وزاد بیدہ الخیر ولم یذکر یحیی و یمیت ولا قوله ولا راد لما قضیت قال الہیثمی رواہ البزار والطبرانی بنحوہ الا انہ زاد یحیی و یمیت ولم یقل بیدہ الخیر واسنادہما حسن واخر جہا لطبرانی عن المغیرة مثل حدیث جابرؓ الا ان فی رواہ فی دبر صلاۃ وزاد وهو حی لا یموت بیدہ الخیر ولم من قوله اللهم لا مانع۔ الی آخرہ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۳) رواہ رجال الصحیح وهو فی الصحیح باختصار۔ ۱۰

## صبح اور شام کے اذکار

بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلام عبدالحمید کی والدہ حضور ﷺ کی ایک صاحبزادی کی خدمت کیا کرتی تھیں انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضور کی صاحبزادی نے مجھے بتایا کہ نبی کریم ﷺ مجھے سکھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے صبح کو یہ کلمات کہو سبحان اللہ وبحمدہ لا افرقہ الا باللہ ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدير وان اللہ قد احاط بكل شیء علماً ”میں اللہ کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتی ہوں نیکیاں کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔“ جو ان کلمات کو صبح کہے گا وہ شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو کہے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا جو آدمی صبح و شام یہ کلمات سات مرتبہ کہے گا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ تو کلت وهو رب العرش العظیم ”اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے توکل کیا وہ عظیم عرش کا رب ہے“ اللہ تعالیٰ ہر فکر و پریشانی سے اس کی کفایت کریں گے چاہے سچے دل سے کہے یا جھوٹے سے۔

## بازاروں میں اور غفلت کی جگہوں میں اللہ کا ذکر کرنا

حضرت عاصمؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل سجدۃ الحمدیث ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل تحریف ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! سجدۃ الحمدیث کیا ہے؟ فرمایا سجدۃ الحمدیث یہ ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی تسبیح و تہلیل اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! تحریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تحریف یہ ہے کہ لوگ خیریت سے ہوں اچھے حال پر ہوں اور کوئی پڑوسی یا ساتھی پوچھے تو یوں کہہ دیں کہ ہم برے حال میں ہیں۔

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں حضرت معاذؓ نے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو وہ لوگ لامحالہ باتیں شروع کر دیں گے جب تم دیکھو کہ وہ (اللہ سے) غافل ہو گئے ہیں تو تم اس وقت اپنے رب کی طرف پورے ذوق شوق سے متوجہ ہو جانا۔ ولید راوی کہتے ہیں حضرت

۱۔ اخرجہ ابوداؤد والنسائی قال المنلری فی مختصر السنن وفی اسنادہ امرالہ ومجهولة واخرجه

ایضا ابن السنی کما فی لحة الذاکرین (ص ۲۶) ۲۔ اخرجہ ابوداؤد

۳۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۳) قال الہیثمی (ج ۱ ص ۸۱) وفیہ الفضل بن

المختار وهو ضعيف

عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے اس حدیث کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے اور مجھے حضرت ابو طلحہ حکیم بن دینار نے بتایا کہ صحابہ کرامؓ کہا کرتے تھے کہ مقبول دعا کی نشانی یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو غافل دیکھو تو اس وقت تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

حضرت ابو قلابہؓ فرماتے ہیں بازار میں دو آدمیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا لوگ اس وقت (اللہ سے) غافل ہیں آؤ ہم اللہ سے استغفار کریں۔ چنانچہ دونوں نے ایسا کیا پھر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے نے اسے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب شام کو بازار میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اللہ نے اس وقت ہماری مغفرت کر دی تھی۔

## سفر کے اذکار

حضرت ابو لاس خزاعیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں سفر حج کے لئے صدقہ کے اونٹ دیئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اونٹ ہمیں اٹھا نہیں سکیں گے۔ فرمایا ہر اونٹ کے کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم ان پر سوار ہونے لگو تو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے تم اللہ کا نام لو پھر انہیں اپنے کام میں لاؤ ان سے اپنی خدمت لو یہ تمہیں اللہ کے حکم سے اٹھالیں گے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب آپ سواری پر ٹھیک طرح سے بیٹھ گئے تو آپ نے ۳ مرتبہ اللہ اکبر ۳ مرتبہ سبحان اللہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا پھر میرے اوپر لیٹ کر مسکرانے لگے پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا جو بھی آدمی اپنی سواری پر سوار ہو کر وہ کام کرے جو میں نے کیئے ہیں تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر ایسے ہی مسکرائیں گے جیسے میں تمہیں دیکھ کر مسکرایا ہوں۔

حضرت ابو یلیح بن اسامہؓ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت اسامہؓ نے فرمایا میں سواری پر حضور ﷺ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ہمارے اونٹ کو ٹھوکر لگی میں نے کہا شیطان ہلاک

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۳۶) ۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا وغيره كذا فی

الترغیب (ج ۳ ص ۱۹۱) ۳۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۱) رواہ

احمد والطبرانی باسناد رجال احد ہا رجال الصحیح غیر محمد بن اسحق وقد صرح بالسماع فی

احد ہا انتہی و ذکر فی الاصابۃ (ج ۳ ص ۱۶۸) فی ترجمہ ابی لاس روی عن النبی ﷺ فی الحمل

علی اهل الصدقة فی الحج و ذکر البخاری حدیثہ فی الصحیح تعلیقا و اخرج البغوی وغیرہ عن ابی

سهل الخزاعی قال حملنا رسول اللہ ﷺ علی اهل الحدیث

۴۔ اخرجہ احمد قال الهیثمی (ج ۱ ص ۱۳۱) ولیہ ابو بکر بن ابی مریم وهو ضعیف اہ



ہو۔ حضور نے فرمایا یہ مت کہو کہ شیطان ہلاک ہو کیونکہ اس سے تو وہ پھول کر کمرے جتنا ہو جائے گا (یوں کہے گا کہ یہ مجھے کچھ سمجھتا ہے تبھی تو مجھے برا کہا) اور کہے گا میری طاقت سے ایسا ہوا بلکہ یوں کہو بسم اللہ اس سے وہ کبھی کی طرح چھوٹا ہو جائے گا۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ﷺ جب کسی اونچی جگہ پر چڑھتے تو یہ دعا پڑھتے اللھم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال ”اے اللہ! ہر اونچی جگہ پر تیرے لیے بلندی ہے اور ہر حال میں تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔“

حضرت انس فرماتے ہیں جب ہم کسی منزل پر اترتے تو کجاووں کے کھولنے تک سبحان اللہ پڑھتے رہتے۔ سفر جہاد میں اللہ کے ذکر کرنے کے عنوان میں اس باب کے کچھ قصے گزر چکے ہیں۔

حضرت عوف کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ تو کلت علی اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ ”اللہ کے نام سے نکلتا ہوں۔ میں نے اللہ پر توکل کیا گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ سے ہی ملتی ہے۔“ حضرت محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں یہ دعا تو قرآن میں بھی ہے ارنسبو الیہا بسم اللہ (سورت ہود آیت ۴۱) ترجمہ ”اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے“ اور انہوں نے علی اللہ توکلنا کے الفاظ بیان کیے۔

### نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا

حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں حضور ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب رات کا دو تہائی حصہ گزر جاتا تو آپ گھڑے ہو جاتے اور فرماتے اے لوگو! اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرو۔ ہلا دینے والی چیز آگئی (مراد پہلی مرتبہ صور پھونکنا ہے) جس کے بعد ایک پیچھے آنیوالی چیز آئے گی (مراد دوسری مرتبہ صور پھونکنا ہے) موت اپنے اندر لی ہوئی مصیبتوں کے ساتھ آگئی ہے میں نے عرض

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۲) رجالہ رجال الصحیح غیر محمد بن حمران وهو ثقة واخرجہ احمد باسناد عن ابی تمیمۃ الہجمی عن کان روف رسول اللہ ﷺ قال کنت روفہ علی الحمار فحار الحمار فذکر نحوہ وفی روایۃ وقال صرعتہ بقوتی واذا قلت بسم اللہ تصا غرت الیہ نفسہ حتی یکون اصغر من ذباب ورجالہا کلہا رجال الصحیح

۲۔ اخرجہ احمد وابو یعلی قال الہیثمی وفیہ زیاد النمیری وقلوب علی ضعفہ وبقیۃ رجالہ ثقات انتہی۔

۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال شعبۃ تسبیحا باللسان واسنادہ جید کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۳)

۴۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۹) رواہ الطبرانی موقوفاً واسنادہ منقطع ولیہ المسعودی وقد اختلط انتہی

کیا یا رسول اللہ! میں آپ پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں تو میں نے ذکر و دعا کے لیے جتنا وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا چوتھائی وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے میں نے کہا دو تہائی کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا پھر تو میں سارا وقت ہی آپ کے لیے کر دیتا ہوں فرمایا پھر تو تمہارے ہر فکر کی کفایت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہم میں سے یعنی نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے چار پانچ صحابی دن رات حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کو جو ضرورت پیش آئے اس میں کام آسکیں چنانچہ ایک دن میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ ہمیں تشریف لے جا رہے تھے۔ میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا آپ رؤساء انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور نماز شروع کر دی اور سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ کیا میں رونے لگ پڑا۔ میں یہ سمجھا اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے پھر آپ نے سر اٹھا کر مجھے بلایا اور فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید اللہ نے اپنے رسول کی روح قبض کر لی ہے اور اب میں آپ کو کبھی بھی زندہ نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ پر میری امت کے بارے میں ایک خاص فضل فرمایا ہے اس کے شکرانے میں میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا اور وہ یہ ہے کہ میری امت میں سے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھیں گے اور اس کی دس برائیاں مٹا دیں گے۔ ۱۲ احمد اور حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا حضرت بھرا سئل نے مجھے کہا کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، اس لیے میں نے شکرانے میں اللہ کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ ۱۳

حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ بہت خوش تھے اور خوشی کے آثار آپ

۱۔ اخرجہ احمد وابن منیع والرويانى والحاكم والبيهقى فى شعب الایمان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد كذافى الكنز (ج ۱ ص ۲۱۵) وقال لرواية ابن منيع حسن واخرجہ الترمذى وقال حسن وصححه الحاكم كذا فى الترغيب (ج ۳ ص ۱۶۱) وابو نعیم كما فى الكنز (ج ۱ ص ۲۱۵) عن حبان ابن منقذ مختصرا مقتصرا على اخره.

۲۔ اخرجہ ابو يعلى واللفظ له وابن ابى الدنيا

۳۔ قال الحاكم صحيح كذا فى الترغيب (ج ۳ ص ۱۵۵) وقال فى روايتهما اى ابى يعلى وابن ابى

الدنيا موسى بن عبيدة الزبدي وقال الهيمى (ج ۱ ص ۱۶۱) وهو ضعيف

کے چہرے پر نظر آرہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج تو آپ بہت ہی خوش ہیں اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آرہے ہیں۔ فرمایا جی ہاں! میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھیں گے اور اس کی دس برائیاں مٹادیں گے اور اس کے دس درجے بلند کر دیں گے اور جو اب میں اس پر اتنی ہی رحمت نازل کریں گے۔

حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا منبر کے قریب ہو جاؤ ہم لوگ حاضر ہو گئے جب حضور نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین جب آپ فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے (منبر پر چڑھتے ہوئے) ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت حضرت جبرائیلؑ میرے سامنے آئے تھے (جب میں نے پہلے درجہ پر قدم رکھا تو) انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین پھر جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے میں نے کہا آمین جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں میں نے کہا آمین۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں باہر آیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور بتائیں فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو یہ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل آدمی ہے۔

۱۔ اخرجہ احمد والنسائی واخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني بنحوه كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۱۵۷) واخرجه ايضا عبدالرزاق بنحوه كما في الكنز (ج ۱ ص ۲۱۶) وللحديث طرق كثيرة والفاظ مختلفة ۲۔ اخرجہ الحاكم وصححه واخرجه ابن حبان في صحيحه عن مالک بن الحويرث والبخاري والطبراني عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه وابن خزيمة وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله عنه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه كما في الترغيب (ج ۳ ص ۱۶۶) واخرج الطبراني ايضا حديث كعب ورجاله ثقاة كما قال الهيثمي و حديث مالک وفيه عمران بن ابان وثقه ابن حبان وضعفه غير واحد من هذا الطريق اخرجہ ابن حبان كما قال الهيثمي (ج ۱۰ ص ۱۶۶)

۳۔ اخرجہ ابن ابی عاصم في كتاب الصلاة، كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۱۷۰)

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھ گئے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یا رسول اللہ! آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ پر کس طرح درود پڑھا کریں۔ حضور نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ کاش وہ حضور سے یہ بات نہ پوچھتے پھر حضور نے کچھ دیر کے بعد فرمایا یوں کہا کرو اللھم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و علی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید ” اے اللہ! محمد (ﷺ) پر اور آل محمد پر ایسے درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم (علیہ السلام) پر درود بھیجا اور محمد پر اور آل محمد پر ایسے برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم پر تمام جہانوں میں برکت نازل فرمائی بے شک تو ہر تعریف کا مستحق اور بڑی شان والا ہے۔“ اور مجھ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو تمہیں (التحتیات میں) معلوم ہو چکا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم لوگ حضور ﷺ پر درود بھیجنے لگو تو اچھی طرح بھیجا کرو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا درود تو حضور پر (فرشتوں کے ذریعہ) پیش کیا جاتا ہے لوگوں نے عرض کیا آپ ہمیں سکھادیں فرمایا یوں کہا کرو اللھم اجعل صلواتک ورحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمة اللھم ابعثہ مقاما محمودا یغبطہ بہ الا ولون و الاخرون ” اے اللہ! اپنی خاص رحمتیں، مہربانی اور اپنی برکتیں اس ذات کے حصے میں کر دے جو تمام رسولوں کے سردار، سب متقیوں کے امام اور آخری نبی ہیں جن کا نام محمد ہے جو تیرے بندے اور رسول ہیں جو خیر کے امام اور پیشوا ہیں اور رحمت والے رسول ہیں۔ اے اللہ! ان کو اس مقام محمود میں اٹھا جس پر تمام اگلے پچھلے لوگ رشک کریں گے۔“ اللھم صل علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید اللھم بارک علی محمد و علی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم انک حمید مجید۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ درود کے جو الفاظ سکھایا کرتے تھے وہ پہلے گزر چکے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، حضور ﷺ پر درود بھیجنا اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے اور نبی کریم ﷺ پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے

۱۔ اخرجہ مالک و ابن ابی شیبہ و مسلم و الاربعۃ الا ابن ماجہ و عبدالرزاق و عبد بن حمید کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۷)

۲۔ اخرجہ ابن ماجہ موقوفا باسناد حسن کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۶۵)

افضل ہے اور حضور ﷺ کی محبت غلام آزاد کرنے سے اور اللہ کے راستہ میں تلوار چلانے سے افضل ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک تم اپنے نبی ﷺ پر درود نہیں بھیجتے اس وقت تک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے بالکل اوپر نہیں جاتی۔ ۲۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب تک نبی کریم ﷺ پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک دعا ساری کی ساری آسمان سے پہلے رکی رہتی ہے جب درود آجاتا ہے پھر دعا اوپر جاتی ہے۔ ۳۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک حضرت محمد ﷺ پر درود نہیں پڑھ لیا جاتا اس وقت تک ہر دعا رکی رہتی ہے۔ ۴۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کے دن نبی کریم ﷺ پر سو دفعہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کونسا عمل کیا کرتا تھا؟ (جس کی وجہ سے اسے یہ نور ملا ہے۔ ۵۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نبیوں کے علاوہ کسی اور پر درود بھیجنا مناسب نہیں۔ ۶۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کسی کی طرف سے کسی پر درود بھیجنا مناسب نہیں صرف نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا چاہئے۔ ۷۔

## استغفار کرنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم شمار کیا کرتے تھے کہ حضور ﷺ ایک ہی مجلس میں

- ۱۔ اخرجہ الخطیب والاصبہانی کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۳)
- ۲۔ اخرجہ الترمذی و عند ابن راہویہ بسند صحیح عن عمر قال ذکر لی ان الدعایکون بین السماء والارض فذکر نحوہ ۳۔ عند الرہاوی و اخرجہ الدہلمی و عبد القادر الرہادی فی الاربعین عن عمر مرفوعا موقوفا من قوله وهو اصح من المرفوع وقال الحافظ العراقي وهو ان كان موقوفا عليه فمثله لا يقال من قبل الراي وانما هو امر توفيقى فحكمه حکم المرفوع كما صرح به جماعة من الائمة اهل الحديث والاصول کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۳)
- ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط موقوفا قال المنذرى فی ترغیہ رواہ ثقات و رفعہ بعضهم والموقوف اصح. ۱ و اخرجہ ایضا البیهقی فی شعب الایمان و عبید اللہ العیسی فی حدیثہ و عبد القادر الرہادی فی الاربعین کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۳)
- ۵۔ اخرجہ البیهقی فی شعب الایمان کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۳)
- ۶۔ اخرجہ عبد الرزاق کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۶) عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱ ص ۱۶۷) رواہ الطبرانی موقوفا و رجالہ رجال الصحیح. انتهى

سو دفعہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم کہہ لیتے ”اے میرے رب! میری مغفرت فرما میری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔“  
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی آپ نے فرمایا تم استغفار سے کہاں غفلت میں پڑے ہو؟ میں تو روزانہ اللہ سے سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔<sup>۱</sup> ابو نعیم کی دوسری روایت میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میری زبان گھروالوں کے بارے میں تیزی کر جاتی ہے جس سے مجھے ڈر ہے کہ یہ تو مجھے آگ میں داخل کر دے گی۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ ہم نے استغفار کیا فرمایا پورے ستر مرتبہ کرو۔ ہم نے ستر مرتبہ کیا۔ فرمایا جو بندہ اور بندی ایک دن میں ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرے گا اللہ اس کے سات سو گناہ معاف کر دیں گے اور وہ بندہ اور بندی نامراد ہو گیا جو دن اور رات میں سات سو سے زیادہ گناہ کرے۔<sup>۲</sup>

حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے حضرت علیؑ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرہ کی طرف لے گئے پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے یہ کیا بات ہے؟ انھوں نے فرمایا حضور ﷺ نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا تھا پھر مجھے حرہ کی طرف لے گئے تھے پر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اس وجہ سے مسکر رہا ہوں کہ میرا رب اپنے بندے پر تعجب کر کے مسکراتا ہے، اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔<sup>۳</sup>

۱۔ اخرجہ ابو داؤد والترمذی ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۷۶) و اخرجہ ابن

ابی شیبہ عن حذیفہ مثله کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۲)

۳۔ اخرجہ ابن ابی دنیا والبیہقی والاصبہانی کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۴۱) و اخرجہ ابن

النجار مثله کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۲)

۴۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ وابن منیع و صحیح کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کے بعد کسی کو آپ سے زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ”میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کر کے اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔“ ۱

حضرت محمد بن عبد اللہ بن محمد بن جابر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں وہ اپنے دادا حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر دو یا تین مرتبہ کہا ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ! حضور نے فرمایا یہ کہو اللھم مغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجی عندی من عملی ”اے اللہ! تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے اور مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔“ اس نے یہ کہا حضور نے کہا دوبارہ کہو اس نے دوبارہ کہا حضور نے کہا پھر کہو اس نے پھر کہا حضور نے کہا اٹھ جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ ۲

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا استغفر اللہ و اتوب الیہ ”میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔“ فرمایا تیرا بھلا ہو اس کے پیچھے اس کی بہن کو بھی لے آ اور وہ یہ ہے فاغفر لی و تب علی ”تو تو میری مغفرت کر دے اور میری توبہ قبول فرما۔“ ۳

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے جو ہلاک ہو جائے خالانکہ نجات کا سامان اس کے پاس تھا پوچھا گیا نجات کا سامان کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ ۴

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آدمی کے لئے خوشخبری ہے جس کے اعمال نامہ میں تھوڑا سا بھی استغفار پایا جائے۔ ۵

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو آدمی بھی تین مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القيوم و اتوب الیہ میں اس اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو سدا زندہ رہنے والا سب کو قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔“ کہے گا اس کی پوری مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو۔ ۶

۱۔ اخرجہ ابو یعلیٰ وابن عساکر کذافی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۲) ۲۔ اخرجہ الحاکم قال الحاکم رواہ مدنیون لایعرف واحد منهم بجرح کذافی الترغیب (ج ۳ ص ۱۴۲)

۳۔ اخرجہ احمد فی الزهد و ہنا و کذافی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۱) ۴۔ اخرجہ الدینوری کذافی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۱) ۵۔ اخرجہ ابن شیبہ کذافی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۲)

۶۔ اخرجہ الطبرانی موفوفا قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۱۰) و رجالہ و لقوا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگوں کو میرے گناہ معلوم ہو جائیں تو میرے پیچھے دو آدمی بھی نہ چلیں اور تم لوگ میرے سر پر مٹی ڈالنے لگو اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں میں سے ایک گناہ کو بھی معاف کر دے اور مجھے اس کے بدلہ میں عبداللہ ابن رویشہ (گوبر کا بیٹا عبداللہ کہہ) کر پکارا جائے تو بھی میں اس پر راضی ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں روزانہ بارہ ہزار مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور یہ مقدار میرے (گناہوں کے) قرضے کے مطابق ہے یا فرمایا اس کے (یعنی اللہ کے مجھ پر) قرضے کے مطابق ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ میرے گناہوں کے برابر ہے۔<sup>۳</sup>  
ایک آدمی نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابوعمارہ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتِهْلُكَةِ (سورت بقرہ آیت ۱۹۵) ترجمہ ”اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو“ کیا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو دشمن سے اتنی جنگ کرتا ہے کہ خود شہید ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس سے مراد تو وہ آدمی ہے جو گناہ کرے اور یوں کہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔

## ذکر میں کونسی چیزیں شامل ہیں

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے ایک دیہاتی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ! ان کا حال بیان کر دیجئے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں حضور نے فرمایا یہ مختلف جگہوں کے اور مختلف خاندانوں کے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کریں اور ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔<sup>۵</sup>

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رحمان کے دائیں طرف ایسے لوگ ہوں گے جو انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ ان کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کی نگاہ کو چکا چونڈ کر دے گی۔ ان کو جو مقام اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا اسے انبیاء اور شہداء بہت اچھا سمجھیں گے۔ کسی نے پوچھا

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۳۱۶) وصححه الحاكم والذهبي

۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۸۳) ۳۔ كما ذكر في صفة الصفوة (ج ۱ ص ۲۸۸)

۴۔ اخرجه الحاكم صحيح على شرط هما كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۱۳۲)

۵۔ اخرجه الطبراني باسناد حسن



یا رسول اللہ! یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کی وجہ سے آپس میں جمع ہوں اور اچھی اچھی باتوں کو ایسے جن لیں جیسے کھجور۔ کھانے والا اچھی کھجوریں چننا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم آپس میں زمانہ جاہلیت کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح ہم گمراہ تھے پھر کیسے اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی حضور کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا اسی طرح رہا کرو اسی طرح کیا کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو کیونکہ جب حضرت عمر کا ذکر ہوگا تو عدل و انصاف کا ذکر بھی ہوگا اور جب عدل و انصاف کا ذکر ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی کریم ﷺ پر درود بھیج کر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر کے اپنی مجلسوں کو آراستہ کیا کرو۔

## ذکر کے آثار اور اس کی حقیقت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ! اللہ کے ولی اور دوست کون لوگ ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔

حضرت حنظلہ کاتب اسیدی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے کاتبوں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے پاس تھے حضور نے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرمایا کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے میں لگ گیا پھر مجھے وہ حالت یاد آگئی جو (حضور کے سامنے) ہماری تھی (کہ دنیا بھولے ہوئے تھے اور جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے تھیں) تو میں گھر سے نکلا آگے پوری حدیث ذکر کی جس طرح کہ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے عنوان میں گزر چکی ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ

۱۔ عند الطبرانی ایضا و اسنادہ مقارب لابس بہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۶۶) وقال الہیثمی

(ج ۱۰ ص ۷۷) الحدیث عمرو بن عبسہ رواہ الطبرانی و رجالہ موثقون۔ انتہی

۲۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۸۰) وفيه مبارک بن فضالة وقد وثق

وضعه غیر واحد وبقية رجالہ رجال الصحیح انتہی

۳۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۲ ص ۲۹۱) ۴۔ عند ابن عساکر ایضا

کذا فی المنتخب (ج ۲ ص ۳۹۲) ۵۔ اخرجه البزار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۷۸)

رواہ البزار عن شیخہ علی بن حرب الرازی ولم اعرفه وبقية رجالہ وثقوا۔ انتہی

آپ نے فرمایا اے حظلہ! تمہاری جو حالت میرے پاس ہوتی ہے وہی حالت اگر گھر والوں کے پاس جا کر بھی رہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں لیکن حظلہ! بات یہ ہے کہ گاہے گاہے گاہے گاہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو ویسے ہی گھر جا کر بھی رہو تو فرشتے تم پر پروں سے سایہ کریں۔ ۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی رغبت کی کیفیت بن جاتی ہے (لیکن جب ہم چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیت نہیں رہتی) حضور ﷺ نے فرمایا میرے پاس تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے اگر میرے پاس سے جانے کے بعد بھی وہی رہے تو فرشتے تمہاری زیارت کرنے آئیں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو اتنے گناہ کریں گے کہ وہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں گے پھر وہ اللہ سے استغفار کریں گے تو ان کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ ان سب کو معاف کر دیں گے اور کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ۳

حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ طواف کر رہے تھے میں نے طواف کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا تو وہ خاموش رہے اور میرے پیغام کا کوئی جواب نہ دیا میں نے کہا اگر یہ راضی ہوتے تو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتے اب اللہ کی قسم! میں ان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اللہ کی شان وہ مجھ سے پہلے مدینہ واپس پہنچ گئے میں بعد میں مدینہ آیا، چنانچہ میں حضور ﷺ کی مسجد میں داخل ہوا اور جا کر حضور کو سلام کیا اور آپ کی شان کے مطابق آپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی پھر حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انھوں نے خوش آمدید کہا اور فرمایا کب آئے ہو؟ میں نے کہا ابھی پہنچا ہوں۔ انھوں نے فرمایا ہم لوگ طواف کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے کا دھیان جمار ہے تھے کیا اس وقت تم نے مجھ سے (میری بیٹی) حضرت سودہ بنت عبداللہ کا ذکر کیا تھا حالانکہ تم مجھ سے اس بارے میں کسی اور جگہ بھی مل سکتے تھے؟ میں نے کہا ایسا ہونا مقدر تھا، اس لئے ایسا ہو گیا۔ انھوں نے فرمایا اب تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا اب تو پہلے سے بھی زیادہ تقاضا ہے، چنانچہ انھوں نے دونوں بیٹیوں حضرت سالم اور حضرت عبداللہ کو بلا کر میری شادی کر دی۔ ۴

۱۔ اخرجہ الحسن بن سفیان و ابو نعیم ۲۔ عند الطیالسی و ابی نعیم کذا فی الکنز (ج ۱

ص ۱۰۰) ۳۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۱۰۱) ۴۔ اخرجہ ابو

نعیم فی الحلبة (ج ۱ ص ۳۰۹) و اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۱۶۷) عن نافع بمعناه مع زیادة

## آہستہ آواز سے ذکر کرنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ بتاتے تھے کہ جس نماز کے لئے مسواک کی جاتی ہے اسے اس نماز پر ستر گنا فضیلت حاصل ہے جس کے لئے مسواک نہ کی جائے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ذکر خفی جسے کوئی نہ سنے اسے (بلند آواز والے ذکر پر) ستر گنا فضیلت حاصل ہے اور فرماتے تھے جب قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو حساب کے لئے جمع کریں گے اور لکھنے والے فرشتے اپنے لکھے ہوئے دفتر لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرمائیں گے کیا اس بندے کا کوئی عمل لکھنے سے رہ گیا ہے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں اس کے جس عمل کا پتہ چلا وہ ہم نے ضرور لکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے تیرا ایک چھپا ہوا عمل میرے پاس ہے جسے تو بھی نہیں جانتا اور میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا اور وہ ہے ذکر خفی یعنی آہستہ آواز سے ذکر کرنا۔

جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جنت البقیع میں آگ کی روشنی دیکھی تو ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ حضور ﷺ قبر میں اترے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں مجھے یہ آدمی دو چنانچہ انھوں نے قبر کے پاؤں کی طرف سے وہ جنازہ دیا میں نے دیکھا تو یہ وہ صحابی تھے جو اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔

حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے حضرت محمد بن ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ سنایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ قبیلہ مزینہ کے آدمی تھے اور وہ ذوالبجادیں یعنی دو چادر والے کہلاتے تھے۔ وہ یتیم تھے اور اپنے چچا کی تربیت میں تھے اور وہ چچا ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ ان کے چچا کو یہ خبر ملی کہ حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے جو کچھ حضرت عبداللہ کو دے رکھا تھا وہ سب ان سے چھین لیا اور انہیں بالکل بنگا کر کے نکال دیا۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے تو اس نے اپنی ایک دھاری دار چادر کے دو ٹکڑے کر کے انہیں دیئے۔ انھوں نے ایک ٹکڑے کو لنگی بنا کر باندھ لیا اور دوسرے کو اوڑھ لیا پھر وہ حضور ﷺ کی خدمت میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا آج سے تم عبداللہ ذوالبجادیں ہو اور تم میرے دروازے پر پڑ جاؤ، چنانچہ وہ حضور کے دروازے پر پڑ گئے اور وہ اونچی آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کیا یہ ریاکار ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں یہ تو آہیں بھر کر رونے والوں میں سے ایک ہے۔ حضرت تمیمی رحمۃ اللہ

۱۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۸۱) وفيه معاوية بن يحيى الصدفی وهو ضعيف.  
 انتھی ۲۔ اخرجہ ابوداؤد کذا فی جمع الفوائد (ج ۱ ص ۱۳۷) و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۳ ص ۳۵۱) عن جابر نحوه مختصراً

علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں غزوہ تبوک میں ایک دفعہ آدمی رات کو کھڑا ہوا تو میں نے لشکر کے ایک کونے میں آگ جلتی ہوئی دیکھی میں وہاں گیا تو دیکھا حضور ﷺ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما ہیں اور حضرت عبداللہ ذوالبجادیٰ کا انتقال ہو چکا ہے اور لوگ ان کی قبر کھود چکے ہیں اور حضور ان کی قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ جب ہم انہیں دفن کر چکے تو حضور نے فرمایا اے اللہ! میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی جنہیں ذوالبجادیٰ کہا جاتا تھا ان کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا بے شک یہ آپہں بھر کر رونے والا ہے اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ وہ تلاوت قرآن، دعا اور اللہ کا ذکر کثرت سے اونچی آواز سے کیا کرتے تھے۔ ۴

### ذکر اور تسبیحات کو گننا اور تسبیح کا ثبوت

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے میرے سامنے چار ہزار کھٹلیاں پڑی ہوئی تھیں جن پر میں سبحان اللہ پڑھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں اس طرح سبحان اللہ پڑھنا نہ بتاؤں جو تمہارے اب تک کے سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار سے زیادہ ہو میں نے کہا ضرور بتائیں فرمایا (سبحان اللہ عدد خلقہ اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر سبحان اللہ) حاکم کی روایت میں ہے سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے برابر سبحان اللہ۔ ۵ جامع اذکار کے عنوان میں بھی کچھ اذکار گزر چکے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوصفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے چڑے کا ایک بچھونا رکھا جاتا اور ایک ٹوکرا لایا جاتا جس میں کنکریاں ہوتیں تو وہ ان پر زوال تک سبحان اللہ پڑھتے رہتے پھر اسے اٹھالیا جاتا پھر جب ظہر پڑھ لیتے تو پھر شام تک سبحان اللہ پڑھتے رہتے۔ ۶

حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے مہاجرین کے ایک آدمی حضرت ابوصفیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھٹلیوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ۷

۱۔ قال الحافظ فی الاصابة (ج ۲ ص ۳۳۸) رواہ البغوی بطولہ من ہذا الوجه ورجالہ لقات الا ان فیہ انقطاعا و اخرجہ ابن مندۃ من طریق معد بن الصلت عن الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ بن مسعود ومن طریق کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف عن ابیہ عن جدہ نحوہ

۲۔ اخرجہ احمد و جعفر بن محمد القریابی فی کتاب الذکر۔ انتہی

۳۔ اخرجہ الترمذی و الحاکم و قال الترمذی حدیث غریب لانعرفہ من حدیث صفیہ الامن ہذا الوجه من حدیث ہاشم بن سعید الکوفی ولس اسنادہ بمعروف کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۹۹)

۴۔ اخرجہ البغوی کذا فی البدایۃ (ج ۵ ص ۳۲۲) ۵۔ اخرجہ البغوی ایضا وھکذا اخرجہ

البخاری ای فی غیر الصحیح کذا فی الاصابة (۳ ص ۱۰۹) وھکذا اخرجہ ابن معد (ج ۷ ص ۱۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دھاگہ تھا جس میں دو ہزار گرہیں لگی ہوئی تھیں جب تک ان سب پر تسبیح نہ پڑھ لیتے اس وقت تک سویا نہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے قبیلہ طفاوہ کے ایک بڑے میاں نے اپنا قصہ سنایا۔ کہتے ہیں میں مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا میں نے نبی کریم ﷺ کا کوئی صحابی ان سے زیادہ عبادت میں محنت کرنے والا اور ان سے زیادہ مہمان کی خیر خبر لینے والا نہیں دیکھا۔ ایک دن میں ان کے پاس تھا اور وہ اپنے تخت پر تھے اور ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کنکریاں یا گھٹلیاں تھیں اور ان کے تخت کے نیچے ان کی ایک کالی باندی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ان کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے جب تھیلی کی تمام کنکریاں ختم ہو گئیں تو انھوں نے وہ تھیلی اس باندی کے سامنے ڈال دی۔ اس باندی نے وہ ساری کنکریاں اس تھیلی میں ڈال دیں اور تھیلی اٹھا کر پھر ان کے سامنے رکھ دی آگے لمبی حدیث ذکر کی۔

حضرت حکیم بن ویلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کنکریوں پر سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔

## ذکر کے آداب اور نیکیوں کا بڑھنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ اللہ کا ذکر صرف طہارت کی حالت میں کیا کرو۔

حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ بات پہنچی کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایک نیکی کے بدلے دس لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بالکل نہیں میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اسے بیس لاکھ نیکیاں دے گا پھر یہ آیت پڑھی رَضَا عَفْهًا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (سورت نساء آیت ۴۰) ترجمہ ”تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔“ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم کہہ رہے ہیں تو اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو عثمان کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کو دس لاکھ گنا بڑھایا جاتا ہے۔ انھوں نے فرمایا تمہیں اسی بات پر حیرانی ہو رہی

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی المحلیة (ج ۱ ص ۲۸۳)

۲۔ عند ابی داؤد (ج ۳ ص ۵۵) ۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۲۳)

۴۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۰۹)

ہے، اللہ کی قسم! میں نے تو حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح دعا میں اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرتے تھے اور کن کاموں کے لئے دعا کیا کرتے تھے اور کس وقت دعا کیا کرتے تھے اور ان کی دعائیں کیسی ہوا کرتی تھیں

### دعا کے آداب

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس سے گزرے وہ یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ! میں تجھ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے تو اللہ سے مصیبت کو مانگ لیا (کیونکہ پہلے کوئی مصیبت آئے گی پھر اس کے بعد صبر ہوگا) تو اللہ سے عافیت کو مانگ (کوئی مصیبت آجائے تو پھر صبر مانگنا چاہئے) اور آپ کا گزر ایک اور آدمی پر ہوا جو یہ دعا مانگ رہا تھا اے اللہ میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں حضور نے فرمایا او آدم کے بیٹے! تم جانتے ہو کہ پوری نعمت کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو میں نے خیر کی امید میں دعا مانگ لی ہے (مجھے نہیں پتہ کہ پوری نعمت کیا ہوتی ہے) آپ نے فرمایا پوری نعمت یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے حضور ایک اور آدمی کے پاس سے گزرے وہ کہہ رہا تھا یاذا الجلال والا کرام آپ نے فرمایا ان الفاظ سے پکارنے کی وجہ سے تیرے لئے قبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے اب تو مانگ۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک آدمی کے پاس گئے وہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے پرندے کے اس بچے کی طرح نظر آ رہا تھا جس کے پر کسی نے نوج لئے ہوں۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تو کوئی خاص دعا مانگا کرتا تھا؟ اس نے کہا میں یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ! تو نے مجھے جو سزا آخرت میں دینی ہے وہ دنیا ہی میں جلد دے دے، حضور نے فرمایا تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و خوبی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے! چنانچہ اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۵) رواہ احمد باسنادین والبیزار بنحوہ واحد اسنادی احمد جید۔ انتہی  
۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۲)  
۳۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۰) و اخرجہ ابن النجار عنہ بنحوہ کما فی الكنز

حضرت بشیر بن خصاصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمہیں ربیعۃ القاسم قبیلہ سے یہاں لایا اور پھر تمہیں! اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی توفیق دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے آپ سے پہلے موت دے دے۔ حضور نے فرمایا یہ دعا میں کسی کے لئے نہیں کر سکتا۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب کسی کے لئے دعا فرماتے تو دعا کی ابتداء اپنے سے فرماتے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت ہم پر ہو اور حضرت موسیٰ پر ہو اگر وہ صبر کرتے تو وہ اپنے استاد (حضرت خضر علیہ السلام) کی طرف سے اور بہت سی عجیب عجیب باتیں دیکھتے لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا اِنْ سَلَّكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (سورت کہف آیت ۷۶) ترجمہ ”اگر اس مرتبہ کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھئے بے شک میری طرف سے آپ عذر (کی انتہا) کو پہنچ چکے ہیں۔“ ۲

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابن ابی السائب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جو کہ مدینہ والوں کے واعظ تھے وہاں میں جھکھک ایک جھسی عبارت لانے سے بچو کیونکہ میں نے حضور ﷺ اور صحابہ کا زمانہ پایا ہے وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ ۳

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ فتنہ سے پناہ مانگ رہا تھا حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ! اس کی دعا کے الفاظ سے تیری پناہ چاہتا ہوں پھر اس آدمی سے فرمایا کیا تم اللہ سے یہ پناہ مانگ رہے ہو کہ وہ تمہیں بیوی بچے اور مال نہ دے؟ (کیونکہ قرآن میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے) تم میں سے جو بھی فتنہ سے پناہ مانگنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ ۴

حضرت محارب بن دثار کے چچا کہتے ہیں میں آخر شب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو انہیں میں یہ دعا فرماتے ہوئے سنتا تھا اے اللہ! تو نے مجھے بلایا میں نے اس پر لبیک کہا تو نے مجھے حکم دیا میں نے تیری اطاعت کی اور یہ سحری کا وقت ہے، لہذا تو میری مغفرت کر دے پھر میری حضرت ابن مسعود سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے

۱۔ اخرجہ ابو نعیم کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۴۷) ۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ و احمد و ابو داؤد و النسائی و غیرہم و اخرجہ الترمذی نحوه و لم یذکر من قوله فذکر ذات یوم الی آخرہ و قال حسن غریب صحیح کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۰) و اخرجہ الطبرانی باسناد حسن عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ بلفظ کان اذا دعا بدال نفسه کما فی المجمع (ج ۱۰ ص ۱۵۲)

۳۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ عن الشعبي کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۲)

۴۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابو عیاد کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۸۹)

کہا میں نے آپ کو آخر شب میں چند کلمات کہتے ہوئے سنا ہے پھر میں نے وہ کلمات انہیں بتائے تو انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لئے اپنے رب سے استغفار کروں گا تو انہوں نے آخر شب میں ان کے لئے دعائے مغفرت کی تھی۔

## دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا اور پھر چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب دعا فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور جب دعا سے فارغ ہو جاتے تو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور جب دعا میں ہاتھ اٹھالیتے تھے تو جب تک انہیں اپنے چہرے پر نہ پھیر لیتے اس وقت تک نیچے نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کو اجار الزیت (مسجد نبوی کے مغرب میں ایک جگہ کا نام ہے) کے پاس دیکھا کہ آپ دعا مانگ رہے تھے اور آپ کی ہتھیلیاں منہ کی طرف تھیں۔ جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیر لیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ دعا میں اتنی دیر ہاتھ اٹھائے رکھتے تھے کہ میں تھک جاتی تھی۔ عبد الرزاق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس جیسی روایت منقول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے یہ دعا مانگی اللھم انما انا بشر فلا تعذبني بشتم رجل شتمته و اذنبه اے اللہ! میں بشر ہی تو ہوں میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو اس وجہ سے مجھے عذاب نہ دینا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور ﷺ دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں میں بشر ہی تو ہوں اس لئے مجھے سزا نہ دے کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو یا اسے برا بھلا کہا ہو تو اس وجہ سے مجھے سزا نہ دینا۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کا دیہاتیوں کی ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے اور کافروں کے لشکروں نے ان کے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حضور نے ان کے لئے دعا کرنے کے لئے ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھائے تو ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہاتھ اور لمبے فرمادیں تو آپ نے اپنے

۱۔ اخرجہ الطبرانی عن محارب بن وثار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۵۵) ولیہ عبدالرحمن بن اسحاق الکوفی وهو ضعیف ۲۔ اخرجہ الحاکم ۳۔ عند الحاکم ابضا والترمذی و صححه ۴۔ عند عبدالغنی فی ایضاح الاشکال کذافی الکنز (ج ۱ ص ۲۸۹) ۵۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۶۸) رواہ احمد بثلاثة اسانید و رجالها کلها رجال الصحیح. انہی ۶۔ کذافی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۱) ۷۔ عند البخاری فی الادب المفرد (ص ۹۰)



چہرے کے آگے اور بڑھادیئے آسمان کی طرف اور نہ اٹھائے۔  
حضرت ابو نعیم وہبؒ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیرؓ دعا کر رہے تھے اور دعا کے بعد انہوں نے اپنی ہتھیلیاں اپنے چہرے پر پھیریں۔

## اجتماعی دعا کرنا اور اونچی آواز سے دعا کرنا اور آمین کہنا

حضرت قیس مدنیؒ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت زید بن ثابتؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا تم جا کر یہ بات حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھو کیونکہ ایک مرتبہ میں، حضرت ابو ہریرہؓ اور فلاں آدمی ہم تینوں مسجد میں دعا کر رہے تھے اور اپنے رب کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ہم خاموش ہو گئے پھر فرمایا جو تم کر رہے تھے اسے کرتے رہو، چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پہلے دعا کی اور حضور ہماری دعا پر آمین کہتے رہے پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ دعا کی اے اللہ! میرے ان دو ساتھیوں نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے وہ بھی تجھ سے مانگتا ہوں اور ایسا علم بھی مانگتا ہوں جو کبھی نہ بھولے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگتے ہیں جو کبھی نہ بھولے۔

حضور نے فرمایا یہ دوسو نوجوان (یعنی حضرت ابو

ہریرہؓ) تم دونوں سے آگے نکل گئے۔

حضرت جامع بن شدادؓ کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین دعائیں ایسی ہیں کہ جب وہ مانگوں تو تم ان پر آمین کہنا اے اللہ! میں کمزور ہوں مجھے قوت عطا فرما، اے اللہ! میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، اے اللہ! میں کنجوس ہوں مجھے سخی بنا دے۔

حضرت سائب بن یزیدؓ کہتے ہیں میں نے رمادہ قحط سالی کے زمانے میں حضرت عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت عام سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے عاجز اور مسکین بن کر جا رہے ہیں اور ان کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر پڑی ہوئی ہے جو گھٹنوں تک مشکل سے پہنچ رہی ہے۔ اونچی آواز سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے رخسار پر آنسو بہ رہے

۱۔ اخرجہ عبدالرزاق کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۱)

۲۔ اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۹۰) ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۶۱) وقیس هذا کان فاص عمر بن عبدالعزیز لم یروعه غیر ابنہ محمد وبقیة رجالہ ثقات. انتہی ۴۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۷۵)

ہیں اور ان کے دائیں طرف حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ ہیں۔ اس دن انہوں نے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بہت گڑگڑا کر دعا مانگی لوگ بھی ان کیساتھ دعا مانگ رہے تھے پھر حضرت عباسؓ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا اے اللہ! ہم تیرے رسولؐ کے چچا کو تیرے سامنے سفارشی بناتے ہیں پھر حضرت عباسؓ بہت دیر تک حضرت عمرؓ کے پہلو میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔

حضرت ابواسیدؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ عشاء کے بعد مسجد کا چکر لگاتے اور اس میں جو آدمی بھی نظر آتا اسے مسجد سے نکال دیتے جسے کھڑا ہوا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اسے رہنے دیتے۔ ایک رات ان کا حضور ﷺ کے چند صحابہؓ پر گزر ہوا جن میں حضرت ابی بن کعبؓ بھی تھے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت ابیؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کے گھر کے چند آدمی ہیں۔ فرمایا نماز کے بعد تم لوگ اب تک یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ حضرت ابیؓ نے فرمایا ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمرؓ بھی ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان میں سے جو ان کے سب سے قریب تھا اس سے فرمایا تم دعا کراؤ۔ اس نے دعا کرائی اس طرح ان سب سے ایک ایک سے دعا کرائی، چنانچہ سب نے دعا کرائی یہاں تک کہ میری باری آگئی۔ میں آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا فرمایا اب تم دعا کراؤ تو میری زبان بند ہوگئی اور مجھ پر کچکی طاری ہوگئی جس کا انہیں بھی اندازہ ہو گیا تو فرمایا اور کچھ نہیں تو اتنی ہی دعا کراؤ اللھم اغفر لنا اللھم ارحمنا اے اللہ! ہماری مغفرت فرما، اے اللہ! ہم پر رحم فرما“ پھر حضرت عمرؓ نے دعا شروع کی تو ان لوگوں میں سب سے زیادہ آنسوؤں والا اور سب سے زیادہ رونے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا اب آپ سب لوگ بھی خاموش ہو جائیں اور بکھر جائیں۔

حضرت ابوہبیرہؓ کہتے ہیں حضرت حبیب بن مسلمہ فہریؓ مستجاب الدعوات صحابی تھے انہیں ایک لشکر کا امیر بنایا گیا انہوں نے ملک روم جانے کے راستے تیار کرائے۔ جب دشمن کا سامنا ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جماعت ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرائے اور باقی سب آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے پھر حضرت حبیبؓ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور یہ دعا مانگی اے اللہ! ہمارے خون کی حفاظت فرما اور شہداء والا اجر ہمیں عطا فرما۔ ابھی دعا مانگی ہی تھی کہ اتنے میں دشمن کا سپہ سالار جسے رومی زبان میں ہنیاٹ کہا جاتا ہے وہ آگیا اور حضرت حبیبؓ کے پاس ان کے خیمے کے اندر چلا گیا گویا اس نے

۱۔ اخرجہ ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ۳۲۱)

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۹۳)

اپنی شکست مان لی۔ اہل شہادت کی تمنا اور شہادت کی دعا کے باب میں حضرت معقل بن یسارؓ کی لمبی حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمان بن مقرنؓ نے فرمایا کہ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تم میں سے ہر آدمی اس پر ضرور آمین کہے اس کی میری طرف سے پوری تاکید ہے پھر یہ دعا مانگی اے اللہ! آج نعمان کو شہادت کی موت نصیب فرما اور مسلمانوں کی مدد فرما اور انہیں فتح نصیب فرما۔ ۲

حضرت عقبہ بن عامرؓ فرماتے ہیں ایک صحابی کو ذوالسجادین کہا جاتا تھا ان کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ آپ بھر کر رونے والا ہے اور یہ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ صحابی بہت زیادہ تلاوت اور اللہ کا ذکر کرنے والے تھے اور اونچی آواز سے دعا کیا کرتے تھے۔ ۳

## نیک لوگوں سے دعا کرانا

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے عمرہ کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمادی اور فرمایا اے میرے چھوٹے سے بھائی! اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں حضورؐ نے یہ جو مجھے اپنا بھائی فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے ہرگز خوشی نہ ہو۔ ۴

حضرت ابو امامہ باہلیؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ باہر تشریف لائے آپ نے محسوس کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں تو آپ نے یہ دعا فرمائی اللھم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأنا کله۔ اے اللہ! ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے اعمال قبول فرما ہمیں جنت میں داخل فرما اور ہمیں آگ سے نجات نصیب فرما اور ہمارے تمام احوال کو درست فرما۔ پھر آپ نے محسوس فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اور دعا فرمائیں تو آپ نے فرمایا ان دعاؤں میں میں نے تمہارے تمام کاموں کی دعا کر دی ہے۔ ۵

حضرت طلحہ بن عبید اللہؓ فرماتے ہیں ایک آدمی ایک دن باہر نکل گیا اور کپڑے اتار کر گرم

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۷۰) رواہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح غیر ابن لہیعۃ وهو حسن الحدیث۔ انتھی ۲۔ اخرجہ الطبری وھکذا اخرجہ الطبرانی ورجالہ رجال الصحیح وزاد فی روایۃ لسان القوم کما فی المجمع (ج ۶ ص ۲۱۶) وھکذا اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۹۳) فی حدیث طویل ۳۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۶۹) واسناد ھما حسن و اخرجہ ابن جریر ایضا عن عقبۃ نحوہ کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۹۵) ۴۔ اخرجہ ابو داؤد والترمذی و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۷۳) عن عمر بمعناہ ۵۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۱)

زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور اپنے نفس سے کہنے لگا جہنم کی آگ کا مزہ چکھ لے تو رات کو مردار پڑا رہتا ہے اور دن کو بیکار۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ ایک درخت کے سایہ میں تشریف فرما ہیں اس نے حضور کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا حضور نے اس سے فرمایا غور سے سنو (تمہاری تواضع کی اور اپنے نفس کو سزا دینے کی کیفیت اللہ کو بہت پسند آئی ہے) اس وجہ سے تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا اپنے اس بھائی سے دعا کا توشہ لے لو (اس کی اس کیفیت کی وجہ سے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے اس سے دعا کرواؤ) چنانچہ ایک آدمی نے کہا اے فلا نے! میرے لیے دعا کرو۔ حضور نے اس سے فرمایا نہیں صرف ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی اے اللہ! تقویٰ کو ان کا توشہ بنا دے اور تمام کاموں میں ان کی پوری رہبری فرما۔ اس دوران حضور نے اس کے لیے یہ دعا کی اے اللہ! اسے صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرما تو اس نے کہا اے اللہ! جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ اتنے میں آپ کا گزر ایک آدمی پر ہوا جو گرم زمین پر لیٹ کر الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے نفس! رات بھر تو سوتا رہتا ہے اور دن کو بیکار رہتا ہے اور جنت کی امید رکھتا ہے جب وہ اپنے نفس کی سزا پوری کر چکا تو حضور نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم اپنے اس بھائی کو پکڑ لو (یعنی اس سے دعا کرواؤ) ہم نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں اس پر اس نے یہ دعا کی اے اللہ! تمام کاموں میں ان کی پوری رہبری فرما ہم نے کہا ہمارے لیے اور دعا کریں اس نے کہا اے اللہ! تقویٰ کو ان کا توشہ بنا دے ہم نے کہا اور دعا کر دیں حضور نے بھی فرمایا ان کے لیے اور دعا کرو اور حضور نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اسے (جامع دعا کرنے کی) توفیق عطا فرما، چنانچہ اس نے کہا اے اللہ! جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔

حضرت اسیر بن جابرؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت اویس سے فرمایا تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حضرت اویس نے کہا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کیسے کروں آپ تو حضور ﷺ کے صحابی ہیں؟ فرمایا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام تابعین میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جسے اویس کہا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا

۱۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۹۰) ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱ ص ۱۸۵) رواه الطبرانی من طریق ابی عبد الله صاحب الصدقة عن علقمة بن مرثد ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات. انتهى و اخرجہ ابو نعیم عن بریدة نحوه كما في الكنز (ج ۱ ص ۳۰۸) ۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۶ ص ۱۶۳) وفي الحديث طول واخراج المرغوع منه مسلم في صحيحه كما في الاصابه (ج ۱ ص ۱۱۵)

لہذا تم میں سے جو بھی اولیس سے ملے وہ ان سے کہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کریں۔  
حضرت عبداللہ رومی کہتے ہیں حضرت انس بن مالکؓ زاویہ بستی میں ٹھہرے ہوئے تھے کسی نے ان سے کہا بصرہ سے آپ کے بھائی آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے دعا کریں تو انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ! ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں نے مزید دعا کی درخواست کی تو انہوں نے وہی دعا پھر کر دی اور فرمایا اگر تمہیں یہ چیزیں دے دی گئیں تو دنیا اور آخرت کی خیر تمہیں دے دی جائے گی۔

### گنہگاروں کے لیے دعا کرنا

حضرت یزید بن اصبم کہتے ہیں شام کا ایک آدمی بہت طاقتور اور خوب لڑائی کرنے والا تھا وہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں آیا کرتا تھا وہ چند دن حضرت عمرؓ کو نظر نہ آیا تو فرمایا فلاں ابن فلاں کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین! اس نے تو شراب پینی شروع کر دی ہے اور مسلسل پی رہا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے منشی کو بلا کر فرمایا خط لکھو یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام۔ سلام علیک! میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا انعام و احسان کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“ پھر حضرت عمرؓ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ فرمادے اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرمادے۔ جب اس کے پاس حضرت عمرؓ کا خط پہنچا تو وہ اسے بار بار پڑھنے لگا اور کہنے لگا وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے (اس آیت میں) اللہ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ وہ اسے بار بار پڑھتا رہا پھر رونے لگ گیا پھر اس نے شراب پینی چھوڑ دی اور مکمل طور سے چھوڑ دی۔ جب حضرت عمرؓ کو اس کی یہ خبر پہنچی تو فرمایا ایسے کیا کرو جب تم دیکھو کہ تمہارا بھائی پھسل گیا ہے اسے راہ راست پر لاؤ اور اسے اللہ کی معافی کا یقین دلاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور تم اس کے خلاف شیطان کے بددگار نہ بنو (اور اسے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ کرو)۔

۱۔ اخروجه البخاری فی الادب المفرد (ص ۹۳)

۲۔ اخروجه ابن ابی حاتم ورواه الحافظ ابو نعیم من حدیث جعفر بن برفان

۳۔ کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۷۰)

## وہ کلمات جن سے دعا شروع کی جاتی ہے

حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا اللھم انی اسئلک بانى اشهد انک انت اللہ ولا الہ الا انت الا حد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد ” اے اللہ! میں تجھ سے اس وسیلہ سے مانگتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بیشک تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے“ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں اور جب اس کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے تو وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا یا ذا الجلال والا کرام حضور نے فرمایا تیرے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے اب تو مانگ۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کا حضرت ابو عیاش زید بن صامت زرقی کے پاس سے گزر ہوا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اللھم انی اسئلک بان لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السموات والارض یا ذا الجلال والا کرام ” اے اللہ! میں تجھ سے اس وسیلہ سے مانگتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے بڑے مہربان! اے بہت دینے والے! اے آسمانوں اور زمین کو کسی نمونہ کے بغیر بنانے والے! اے بزرگی اور بخشش والے!“ حضور نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے مانگا ہے کہ جب اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور جب اس کے وسیلہ سے اس سے مانگا جائے تو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: یا حی یا قیوم ” اے سدا زندہ رہنے والے! اے سب کو قائم رکھنے والے!“ حاکم کی روایت میں اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں اسئلک الجنة واعوذ بک من النار“ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے وہ اپنی نماز میں دعا

۱۔ اخرجہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ وابن ماجہ وابن حبان فی صحیحہ واخرجه الحاکم الا انہ قال لقد سألت اللہ باسمہ الاعظم وقال صحیح علی شرطہما کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۳۵) واخرجہ النسائی ایضا کما فی اذکار النووی (ص ۵۰۱)

۲۔ اخرجہ الترمذی وحسنہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۳۵) ۳۔ اخرجہ احمد واللفظ لہ وابن ماجہ ورواه ابو داؤد والنسائی وابن حبان فی صحیحہ والحاکم وزاد هو لاء الاربعة یا حی یا قیوم وقال الحاکم صحیح علی شرط مسلم کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۳۶)

ما نك رها تھا اور کہہ رہا تھا یا من لا تراہ للہیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الوصفون ولا تغیرہ  
الحوادث ولا یخشی الدوائر یعلم منا قیل الجبال ومکانیل البحار وعدد قطر المطار وعدد  
ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار وما توارى من سماء سماء  
ولا ارض ارض ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی  
خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ ” اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور کسی کا  
خیال وگمان اس تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے  
ہیں اور نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور نہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ ہے جو  
پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطرہوں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی  
تعداد کو جانتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن پر دن  
روشنی ڈالتا ہے اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے اور نہ ایک زمین دوسری  
زمین کو اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی تہ میں ہیں اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا  
سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہیں تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ  
بنادے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنادے اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن  
میری تجھ سے ملاقات ہو ” آپ نے ایک آدمی کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ  
ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا چنانچہ وہ نماز کے بعد حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضورؐ  
کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا حضورؐ نے اسے وہ سونا ہدیہ میں دیا پھر اس سے  
پوچھا کہ اے اعرابی! تم کو نئے قبیلہ میں سے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ! بنی عامر بن صعصعہ قبیلہ  
میں سے ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا  
رسول اللہ! ہماری آپ کی رشتہ داری ہے اس وجہ سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رشتہ داری کا بھی حق  
ہوتا ہے لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقہ سے اللہ کی ثنا  
بیان کی ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے حضور ﷺ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اللھم انی اسئلک  
باسمک الطاهر الطیب المبارک الاحب الیک الذی اذا دعیت بہ اجبت واذا منلت بہ  
اعطیت واذا سترت بہ رحمت واذا اسفر جنت بہ فرجت ” اے اللہ! میں تجھ سے تیرے  
اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جو پاک عمدہ، مبارک اور تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے  
جب تجھے اس کے ذریعہ پکارا جاتا ہے تو تو ضرور متوجہ ہوتا ہے اور جب تجھ سے اس کے وسیلے سے

۱۔ اخرجه الطبرانی فی لا وسط قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۵۸) رجال الصحیح غیر عبداللہ  
بن محمد ابی عبدالرحمن الاذرمی وهو ثقة. انتھی

مانگا جاتا ہے تو تو ضرور دیتا ہے اور جب تجھ سے اس کے ذریعہ رحم طلب کیا جاتا ہے تو تو ضرور رحم فرماتا ہے اور جب اس کے وسیلہ سے تجھ سے کشادگی مانگی جاتی ہے تو تو ضرور کشادگی دیتا ہے۔“ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ایک دن حضورؐ نے فرمایا اے عائشہ! کیا تمہیں پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلہ سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ نام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! تجھے سکھانا مناسب نہیں۔ وہ فرماتی ہیں میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی پھر میں کھڑی ہوئی اور حضورؐ کے سر کا بوسہ لیا پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے وہ نام سکھا دیں۔ حضورؐ نے فرمایا اے عائشہ! تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں سکھاؤں کیونکہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعہ دنیا کی کوئی چیز مانگو۔ میں وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی پھر یہ دعا مانگی اللھم انی ادعوك اللہ وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك باسمائك الحسنی کلھا ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی ونوحمنی ”اے اللہ! میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں تجھے رحمٰن کہہ کر پکارتی ہوں تجھے نیکو کار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں اور تجھے تیرے ان تمام اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی ہوں اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔“ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضورؐ میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے ان میں وہ خاص نام بھی شامل ہے۔

حضرت سلمہ بن اکوعؓ فرماتے ہیں میں نے حضورؐ کو کبھی ایسی دعا مانگتے ہوئے نہیں سنا کہ جس کے شروع میں آپ نے یہ الفاظ نہ کہے ہوں سبحان ربی العلیٰ الیٰ الیٰ الوہاب ”میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو کہ بلند، بہت بلند اور بہت دینے والا ہے۔“

حضرت انسؓ فرماتے ہیں اگر حضورؐ سے سو دعائیں بھی مانگتے تو ان کے شروع میں درمیان میں اور آخر میں یہ دعا ضرور مانگتے رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ”اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔“

حضرت فضالہ بن عبیدؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضورؐ تشریف فرما تھے اتنے میں ایک آدمی

۱۔ اخرجہ ابن ماجہ (ص ۲۹۸) ۲۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۵۶)

رواہ احمد والطبرانی بنحوہ وفیہ عمر بن راشد الیمامی وثقہ غیر واحد وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح. انتہی و اخرجہ ابن ابی شیبۃ عن سلمۃ بنحوہ کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۰)

۳۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۰)



نے اندر آ کر نماز پڑھی اور پھر اس نے یہ دعا مانگی اللھم اغفر لی وارحمنی "اے اللہ! میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما" حضورؐ نے فرمایا اے نمازی! تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ تو پہلے اللہ کی شایان شان تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو پھر دعا مانگو پھر ایک اور آدمی نے نماز پڑھی پھر اس نے اللہ کی حمد و ثنایان کی اور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا تو حضورؐ نے اس سے فرمایا اے نمازی! اب تم دعا کرو ضرور قبول کی جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگنا چاہے تو اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا سے ابتداء کرنے پھر نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے پھر اللہ سے مانگے تو اس طرح مقصد میں کامیابی کی زیادہ امید ہے۔

## نبی کریم ﷺ کی اپنی امت کے لیے دعائیں

حضرت عباس بن مرداسؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے عرفات (یعنی حج کے دن نوزی الحج) کی شام کو اپنی امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی اور بہت دیر تک یہ دعا مانگتے رہے آخر اللہ نے وحی بھیجی کہ میں نے تمہاری دعا منظور کر لی اور ان کے جن گناہوں کا تعلق مجھ سے تھا وہ میں نے معاف کر دیئے لیکن انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کر رکھا ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی اس پر حضورؐ نے غایت شفقت کی وجہ سے عرض کیا اے رب! تو یہ کر سکتا ہے کہ مظلوم کو اس ظلم سے بہتر بدلہ اپنے پاس سے دے دے اور ظالم کو معاف فرما دے اس شام کو تو اللہ نے یہ دعا قبول نہ فرمائی البتہ مزدلفہ کی صبح کو حضورؐ نے یہ دعا پھر مانگنی شروع کی تو اللہ نے قبول فرمائی اور فرمایا چلو ظالموں کو بھی معاف کر دیا۔ اس پر حضورؓ مسکرانے لگے تو بعض صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! (تہجد کا وقت ہے) آپ اس وقت تو مسکرایا نہیں کرتے تھے کیوں مسکرارہے ہیں؟ فرمایا میں اس وجہ سے مسکرارہا ہوں کہ جب اللہ کے دشمن ابلیس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم امتیوں کے بارے میں بھی میری یہ دعا قبول کر لی ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی پکارنے لگا اور سر پر مٹی ڈالنے لگا (اسے دیکھ کر میں مسکرارہا تھا)۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت ابراہیمؑ کے اس قول کی تلاوت فرمائی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ** (سورت ابراہیم آیت ۳۶) ترجمہ "اے میرے

۱۔ اخرجہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و اللفظ له و حسنه و النسائی و ابن خزیمہ و ابن حبان فی صحیحہما کذا فی الترغیب (ج ۲ ص ۱۲۷) و اخرجہ الطبرانی ایضا بنحوہ کما فی المجمع (ج ۱۰ ص ۱۵۵) ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۵۵) رجالہ رجال الصحیح

۳۔ اخرجہ البیہقی

الا ان ابا عبیدہ لم یسمع من ابيه. انتهى.

پروردگار! ان بتوں نے بہترے آدمیوں کو گمراہ کر دیا پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے اور جو شخص (اس باب میں) میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی ان تَعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ (سورت مائدہ آیت ۱۱۸) ترجمہ ”اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔“ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر امت کے لیے یہ دعا شروع کر دی، اے اللہ! میری امت، اے اللہ! میری امت، اے اللہ! میری امت اور آپ رونے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل! تمہارا رب سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے لیکن تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ وہ کیوں رورہے ہیں؟ چنانچہ حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کر پوچھا حضور نے رونے کی وجہ بتائی (کہ امت کے غم میں رورہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے واپس آ کر اللہ تعالیٰ کو وجہ بتائی) اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور تمہیں رنجیدہ اور غمگین نہ ہونے دیں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے اپنی امت کے لئے یہ دعا مانگی اللہم اقبل بقلوبہم علی طاعتک و حظ من و دانہم برحمتک ”اے اللہ! ان کے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف متوجہ فرما اور ان کے پیچھے سے اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ بہت خوش ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لئے اللہ سے دعا فرمادیں۔ آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما اور جو اس نے چھپ کر کئے اور علی الاعلان کئے وہ بھی سب معاف فرما۔ اس دعا سے خوش ہو کر میں خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئی جس سے میرا سر میری گود میں چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں میری دعا سے بہت خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے آپ کی دعا سے خوشی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم! یہ دعا تو میں اپنی امت کے لئے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔

۱۔ اخرجہ ابن وہب کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۵۲۰)

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۶۹) وفيه ابو شيبه و هو ضعيف انتهى.

۳۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۳۳) رجاله رجال الصحيح غير احمد بن منصور الرمادی ووثقة. انتهى.

## نبی کریم ﷺ کی خلفاء اربعہ کے لئے دعائیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے یہ دعا مانگی اے اللہ! ابوبکرؓ کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔۱

حضرت عمر اور حضرت احباب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ دعا مانگی اے اللہ! عمرؓ بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کو عزت عطا فرما۔۲

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ نے یہ دعا مانگی اے اللہ! اسلام کو خاص طور سے عمرؓ بن خطاب کے ذریعہ عزت عطا فرما۔۳

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے یہ دعا مانگی اے اللہ! اسلام کو عمرؓ کے ذریعے قوت عطا فرما۔۴

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بھورے رنگ کی اونٹنی حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجی حضور نے ان کے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ! انہیں پل صراط (آسانی سے اور جلدی سے) پار کر دینا۔۵

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے یہ دعا تین مرتبہ فرمائی اے اللہ! میں عثمانؓ سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔۶

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! عثمانؓ کے اگلے پچھلے گناہ اور جو گناہ چھپ کر گئے اور جو علی الاعلان کئے اور جو پوشیدہ طور سے کئے اور جو سب کے سامنے کئے سارے معاف فرما۔۷

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیمار ہوا میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا اور خود کھڑے ہو کر نماز شروع فرمادی اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا پھر نماز کے بعد فرمایا اے ابن ابی طالب! اب تم ٹھیک ہو گئے ہو کوئی فکر نہ

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ کذا فی المنتخب (ج ۳ ص ۳۳۵)

۲۔ اخرجہ احمد والترمذی و صححہ و ابن سعد و غیرہم عن عمر رضی اللہ عنہ والنسائی عن خباب رضی اللہ عنہ ۳۔ عند ابن ماجہ والحاکم والبیہقی

۴۔ عند الطبرانی و احمد کذا فی المنتخب (ج ۳ ص ۳۴۰)

۵۔ اخرجہ ابن عساکر ۶۔ عند ابن عساکر ایضا عن عائشہ و ابی سعید رضی اللہ عنہما و عند ابی نعیم عن ابی سعید ۷۔ عند الطبرانی فی الاوسط و ابی نعیم فی الحلیۃ و ابن

عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۶)

کرو میں نے جو چیز اللہ سے اپنے لئے مانگی اس جیسی میں نے اللہ سے تمہارے لئے بھی مانگی اور میں نے جو چیز بھی اللہ سے مانگی وہ اللہ نے مجھے ضروری بس اتنی بات ہے کہ مجھ سے یوں کہا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔

حضرت زید بن شیح، حضرت سعید بن وہب اور حضرت عمرو بن ذی مرجمہ اللہ علیہم کہتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ہر اس آدمی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے حضور ﷺ کو (حجۃ الوداع سے واپسی پر) عند یرخم کے دن کچھ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ ضرور کھڑا ہو جائے، چنانچہ تیرہ آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس دن حضور نے فرمایا تھا کیا میں مومنوں کے ساتھ خود ان کی جان سے بھی زیادہ تعلق نہیں رکھتا؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل رکھتے ہیں یا رسول اللہ! پھر حضور نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں جس کا دوست ہوں یہ (حضرت علیؑ) اس کے دوست ہیں اے اللہ! جو ان سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ اور جو ان کی مدد کرے تو اس کی مدد کر اور جو ان کی مدد چھوڑے تو اس کی مدد چھوڑ دے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے یہ دعا نقل کی ہے اے اللہ! علیؑ کی اعانت فرما اور ان کے ذریعہ سے اعانت فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کے ذریعہ سے دوسروں پر رحم فرما اور ان کی مدد فرما اور ان کے ذریعہ سے مدد فرما اے اللہ! جو ان سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں حضور نے میرے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اس کی زبان کو (حق پر) جمادے اور اس کے دل کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ منقول ہیں۔ اے اللہ! اس کو فیصلہ کرنے کا صحیح راستہ دکھلا۔

۱۔ اخرجہ ابن ابی عاصم وابن جریر و صحیحہ والطبرانی فی الاوسط وابن شاہین فی السنۃ کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۳۳)

۲۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۰۵) رجالہ رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفۃ و ہوثقہ۔ انتہی و فی ہامش المجمع اخرج لہ البخاری ایضا ۳۔ عند الطبرانی کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۳۲) ۴۔ عند الحاکم فی المنتخب (ج ۵ ص ۳۵)

## حضور ﷺ کی حضرت سعد بن ابی وقاص اور

### حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کے لئے دعائیں

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لئے یہ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ! اس کے تیر کو سیدھا نشانہ پر لگا اور اس کی دعا کو قبول فرما اور اسے اپنا محبوب بنا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے میرے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ! جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔  
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میرے لئے، میری اولاد کی اولاد کے لئے دعا فرمائی۔

### حضور ﷺ کی اپنے گھر والوں کے لئے دعائیں

حضور کی روجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ چنانچہ وہ ان تینوں کو لے آئیں تو آپ نے خیر والی چادر جو ہمیں خیر میں ملی تھی اور میں اپنے نیچے بچھاتی تھی ان پر ڈالی اور پھر ان کے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ! یہ محمد (علیہ السلام) کی آل ہے تو محمد کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں ایسے نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر نازل فرمائی تھیں۔ بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔

حضرت ابوعمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت وائل بن اسقع رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور انہیں کچھ برا بھلا کہہ دیا جب وہ لوگ کھڑے ہو کر چلے گئے تو مجھ سے فرمایا تم ذرا بیٹھے رہو میں اس ہستی کے بارے میں بتاتا ہوں جسے انہوں نے برا بھلا کہا ہے۔ ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم آئے آپ نے ان پر اپنی چادر ڈال کر یہ دعا فرمائی اے اللہ! یہ میرے گھر والے ہیں ان سے ناپاکی دور کر اور انہیں اچھی طرح پاک فرما۔ میں نے عرض کیا۔ میں بھی حضور نے فرمایا تم بھی حضرت وائل فرماتے ہیں اللہ کی قسم!

۱۔ اخرجہ ابن عساکر و ابن النجار ۲۔ عند الترمذی و ابن حبان و الحاکم کذا فی

المنتخب (ج ۵ ص ۷۰) ۳۔ اخرجہ ابو یعلیٰ و ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵

ص ۷۰) ۴۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۶۶) و فیہ عقبہ بن عبد اللہ الرفاعی

و هو ضعیف و رواہ الترمذی باختصار الصلوٰۃ

میرے دل کو حضورؐ کے اس فرمان پر تمام اعمال سے زیادہ اعتماد ہے اور ایک روایت میں یہ ہے مجھے حضورؐ کے اس فرمان سے سب سے زیادہ امید ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضورؐ نے ایک چادر بچھا رکھی تھی اس پر حضورؐ، میں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم سب بیٹھ گئے پھر حضورؐ نے چادر کے چاروں کونے پکڑ کر ہم پر گرہ لگادی پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ! جیسے میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔

## حضور ﷺ کی حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کیلئے دعائیں

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضورؐ نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لئے یہ دعا فرمائی اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس دعا کے یہ الفاظ منقول ہیں اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ نسائی اور ابن حبان میں یہ دعا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما اور اس کے شروع میں یہ ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ ابن ابی شیبہ اور طیالسی میں یہ دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس میں مزید یہ بھی ہے کہ جو ان سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور طبرانی میں حضرت سعید بن زید اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! مجھے حسن سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ عی ابن عساکر میں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اے اللہ! اسے بچا اور اس کے ذریعہ سے (دوسروں کو) بچا۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۶۷) رواہ الطبرانی باسنادین رجال السیاق رجال الصحیح غیر کلثوم بن زیاد و وثقہ ابن حبان و فیہ ضعف . انتھی

۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۶۹) رجالہ رجال الصحیح غیر عبید بن طفیل و هو ثقة کتیبہ ابو سیدان . ۱

۳۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۸۰) و اسنادہ جید ۲۔ عند البزار ایضا و اسنادہ حسن کما قال الہیثمی

۵۔ کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۰۵) ۶۔ کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۰۶)

۷۔ کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۰۳) ۸۔ کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۰۴)

کریم ﷺ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھا رکھا ہے اور یہ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ! مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت فرما۔

## حضور ﷺ کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں کے لئے دعائیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! عباس کی اور اس کی اولاد کی ظاہری باطنی ہر طرح کی مغفرت فرما اور ان کی اولاد میں تو ان کا خلیفہ بن جائے۔ ابن عساکر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! عباس کے وہ گناہ جو چھپ کر کئے یا علی الاعلان کئے یا سب کے سامنے کئے یا پردے میں کئے سب معاف فرما اور آئندہ ان سے یا ان کی اولاد سے قیامت تک جو گناہ ہوں وہ سب معاف فرما ابن عساکر اور خطیب میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! عباس کی، عباس کی اولاد کی اور جو ان سے محبت کرے اس کی مغفرت فرما۔ ابن عساکر میں حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ عباس میرے چچا اور میرے والد جیسے ہیں اور میرے آباء و اجداد میں سے اب یہی باقی ہیں۔ اے اللہ! ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کے اچھے عملوں کو قبول فرما اور برے عملوں سے درگزر فرما اور ان کے فائدے کے لئے ان کی اولاد کی اصلاح فرما۔ ۳

حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب تک میں کل آپ کے گھر نہ آ جاؤں اس وقت تک آپ اور آپ کے بیٹے گھر سے کہیں نہ جائیں مجھے آپ لوگوں سے ایک کام ہے، چنانچہ اگلے دن یہ سب لوگ گھر میں حضور کا انتظار کرتے رہے۔ آپ چاشت کے بعد ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم جواب میں ان حضرات نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر حضور نے فرمایا آپ لوگوں نے کس حال میں صبح کی؟ ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں (اچھے حال میں صبح کی) آپ نے فرمایا آپ لوگ سٹ جائیں اور مل کر بیٹھیں، چنانچہ جب وہ اس طرح بیٹھ گئے تو آپ نے ان سب پر اپنی ایک چادر ڈال دی پھر یہ دعا فرمائی اے میرے رب! یہ میرے چچا اور میرے والد جیسے ہیں اور یہ سب میرے گھر والے ہیں، لہذا جیسے میں نے ان کو اپنی اس چادر میں چھپا رکھا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی آگ سے چھپالے اس پر دروازے کی چوکھٹ اور کمرے کی

۱۔ اخروجه الستة الایا داؤد کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۰۵)

۲۔ اخروجه الترمذی و حسنہ و ابو یعلیٰ ۳۔ کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۰۷)

دیواروں نے تین دفعہ آمین کہا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں (اپنی خالہ) حضرت میمونہؓ کے گھر میں تھا میں نے حضور ﷺ کے لیے وضو کا پانی رکھا آپ نے پوچھا یہ پانی میرے لیے کس نے رکھا؟ حضرت میمونہؓ نے عرض کیا عبد اللہ نے آپ نے خوش ہو کر فرمایا اے اللہ! اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن کی تفسیر سکھا۔ ابن نجار میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ دعا اس طرح منقول ہے اے اللہ! اسے کتاب سکھا دے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ ابن ماجہ، ابن سعد اور طبرانی میں حضرت ابن عباسؓ سے یہ دعا اس طرح منقول ہے اے اللہ! اسے حکمت اور کتاب کی تفسیر سکھا دے۔ حضرت ابن عمرؓ سے یہ دعا اس طرح منقول ہے اے اللہ! اس میں برکت عطا فرما اس کے ذریعہ کتاب کو پھیلا۔

### حضور ﷺ کی حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی اولاد،

#### حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابن رواحہ کے لیے دعائیں

طبرانی اور ابن عساکر میں حضرت ابن عباسؓ سے اور احمد و ابن عساکر میں حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! جعفر کی اولاد میں تو اس کا خلیفہ بن جا۔ طیا لسی، ابن سعد اور احمد وغیرہ میں حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے تین مرتبہ یہ دعا فرمائی اے اللہ! تو جعفر کے اہل و عیال میں اس کا خلیفہ بن جا اور (ان کے بیٹے) عبد اللہ کی خرید و فروخت میں برکت عطا فرما۔ ابن ابی شیبہ میں حضرت شعبیؓ سے منقول ہے بقاء علاقہ کے غزوہ موتہ میں حضرت جعفر بن ابی طالبؓ جب شہید ہو گئے تو حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اب تک تو اپنے جتنے نیک بندوں کا خلیفہ بنا ہے ان سب سے زیادہ اچھی طرح تو جعفر کے اہل و عیال میں اس کا خلیفہ بن جا۔

حضرت ابو میسرہؓ کہتے ہیں جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر ان تینوں کے حالات بیان کیے اور ابتداء حضرت زیدؓ سے فرمائی پھر یہ دعا فرمائی اے اللہ! زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۷۰) اسنادہ حسن و اخرجہ ایضا البیہقی عن ابی اسید بنحوہ و ابن ماجہ عنہ مختصراً کما فی البدایة (ج ۶ ص ۱۳۳) و ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۵۴) عنہ بطولہ ۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ ۳۔ کذافی المنتخب (ج ۵ ص ۲۳۱)

۴۔ عند ابی نعیم فی الحطیة کذافی المنتخب (ج ۵ ص ۲۲۸)

۵۔ کذافی المنتخب (ج ۵ ص ۱۵۵) اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۹) عن الشعبي نحوه



فرما، اے اللہ! زید کی مغفرت فرما، اے اللہ! جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ کی مغفرت فرما۔

## حضرت یاسرؓ کے خاندان، حضرت ابوسلمہ اور

### حضرت اسامہ بن زیدؓ کے لیے حضور ﷺ کی دعائیں

احمد اور ابن سعد میں حضرت عثمان بن عفانؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! تو آل یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے ان کی مغفرت فرمادی ہے اور ابن عساکر میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! عمار میں برکت عطا فرما۔ آگے باقی حدیث ذکر کی ہے۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فرما اور مقربین میں ان کے درجے کو بلند فرما اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو ان کا خلیفہ بن جا اور اے رب العالمین! ہماری اور ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو کشادہ اور منور فرما۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ مجھے پکڑ کر اپنی ران پر بٹھالیا کرتے تھے اور حضرت حسن بن علیؓ کو بائیں ران پر بٹھالیا کرتے پھر ہم دونوں کو اپنے ساتھ چمنا کر یوں فرماتے اے اللہ! میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اے اللہ! مجھے ان دونوں سے محبت ہے تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں (میں لشکر کی تیاری کے لیے مدینہ سے باہر جرف میں ٹھہرا ہوا تھا) جب حضور ﷺ کی بیماری بڑھ گئی تو میں مدینہ واپس آیا اور میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مدینہ آگئے۔ میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپؐ خاموش تھے اور بالکل بات نہیں کر رہے تھے۔ حضورؐ میرے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پھر ادرپ کو اٹھاتے حضورؐ نے بار بار ایسا کیا جس سے میں سمجھا کہ آپؐ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۶) ۲۔ کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۴۵)

۳۔ اخرجہ احمد و مسلم و ابو داؤد کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۱۹) ۴۔ اخرجہ احمد و ابو یعلیٰ و النسائی و ابن حبان و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۶۴) عن اسامة نحوه. ۵۔ عند احمد و الترمذی و حسنہ و الطبرانی و غیر ہم کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۵) و المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۶)

## حضرت عمرو بن عاص، حضرت حکیم بن حزام،

### حضرت جریر اور آل بسر کے لیے حضور ﷺ کی دعائیں

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے یہ دعائیں مرتبہ فرمائی اے اللہ! عمرو بن عاص کی مغفرت فرما کیونکہ جب بھی میں نے انہیں صدقہ دینے کے لیے بلایا وہ ہمیشہ میرے پاس صدقہ لے کر آئے۔

حضرت حکیمؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے میرے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ! تو اس کے ہاتھ کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ۱۔ حضرت حکیمؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے ایک دینار دے کر قربانی کا جانور خریدنے کے لیے بھیجا۔ میں نے ایک دینار میں جانور خرید کر دو دینار میں بیچ دیا اور پھر ایک دینار کی بکری خریدی اور ایک دینار لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا جو دینار تم لائے ہو اسے صدقہ کر دو۔ ۲۔

حضرت جریرؓ فرماتے ہیں میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا تھا نیچے گر جایا کرتا تھا میں نے حضور ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینہ پر مارا اور آپ کے ہاتھ (کی برکت) کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا اور آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اسے (گھوڑے پر) جمادے اور دوسروں کو ہدایت پر لانے والا اور خود ہدایت یافتہ بنا دے چنانچہ میں اس دعا کے بعد کبھی گھوڑے سے نہیں گرا۔ ۳۔ حضرت جریرؓ فرماتے ہیں مجھ سے حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم خالصہ بت والا گھر گرا کر مجھے راحت نہیں پہنچاتے؟ یہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ حشم کا ایک گھر تھا جسے یعنی کعبہ کہا جاتا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (میں گھوڑے سے) گر جاتا ہوں پھر پھپھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۴۔

حضرت عبداللہ بن بسرؓ فرماتے ہیں میں اور میرے والد ہم دونوں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں سامنے سے حضور ﷺ اپنے خچر پر تشریف لائے۔ میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ ہمارے گھر نہیں آتے اور کھانا کھا کر ہمارے لیے برکت کی دعا نہیں کر دیتے؟ چنانچہ آپ ہمارے گھر تشریف لے گئے اور کھانا کھا کر یہ دعا فرمائی اے اللہ! ان پر رحم فرما ان کی مغفرت فرما اور ان کے رزق میں برکت نصیب فرما۔ طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ پھر ہم ہمیشہ اللہ کی طرف سے رزق میں وسعت ہی دیکھتے رہے۔ ۵۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۵۰) ۲۔ اخرجہ الطبرانی

۳۔ عند عبدالرزاق وابن ابی شیبہ کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۶۹) ۴۔ اخرجہ الطبرانی

۵۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۵۲)

۶۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۲۰)

## حضرت براء بن معرور، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہم کے لیے حضور ﷺ کی دعائیں

حضرت نعلہ بن عمرو غفاری فرماتے ہیں قبیلہ غفار کا ایک آدمی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مہبان (جس کا لفظی ترجمہ قابل اہانت ہے) حضور نے فرمایا نہیں بلکہ تم مکرم یعنی قابل اکرام ہو۔ حضور نے مدینہ آنے کے بعد حضرت براء بن معرور کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ! براء بن معرور پر رحمت نازل فرما اور قیامت کے دن اسے اپنے سے پردہ میں نہ رکھ اور اسے جنت میں داخل فرما اور تو نے واقعی ایسے کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے حضرت براء بن معرور کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ حضور صحابہ کو لے کر وہاں گئے صحابہ ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ! ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان سے راضی ہو جا اور تو نے واقعی ایسے کر دیا۔

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اپنی خاص رحمت اور اپنی عام رحمت سعد بن عبادہ کے خاندان پر نازل فرما۔ حضرت ابوقتادہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے آپ (نیند کی وجہ سے) سواری سے ایک طرف کو جھک گئے۔ میں نے آپ کو سہارا دیا یہاں تک کہ آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے مجھے یہ دعا دی اے اللہ! ابوقتادہ کی ایسے حفاظت فرما جیسے اس نے آج رات میری حفاظت کی اور پھر مجھے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ ہماری وجہ سے تمہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔

## حضرت انس بن مالک اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے حضور ﷺ کی دعائیں

حضرت انس فرماتے ہیں (میری والدہ) حضرت ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ! انس کے لیے دعا فرمادیں آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اس کے مال اور اولاد کو زیادہ فرما دے اور اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما آگے اور حدیث ذکر کی ہے

۱۔ اخرجہ ابن مندۃ وابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۴۲)

۲۔ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۶۲۰) ۳۔ اخرجہ ابو داؤد کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۹۰)

۴۔ اخرجہ ابو نعیم و اخرجہ الطبرانی مقتصر علی الدعاء کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۶۱)

۵۔ اخرجہ ابو نعیم کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۴۲)

حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں ایک آدمی کو حرمہ کہا جاتا تھا اس نے نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ایمان تو بس یہاں ہے اور زبان کی طرف اشارہ کیا اور نفاق یہاں ہے اور دل کی طرف اشارہ کیا اور میں اللہ کا ذکر بس تھوڑا سا کرتا ہوں۔ حضورؐ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اسے ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما اور اسے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ یہ اس سے محبت کرے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہر کام میں اس کے انجام کو خیر فرمائے۔

حضرت تلبؓ فرماتے ہیں میں نے نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے لیے دعائے مغفرت فرمادیں۔ حضورؐ نے فرمایا جب تمہارے لیے دعا کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تب کروں گا۔ حضورؐ کچھ دیر ٹھہرے پھر میرے لیے یہ دعائیں مرتبہ فرمائی اے اللہ! تلبؓ کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما پھر آپؐ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔<sup>۱</sup> حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں حضورؐ نے یہ دعا فرمائی اس چھوٹے سے بندے ابو عامر کو درجہ میں قیامت کے دن اکثر لوگوں سے اوپر کر دینا۔<sup>۲</sup>

حضرت حسان بن شدادؓ فرماتے ہیں میری والدہ نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپؐ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپؐ میرے اس بیٹے کے لیے دعا کر دیں اور اسے بڑا اور اچھا بنا دیں۔ آپؐ نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو میرے چہرے پر پھیرا اور یہ دعا مانگی اے اللہ اس عورت کے لئے اس کے بیٹے میں برکت عطا فرما اور اسے بڑا اور عمدہ بنا۔<sup>۳</sup>

## حضورؐ کی اپنے کمزور صحابہ کے لیے دعا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضورؐ نے نماز سے سلام پھیرا اور ابھی آپؐ کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا کہ آپؐ نے سر اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ! سلمہ بن ہشام عیاش بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید اور ان تمام کمزور مسلمانوں کو (ظالم کافروں کے ہاتھ سے) چھڑا دے جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور جنہیں کوئی راستہ بچھائی نہیں دیتا۔<sup>۴</sup> ابن سعد کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۰۲) وفيه داو لم يسم وبقية رجاله ثقات. انتهى  
 ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۰۲) وملقاً بن التلب روى عنه اثنان وبقية رجاله وثقوا. انتهى و اخرجہ ابن سعد (ج ۷ ص ۳۲) وفي رواية قال قلت يا رسول الله استغفر لي فقال لي اذا اذن فذكر مثله  
 ۳۔ اخرجہ ابن سعد والطبرانی كذا في المنتخب (ج ۵ ص ۲۳۹)  
 ۴۔ اخرجہ ابو نعیم كذا في المنتخب (ج ۵ ص ۱۶۷) ۵۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۵۲) وفيه علي بن زيد وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات وفي الصحيح انه قنت به. انتهى و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۳۰) عن ابی هريرة نحوه الا ان في رواية اللهم انج

فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ نے فجر کے رکوع سے سر اٹھایا تو یہ دعا فرمائی اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مکہ کے تمام کمزور مسلمانوں کو (کافروں سے) نجات نصیب فرما۔ اے اللہ! قبیلہ مضر کی سخت پکڑ فرما اور انہیں قحط سالی میں ایسے مبتلا فرما جیسے تو نے حضرت یوسفؑ کے زمانہ میں سات سال کا قحط بھیجا تھا۔

## حضور ﷺ کی نماز کے بعد کی دعائیں

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ! اللہ کی قسم! میں تم سے محبت کرتا ہوں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کی قسم! مجھے بھی آپ سے محبت ہے حضور نے فرمایا اے معاذ! میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد یہ دعا بھی نہ چھوڑنا ہمیشہ مانگنا اللھم اعنی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك ”اے اللہ! اپنے ذکر میں اپنے شکر ادا کرنے میں اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے میں میری مدد فرما“ راوی کہتے ہیں حضرت معاذ نے اپنے شاگرد صابجی کو اور صابجی نے ابو عبد الرحمن کو اور ابو عبد الرحمن نے عقبہ بن مسلم کو اس دعا کی وصیت فرمائی۔

حضرت عون بن عبد اللہ بن عقبہؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کے پہلو میں نماز پڑھی اس نے سنا کہ حضرت عبد اللہ سلام کے بعد یہ دعا پڑھ رہے ہیں اللھم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والا کرام ”اے اللہ! تو ہی سلامتی دینے والا ہے تیری ہی جانب سے سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ تو بہت برکت والا ہے اے عظمت و جلال والے اور اکرام و احسان والے!“ پھر اس آدمی نے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کے پہلو میں نماز پڑھی تو اس نے انہیں بھی سلام کے بعد یہی دعا پڑھتے ہوئے سنا تو وہ ہنس پڑا۔ حضرت ابن عمرؓ نے اس سے پوچھا کیاں کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے حضرت عبد اللہ بن عمروؓ کے پہلو میں نماز پڑھی تھی تو ان کو بھی یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا خود حضور ﷺ بھی یہ دعا پڑھتے تھے۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو دایاں ہاتھ اپنے سر پر پھیرتے اور فرماتے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللھم اذهب عنی

۱۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان فی صحيحہما والحاكم وصححه علی شرط الشيخین کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۱۳)

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۰۲) رجالہ رجال الصحیح. ۱۱۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ عن صلی بن زفر قال سمعت ابن عمر یقول فی دبر الصلاة فذکر الحدیث نحوه الا انه جعل المرلوع عن حدیث عبد اللہ بن عمرو کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۵) وخرجہ ابو داؤد (ج ۲ ص ۳۵۹) عن عائشة ان النبی ﷺ کان اذا سلم قال فذکرہ

اللهم والحزن ” اللہ کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے اے اللہ! تو ہر فکر اور پریشانی مجھ سے دور فرما دے ” ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر پھیرتے اور فرماتے اللهم اذهب عني الغم والحزن ” اے اللہ! تو ہر غم اور پریشانی کو مجھ سے دور فرما دے۔“ ۱

حضرت ابو ایوبؓ فرماتے ہیں جب بھی میں نے تمہارے نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی تو میں نے انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی کہتے ہوئے سنا: اللهم اغفر خطايا وذنوبي كلها اللهم وانعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت ” اے اللہ! میری تمام خطائیں اور گناہ معاف فرما اے اللہ! مجھے بلندی عطا فرما اور میری کمیوں کو دور فرما اور مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما (اس لیے کہ) اچھے کاموں اور اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کاموں اور برے اخلاق کو تیرے سوا اور کوئی ہم سے دور نہیں کر سکتا۔“ ۲

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں جب بھی میں نے تمہارے نبی ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی تو نماز سے فارغ ہوتے ہی حضورؐ کو یہی کہتے ہوئے سنا اللهم اغفر لي خطائي وعمدي اللهم اهدني لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت ” اے اللہ! میں نے جو گناہ بھولے سے کیئے اور جو جان کر کیئے وہ سب معاف فرما۔“ (باقی ترجمہ گزر چکا)۔ ۳

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے اللهم اني اسئلك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مقبلا ” اے اللہ! میں تجھ سے پاکیزہ روزی، نفع دینے والا علم اور مقبول عمل کی توفیق مانگتا ہوں۔“ ۴

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللهم رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل اعدني من حر النار وعذاب القبر ” اے اللہ! اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب! مجھے جہنم کی گرمی سے اور قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔“ ۵

۱۔ اخرج الطبراني قال الهيثمي (ج ۱۰ ص ۱۱۰) رواه الطبراني في الاوسط والبخاري بنحوه باسناد وفيه زياد العمى وقد وثقه غير واحد وضعفه الجمهور وبقية رجال احد اسناد الطبراني ثقات وفي بعضهم خلاف. انتهى ۲۔ اخرج الطبراني قال الهيثمي (ج ۱۰ ص ۱۱۱) رواه الطبراني في الصغير والاوسط واسناده جيد. ۳۔ اخرج الطبراني قال الهيثمي (ج ۱ ص ۱۷۳) رجاله وثقوا. ۴۔ اخرج الطبراني في الصغير قال الهيثمي (ج ۱ ص ۱۱۱) رجاله ثقات. انتهى ۵۔ اخرج الطبراني قال الهيثمي (ج ۱۰ ص ۱۱۰) رواه الطبراني في الاوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه كلام لا يضر بقية رجاله ثقات ورواه النسائي غير قولها في دبر كل صلوة. انتهى

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللھم انسی اعوذ بک من الکفر و الفقر و عذاب القبر ” اے اللہ! میں کفر فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ ۱

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ جب حضور ﷺ نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللھم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد ” اے اللہ! جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیری پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔“ ۲

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کی خدمت میں وضو کا پانی لے کر آیا آپ نے وضو فرما کر نماز پڑھی پھر یہ دعا پڑھی اللھم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی ” اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔“ ۳

حضرت زید بن ارقمؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے اللھم ربنا ورب کل شیئی انا شہید انک انت الرب و حدک لا شریک لک اللھم ربنا ورب کل شیئی انا شہید ان محمد عبدک ورسولک اللھم ربنا ورب کل شیئی انا شہید ان العباد کلھم اخوة اللھم ربنا ورب کل شیئی اجعلنی مخلصا لک واهلی فی کل ساعة فی الدنیا و الاخرة یا ذا الجلال و الاکرام اسمع و استجب اللہ اکبر الا کبر اللھم نور السموات و الارض اللہ اکبر حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ اکبر الا کبر ” اے اللہ! اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تو ہی رب ہے تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ! اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں اس بات پر گواہ ہوں کہ حضرت محمد (علیہ السلام) تیرے بندے اور رسول ہیں اے اللہ! اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! میں اس بات پر گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی ہیں اے اللہ! اے ہمارے اور ہر چیز کے رب! دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں ہر گھڑی مجھے اور میرے گھر والوں کو مخلص بنا دے اور بزرگی اور عظمت والے اے اکرام و احسان والے! سن لے اور قبول فرما لے اللہ سب سے بڑا سب سے ہی بڑا ہے۔ اے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کے نور! اللہ سب سے بڑا سب سے ہی بڑا ہے اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے اللہ سب سے بڑا سب سے ہی بڑا ہے۔“ ۴

۱۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۶)

۲۔ اخرجہ النسائی کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۶) ۳۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ کذا فی

الکنز (ج ۱ ص ۳۰۶) ۴۔ اخرجہ ابو داؤد (ج ۲ ص ۳۵۸)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا فرماتے اللھم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اعلمت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم والموخر لا الہ الا انت ”اے اللہ! میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما اور وہ گناہ بھی معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیئے اور جو میں نے علی الاعلان کیئے اور میں نے جو بے اعتدالیوں کی ہیں اور میرے جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے ان سب کو معاف فرما تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

## حضور ﷺ کی صبح اور شام کی دعائیں

حضرت عبداللہ بن قاسمؓ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ کی ایک پڑوسن نے مجھے بتایا کہ وہ حضور کو فجر طلوع ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا کرتی تھی اللھم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر ”اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش (منکر نکیر کے سوال) سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں جب صبح ہوتی تو حضور ﷺ یہ پڑھا کرتے اصبحنا واصبح الملک لله والحمد لله لا شریک له لا الہ الا هو والیہ النشور ”ہم نے اور تمام ملک نے اللہ (کی عبادت اور اطاعت) کے لیے صبح کی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کے پاس موت کے بعد اٹھایا جاتا ہے“ اور جب شام ہوتی تو یہ پڑھا کرتے امسینا وامسی الملک لله والحمد لله لا شریک له لا الہ الا هو والیہ المصیر ”ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ (کی عبادت و اطاعت) کے لیے شام کی“ آگے ترجمہ صبح والی دعا کی طرح ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جب شام ہوتی تو حضور ﷺ یہ کلمات کہتے امسینا وامسی الملک لله والحمد لله لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو علی کلی شئی قدیر رب اسئلک خیر ما فی هذه اللیلة وخیر ما بعدھا واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلة وشر ما بعدھا رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر ”ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ (کی عبادت و اطاعت) کے لیے شام کی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ساری بادشاہت اور ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب! میں تجھ سے اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے اور جو اس کے

۱۔ عند ابی داؤد ایضاً ۲۔ اخرجه احمد قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۱۵) رجالہ ثقات

۳۔ البزار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۱۳) واسنادہ جید



بعد ہے اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے۔ اے میرے رب! میں سستی سے اور برے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب! میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور جب صبح ہوتی تو بھی یہ کلمات کہتے البتہ شروع میں امینا وامنی الملک لله کی جگہ اصبحنا واصبح الملک لله کہتے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ صبح و شام یہ پڑھا کرتے اصبحنا علی ملة الاسلام او امینا علی فطرة الاسلام و علی کلمة الاخلاص و علی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی ملة ابینا ابراهیم حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین ”ہم نے ملت اسلام پر، اسلامی فطرت پر، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی حضرت محمد ﷺ کے دین پر اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی اور شام کی، حضرت ابراہیم سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔“

حضرت ابو سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک صاحب تمص کی مسجد میں سے گزرے لوگوں نے کہا انھوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت کی ہے میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو حضور سے آپ نے براہ راست سنی ہو اور آپ کے اور حضور کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ انھوں نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو بھی صبح اور شام تین تین مرتبہ یہ کلمات کہے گا تو اس کا اللہ پر یہ حق (اللہ کے فضل سے) ہوگا کہ اللہ اسے قیامت کے دن راضی کرے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا ”میں نے اللہ کو رب، اسلام کو دین اور حضرت محمد ﷺ کو نبی مان لیا اور میں اس پر راضی ہوں۔“

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو صبح اور شام کی دعاؤں میں یہ دعا ہمیشہ پڑھتے ہوئے بنا اور آپ نے اپنے انتقال تک اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا اللهم انی اسئلك العافیة فی الدنیا و الاخرة اللهم انی اسئلك العفو و العافیة فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللهم استر عوراتی و امن رو عاتی اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی ”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے

۱۔ عند مسلم و الترمذی و ابی داؤد کما فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۵۸)

۲۔ اخرجه احمد و الطبرانی و رجالہما رجال الصحیح کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۱۶)

۳۔ اخرجه احمد و رواه الطبرانی بنحوہ و رجالہما ثقات کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۱۶) و اخرجه ابو داؤد و النسائی۔

اہل و عیال اور مال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں اے اللہ! میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن و امان سے بدل دے اے اللہ! آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے اچانک نیچے سے (زمین میں دھنسا کر) ہلاک کر دیا جائے۔“ ۱

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور ﷺ نے اس بات کا حکم دیا کہ میں صبح اور شام اور رات کو بستر پر لیٹتے وقت یہ کلمات کہا کروں اللھم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشهادة انت رب کل شیء و ملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد عبدک و رسولک و اعد ذبک من شر نفسی و شر الشیطن و شرکہ وان اقرف علی نفسی سوء او اجرہ الی مسلم ”اے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے! ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے! تو ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد (علیہ السلام) تیرے بندے اور رسول ہیں اور میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور پھندے سے اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نفس پر کسی برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان پر کسی برائی کی تہمت لگاؤں۔“ ۲

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں بہت ڈر رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا صبح اور شام یہ کلمات کہا کرو بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی ”میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔“ اس آدمی نے یہ کلمات کہنے شروع کر دیے اور پھر حضور کی خدمت میں آیا۔ حضور نے اس سے پوچھا تمہیں جو ڈر لگتا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے وہ ڈر بالکل جاتا رہا ہے۔ ۳

## حضور ﷺ کی سونے کے وقت کی اور سو کر اٹھنے کے وقت کی دعائیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا

۱۔ اخرجه ابن شیبہ قال جبير بن سليمان وهو (ای الاعتیال) الخسف ولا ادري قول النبي ﷺ او قول جبير كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۹۳)

۲۔ اخرجه احمد و ابن منيع و ابو يعلى و ابن السنی فی عمل يوم وليلة كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۹۳) و اخرجه ابو دانود و الترمذی بفرق يسير فی الالفاظ من حديث ابی هريرة رضي الله عنه

۳۔ اخرجه ابن عساکر كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۹۳)

پڑھتے الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا و کفانا و اوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی " اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا اور ہمیں (رات گزارنے کے لئے) ٹھکانہ دیا، اس لئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔"

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد لله الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی و الحمد لله الذی من علی فافضل و اعطانی فاجزل الحمد لله علی کل حال اللهم رب کل شیئ و ملیکہ اعوذ باللہ من النار " اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میری تمام ضرورتیں پوری کیں اور مجھے ٹھکانہ دیا اور مجھے کھلایا پلایا اور جس نے مجھ پر خوب احسانات کئے اور بہت زیادہ نعمتیں دیں ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اے اللہ! اے ہر چیز کے رب اور مالک! میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔"

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیتے پھر یہ دعا پڑھتے۔ اللهم قسی عذابک یوم نجمع (یا نبعث کبے) عبادک اے اللہ! جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا اس دن تو مجھے اپنے عذاب سے بچالے۔

حضرت ابوازہر انماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب رات کو بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ وضعت جنبی لله اللهم اغفر لی ذنبی و احسا شیطانی و فک رھانی و اجعلنی فی الندی الاعلی " میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنا پہلو (سونے کے لئے بستر پر) رکھا اے اللہ! تو میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو (مجھ سے) دور کر دے اور میری گردن کو (ہر ذمہ داری سے) آزاد کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔"

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ بستر پر لیٹتے وقت یہ دعا پڑھتے اللهم انسی اعوذ بوجهک الکریم و بکلمتک التامات من شر کل دابة انت اخذ بناصیتھا اللهم انت تکشف المغرم و المائم اللهم لایهزم جندک و لایخلف وعدک لولا ینفع ذا الجدمک الجدم سبحانک اللهم و بحمدک " اے اللہ! میں ہر اس جانور کے شر سے تیری کریم ذات کی اور تیرے پورے کلمات کی پناہ چاہتا ہوں جو تیرے قبضہ اور قدرت میں ہے اے اللہ! تو ہی

۱۔ اخرجه مسلم و الترمذی و ابو دانود

۲۔ عند ابی دانود کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۵۹)

۳۔ اخرجه الترمذی کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۶۰) و اخرجه البزار عن انس رضی اللہ عنہ مثله و جزم بلفظ یوم تبعت و اسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۳) و اخرجه ابن ابی شیبہ و ابن جریر و صححه باللفظین کما فی الکنز (ج ۸ ص ۶۷)

۴۔ اخرجه ابو دانود کذا فی المجمع (ج ۲ ص ۲۶۰)

(بندے کے) قرض اور گناہ کو دور کرتا ہے (لہذا میرا قرضہ اتار دے اور میرے گناہ معاف کر دے) اے اللہ! تیرے لشکر کو شکست نہیں ہو سکتی اور تیرے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے قہر و غضب سے نہیں بچا سکتی اے اللہ! میں تیری پاکی اور تعریف بیان کرتا ہوں۔“

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللھم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیئ و الہ کل شیئ اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمد عبدک و رسولک والملائکۃ یشهدون اللھم انی اعوذ بک من الشیطن و شرکہ او ان اقرف علی نفسی سوء او اجرہ الی مسلم ”اے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے! پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے! اے ہر چیز کے رب! ہر چیز کے معبود! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد (ﷺ) تیرے بندے اور رسول ہیں اور فرشتے بھی ان ہی دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں اے اللہ! میں شیطان سے اور اس کے (فریب کے) جال سے اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود کوئی برا عمل کروں یا کسی مسلمان پر برائی کی تہمت لگاؤں۔“ حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں حضور نے یہ دعا حضرت عبداللہ بن عمرو کو سکھائی تھی اور خود بھی جب سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔ ۲۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضرت عبداللہ بن یزید سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو حضور نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سوتے وقت پڑھنے کے لئے سکھائے تھے پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۳۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب سونے کے لئے لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے باسمک ربی فاغفر لی ذنوبی ”اے میرے رب! میں تیرے نام کے ساتھ لیٹتا ہوں میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔“ ۴۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کے پاس ایک رات گزاری نماز سے

۱۔ اخرجہ ابو دائود فی الاذکار للنووی انه لسانی ایضا و عزاه فی الكنز (ج ۸ ص ۶۷) الی النسانی وابن جریر وابن ابی الدنیا بنحوہ ۲۔ اخرجہ احمد و اسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۲) وفی روایۃ اخری عنہ باسناد حسن و اعوذ بک ان اقرف بدل او ان اقرف و اخرجہ الطبرانی نحوه الا ان فی روایۃ علی نفسی اثما ۳۔ فذکر نحوه قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۳) رواہ الطبرانی باسنادین و رجال الروایۃ الاولى رجال الصحیح غیر حمی بن عبداللہ المعافری وقد وثقہ جماعة وضعفہ غیرہم۔ انتہی وقد تقدم حدیث ابی بکر فی هذا۔

۴۔ اخرجہ احمد باسناد حسن کما فی المجمع (ج ۱۰ ص ۱۲۳)

مارغ ہو کر جب آپ بستر پر لیٹنے لگے تو میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے منا اللہم اعوذ بمعنا  
اتک من عقوبتک واعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک اللہم لا استطیع ثناء  
ملیک ولو حرصت ولكن انت کما انبت علی نفسک ”اے اللہ! میں تیری سزا سے  
تیرے غمخوردگرز کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے غصہ سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری  
ہی پناہ چاہتا ہوں اور چاہے مجھے کتنا شوق ہو اور میں کتنا زور لگاؤں تیری تعریف کا حق ادا نہیں  
کر سکتا۔ تو تو ویسا ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔“

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم  
الیک اسلمت نفسی ووجہت و جہی والیک فوضت امری والیک الجات ظہری رغبة  
ورہبة الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک امنک بکتابک الذی انزلت و نیک الذی  
ارسلت ”اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا  
معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور میں نے تیری رحمت کے شوق میں اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے  
اپنا پشت پناہ بنا لیا اور تیری پکڑ سے بچنے کا تیری رحمت کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں میں تیری اس کتاب  
پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔“

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے  
باسمک اللہم احیا و اموت ”اے اللہ! میں تیرے نام پر جیتا ہوں اور اسی پر مڑوں گا۔“ اور  
جب صبح ہوتی تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور ”اس اللہ کا بہت  
بہت شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کیا اور اسی کے پاس مر کر جانا ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ جب رات کو بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے  
لا الہ الا انت سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک لذنبی وامنک رحمتک اللہم  
زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی وھب لی من لدنک رحمة انت الوھاب  
”تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے اللہ! میں تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں اور تجھ سے  
اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ! مجھے اور علم عطا  
فرما اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو (گمراہ کر کے ٹیڑھا نہ کر اور تو مجھے اپنی بارگاہ سے خاص

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسطہ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۳) رجالہ رجال الصحیح غیر  
ابراہیم بن عبداللہ بن عبدالقادری وقد وثقه ابن حبان. انتھی و اخرجہ ابضا النسائی و یوسف  
القاضی فی سننہ عن علی بنحوہ کما فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۳)

۲۔ اخرجہ ابن جریر و صححہ و ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۶۷) ۳۔ اخرجہ  
البخاری و ابودانود و الترمذی کذا فی جمع القوائد (ج ۲ ص ۲۵۹) و اخرجہ ابن جریر و  
صححہ عن ابی ذر بنحوہ الا انه قال اللہم باسمک نموت و نحی کما فی الكنز (ج ۸ ص ۶۷)

رحمت عطا فرمائیے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔“

مجلسوں میں اور مسجد اور گھر میں داخل ہونے اور دونوں سے

## نکلنے کے وقت کی حضور ﷺ کی دعائیں

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ نبی کریم ﷺ مجلس سے اٹھے ہوں اور اپنے ساتھیوں کے لئے یہ دعائیں نہ مانگی ہوں (بلکہ اکثر مانگا کرتے تھے) اللهم القم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيات الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ” اے اللہ! تو ہمیں اپنا اتنا ڈر نصیب فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے اور ہمیں اپنی ایسی فرمانبرداری نصیب فرما جس کے ذریعے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے اور ایسا یقین نصیب فرما جس سے دنیا کی مصیبتوں کو جھیلنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اور تو ہمیں جتنی زندگی نصیب فرمائے اس میں ہمیں اپنے کانوں، آنکھوں اور اپنی قوت سے قائدہ اٹھانے والا بنا اور ان تمام اعضاء کو ہماری زندگی تک باقی رکھ کر ہمارا وارث بنا اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم صرف ان لوگوں سے بدلہ لیں جو ہم پر ظلم کریں اور ان لوگوں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھیں اور ہماری مصیبت ہمارے دین پر نہ ڈال اور دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا اور نہ اس کو ہمارے علم کی انتہا پر واز بنا اور جو ہمارے اوپر رحم نہ کھائے اس کو ہم پر مسلط نہ فرما۔“ ۲ اس باب سے متعلق کچھ دعائیں کفارہ مجلس کے باب میں گزر چکی ہیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ تو کلت علی اللہ اللهم انا نعوذ بک ان نزل او نضل او نظلم او نظلم او نجھل او یجھل علینا ” اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اے اللہ! ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم خود صحیح راستہ سے بھل جائیں یا ہم دوسروں کو گمراہ کر دیں یا ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے یا ہم کسی کے ساتھ نادانی کا معاملہ کریں یا کوئی ہم سے نادانی کا معاملہ کرے۔“ ۳

۱۔ اخروہ ابو داؤد کذالی الجمع (ج ۲ ص ۲۶۰)

۲۔ اخروہ الترمذی کذالی جمع القوائد (ج ۲ ص ۲۶۱)

۳۔ اخروہ ابو داؤد و الترمذی والنسائی کذالی الجمع (ج ۲ ص ۲۶۱)

حضرت ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہتے اعوذ باللہ العظیم ووجهہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطن الرجیم ” میں مرد و شیطان سے عظمت والے اللہ، اس کی کریم ذات کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں ” آدمی جب یہ کلمات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے باقی سارے دن میں اس آدمی کی مجھ سے حفاظت ہوگئی۔

حضرت فاطمہ بنت حسین رحمۃ اللہ علیہا اپنی داوی حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتی ہیں کہ جب حضور ﷺ مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے اپنے اوپر درود و سلام بھیجتے پھر یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ” اے میرے رب! میرے تمام گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لئے کھول دے ” اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو اپنے اوپر درود و سلام بھیجتے اور یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک ” اے میرے رب! میرے تمام گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لئے کھول دے۔“

### حضور ﷺ کی سفر میں دعائیں

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ سفر کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللهم بک اصول و بک احوال و بک اسیر ” اے اللہ! میں تیری مدد سے حملہ کروں گا اور تیری مدد سے مددیر کروں گا اور تیری ہی مدد سے چلوں گا۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضور ﷺ باہر سفر پر تشریف لے جانے کے لئے اپنے اونٹ پر بیٹھ جاتے تو تین تین مرتبہ الحمد لله سبحان الله، الله اکبر کہتے پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا هذا وما کننا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون اللهم انا نسلک فی سفرنا هذا البر والتقوی ومن العمل ماتر ضی اللهم ہون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعد الارض اللهم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الامل اللهم انی اعوذ بک من وعناء السفر وکابة المنظر وسوء المنقلب فی الامل والعال ” پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کیا اور اس کی مدد کے بغیر اس پر قابو پانے والے نہیں تھے اور بلاشبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے اے اللہ! ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا اور ان اعمال کا

۱۔ اخرجہ ابو داؤد ۲۔ اخرجہ الترمذی و اخرجہ احمد و ابن ماجہ کمالی

المشکوٰۃ (ص ۶۲) و فی روایتہما قالت اذا دخل المسجد و کذا اذا خرج قال بسم الله والسلام علی رسول الله بدل علی محمد وسلم وقال الترمذی حدیث فاطمة حدیث حسن لیس اسنادہ بمتصل و فاطمة بنت الحسین لم تدرک فاطمة الکبریٰ

۳۔ اخرجہ احمد و البزار قال لہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۰) و رجالہما ثقات۔

سوال کرتے ہیں جن سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ! ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فرما اور اس کی مسافت کو جلدی طے کرادے۔ اے اللہ! تو سفر میں ہمارا ساتھی اور اہل و عیال میں ہمارا خلیفہ اور نائب ہے اے اللہ! میں سفر کی مشقت سے اور تکلیف دہ منظر اور اہل و عیال اور مال و دولت میں بری واپسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ اور جب سفر سے واپس ہوتے تو بھی یہ دعا پڑھتے اور مزید یہ کلمات بھی کہتے انبون تانبون عابدون لربنا ساجدون ”ہم واپس لوٹنے والے ہیں تو یہ کرنے والے ہیں (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔“ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب سفر میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللھم بلاغا یبلغ خیرا مغفرة منك و رضوانا بیدک الخیر انک علی کل شئی قدیر اللھم انت الصاحب فی السفر والخليفة فی الابل اللھم ہون علینا السفر واطولنا الارض اللھم اعوذ بک من وعناء السفر وکابة المنقلب ”اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ذریعہ مانگتا ہوں جو خیر تک پہنچے اور تیری مغفرت اور رضا مندی کا سوال کرتا ہوں۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! تو سفر میں ساتھی اور اہل و عیال میں خلیفہ ہے۔ اے اللہ! سفر ہمارے لئے آسان فرما اور ہمارے لئے زمین لپیٹ دے یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ مسافت طے کرادے اور سفر کی مشقت سے اور تکلیف دہ واپسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب سفر میں ہوتے اور سحری کا وقت ہو جاتا تو یہ دعا پڑھتے سمع سامع بحمد اللہ و حسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا و افضل علینا عانداً باللہ من النار ”سننے والے نے ہم سے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے ہمیں اچھی طرح آزمانے کو سنا اے ہمارے رب! تو ہمارا ساتھی ہو جا اور ہم پر فضل فرما میں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ لیتے ہوئے (یہ کہہ رہا ہوں)“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ جب آپ کی نگاہ اس بستی پر پڑتی جس میں داخل ہونے کا ارادہ ہوتا تو اللھم بارک لنا فیہا ”اے اللہ! تو ہمارے لئے اس بستی میں برکت نصیب فرما“ تین دفعہ کہتے اور یہ دعا پڑھتے اللھم ارزقنا حیاءا وحبینا الی اہلہا وحب صالحی اہلہا الینا ”اے اللہ! تو ہمیں اسی بستی کی تروتازگی نصیب فرما۔ بستی والوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دے اور بستی کے نیک لوگوں کی محبت ہمیں نصیب فرما۔“

۱۔ اخرجہ مسلم و ابودانود و الترمذی کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۶۱)  
 ۲۔ عند ابی یعلی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۰) رجالہ رجال الصحیح غیر فطر بن خلیفہ و ہونقة . انتھی  
 ۳۔ اخرجہ مسلم و ابودانود و کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۶۲)  
 ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۳) اسنادہ جید



حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب بستی میں داخل ہونا چاہتے اسے دیکھتے ہی یہ دعا پڑھتے اللھم رب السموات السبع وما اظللن ورب الرياح وما ذریں انا نسئلك خیر هذه القرية و خیر اهلها و نعوذ بك من شرها و شر اهلها و شر ما فیها " اے اللہ! ساتوں آسمانوں اور اس تمام مخلوق کے رب جس پر یہ آسمان سایہ کر رہے ہیں اور ہواؤں کے اور ان چیزوں کے رب جن کو ہوانے اڑایا ہم تجھ سے اس بستی کی اور بستی والوں کی خیر مانگتے ہیں اور اس بستی کے شر سے اور بستی والوں کے اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔" ۱۔ جہاد فی سبیل اللہ کے دوران دعاؤں کے اہتمام کے باب میں حضور ﷺ کی سفر کی دعائیں گزر چکی ہیں۔

## صحابہ کرامؓ کو رخصت کرتے وقت کی حضور ﷺ کی دعائیں

حضرت قزعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا آؤ میں تمہیں اس طرح رخصت کروں جس طرح حضور ﷺ نے مجھے رخصت کیا تھا اور پھر یہ کلمات کہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک "میں تمہارے دین کو اور تمہاری صفت امانت داری کو اور تمہارے ہر عمل کے آخری حصہ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔" ۲۔

حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس سے فرماتے میرے قریب آؤ میں تمہیں اس طرح رخصت کروں جس طرح حضور ﷺ ہمیں رخصت کیا کرتے تھے پھر پچھلی حدیث جیسی دعا ذکر کی۔ ۳۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرا سفر میں جانے کا ارادہ ہے آپ کچھ توشہ عنایت فرمادیں یعنی میرے لئے دعا فرمادیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہیں تقویٰ کا توشہ دے۔ اس نے عرض کیا کچھ اور دعا فرمادیں۔ حضور نے فرمایا اور اللہ تمہارے گناہ معاف کرے اس نے پھر عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کچھ اور دعا فرمادیں۔ حضور نے فرمایا جہاں بھی تم ہو وہاں بھلائی کو تمہارے لئے آسان کر دے۔ ۴۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نے مجھے اپنی قوم کا امیر بنایا تو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو رخصت کیا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی جعل اللہ التقویٰ زادک

۱۔ أخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۵) رجاله الصحيح غیر عطاء بن ابی مروان

و ابیہو کلاهما نفعہ انہی

۲۔ أخرجه ابو داؤد (ج ۳ ص ۲۳۲) ۳۔ أخرجه الترمذی (ج ۲ ص ۱۸۲) قال

الترمذی هذا حدیث حسن صحیح غریب

۴۔ أخرجه الترمذی (ج ۲ ص ۱۸۲) قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب

وغفر ذنبک و وجھک للخیر حیثما توجهت ” اللہ تقویٰ کو تمہارا توشہ بنائے اور تمہارے گناہ کو معاف کرے اور جہاں بھی تم جاؤ وہاں تمہیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا سفر میں جانے کا ارادہ ہے آپ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ڈر کو اور ہر بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہنے کو لازم پکڑے رکھو۔ جب وہ آدمی پشت پھیر کر چل دیا تو حضور نے یہ دعا فرمائی اللھم اطولہ البعد وھون علیہ السفر ” اے اللہ! اس کے سفر کی مسافت کو جلد لے کر ادا کر اور سفر اس پر آسان فرمادے۔“

## کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے وقت حضور ﷺ کی دعائیں

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کے سامنے سے دسترخوان اٹھالیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمد لله کثیرا طیباً مبارکاً فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ دینا ”تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو اور پاکیزہ اور بابرکت ہو ہماری یہ تعریف کافی (اور تیری شان کے لائق) نہیں ہو سکتی اور نہ ہم اسے کبھی چھوڑ سکتے اور نہ کبھی اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں اے ہمارے رب۔“

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب کھاتے یا پیتے تو فرماتے الحمد لله الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔“

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نیا کپڑا پہنتے تو یہ دعا فرماتے اللھم لک الحمد انت کسوتی هذا (اس کے بعد اس کپڑے کا نام کرتا، عمامہ یا چادر وغیرہ لیتے) اسئلک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له ”اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا میں تجھ سے اس کپڑے کی خیر اور جس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے اس کی خیر کو مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اور جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

۱۔ اخرجہ الطبرانی والبیہقی عن ہشام بن قتادہ

الراہوی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۱) رجالہما ثقات

۲۔ اخرجہ الترمذی (ج ۲ ص ۱۸۲) قال الترمذی هذا حدیث حسن

۳۔ اخرجہ البخاری و ابو داؤد و الترمذی

۴۔ عند الترمذی و ابی داؤد کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۶۳)

۵۔ اخرجہ الترمذی و ابو داؤد کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۶۳)

## چاند دیکھنے، کڑک سننے، بادل آنے اور تیز ہوا چلنے کے وقت کی حضور ﷺ کی دعائیں

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے اللھم اھلہ علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ ”اے اللہ! تو اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال (اے چاند!) میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔“ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ الفاظ روایت کئے ہیں اللہ اکبر اللھم اھلہ علینا بالامن والامان والسلامة والاسلام والتوفیق لعمارتی ورضی ربنا وربک اللہ ”اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ! اس چاند کو ہم پر امن و امان سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور اپنے محبوب اور پسندیدہ اعمال کی توفیق کے ساتھ نکال (اے چاند!) ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔“

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے حلال خیر و رشد ”یہ خیر اور ہدایت کا چاند ہے۔“ پھر تین مرتبہ یہ کلمات کہتے اللھم انی اسئلك من خیر هذا الشهر و خیر القدر و اعوذ بک من شرہ ”اے اللہ! میں تجھ سے اس مہینے کی بھلائی اور تقدیر کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ جب بادل گرجنے اور بجلی کڑکنے کی آواز سنتے تو فرماتے اللھم لاتقتلنا بغضبک ولا تھلکنا بعد ابک و عافنا قبل ذلک ”اے اللہ! ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ فرما اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرما اور ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت نصیب فرما۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم ﷺ یہ دعائیں کہتے اللھم انی اسئلك خیرھا و خیر ما فیھا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرھا و شر ما فیھا و شر ما ارسلت بہ ”اے اللہ! میں تجھ سے اس ہوا کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر اور جو کچھ دے کر یہ ہوا بھیجی گئی اس کی خیر مانگتا ہوں اور تجھ سے اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ دے کر یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔“ حضرت عائشہ

۱۔ اخرجہ الترمذی (ج ۲ ص ۱۸۳) ۲۔ اخرجہ ابن عساکر کما فی الكنز (ج ۳ ص ۳۲۶)

و اخرجہ الطبرانی ایضا عن ابن عمر مثله الا انه لم يذكر الله اکبر وعنده والایمان بدل الامان قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۹) وفيه عثمان بن ابراهیم الحاطبی وفيه ضعف

۳۔ اخرجہ الطبرانی واسناده حسن کما قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۹)

۴۔ اخرجہ الترمذی کذا فی جمع القوائد (ج ۲ ص ۲۶۳) ۵۔ اخرجہ الشیخان والترمذی

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ جب آسمان کے کنارے میں اٹھتا ہوا بادل دیکھتے تو کام چھوڑ دیتے اور اگر نماز میں ہوتے تو اسے مختصر کر دیتے پھر یہ کلمات فرماتے اللھم انسی اعوذ بک من شرھا "اے اللہ! اس بادل کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں" اگر بارش ہو جاتی تو فرماتے اللھم صیابہنشا "اے اللہ! اسے بہت برسنے والا لیکن بابرکت اور نفع بخش بنا دے۔" ۱

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ جب آسمان کے کسی کنارے پر گہرے بادل دیکھتے تو جس کام میں بھی ہوتے اسے چھوڑ دیتے چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو اور اس بادل کی طرف متوجہ ہو جاتے اور فرماتے اللھم اننا نعوذ بک من شر ما ارسل بہ "اے اللہ! ہم اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جسے دے کر اس بادل کو بھیجا گیا ہے۔" پھر اگر بارش ہو جاتی تو دو تین دفعہ فرماتے صیابنا فعا "اے بہت برسنے والا نفع دینے والا بنا دے۔" اگر اللہ تعالیٰ اس بادل کو ہٹا دیتے اور بارش نہ ہوتی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔" ۲

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہوا تیز چلتی تو حضور ﷺ فرمایا کرتے اللھم لفتح لا عقبما "اے اللہ! اسی ہوا بنا جس سے درختوں پر خوب پھل لگیں اور اسے بانجھ نہ بنا (جس سے کوئی فائدہ نہ ہو)۔" ۳

## حضور ﷺ کی وہ دعائیں جن کا وقت مقرر نہیں تھا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللھم انی اسئلک الھدی والتقی والعفاف والغنی "اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور دل کا غنا مانگتا ہوں۔" ۴

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللھم اغفر لی خطیاتی وجھلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی اللھم اغفر لی جدی وهزلی وخطای وعمدی وکل ذلک عندی اللھم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم وانت الموخر وانت علی کل شیء قدير "اے اللہ! میری خطا اور میرے نادانی والے کام اور کاموں میں میرا حد سے بڑھ جانا اور وہ گناہ جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما اور میرے وہ گناہ جو سچ کج ارادہ سے سرزد ہوئے یا ہنسی مذاق میں ہو گئے یا غلطی سے ہو گئے یا جان بوجھ کر قصداً کئے وہ سب معاف فرما اور یہ سب طرح کے گناہ

۱۔ عند ابی داؤد کذا فی جمع الفوائد (ج ۲ ص ۲۶۵)

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۹۰) ۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والا وسط قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۵) رجالہ رجال الصحیح غیر المغیرۃ بن عبدالرحمن ہو ثقہ۔

۴۔ اخرجہ مسلم انتہی

میرے پاس ہیں اے اللہ! میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما اور جو گناہ چھپ کر کئے اور جو علی الاعلان کئے وہ بھی معاف فرما اور جن گناہوں کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“<sup>۱</sup>

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللھم اصلح لی دینی الذی ہو عصمة امری واصلح لی دنیاى التی فیہا معاشی واصلح لی اخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر ”اے اللہ! میرا وہ دین سنوار دے جس سے میرے تمام کاموں کی حفاظت ہوتی ہے اور میری وہ دنیا درست فرما دے جس سے میری معاش کا تعلق ہے اور میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو میرے لئے ہر خیر میں بڑھنے کا ذریعہ بنا اور موت کو میرے لئے ہر شر سے راحت پانے کا ذریعہ بنا۔“<sup>۲</sup>

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللھم لک اسلمت وبک امنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللھم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تصلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔

”اے اللہ! میں تیرا فرمانبردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی متوجہ ہوا اور تیری مدد سے ہی میں نے اہل باطل سے جھگڑا کیا اے اللہ! میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور اسے موت نہیں آئے گی باقی تمام جنات اور انسان ایک دن مر جائیں گے۔“<sup>۳</sup>

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے یاقلب القلوب! ابت قلبی علی دینک ”اے دلوں کو پلٹنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔“<sup>۴</sup>

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے اللھم عافنی فی جسدی و عافنی فی بصری واجعله الوارث منی لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین ”اے اللہ! مجھے جسم میں اور نگاہ میں عافیت نصیب فرما اور اس نگاہ کو موت تک باقی رکھ۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بردبار اور کریم ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام

۱۔ عند مسلم

۱۔ عند مسلم ایضا و البخاری

۲۔ عند الترمذی وقال الترمذی حدیث حسن

۳۔ عند مسلم ایضا و البخاری

جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ دعائیں یہ کہا کرتے تھے رب اعنی ولا تمن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واهدنی و بسر ہدای وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شاکر الک ذاکر الک راہب لک مطو اعا الیک مجیبا او منیبا تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واهد قلبی وسدد لسانی واسئل سخیمة قلبی ”اے میرے رب! میری اعانت فرما اور میرے خلاف کسی کی اعانت نہ فرما اور میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما اور میرے لئے تدبیر فرما اور میرے خلاف کوئی تدبیر نہ فرما اور مجھے ہدایت نصیب فرما اور ہدایت پر قائم رہنے کو میرے لئے آسان فرما اور جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اے میرے رب! تو مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا فرمانبردار، اور اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنا دے میری توبہ قبول فرما میرے گناہ دھو دے اور میری دعا قبول فرما اور میری دلیل کو مضبوط فرما اور میرے دل کو ہدایت نصیب فرما اور میری زبان کو ٹھیک رکھ اور میرے دل کے کینہ اور کھوٹ کو نکال دے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اللھم انسا نسلک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم والغنیمة من کل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ”اے اللہ! ہم تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اعمال اور تیری مغفرت کو ضروری بنانے والے اسباب اور ہر گناہ سے حفاظت اور ہر نیکی کی توفیق اور جنت میں داخلہ کی کامیابی اور دوزخ سے نجات مانگتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللھم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وعمدنا ”اے اللہ! ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے ظلم کو اور ہنسی مذاق کے گناہوں کو اور شعوری گناہوں کو اور جو گناہ جان بوجھ کر کئے ان سب کو معاف فرما۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے اللھم احسن خلقی

۱۔ عند الترمذی ایضا ۲۔ عند الترمذی ایضا وابی دائود وابن ماجہ وفی روایة الترمذی او ابا منیبا قال الترمذی حدیث حسن صحیح.

۳۔ عندا لحاکم و صححه علی شرط مسلم کذافی کتاب الاذکار للنووی (ص ۳۹۸)

۴۔ اخرجه احمد والطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۷۲) واسنادہما حسن عند احمد والطبرانی ایضا والبخاری قال الہیثمی رجالہم رجال الصحیح غیر عون العقیلی و هو ثقة

فاحسن خلقی ” اے اللہ! تو نے میری صورت اچھی بنائی اب سیرت بھی اچھی بنا دے۔“<sup>۱</sup>  
 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے رب اغفر وارحم  
 واهدنی السبیل الاقوم ” اے میرے رب! مغفرت فرما اور رحم فرما اور مجھے سیدھے اور پختہ راست  
 پر چلا۔“<sup>۲</sup>

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے باولئى الاسلام  
 واهله! لئنسى به حتى الفاك ” اے اسلام کے والی اور اسلام والوں کے مددگار! مجھے اپنی  
 ملاقات کے وقت تک یعنی موت تک اسلام پر جمائے رکھ۔“<sup>۳</sup>

حضرت بسر بن ابی ارطاة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو یہ دعا مانگتے ہوئے  
 سئل اللہم احسن عافيتنا فى الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا و عذاب الآخرة ” اے اللہ!  
 تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ  
 فرما“ طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جو یہ دعا مانگتا رہے گا وہ  
 آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا۔“<sup>۴</sup>

حضرت ابو صرمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے اللہم انسى اسئلك  
 غنای وغنى مولای ” اے اللہ! میں تجھ سے اپنے غنا اور اپنے ہر تعلق والے کے غنا کا سوال کرتا  
 ہوں۔“<sup>۵</sup>

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور فرمایا کرتے تھے اللہم انى اسئلك الطيبات  
 وترک المنكرات وحب المساكين وان تتوب على وان اردت بعبادك فنة ان تقبضى  
 غير مفتون ” اے اللہ! میں تجھ سے پاکیزہ چیزیں اور منکرات کے چھوڑنے کی ہمت اور مسکینوں  
 کی محبت مانگتا ہوں اور یہ بھی مانگتا ہوں کہ تو میری توبہ قبول فرمالے اور یہ بھی کہ اگر کسی وقت تو اپنے  
 بندوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے اس آزمائش میں ڈالے بغیر اپنے پاس بلا لے۔“<sup>۶</sup>

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل اوسع رزقك  
 على عند كبر منى وانقطاع عمرى ” اے اللہ! بڑھاپے میں اور اخیر عمر میں مجھے سب سے زیادہ

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمى (ج ۱۰ ص ۱۷۳) رجالہ رجال الصحیح و اخرجہ و ابو یعلی

عن ابن مسعود مثله باسناد صحیح ۲۔ اخرجہ احمد و ابو یعلی باسنادین حسنین

۳۔ عند الطبرانی فی الاوسط و رجالہ ثقات كما قال الہیثمى (ج ۱۰ ص ۱۷۳ و ۱۷۶)

۴۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الہیثمى (ج ۱۰ ص ۱۷۸) رجال احمد واحد

اسانید الطبرانی ثقات ۵۔ عند احمد والطبرانی قال الہیثمى (ج ۱۰ ص ۱۷۸) احد اسنادی

احمد و رجالہ رجال الصحیح ۶۔ عند البزار قال الہیثمى (ج ۱۰ ص ۱۸۱) اسنادہ حسن

فراخ روزی عطا فرما۔“

## جامع دعائیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور جامع دعائیں پسند فرماتے تھے اور دوسری دعائیں چھوڑ دیتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے چھپا کر حضور سے کوئی بات کرنی چاہی میں نماز پڑھ رہی تھی حضور نے مجھ سے کہا اے عائشہ! کامل اور جامع دعائیں کیا کرو۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے ان دعاؤں کے بارے میں پوچھا حضور نے فرمایا یہ کہو اللھم انی اسئلک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ و ما علمت منہ و ما لم اعلم و اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ و ما علمت منہ و ما لم اعلم و اسئلک الجنة و ما قرب الیہا من قول او عمل و اعوذ بک من النار و ما قرب الیہا من قول او عمل و اسئلک من خیر ما سئلک منہ عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و استعینک مما استعاذک منہ عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اسئلک ما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ رشداً ” اے اللہ! میں تجھ سے ہر قسم کی خیر، جلد آنے والی بھی اور دیر سے آنی والی بھی، جو میں جانتا ہوں وہ بھی اور جو نہیں جانتا وہ بھی مانگتا ہوں اور ہر قسم کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں چاہے وہ شر جلد آنے والا ہو یا دیر سے آنے والا ہو چاہے میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں اور میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و فعل کی توفیق مانگتا ہوں جو جنت کے قریب کرے اور دوزخ کی آگ سے اور ہر اس قول و فعل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دوزخ کے قریب کرے اور میں تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور رسول حضرت محمد نے مانگی ہے اور ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے بندے اور رسول حضرت محمد نے پناہ چاہی اور میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جس امر کا تو میرے لئے فیصلہ کرے اس کا انجام میرے لئے اچھا کر دے۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے میں نماز پڑھ رہی تھی آپ کو کچھ کام تھا مجھے نماز میں دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ! مجھل اور جامع دعا کیا کرو میں نے نماز سے فارغ ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ!

۱۔ عند الطبرانی و اسنادہ حسن کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۸۲)

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۱)

۳۔ اخرجہ الحاکم کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۳۰۶) و اخرجہ احمد و ابن ماجہ عن عائشۃ نحوہ

قال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد کما فی الاذکار للنووی (ص ۵۰۶)



جمل اور جامع دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو پھر پچھلی دعا ذکر کی۔  
 حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے بہت زیادہ دعا مانگی لیکن ہمیں اس میں سے کچھ یاد نہ رہا۔ حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں کوئی ایسی جامع دعا نہ بتا دوں جس میں یہ سب کچھ آجائے؟ تم یہ دعا مانگا کرو اللھم انا نسلک من خیر ما نسلک منہ نیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ” اے اللہ! ہم تجھ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد ﷺ نے مانگی ہیں اور ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نبی حضرت محمد ﷺ نے پناہ مانگی ہے اور تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور (ہمیں مقصود تک) پہنچانا (تیرے فضل سے) تیرے ہی ذمہ ہے برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت تیری توفیق سے ہی ملتی ہے۔“ ۲

### اللہ کی پناہ چاہنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور فرمایا کرتے تھے اللھم اسی اعوذ بک من العجز والکسل واللجن والھرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسحیا والممات وفي رواية وضلع الدین وغلبة الرجال ” اے اللہ! میں ماجز ہو جانے سے، کاہلی سے، بزدلی سے، زیادہ بوڑھا ہو جانے سے اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ قرظ کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلب اور دباؤ سے (تیری پناہ چاہتا ہوں)“ ۳  
 مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ دعا میں فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل ” اے اللہ! میں نے اب تک جو کیا اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور جو نہیں کیا اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔“  
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ کی ایک دعا یہ بھی تھی اللھم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نعمتک وجميع سخطک ” اے اللہ! میں تیری نعمت کے چلے جانے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے ہٹ جانے سے، اور تیری اچانک پکڑ سے

۱۔ اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۹۴)

۲۔ اخرجہ الترمذی (ج ۲ ص ۱۹۰) قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب و اخرجہ البخاری

فی الادب المفرد (ص ۹۹) بمعناہ ۳۔ اخرجہ الشیخان

اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں وہی دعا بتانے لگا ہوں جو حضور ﷺ نے مانگا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والھم وعذاب القبر اللھم ات نفسی تقوھا وزکھا انت خیر من ذکاھا انت ولیھا ومولاھا اللھم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا یتجاب لها ”اے اللہ! عاجزی، کاہلی، بزدلی، کنجوسی، رنج و غم اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاک صاف کر دے تو ہی اس کو بہترین پاک صاف کرنے والا ہے تو ہی اس کا مالک اور آقا ہے اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو (دین دنیا میں) نفع نہ دے اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور حریص نفس سے جو کبھی میر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنی والفقیر ”اے اللہ! آگ کے فتنے سے، آگے کے عذاب سے اور مالدار کی اور فقیر کی کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من منکر ان الاخلاق والاعمال والاهواء۔ ”اے اللہ! میں برے اخلاق و اعمال سے اور بری نفسانی خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسبب الامقام ”اے اللہ! برص (پھلیری) سے، دیوانگی سے، کوڑھ پن سے اور تمام بری اور موذی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت ابوالبسر صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من الھم والاعوذ بک من التردی واعوذ بک من الفرق والحرق والھرم واعوذ بک ان یتخطی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیفاً ”اے اللہ! کسی عمارت کے نیچے دب کر مرنے سے کسی اونچی جگہ سے گر کر مرنے سے اور ڈوب کر یا جل کر مرنے سے اور حد سے زیادہ بوڑھا ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے خبطی بنا دے یعنی عقل خراب کر کے گمراہ کر دے اور تیرے راستے میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مرنے سے تیری پناہ

۱۔ عند الاربعۃ بالاسانید الصحیحہ ۲۔ عند الترمذی قال الترمذی حدیث حسن

۳۔ عند ابی دانود والنسائی باسنادین صحیحین

چاہتا ہوں اور سانپ وغیرہ کے ڈسنے سے مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“<sup>۱</sup>  
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من  
الجوع فانه بنس الضجیع و اعوذ بک من الخیانة فانها بنس البطانة ”اے اللہ! میں بھوک  
سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ بھوک بہت براسا تھی ہے اور خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اس  
لئے کہ یہ بدترین خصلت ہے۔“<sup>۲</sup>

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من  
الشفاق و النفاق و سوء الاخلاق ”اے اللہ! میں آپس کے جھگڑے، فساد، نفاق اور برے اخلاق  
سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“<sup>۳</sup>

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک  
من العجز و الكسل و اعوذ بک من القسوة و الغفلة و العیلة و الذلة و المسکنة و اعوذ بک من  
الفسوق و الشقاق و النفاق و السمعة و الرياء و اعوذ بک من الصمم و البکم و الجنون  
و الجذام و سبب الاسقام ”اے اللہ! عاجز ہو جانے اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دل کی  
سختی، غفلت، فقیری، ذلت و مسکنت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فسق و فجور، آپس کے لڑائی  
جھگڑے، نفاق اور شہرت دریا سے تیری پناہ چاہتا ہوں بہرہ اور گونگا ہو جانے۔ سے، پاگل پن، کوڑھ  
اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“<sup>۴</sup> حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں  
نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک من یوم السوء و من لیلۃ السوء و من ساعة  
السوء و من صاحب السوء و من جار السوء فی دار المقامة ”اے اللہ! برے دن سے، بری  
رات سے، بری گھڑی سے، برے ساتھی سے اور (مستقل رہائش والے) وطن کے برے پڑوسی  
سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔“<sup>۵</sup>

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ اس طرح مانگا کرتے  
تھے اللھم انی اعوذ بک من البخل و الجبن و فتنۃ الصدر و عذاب القبر و سوء العمر ”اے  
اللہ! کجروی سے، بزدلی سے، سینے کے فتنہ سے، عذاب قبر سے اور بری عمر یعنی زیادہ بوڑھا ہو جانے  
سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“<sup>۶</sup> حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ، حضرت حسن حضرت حسین

۱۔ عنہما و هذا لفظ ابی دانود ۲۔ عند ابی دانود و النسائی بالاسناد الصحیح کذافی کتاب

الاذکار (ص ۳۹۹) ۳۔ عند ابی دانود و النسائی کذافی تیسیر الوصول (ج ۲ ص ۸۳)

۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الصغیر قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۳) رجالہ رجال الصحیح

عند الطبرانی ایضاً قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۳) رجالہ رجال الصحیح غیر بشر

بن ثابت البزار و ہوثقة ۵۔ اخرجہ احمد و ابن ابی شیبہ و ابو دانود و النسائی و غیرہم

رضی اللہ عنہما کو ان کلمات سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے انہی اعیذ کما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامة ” میں تم دونوں کو ہر شیطان سے، موذی زہریلے جانوروں سے اور ہر لگنے والی بری نظر سے اللہ کے ان کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں جو پورے ہیں۔“

## جنات سے اللہ کی پناہ چاہنا

حضرت ابوتیاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن حبش تمیمی رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے حضور ﷺ کا زمانہ پایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا جس رات جنات نے حضور کے ساتھ مکرو فریب کرنا چاہا تھا اس رات حضور نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس رات شیاطین گھاٹیوں اور پہاڑی راستوں سے اتر کر حضور کے پاس آنے لگے۔ ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا ایک شعلہ تھا جس سے وہ حضور کا چہرہ انور جلانا چاہتا تھا اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا اے محمد! پڑھے حضور نے فرمایا کیا پڑھوں؟ انہوں نے کہا یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق و ذراء و براء و من شر ما یزل من السماء و من شر ما یخرج فیہا و من شرفین اللیل و النهار و من شر کل طارق الا طارقا بطرق بخیر یا رحمان ” میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ لیتا ہوں ان تمام چیزوں کے شر سے جنہیں اس نے پیدا فرمایا۔ پھیلا دیا اور جنہیں اس نے بے مثال بنایا اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان میں چڑھتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں سے اور رات کو پیش آنے والے ہر حادثہ کے شر سے سوائے اس حادثہ کے جو خیر لے کر آئے۔ اے رحمن! (چنانچہ حضور نے یہ کلمات کہے جس سے) ان شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ نے انہیں شکست دے دی۔“

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا کہ اتنے میں آپ کے پاس ایک دیہانی آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! میرا ایک بھائی ہے جسے تکلیف ہے۔ حضور نے پوچھا اسے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا اس پر جنات کا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ دیہانی اپنے بھائی کو لایا اور اسے حضور کے سامنے بٹھا دیا۔ حضور نے سورت فاتحہ اور مندرجہ ذیل آیتیں پڑھ کر اسے اللہ کی پناہ میں دیا۔ سورت بقرہ کی شروع کی چار آیتیں اور یہ دو آیتیں وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَالْجُدُّ اور آیت الکرسی اور سورت بقرہ کی آخری تین پورا آل

۱۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۲)

۲۔ اخرجہ احمد و ابو یعلیٰ قال المنذری فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۱۷) و لکل منہما اسناد جید محتج بہ و قد رواہ مالک فی الموطا عن یحییٰ بن سعید مرسلارواہ النسانی من حدیث ابن مسعود بنحوہ۔ انتہی و اخرجہ ابن ابی شیبہ عن مکحول بمعناہ مختصرا مع فرق فی الفاظ العوذ کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۲)

عمران کی ایک آیت شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور اعراف کی ایک آیت إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ اور سورت مومنین کی آخری آیت لَعَلِّي اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ اور سورت جن کی ایک آیت وَإِنَّ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور سورت صافات کی شروع کی دس آیتیں اور سورت حشر کی آخری تین آیتیں اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور معوذتین یعنی قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (حضور کے اس پڑھنے کی برکت سے) وہ آدمی وہاں سے اس طرح ٹھیک ہو کر اٹھا کہ جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔

## رات کو جب نیند نہ آئے یا گھبرا جائے تو کیا کہے؟

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو بتایا کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور نے فرمایا اے خالد بن ولید! کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم ان کو تین مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ تکلیف دور کر دیں گے۔ حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ضرور سکھائیں میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اسی لئے تو بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کلمات کہا کرو اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَإِنْ يُحْضِرُونَ "میں اللہ کے غصہ اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں چند راتیں ہی گزری تھیں کہ حضرت خالد نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے تھے وہ میں نے تین مرتبہ پورے ہی کئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ تکلیف دور کر دی اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ شیر کے بن میں اس کے پاس رات کو بھی بلا خوف و خطر جا سکتا ہوں۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند میں گھبرا جائے تو یہ دعا پڑھے اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ آگے پھیلی جیسی دعا ذکر کی۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو کا جو بچہ کچھ دار ہوتا اسے تو یہ دعا سکھاتے اور جو ابھی نا سمجھ ہوتا تو یہ دعا کسی کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے۔ صحیح نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید

۱۔ اخرجه احمد والحاكم والترمذی فی الدعوات كذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۱۲)

۲۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط كذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۱۶) قال الهیثمی (ج ۱۰ ص

۱۲۷) وفيه الحكم بن عبد الله الايلي وهو متروك. ۵۱

۳۔ عند النسائي وابي داود والحاكم وصححه والترمذی وحسنه واللفظ عن عمرو بن شعيب

عن ابيه عن جده مرفوعا

رضی اللہ عنہ نیند میں گھبرا جایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا جب تم لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ آگے پچھلی جیسی دعا ذکر کی۔ امام مالک نے موطا میں لکھا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو اور پچھلی دعا ذکر کی۔ حضرت ولید بن ولیدؓ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے گھبراہٹ اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم بستر پر لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو پھر پچھلی دعا ذکر کی۔

## بے چینی، پریشانی اور رنج و غم کے وقت کی دعائیں

حضرت علیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور فرمایا جب تمہیں کوئی پریشانی یا سختی پیش آیا کرے تو انہیں پڑھا کرو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے۔ اللہ پاک اور بابرکت ہے جو کہ عظیم عرش کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“ ۲

حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب کسی بات کی وجہ سے پریشان اور بے چین ہوتے تو فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک اسغیث ”اے ہمیشہ زندہ رہنے والے! اے دوسروں کو قائم رکھنے والے! تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں“ ۳

حضرت اسماء بنت عمیسؓ فرماتی ہیں جب حضور ﷺ کو غم یا پریشانی پیش آتی تو فرمایا کرتے اللہ اللہ ربی لا اشرك به شینا ”اللہ۔ اللہ میرا رب ہے۔ میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا“ ۴ ابن جریر اور ابن ابی شیبہ میں حضرت اسماءؓ کی روایت اس طرح سے ہے کہ مجھے حضور ﷺ نے پریشانی کے وقت پڑھنے کے لیے یہ کلمات سکھائے اور پچھلے کلمات ذکر کیے۔ ۵

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ہم سب گھر میں تھے حضور ﷺ نے دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ کر فرمایا اے بنو عبدالمطلب! جب تم لوگوں کو کوئی پریشانی، سختی یا تنگدستی پیش آئے تو یہ

۱۔ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۱۶)

۲۔ اخرجہ احمد والنسائی وابن جریر وصححه وابن حبان وغيرهم کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۸) وصححه ابن حبان واخرجہ الحاکم وصححه علی شرط مسلم کما فی تحفة الذ

اکرین (ص ۱۹۳) وقد تقدم له طریق فی تعلیم الا ذکار (ج ۳ ص ۱۸۲)

۳۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۲۹۹)

۴۔ اخرجہ ابن جریر ۵۔ کما فی الکنز (ج ۱ ص ۳۰۰)

کلمات کہا کرو اللہ اللہ ربنا لا نشرك به شينا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحليم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظیم اور حلیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔“

حضرت ثوبانؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کسی چیز سے خوف محسوس کرتے تو فرماتے اللہ اللہ ربی لا اشرك به شينا۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا جو بندہ بھی سات مرتبہ یہ دعا پڑھے گا چاہے وہ سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو ضرور دور کر دیں گے وہ دعا یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم ”اللہ مجھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا رب ہے۔“

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں جسے کوئی فکر یا غم یا پریشانی پیش آئے یا اسے کسی بادشاہ سے خوف ہو اور وہ ان کلمات کے ذریعہ سے دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اسنک بلا الہ الا انت رب السموات السبع ورب العرش الكريم واسنک بلا الہ الا انت رب السموات السبع والا رضین السبع وما فیہن انک علی کل شئی قدير ”میں تجھ سے اس بات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے ساتوں آسمانوں کے اور عظیم عرش کے رب! اور میں تجھ سے اس بات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے ساتوں آسمانوں کے اور کریم عرش کے رب! اور میں تجھ سے اس بات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے ساتوں آسمانوں کے، ساتوں زمینوں کے اور ان تمام چیزوں کے رب! جو ان میں ہیں بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے“ پھر تم اللہ سے اپنی ضرورت مانگو۔

۱۔ عند الطبرانی فی الا وسط والكبير قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۷) یوفیه صالح بن عبداللہ ابو یحیی وهو ضعیف. ۱۱۔ وخرجه ابن جریر عنه بنحوه مع زیادة بلفظ اللہ اللہ لا شریک له کما فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۰) ۲۔ وخرجه الشیخان کما فی تحفة الذاکرین (ص ۱۹۳)

۳۔ عند ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۰)

۴۔ وخرجه الحاکم کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۰)

۵۔ وخرجه البخاری فی الادب المفرد (ص ۱۰۵)

## ظالم بادشاہ سے ڈر کے وقت کی دعائیں

حضرت علیؑ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے ظالم بادشاہ کے پاس اور ہر طرح کے خوف کے وقت پڑھنے کے لیے یہ کلمات سکھائے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین انی اعوذ بک من شر عبادک ” اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے وہ اللہ پاک ہے جو ساتوں آسمانوں کا اور عظیم عرش کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت ابورافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے (مجبور ہو کر) حجاج بن یوسف سے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بیٹی سے کہا جب وہ تمہارے پاس اندر آئے تو تم یہ دعا پڑھنا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین ” اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے اللہ پاک ہے جو عظیم عرش کا رب ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔“ حضرت عبداللہ نے کہا جب حضور ﷺ کو کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ راوی کہتے ہیں (حضرت عبداللہ کی بیٹی نے یہ دعا پڑھی جس کی وجہ سے) حجاج اس کے قریب نہ آسکا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم کسی بارعب بادشاہ کے پاس جاؤ اور تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا تو تم تین مرتبہ یہ دعا پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعاً اللہ اعز ما اخاف واحذر اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السموات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس اللهم کن لی جاراً من شرہم جل ثناوک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک ” اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اپنی ساری مخلوق سے زیادہ عزت و غلبہ والا ہے اللہ ان سب سے زیادہ عزت و غلبہ والا ہے جن سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ میں اس اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے اپنے حکم سے ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ تیرے فلاں بندے کے شر اور اس کے لشکروں اور اس کے پیچھے چلنے والوں اور اس کی بات ماننے والوں کے شر سے چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہوں اے اللہ! تو میرے لئے ان سب کے شر سے پناہ بن جا۔ تیری شاہت بہت بڑی ہے اور تیری پناہ

۱۔ اخراجہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۹۹)

۲۔ عند ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۰)



لینے والا غالب ہوتا ہے اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“  
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمہیں کسی حاکم کے غیظ و غضب اور زیادتی کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھو اللھم رب السموات السبع ورب العرش العظیم کن لی جاراً من فلان و احزابه و اشیاعہ من الجن و الانس ان یفرطوا علی و ان یطغوا عز جارك و جل ثناؤک ولا الہ غیرک ”اے اللہ! جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب ہے تو میرے لئے فلاں کے شر سے اور اس کی مددگار جماعتوں اور اس کی ماننے والے جنات اور انسانوں کے شر سے پناہ بن جا۔ تاکہ وہ مجھ پر ظلم اور زیادتی نہ کر سکیں۔ تیری پناہ لینے والا باعزت ہوتا ہے اور تیری ثناء بہت بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔“ جب تم یہ دعا پڑھو گے تو اس ظالم حاکم کی طرف سے تمہیں کوئی ناگواری پیش نہیں آئے گی۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ظالم بادشاہ کا خوف ہو تو وہ یہ دعا پڑھے اور پھر کچھ چھٹی دعا ذکر کی، البتہ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کن لی جاراً من شرفلان بن فلان یعنی الذی یرید و شر الجن و الانس و اتباعہم ان یفرط علی احدہم عز جارك و جل ثناؤک ولا الہ غیرک ”تو میرے لئے فلاں بن فلاں کے شر سے (یہاں اس ظالم بادشاہ کا نام لے) اور جنات اور انسانوں اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے شر سے پناہ بن جاتا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ پر زیادتی نہ کر سکے۔ تیری پناہ لینے والا غالب ہوتا ہے اور تیری ثناء بہت بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

## ادائیگی قرض کی دعائیں

حضرت ابووائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مکاتب غلام (مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جسے اس کے آقا نے کہا ہو کہ اگر تم اتنا مال اتنے عرصہ میں ادا کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے) نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میں کتابت میں مقرر شدہ مال ادا کرنے سے عاجز ہو گیا ہوں آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ

۱۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۳۰۰) و اخرجہ الطبرانی عن ابن عباس بنحوہ بفرق یمیر فی الالفاظ و رجالہ رجال الصحیح کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۷) و اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۱۰۳) عن ابن عباس بنحوہ

۲۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ و ابن جریر کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۳۰۰) و اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۱۰۳) عن ابن مسعود موقوفا بمعناہ اخصر منہ

۳۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۷) و فیہ جنادة بن مسلم وثقه ابن حبان وضعفہ غیرہ و بقیۃ رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی

کلمات نہ سکھاؤں جو حضورؐ نے مجھے سکھائے تھے؟ اگر تم پر (یمن کے) صیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ تمہارا وہ قرض ادا کر دے گا تم یہ دعا پڑھا کرو اللھم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلك عن سواک ” اے اللہ! مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا دے اور اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے۔“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو اچانک آپؐ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جنہیں ابو امامہ کہا جاتا تھا حضورؐ نے فرمایا اے ابو امامہ! کیا بات ہے تم آج مسجد میں نماز کے وقت کے علاوہ دوسرے وقت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! غموں اور قرضوں نے مجھے گھیر لیا ہے حضورؐ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلام نہ سکھاؤں کہ جب تم اسے کہو گے تو اللہ تمہارا غم دور کر دیں گے اور قرض اتر وادیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ضرور سکھا دیں۔ حضورؐ نے فرمایا صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرو اللھم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من المعجز والكسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال ” اے اللہ! میں ہر فکر و غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عاجز ہو جانے اور سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور قرضہ کے غلبہ اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ نے میرے غم بھی دور کر دیئے اور میرا قرضہ بھی سارا ادا کر دیا۔۲

ایک دفعہ جمعہ کے دن حضورؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو نہ دیکھا حضورؐ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت معاذؓ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے معاذ! کیا بات ہے آج تم (جمعہ کی نماز میں) نظر نہیں آئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ایک یہودی کا مجھ پر ایک اوقیہ سونا قرضہ ہے میں گھر سے آپؐ کی خدمت میں حاضری کے لئے چل پڑا لیکن راستہ میں وہ یہودی مل گیا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ حضورؐ نے فرمایا اے معاذ! کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ اگر (یمن کے) صیر پہاڑ جتنا بھی تم پر قرض ہو اور تم یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وہ قرضہ ضرور ادا کر دیں گے؟ اے معاذ! تم یہ دعا کیا کرو اللھم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخير انک علی کل شئی قدير تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والاخرة ورحیمهما تعطی منهما من تشاء وتمنع من تشاء ارحمونی رحمة تغنینی بها عن رحمة من سواک ” اے اللہ! اے تمام ملک کے مالک! تو جس کو

۱۔ اخرجہ الترمذی (ج ۲ ص ۱۹۵) قال الترمذی هذا حدیث حسن غریب

۲۔ اخرجہ ابو داؤد (ج ۲ ص ۳۷۰)

چاہے ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہے ملک چھین لیتا ہے اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ ہر بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے بلاشبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے (کبھی دن بڑا ہوتا اور کبھی رات) اور تو زندہ کو مردہ سے نکال لیتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکال لیتا ہے (پرنده سے انڈا نکال لیتا ہے اور انڈے سے پرنده) اور تو جسے چاہتا ہے اسے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے دنیا و آخرت کے رحمٰن! اے دنیا و آخرت کے رحیم! تو دنیا اور آخرت جسے چاہے دے دیتا ہے اور جس سے چاہے روک لیتا ہے۔ تو مجھ پر ایسی خاص رحمت نازل فرما جس کے بعد مجھے تیرے سوا کسی کی ضرورت نہ رہے!۱

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت معاذؓ کو فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ اگر احد پہاڑ جتنا بھی تم پر قرضہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ضرور اتر دے گا۔ اے معاذ! تم یہ دعا پڑھو اللھم مالک الملک کھچلی دعا جیسی دعا ذکر فرمائی، البتہ اس میں نولج اللیل سے آخر تک کا ذکر نہیں ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں رحمٰن الدنیا والآخرۃ تعطیہما من نشاء وتمنع منہما من نشاء آگے کھچلی حدیث جیسی دعا ذکر کی۔۲

## حفظ قرآن کی دعا

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت علی بن ابی طالبؓ نے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہ قرآن تو میرے سینے سے نکل گیا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں قرآن پر قابو نہیں پاسکتا اسے یاد نہیں رکھ سکتا۔ حضورؐ نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے چند کلمات نہ سکھا دوں جن سے تمہیں بھی فائدہ ہو اور جسے تم یہ کلمات سکھاؤ گے اسے بھی فائدہ ہوگا اور جو کچھ تم سیکھو گے وہ تمہارے سینے میں باقی رہے گا؟ حضرت علیؓ نے کہا یا رسول اللہ! جی ہاں مجھے یہ کلمات ضرور سکھا دیں۔ حضورؐ نے فرمایا جب جمعہ کی رات آئے تو اگر تم رات کے آخری تہائی حصہ میں اٹھ سکو (تو بہت اچھا ہے) کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور میرے بھائی حضرت یعقوبؓ نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی (سورت یوسف آیت ۹۸) ”عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۸۶) یوفیہ نصر بن مرزوق ولم اعرفہ وبقیۃ رجالہ ثقات الا ان سعید بن المسیب لم یسمع من معاذ

۲۔ عند الطبرانی فی الصغیر قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۸۶) اور رجالہ ثقات

گا۔ تو عنقریب سے حضرت یعقوب کی مراد یہی جمعہ کی رات تھی اگر تم آخری تہائی رات میں نہ اٹھ سکو تو پھر درمیان رات میں اٹھو اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو پھر شروع رات میں اٹھو اور چار رکعت نماز پڑھو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت یسین اور دوسری رکعت میں سورت فاتحہ اور سورت ہم اور تیسری رکعت میں سورت فاتحہ اور سورۃ الم تنزیل سجدہ اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ اور سورت تبارک الذی پڑھو اور جب التحیات سے فارغ ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح حمد و ثناء بیان کرو اور پھر خوب اچھی طرح مجھ پر اور سارے نبیوں پر درود پڑھو پھر تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اور جو بھائی تم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو پھر آخر میں یہ دعا پڑھو اللھم ارحمنی بترک المعاصی ابدًا ما ابقیتی وارحمنی ان اتکلف مالا یعیننی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللھم بديع السموات والارض ذا الجلال والا کرام والعزة التي لا ترام اسئلک یا اللہ! یا رحمن! بجلالک ونور وجھک ان تلزم قلبی حفظ کتابک کما علمتی وارزقنی ان اللوہ علی النحو الذی یرضیک عنی اللھم بديع السموات والارض ذا الجلال والا کرام والعزة التي لا ترام اسئلک یا اللہ! یا رحمن! بجلالک ونور وجھک ان تنور بکتابک بصری وان تطلق به لسانی وان تفرج به عن قلبی وان تشرح به صدری وان تغسل به بدنی فانه لا یعیننی علی الحق غیرک ولا یوتیہ الا انت ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم "اے اللہ! مجھ پر مہربانی فرماتا کہ جب تک زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں اور مجھ پر مہربانی فرما جو کام میرے مطلب اور فائدے کے نہ ہوں میں ان میں نہ پڑوں اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ان کاموں کی اچھی طرح فکر کروں جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے بے نمونہ پیدا کرنے والے! اے اللہ میں تیری عظمت و جلال کا اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جیسے تو نے مجھے اپنی کتاب کا علم عنایت فرمایا ہے ایسے ہی میرے دل کو اس کا یاد رکھنا نصیب فرما اور مجھے اس کی اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے بے نمونہ پیدا کرنے والے! اے عظمت و جلال والے! اے اکرام و احسان والے! اور ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا اے اللہ! اے رحمن! میں تیری عظمت و جلال کا اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کی برکت سے میری نگاہ کو روشن کر دے اور اس کو میری زبان پر جاری کر دے اور اس کی برکت سے میرے دل کے غم کو دور کر دے اور میرا سینہ کھول دے اور اس کی برکت سے میرے بدن کو (گناہوں سے) دھو دے کیونکہ حق بات پر تیرے سوا اور کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اور تیرے سوا اور کوئی میری یہ آرزو پوری نہیں کر سکتا اور برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے

کی قوت صرف اللہ سے ہی ملتی ہے جو کہ بزرگ و برتر ہے۔ "اے ابوالحسن! تم تین جمعے یا پانچ جمعے یا سات جمعے تک ایسا کرو اللہ کے حکم سے تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے! آج تک کبھی کسی مومن کی یہ دعا رو نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں حضرت علیؓ کو پانچ یا سات ہی جمعے گزرے ہوں گے کہ وہ حضورؐ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! پہلے میں تقریباً چار آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھیں اور اب تقریباً چالیس آیتیں پڑھتا ہوں اور ایسی ازبر ہو جاتی ہیں کہ جب پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ گویا اللہ کی کتاب میری آنکھوں کے سامنے کھلی رکھی ہے اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تھا تو ذہن سے نکل جاتی تھی اور اب بہت سی حدیثیں سنتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔ اس پر حضورؐ نے ان سے فرمایا اے ابوالحسن! رب کعبہ کی قسم! تم مومن ہو۔"

## نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام کی دعائیں

حضرت حسنؓ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اللھم انی اسئلك الذی هو خیر فی عاقبة امری اللھم اجعل ماتعینی من الخیر رضوانك والدرجات العلی فی جنات النعیم "اے اللہ! میں تجھ سے اپنے ہر کام کے انجام میں خیر کا سوال کرتا ہوں اے اللہ! تو مجھے جس خیر کی توفیق عطا فرمائے اسے اپنی رضا کا اور نعمتوں والی جنتوں میں اونچے درجات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔" ۲

حضرت معاویہ بن قرہؓ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اللھم اجعل خیر عمری اخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک "اے اللہ! میری عمر کا سب سے بہترین حصہ وہ بنا جو اس کا آخر ہو اور میرا سب سے بہترین عمل وہ بنا جو خاتمہ والا ہو اور میرا سب سے بہترین دن وہ بنا جو تیری ملاقات کا دن ہو۔" ۳

حضرت عبدالعزیز بن سلمہ ماہشونؓ کہتے ہیں مجھے ایک ایسے صاحب نے بیان کیا جنہیں میں سچا سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے اسئلك تمام النعمة فی الاشیاء کلھا والشکر لک علیھا حتی ترضی وبعد الرضا والخیرة فی جمیع ما یکون فیہ الخیرة بجمیع ميسور الا مور کلھا لا بمعسور ہایا کریم "میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام چیزوں میں تو نعمت پوری فرمادے اور ان چیزوں پر اتنا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں کہ جس

۱۔ اخرجه الترمذی (ج ۲ ص ۱۹۶) قال الترمذی هذا حديث حسن غریب

۲۔ اخرجه احمد فی الزهد ۳۔ عند سعید بن منصور وغیره کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۳)

سے تو راضی ہو جائے اور اس کے بعد یہ درخواست کرتا ہوں کہ جتنی چیزوں میں کسی ایک جانب کے اختیار کرنے کی صورت ہوتی ہے ان میں میں آسان صورت اختیار کروں اور مشکل اختیار نہ کروں اے کریم۔“<sup>۱</sup>

حضرت ابو یزید مدائنی کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ کی ایک دعا یہ بھی تھی اللھم ہب لی ایمانا وبقینا و معافاة و نية ”اے اللہ! مجھے ایمان و یقین، عافیت اور سچی نیت نصیب فرما۔“<sup>۲</sup>

حضرت عمرؓ فرماتے تھے اللھم انی اعوذ بک ان تاخذنی علی عزة او تذرنی فی غفلة او تجعلنی من الغافلین ”اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو اچانک بے خبری میں میری پکڑ کرے یا مجھے غفلت میں پڑا رہنے دے یا مجھے غافل لوگوں میں سے بنا دے۔“<sup>۳</sup>

حضرت حسنؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے اللھم اجعل عملی صالحا واجعله لک خالصا ولا تجعل لاحد فیہ شیئا ”اے اللہ! میرے عمل میں اور کسی کا ذرہ بھر بھی حصہ نہ ہونے دے۔“<sup>۴</sup>

حضرت عمرو بن میمونؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کرتے تھے اللھم توفنی مع الابرار ولا تجعلنی فی الاشرار و قنی عذاب النار و الحفنی بالاخيار ”اے اللہ! تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور مجھے برے لوگوں میں سے نہ بنا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور مجھے برے لوگوں میں سے نہ بنا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا اور مجھے نیک اور بھلے لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔“<sup>۵</sup>

حضرت ابو العالیہؓ کہتے ہیں میں اکثر حضرت عمر بن خطابؓ کو یہ کہتے ہوئے سنتا اللھم عافنا و اعف عنا ”اے اللہ! ہمیں عافیت نصیب فرما اور ہمیں معاف فرما۔“<sup>۶</sup>

حضرت حفصہؓ فرماتی ہیں میں نے اپنے والد (حضرت عمرؓ) کو یہ کہتے ہوئے سنا اللھم ادرقنی قتلا فی سبیلک و وفاة فی بلد نبیک ”اے اللہ! مجھے اپنے راستے کی شہادت اور اپنے نبیؐ کے شہر کی موت نصیب فرما۔“ میں نے کہا آپ کو یہ دونوں باتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ جہاں چاہے اپنے فیصلہ کو وجود دے سکتا ہے۔<sup>۷</sup>

حضرت عمرؓ نے یوں دعا کی اللھم اغفر لی ظلمی و کفری ”اے اللہ! میرے ظلم اور میرے کفر کو معاف فرما۔“ ایک آدمی نے کہا یہ ظلم کا لفظ تو ٹھیک ہے لیکن کفر کا کیا مطلب؟ حضرت عمرؓ نے

۱۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا ۲۔ عند ابن ابی الدنيا ایضا کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۳)

۳۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابو نعیم فی الحلیة ۴۔ عند احمد فی الزهد

۵۔ عند ابن سعد و البخاری فی الادب ۶۔ عند احمد فی الزهد کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۳)

۷۔ عند ابن سعد و ابو نعیم فی الحلیة

فرمایا (قرآن میں ہے) ان الانسان لظلوم کفار ” سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے“ (یعنی کفر سے ناشکری مراد ہے)۔

حضرت ابو عثمان نہدیؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے میں نے یہ کہتے ہوئے سأللہم ان کتبتنی فی السعادة فائتبی فیہا وان کنت کتبتنی فی الشقاوة فامحنی منها والبتنی فی السعادة فانک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الكتاب ” اے اللہ! اگر تو نے میرا نام خوش قسمت انسانوں میں لکھا ہے تو میرا نام ان میں لکھا رہنے دے اور اگر میرا نام بد قسمت لوگوں میں لکھا ہوا ہے تو اس میں سے مٹا کر خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے کیونکہ تو جو چاہے مٹا سکتا ہے اور جو چاہے باقی رکھ سکتا ہے اور تیرے پاس لوح محفوظ ہے۔“

حضرت یزیدؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو آدھی رات کے وقت رمادہ قحط کے زمانہ میں حضور ﷺ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ یہ دعا کر رہے تھے اللہم لا تہلکنا بالسنین وارفع عنا هذا البلاء ” اے اللہ! ہمیں قحط سے ہلاک نہ فرما اور ہم سے یہ مصیبت دور فرما اور وہ یہ دعا بار بار کرتے رہے۔“

حضرت یزیدؓ کہتے ہیں میں نے رمادہ قحط کے زمانہ میں حضرت عمر بن خطابؓ پر چادر دیکھی جس پر رسولہ پیوند لگے ہوئے تھے اور آپ کی چادر پانچ ہاتھ اور ایک بالشت لمبی تھی اور یہ دعا کر رہے تھے اللہم لا نجعل ہلکة امة محمد علی رجلی ” اے اللہ! حضرت محمد ﷺ کی امت کی ہلاکت میرے زمانہ میں نہ کر۔“

حضرت اسلمؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا اللہم لا تجعل قتلی بیلر جل صلی رکعة او سجدة واحدة یحاجنی بها عندک یوم القیمة ” اے اللہ! میرا قتل ایسے شخص کے ہاتھوں نہ کر جس نے ایک رکعت ہی پڑھی ہو یا ایک سجدہ ہی کیا ہو اور وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن مجھے سے جھگڑا کرے“ یعنی میری شہادت مسلمان کے ہاتھوں نہ ہو۔

حضرت سعید بن مسیبؓ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ نے کنکریوں کی ایک ڈھیر بنائی پھر اس پر اپنے کپڑے کا کنارہ ڈال کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے پھر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اللہم کبرت سنی و ضعف قونی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط ” اے اللہ! میری عمر زیادہ ہوگئی اور میرے قوی کمزور ہو گئے اور میری رعایا پھیل

۱۔ عند ابن ابی حاتم ۲۔ عند اللاکانی کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۳) واخرجه عبد

بن حمید وابن جریر وابن المنذر اخصر منه کما فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۳)

۳۔ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۳۱۹) واخرجه البخاری ومالک وابن راہویہ وابو نعیم فی

الحلیة وصححه عن زید بن اسلم کذا فی المنتخب (ج ۲ ص ۲۱۳) عند ابن سعد (ج ۲ ص ۲۲۰)

گئی، لہذا اب تو مجھے اپنی طرف اس طرح اٹھالے کہ  
کسی کے حق ضائع کرنے والا ہوں اور نہ کسی کے حق میں کمی کرنے والا ہوں۔“<sup>۱</sup>

حضرت اسود بن ہلال محاربیؓ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے  
منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے لوگو! غور سے سنو! میں دعا کروں گا تم سب  
اس پر آمین کہنا اللھم انی غلیظ فلینی و صحیح فسخنی و ضعیف فقونی ”اے اللہ! میں سخت  
ہوں مجھے نرم کر دے کنجوں ہوں مجھے سخی بنا دے کمزور ہوں مجھے قوی کر دے۔“<sup>۲</sup>

حضرت سعید بن مسیبؓ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کی نماز جنازہ پڑھاتے تو فرماتے تیرا یہ بندہ  
دنیا سے رہائی پا گیا اور دنیا دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور اب وہ تیرا محتاج ہے تجھے اس کی  
کوئی ضرورت نہیں وہ اس بات کی گواہی دیا کرتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ  
تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اس سے درگزر فرما اور اسے اس کے نبی  
کے پاس پہنچا دے۔“<sup>۳</sup>

حضرت کثیر بن مدرکؓ کہتے ہیں جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی تو حضرت عمرؓ فرماتے اللھم  
اسلمہ الیک ال اهل و المال و العشیرة و ذنبه عظیم فاغفر له ”اے اللہ! اہل و عیال، مال اور  
خاندان والوں نے اسے تیرے سپرد کر دیا ہے اور اس کے گناہ بھی بڑے بڑے ہیں اور اس کی  
مغفرت فرما۔“<sup>۴</sup>

حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے اعوذ بک من جهد البلاء و درک الشفاء و شماتة  
الاعداء و اعود بک من السجن و القید و السوط ”(اے اللہ!) بلا و مصیبت کی سختی سے اور  
بد قسمتی کے پکڑ لینے سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جیل، بیڑی اور  
کوڑے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“<sup>۵</sup>

حضرت ثوریؓ کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ یہ دعا کیا کرتے تھے  
اللھم ان ذنوبی لا تضرک و ان رحمتک اباى لا تنقصک ”اے اللہ! میرے گناہ تیرا کوئی  
نقصان نہیں کر سکتے اور تو مجھ پر رحم فرمائے تو اس سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔“<sup>۶</sup>  
حضرت علیؓ جب نیا چاند دیکھا کرتے تو فرمایا کرتے اللھم انی اسئلک خیر هذا الشهر  
و فتحه و نصره و برکته و رزقه و نورہ و طهورہ و اعود بک من شره و شر ما فیہ و شر ما

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۴) ۲۔ عند ابی نعیم فی الحلیة ایضا

۳۔ اخرجہ ابو یعلیٰ باسناد صحیح کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۱۱۳)

۴۔ عند البیہقی کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۱۱۹) ۵۔ اخرجہ یوسف القاضی کذا فی

الکنز (ج ۱ ص ۳۰۳) ۶۔ عند الدینوری کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۳۰۵)



بعده "اے اللہ! میں تجھ سے اس مہینے کی خیر اور اس کی فتح، نصرت، برکت، رزق، نور، طہارت اور ہدایت مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ اس کے بعد ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔" ۱

حضرت عمر بن سعیدؓ کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کے پیچھے ابن مکلف کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت علیؓ نے چار کبیریں کہیں اور ایک طرف سلام پھیرا پھر انہوں نے ابن مکلف کو قبر میں اترا اور پھر فرمایا اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے تیرا مہمان بنا ہے اور تو بہترین میزبان ہے اے اللہ! جس قبر میں یہ داخل ہوا ہے اسے وسیع فرما دے اور اس کے گناہ معاف فرما دے ہم تو اسکے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں لیکن تو ہم سے زیادہ جانتا ہے اور یہ کلمہ شہادت اشہدان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا۔ ۲

حضرت ابو ہیان اسدیؓ کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اتنے میں میں نے ایک آدمی دیکھا جو صرف یہ دعا مانگ رہا تھا اللھم فنی شح نفسی "اے اللہ! مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے" اور کچھ نہیں مانگ رہا تھا میں نے اس سے صرف یہی دعا کرنے کی وجہ پوچھی اس نے کہا جب مجھے میرے نفس کے شر سے بچا دیا جائے گا تو میں نہ چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا اور نہ کوئی اور برا کام کروں گا۔ میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ ہیں۔ ۳

حضرت ابو عبیدہؓ کہتے ہیں (میرے والد) حضرت عبداللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جس رات حضور ﷺ نے آپ سے فرمایا تھا کہ مانگو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اس رات آپ نے کیا دعا مانگی تھی حضرت عبداللہؓ نے فرمایا میں نے دعا مانگی تھی۔

اللھم انی اسئلك ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة نیک  
 ﷺ فی اعلى درجۃ الجنة جنة الخلد "اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو باقی رہے اور زائل نہ ہو اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ رہنے کی جنت کے اعلیٰ درجے میں تیرے نبی کریم ﷺ کی رفاقت مانگتا ہوں۔" ۴

حضرت ابو عبیدہؓ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے فرمایا ایک رات میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم ﷺ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ میرے پاس سے گزرے۔ حضورؐ نے فرمایا مانگو

۱۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۲۶)

۲۔ اخرجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۱۱۹)

۳۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۳۳۹)

۴۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۷) و اخرجہ ابن عساکر عن کمیل عن عمرؓ مع زیادة قصة صلواته ودعائه كما فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۳۶)

جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں میں نے بعد میں جا کر حضرت عبداللہؓ سے پوچھا کہ کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے کہا میری ایک دعا ہے جو میں کبھی نہیں چھوڑتا اور وہ یہ ہے اللھم انی اسئالک ایمانا لا یبید ”اے اللہ! میں تجھ سے ہلاک نہ ہونے والا ایمان مانگتا ہوں۔“ پھر آگے پیچھے جیسی دعا ذکر کی ہے اور یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں وقرة عین لا تنقطع ”اور ختم نہ ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں۔“ ابو نعیم کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے واپس آ کر حضرت عبداللہؓ سے کہا جو دعا تم مانگ رہے تھے وہ ذرا مجھے بھی سناؤ۔ حضرت عبداللہؓ نے کہا پہلے میں نے اللہ کی حمد و ثناء اور عظمت بیان کی پھر میں نے یہ کہا لا الہ الا انت وعدک حق و لقاوک حق و الجنة حق و النار حق و رسلک حق و کتابک حق و النبیون حق و محمد ﷺ حق ”تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے جنت حق ہے دوزخ حق ہے تیرے رسول برحق ہیں تیری کتاب برحق ہے سارے نبی برحق ہیں۔ محمد ﷺ برحق ہیں۔“ ۲

حضرت شقیقؓ کہتے ہیں حضرت عبداللہؓ یہ دعائیں کثرت سے کیا کرتے تھے ربنا اصلح بیننا و اهدنا سبل السلام و نجنا من الظلمات الی النور و اصرف عنا القوا حش ما ظہر منها و ما بطن و بارک لنا فی اسما عنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریتنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم و اجعلنا شاکرین لنعمتک متینین بہا قائلین بہا و اتممها علینا ”اے ہمارے رب! ہمارے آپس کے تعلقات خوشگوار بنا دے اور ہمیں اسلام کے راستے دکھا اور ہمیں تاریکیوں سے نجات دے کر روشنی میں لا اور ہم کو ظاہری و باطنی بدکاریوں سے دور رکھ اور ہمارے کانوں کو ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو اور ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے حق میں باعث برکت بنا دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بیشک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزاران کا شاخواں اور لوگوں کے سامنے انہیں بیان کرنے والا بنا دے اور ان (نعمتوں) کو ہم پر پورا فرما دے۔“ ۳

حضرت ابوالاحوصؓ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اللھم انی اسئالک بنعمتک السابغة الی انعمت بہا و بلاءک الذی ابتلیتہ و بفضلک الذی افضلت علی ان تدخلنی الجنة اللھم ادخلنی الجنة بفضلک و منک و رحمتک ”اے اللہ! میں تجھ سے تیری اس نعمت کاملہ کے واسطے سے جو تو نے مجھ پر کیا یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۲۷) ۲۔ قال ابو نعیم (ج ۱ ص ۱۳۸) و رواہ سعید بن ابی الحسام عن شریک و ادخل سعید بن المسیب بین عون و عبد اللہ ثم اسندہ من طریقہ ۳۔ اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۹۳)

میں داخل کر دے۔ اے اللہ! تو اپنے فضل و احسان اور رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔“

حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے اللہم ان کنت کنتی فی اهل الشفاء فامحنی و اثبتی فی اهل السعادة ”اے اللہ! اگر تو نے میرا نام بدبختی والوں میں لکھا ہوا ہے تو وہاں سے میرا نام مٹا کر خوش قسمت لوگوں میں لکھ دے“

حضرت عبداللہ بن عکیم کہتے ہیں حضرت ابن مسعود یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما او علما ”اے اللہ! میرے ایمان و یقین سمجھ اور علم کو بڑھا دے۔“

حضرت ابو وائل کہتے ہیں میں ایک نماز فجر سے فارغ ہو کر ابن مسعود کی خدمت میں گیا۔ ہم نے ان سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ انھوں نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ ہم نے اپنے دل میں کہا ہم کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں شاید گھر والوں میں سے کسی کو ان سے کوئی کام ہو (تو وہ اپنا کام پورا کر لیں) اتنے میں حضرت ابن مسعود بیچ پڑھتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور فرمایا شاید تم لوگوں نے یہ گمان کیا ہوگا کہ عبداللہ کے (یعنی میرے) گھر والے اس وقت غفلت میں ہوں گے پھر فرمایا اے باندی! دیکھو سورج نکل آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں پھر جب اس کو تیسری مرتبہ کہا دیکھو سورج نکل آیا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا الحمد للہ الذی و ہنا ہذا لیوم و اقا لنا فیہ عشراتنا احسبہ قال ولم یعد بنا بالنار ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا اور اس نے اس دن میں ہماری تمام لغزشیں معاف فرمادیں (تجھی تو ہمیں لغزشوں کے باوجود زندہ رکھا ہوا ہے) راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس نے ہمیں (لغزشوں کی وجہ سے) آگ سے عذاب نہیں دیا۔“

حضرت سلیم بن حنظلہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بازار کے دروازے کے پاس آئے اور یہ دعا پڑھی اللہم انی اسئلک من خیرھا و خیر اہلھا و اعوذ بک من شرھا و شر اہلھا ”اے اللہ! میں تجھ سے اس بازار کی خیر اور بازار والوں کی خیر مانگتا ہوں اور اس بازار کے شر اور بازار والوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی بستی میں داخل

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۸۵) و رجالہ رجال الصحیح

۲۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی رجالہ رجال الصحیح الا ان ابا قلابہ لم یدرک ابن مسعود

۳۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی و اسنادہ جید

۴۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۱۸) رجالہ رجال الصحیح

۵۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۹) رواہ الطبرانی موفوفا و رجالہ رجالہ

الصحیح غیر سلیم بن حنظلہ و هو ثقة

ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے اللھم رب السموات وما اظلت و رب الشیاطین وما اضللت و رب الریاح و ما اذرت اسنک خیرھا و خیر ما فیھا و اعوذ بک من شرھا و شر ما فیھا ” اے اللہ! جو کہ تمام آسمانوں کا اور جن پر آسمانوں نے سایہ ڈالا ہے ان تمام چیزوں کا رب ہے جو کہ شیطانوں کا اور جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے ان سب کا رب ہے اور جو کہ ہواؤں کا اور ان تمام چیزوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس سب کی خیر مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

حضرت ثور بن یزید کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبلؓ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا کہتے۔  
اللھم قد نامت العیون و غارت النجوم و انت حی قیوم  
اللھم طلبی للجنة بطینی و هر بی من النار ضعيف اللھم اجعل لی عندک ہدی ترده الی  
یوم القیمة انک لا تخلف المیعاد ” اے اللہ! آنکھیں سوچکی ہیں اور ستارے غروب ہو گئے ہیں اور تو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ! میرے اندر جنت کی طلب بہت سست ہے اور مجھ میں دوزخ کی آگ سے بھاگنے کا جذبہ بالکل کمزور ہے۔ اے اللہ! مجھے اپنے پاس سے ایسی ہدایت عطا فرما جو قیامت تک چلتی رہے بیشک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔“

بنو نجار کی ایک عورت کہتی ہیں مسجد کے ارد گرد کے گھروں میں میرا گھر سب سے اونچا تھا حضرت بلالؓ روزانہ صبح کو فجر کی اذان میں میرے گھر کی چھت پر دیا کرتے تھے۔ سحری کے وقت آ کر چھت پر بیٹھ کر صبح صادق کا انتظار کرتے۔ جب صبح صادق نظر آتی تو انگڑائی لیتے پھر یہ دعا پڑھتے اللھم احمدک و اسعینک علی قریش ان بقیمو ادینک ” اے اللہ! میں تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں تاکہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔“ پھر وہ اذان دیتے مجھے بالکل یاد نہیں کہ کسی رات حضرت بلالؓ نے یہ دعائیہ کلمات (اذان سے پہلے چھوڑے) ہوں۔“

حضرت بلالؓ کی بیوی حضرت ہند کہتی ہیں حضرت بلالؓ جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا کرتے  
اللھم تجاوز عن سینتی و اعذرنی بعلامی ” اے اللہ! میری برائیوں سے درگزر فرما اور میری بیماریوں کی وجہ سے مجھے معذور قرار دے۔“

۱۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۵) رجالہ رجال الصحیح الا ان قتادہ لم یدرک ابن مسعود انتھی  
۲۔ اخرجه ابو نعیم فی الحیلة (ج ۱ ص ۲۳۳) اخرجه الطبرانی و اسنادہ منقطع کما قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۸۵)  
۳۔ اخرجه ابن اسحق من طریق عروہ و رواہ ابودانود من حدیثہ منفردا بہ کذا فی البدایہ (ج ۳ ص ۲۳۳)  
۴۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۵) ہند لم اعرفھا و بقیہ رجالہ رجال الصحیح

حضرت زید بن ثابتؓ جب بستر پر لیٹے تو یہ دعا کرتے اللھم انی اسئلک غنی ال اهل  
والمولی و اعوذ بک ان تدعو علی رحم قطعها ” اے اللہ! میں تجھ سے اہل و عیال کے اور تمام  
متعلقین کے غنا کو مانگتا ہوں اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں رشتہ توڑوں اور وہ  
رشتہ میرے لیے بد دعا کرے۔“ ۱

حضرت عروہؓ کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہؓ یہ دعا کیا کرتے اللھم ہب لی حمدا و ہب  
لی مجدا لا مجد الا بفعال ولا فعال الا بمال اللھم لا یصلحنی القلیل ولا یصلح علیہ ” اے  
اللہ! مجھے تعریف عطا فرما اور مجھے بزرگی عطا فرما اور بزرگی کسی بڑے کام کے ذریعہ سے ہی حاصل  
ہو سکتی ہے اور کوئی بڑا کام مال کے ذریعہ سے ہی ہوا کرتا ہے اے اللہ! تھوڑا مال میرے حالات  
درست نہیں کر سکتا اور نہ ہی تھوڑے مال سے میں درست رہ سکتا ہوں (لہذا تو اپنی شان کے مطابق  
اپنے خزانوں میں سے عطا فرما)۔“ ۲

حضرت بلال بن سعدؓ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک  
من تفرقة القلب ” اے اللہ! میں دل کے بکھر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں “ کسی نے پوچھا دل  
کے بکھر جانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے ہر وادی  
میں کچھ مال رکھ دیا جائے (اور مجھے ہر وادی میں جا کر اپنے مقدر کا مال جمع کرنا پڑے)۔“ ۳

حضرت اسماعیل بن عبید اللہؓ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے اللھم توفنی مع  
الابرار ولا تبغنی مع الاشرار ” اے اللہ! مجھے نیک لوگوں کے ساتھ موت دے اور مجھے برے  
لوگوں کے ساتھ باقی نہ رکھ “ حضرت لقمان بن عامرؓ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے  
اللھم لا تبغنی بعمل سوء فادعی بہ رجس سوء ” اے اللہ! مجھے کسی برے عمل میں مبتلا نہ فرما ورنہ  
مجھے برا آدمی کہہ کر پکارا جائے گا۔“ ۴

حضرت حسان بن عطیہؓ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے اللھم انی اعوذ بک  
ان تلعننی قلب العلماء ” اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ علماء کے دل مجھ پر  
لعنت کریں “ کسی نے پوچھا ان کے دل آپ کو کیسے لعنت کریں گے؟ فرمایا ان کے دل مجھے ناپسند  
کرنے لگیں۔“ ۵

حضرت عبداللہ بن یزید بن ربیعہ دمشقیؓ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ  
میں شروع رات میں مسجد گیا وہاں میرا گزرا ایک آدمی پہ ہوا جو سجدے میں یہ کہہ رہا تھا اللھم انی

۱۔ اخوجه السیرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۲۵) بواسنادہ جید

۲۔ اخوجه ابن سعد (ج ۳ ص ۶۱۴) ۳۔ اخوجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۹)

۴۔ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۲۲۰) ۵۔ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۲۲۳)

خائف مستجیر فاجر لی من عذابک و سائل فقیر فارزقی من فضلک لا مذنب فا عذر ولا ذوقه فانصر ولكن مذنب مستغفر۔ "اے اللہ! میں ڈرنے والا اور پناہ مانگنے والا ہوں لہذا مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے اور مانگنے والا فقیر ہوں لہذا اپنے فضل سے روزن عطا فرما اور جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میرے پاس کوئی عذر نہیں جسے میں تیرے سامنے پیش کر سکوں اور نہ میں ایسا طاقتور ہوں کہ تجھ سے خود کو بچا سکوں بلکہ میں تو سراپا گناہگار ہوں اور تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔" راوی کہتے ہیں حضرت ابوالدرداء کو یہ دعائیہ کلمات بہت پسند آئے اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ کلمات سکھانے لگے۔

حضرت تمامہ بن حزن کہتے ہیں میں نے ایک بڑے میاں کو بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے سنا اللھم انی اعوذ بک من الشر لا یخلطہ شیئی "اے اللہ! میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے ساتھ کچھ بھی خیر ملا ہوا نہ ہو یعنی خالص شر ہو" میں نے پوچھا یہ بڑے میاں کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا حضرت ابوالدرداء ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت ابوالدرداء فرماتے تھے اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ کے سامنے میرا ایسا کوئی عمل پیش کرے جس سے وہ شرمندہ ہوں (حضرت ابن رواحہ ان کے جاہلیت میں بھائی تھے اور ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے)۔<sup>۳</sup>

حضرت نافع کہتے ہیں حضرت ابن عمر صغیر یہ دعا کیا کرتے تھے اللھم اعصمی بدینک و طواعیتک و طواعیۃ رسولک اللھم جنینی حلودک اللھم اجعلنی ممن یحبک و یحب ملائکتک و یحب رسلک و یحب عبادک الصالحین اللھم جنی الیک والی ملائکتک والی رسلک والی عبادک الصالحین اللھم یسرنی للیسری و جنینی العسری و اغفر لی فی الاخرۃ والا ولی و اجعلنی من انعمہ المظین اللھم انک قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد اللھم اذہدیتی للاسلام فلا تنزعنی منه ولا تنزعہ منی حتی تقبضنی وانا علیہ "اے اللہ! اپنے دین کے ذریعہ سے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ذریعہ سے میری حفاظت فرما اے اللہ! مجھے اپنے حرام کردہ کاموں سے بچا۔ اے اللہ! مجھ کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو تجھ سے تیرے فرشتوں سے تیرے رسولوں سے اور تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ! مجھے اپنا اور اپنے فرشتوں کا اپنے رسولوں کا اور اپنے نیک بندوں کا محبوب بنا دے۔ اے اللہ! مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما اور برائی سے محفوظ فرما اور دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما اور مجھے متقیوں کا امام بنا۔ اے اللہ! تو نے (قرآن میں) فرمایا ہے مجھے پکارو میں

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۲۳) ۲۔ اخرجه البخاری فی الادب المفرد (ص ۹۹)

۳۔ اخرجه الحاکم کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۳۰۶)

تمہاری درخواست قبول کروں گا اور تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ! جب تو نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی ہے تو مجھے اسلام سے نہ نکال اور نہ اسے مجھ سے چھین بلکہ جب تو میری روح قبض کرے تو میں اسلام پر ہوں۔“ حضرت ابن عمرؓ صفا مردہ پر اور عرفات و مزدلفہ میں اور منی کے دو حجروں کے درمیان اور طواف میں اپنی لمبی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی مانگتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن بسرہؓ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ حج کے وقت یہ دعا پڑھتے اللھم اجعلنی من اعظم عبادک عندک نصیباً فی کل خیر تقسمہ الغداة و نورا تھدی بہ و رحمة تنشرھا و رزقا تبسطه و ضر الکشفه و بلاء ترفعه و فتنه تصرفھا ”اے اللہ! مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا کہ آج صبح تو جتنی خیریں تقسیم کرے گا ان کا ان خیروں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ حصہ ہو اور جس نور سے تو ہدایت دیتا ہے اور جس رحمت کو تو پھیلاتا ہے اور جس رزق کو تو وسعت دیتا ہے اور جس تکلیف کو تو دور کرتا ہے اور جس آزمائش کو تو ہٹاتا ہے اور جس فتنے کو تو پھیر دیتا ہے سب چیزیں انہیں سب سے زیادہ حاصل ہوں۔“

حضرت سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے اللھم انی اسئلک بنور و جھک الذی اشرفت له السموات و الارض ان تجعلنی فی حوزک و حفظک و جوارک و تحت کنفک ”اے اللہ! میں تیری ذات کے اس نور کے واسطے سے جس کی وجہ سے سارے آسمان اور زمین روشن ہو گئے تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے حفظ و امان میں اپنی پناہ میں اپنے سایہ کے نیچے لے لے۔“

حضرت سعیدؓ کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے اللھم فنحنی و بارک لی فیہ و اخلف علی کل غایبة بخیر ”اے اللہ! تو نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس پر مجھے قناعت نصیب فرما اور اس میں برکت نصیب فرما اور میری جتنی چیزیں اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں بلکہ غائب ہیں ان سب چیزوں میں تو خیر کے ساتھ میرا خلیفہ بن جا انہیں اچھی طرح سنبھال لے۔“ حضرت طاؤسؓ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباسؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللھم تقبل شفاعة محمد الكبرى و ارفع درجته العلیا و اعطه موله فی الآخرة و الا ولی کما اتیت ابراہیم و موسی علیہما السلام ”اے اللہ! محمد (ﷺ) کی شفاعت کبریٰ قبول فرما اور ان کے بلند درجے کو اور اونچا فرما اور انہوں نے آپ سے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ انہیں دینا اور آخرت میں عطا فرما جیسے تو نے

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحیلة (ج ۱ ص ۳۰۸)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحیلة (ج ۱ ص ۳۰۴) اخرجہ الطبرانی عنہ بنحوہ قال الہیثمی

(ج ۱ ص ۱۸۴) و رجالہ رجال الصحیح ۳۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی و رجالہ رجال

الصحیح ۴۔ اخرجہ البخاری فی الادب المفرد (ص ۱۰۱)

حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔<sup>۱</sup>

حضرت ام الدرداءؓ فرماتی ہیں حضرت فضالہ بن عبیدؓ یہ دعا کیا کرتے اللھم انی اسئلک الرضا بالقضاء والقدر وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الی وجهک والشوق الی لقاءک فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ” اے اللہ! میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں تیری ہر تقدیر اور فیصلے پر راضی رہا کروں اور موت کے بعد مجھے عمدہ زندگی نصیب ہو اور تیرے دیدار کی لذت حاصل ہو اور مجھے تیری ملاقات کا شوق نصیب ہو اور تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنہ سے میری حفاظت ہو۔“ حضرت فضالہؓ کہتے تھے حضور ﷺ یہ تمام دعائیں مانگا کرتے تھے۔<sup>۲</sup>

حضرت مقبریؓ کہتے ہیں مروان حضرت ابو ہریرہؓ کے مرض الوفا میں ان کے پاس گیا اور اس نے کہا اے ابو ہریرہ! اللہ آپ کو شفاء عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا اللھم انی احب لقاءک فاحب لقائى ” اے اللہ! میں تیری ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں تو میرے سے ملاقات کو محبوب بنائے“ چنانچہ وہاں سے چل کر مروان ابھی اصحاب القضا مقام تک نہیں پہنچا تھا کہ پیچھے حضرت ابو ہریرہؓ کا انتقال ہو گیا۔<sup>۳</sup>

حضرت عبداللہ بن ہشامؓ کہتے ہیں حضور ﷺ کے صحابہؓ سال یا مہینہ کے شروع ہونے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللھم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والا سلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطن ” اے اللہ! اس سال اور مہینے کو امن، ایمان، سلامتی، اسلام، رحمان کی رضا اور شیطان سے پناہ کے ساتھ ہم پر داخل فرما۔“<sup>۴</sup>

حضرت ابو امامہ بن سہلؓ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا صحابہؓ جب کسی بستی کے پاس پہنچتے یا اس میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اللھم اجعل لنا فیہا رزقا ” اے اللہ! اس بستی میں ہمارے لیے رزق مقدر فرما۔“ وہ یہ دعا کس ڈر سے پڑھا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا بستی کے والی کے ظلم کا اور بارش نہ ہونے کا ڈر ہوتا تھا۔<sup>۵</sup>

حضرت ثابتؓ کہتے ہیں حضرت انسؓ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے تو یہ کہتے اللہ اس پر ان نیک لوگوں والی رحمتیں نازل فرمائے جو ظالم اور بدکار نہیں جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور

۱۔ اخرجه اسمعيل القاضي قال ابن كثير في تفسيره (ج ۳ ص ۵۱۳) اسنادہ جید قوی

صحيح. انتهى ۲۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۷۷) رواه الطبرانی فی الا

وسط والكبير ورجالهما ثقات. انتهى. ۳۔ اخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۳۳۹)

۴۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۹) واسنادہ حسن وفي هامشه عن

ابن حجر فيه وشدين بن سعد وهو ضعيف ۵۔ اخرجه البزار قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۳۵)

رجالہ رجال الصحیح غیر فیس بن سالم وهو لقة. انتهى



دن کو روزہ رکھتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب بادل گرنے کی آواز سنتے تو بات کرنا چھوڑ دیتے اور یہ پڑھتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ”وہ ذات پاک ہے جس کے خوف سے رعد فرشتہ اور دوسرے فرشتے اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں“ پھر فرماتے یہ زمین والوں کے لیے اللہ کی طرف سے دھمکی ہے۔

## صحابہ کرامؓ کی ایک دوسرے کے لیے دعائیں

حضرت محمدؐ، حضرت طلحہؓ، حضرت مہلبؓ، حضرت عمرو اور حضرت سعیدؓ کہتے ہیں حضرت سماک بن مخرمہ، حضرت سماک بن عبید اور حضرت سماک بن خرشہؓ حضرت عمرؓ کے پاس وفد بن کر آئے حضرت عمرؓ نے فرمایا اللہ آپ لوگوں میں برکت عطا فرمائے اے اللہ! ان کے ذریعہ سے اسلام کو بلند فرما اور ان کے ذریعہ سے اسلام کو مضبوط فرما۔

حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالکؓ کہتے ہیں جب میرے والد (حضرت کعب بن مالکؓ) کی بیٹائی چلی گئی تو میں ان کا رہبر ہوا کرتا تھا۔ جب میں ان کے ساتھ جمعہ کے لیے جاتا اور وہ اذان سنتے تو حضرت ابوامامہؓ اسعد بن زرارہؓ کے لیے استغفار کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے میں نے ان سے پوچھا اے ابا جان! کیا بات ہے آپ جب اذان سنتے ہیں تو ابوامامہؓ کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر اور دعائے رحمت کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے! انہوں نے حضور ﷺ کے آنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے جمعہ پڑھایا تھا اور یہ جمعہ انہوں نے بقیع الخضمات بستی میں بنو بیاضہ قبیلہ کے پتھر یلے میدان کے اس حصہ میں پڑھایا تھا جہاں نیت قبیلہ کو شکست ہوئی تھی میں نے پوچھا اس دن آپ لوگ کتنے تھے؟ فرمایا ہم چالیس آدمی تھے۔

بنو بکر بن وائل کے ایک صاحب کہتے ہیں میں سجستان میں حضرت بریدہؓ سلمیٰ کے ساتھ تھا۔ میں حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے ان سب حضرات کے کچھ عیب بیان کرنے لگا۔ اس پر حضرت بریدہؓ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے اللہ! عثمانؓ کی مغفرت فرما اور علیؓ بن ابی طالب کی

۱۔ اخرجه البخاری فی الادب المفرد (ص ۹۳)

۲۔ اخرجه البخاری فی الادب المفرد (ص ۱۰۶) واخرجه مالک ایضا عن ابن الزبیر مثله كما فی مشکوٰۃ الا انه لم يذكر من قوله ثم يقول الى آخره

۳۔ اخرجه ابن عساکر عن سيف بن عمر كذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۱)

۴۔ اخرجه ابن ابی شیبہ والطبرانی وابو نعیم فی المعرفة كذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۳۶)

مغفرت فرما اور طلحہ بن عبید اللہ کی مغفرت فرما اور زبیر بن عوام کی مغفرت فرما۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارا باپ نہ رہے کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کی قسم! میں آپ کو قتل کرنا نہیں چاہتا بلکہ ان حضرات کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے کرم سے شروع اسلام میں بڑے کارنامے سرانجام دیئے ہیں (اور ان سے کچھ لغزشیں اختلاف وغیرہ بھی ہوئے ہیں) اب اللہ کی مرضی ہے چاہے تو ان کے کارناموں کی وجہ سے ان کی چھوٹی موٹی لغزشیں معاف فرما دے اور چاہے تو انہیں عذاب دے۔ ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے (ہمارے ذمہ نہیں ہے)!

نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کس طرح جمعوں میں، جماعتوں میں، حج اور غزوات میں اور تمام حالات میں بیان کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا حکم ماننے کی ترغیب دیا کرتے تھے چاہے اللہ کے حکم مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف کیوں نہ ہوں اور کس طرح لوگوں کے دلوں میں دنیا اور اس کی فانی لذتوں کی بے رغبتی اور آخرت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی لذتوں کا شوق پیدا کیا کرتے تھے اور گویا کہ وہ پوری امت مسلمہ کو مالدار اور غریب کو خواص اور عوام کو اس بات پر کھڑا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکام ان کی طرف متوجہ ہیں وہ اپنی جان لگا کر اپنا مال خرچ کر کے ان احکام کو پورا کریں اور وہ امت مسلمہ کو فانی مال اور ختم ہو جانے والے سامان پر کھڑا نہیں کرتے تھے

## حضرت محمد ﷺ کا پہلا بیان

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مدینہ میں سب سے پہلا بیان فرمایا اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اما بعد اے لوگو! اپنے لیے (آخرت میں کام آنے کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ) آگے بھیجو تم اچھی طرح جان لو تم میں سے ہر آدمی نے ضرور مرنا ہے اور اپنی بکریاں بغیر چرواہے کے چھوڑ کر چلے جانا ہے پھر اس کے اور اس کے رب کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی دربان۔ اور اس کا رب اس سے پوچھے گا کیا میرے رسول نے تیرے پاس آ کر میرا دین نہیں پہنچایا تھا؟ کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا؟ اور تجھ پر فضل و احسان نہیں کیا تھا؟ اب بتا تو نے اپنے لئے یہاں آگے کیا بھیجا ہے؟ چنانچہ وہ دائیں بائیں دیکھے گا تو اسے کوئی چیز نظر نہ آئے گی پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا، لہذا تم میں سے جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچا سکتا ہے اسے چاہئے کہ وہ یہ ٹکڑا دے کر ہی خود کو بچالے اور جسے اور کچھ نہ ملے تو وہ اچھی بات بول کر ہی خود کو بچالے کیونکہ آخرت میں نیکی کا بدلہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک ملے گا۔ والسلام علی رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نے ایک مرتبہ پھر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد طلب کرتا ہوں ہم اپنے نفس کے اور برے اعمال کے شرور سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ نے قرآن سے مزین کیا اور اسے کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا اور اس آدمی نے باقی تمام لوگوں کے کلام کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو اختیار کیا یہ اللہ کی کتاب سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ بلیغ کلام ہے جو اللہ سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو اور تم اللہ سے محبت اس طرح کرو کہ سارے دل میں رنج جائے اور اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے متاکتاؤ اور قرآن سے اعراض نہ کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ (اعمال میں سے) جو کچھ پیدا کرتے ہیں اس میں سے بعض (اعمال) کو چن لیتے ہیں پسند کر لیتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام پسندیدہ عمل، پسندیدہ عبادت، نیک کلام اور لوگوں کو حلال و حرام والا جو دین دیا گیا ہے اس میں سے نیک عمل رکھا ہے، لہذا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اس سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم لوگ اپنے منہ سے جو نیک اور بھلی باتیں بولتے ہو

ان میں تم اللہ سے سچ کہو اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محنت کرو اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان سے جو عہد کیا جائے اسے توڑا جائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

### حضور ﷺ کا خطبہ جمعہ

حضرت سعید بن عبدالرحمن جمحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضور ﷺ نے مدینہ میں بنو سالم بن عوف کے محلہ میں جو سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا اس میں یہ خطبہ دیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس سے مدد مانگتا ہوں اس سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس سے ہدایت طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کا انکار نہیں کرتا بلکہ جو اس کا انکار کرتا ہے اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور (حضرت) محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں انہیں اللہ نے ہدایت، نور اور نصیحت دے کر وقت بھیجا جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور علم بہت کم ہو گیا تھا اور لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور زمانے میں خیر و برکت نہیں رہی تھی اور قیامت قریب آچکی تھی اور کا مقررہ وقت پورا ہونے والا تھا اب جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت والا ہوگا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ بچلا ہوا اور کوتاہی کا مرتکب ہوگا اور بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جن باتوں کی تاکید کرتا ہے ان میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اسے آخرت کی ترغیب دے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے، لہذا تم ان تمام کاموں سے بچو جن کے بارے میں تمہیں اللہ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں اس سے بہتر کوئی یاد دہانی نہیں۔ اپنے رب سے ڈر کر تقویٰ پر عمل کرنا ان تمام چیزوں کے حاصل ہونے کے لئے سچا مددگار ہے جنہیں تم آخرت میں چاہتے ہو اور جو محض اللہ کی رضا کی نیت سے لوگوں کے سامنے بھی اور ان سے چھپ کر بھی اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا تو یہ اس کے لئے دنیا میں ذکر خیر کا ذریعہ ہوگا اور موت کے بعد ذخیرہ آخرت ہوگا جب کہ آدمی کو آگے بھیجے ہوئے اپنے اعمال کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور جو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک نہیں کرے گا وہ تمنا کرے گا کاش میرے ارمیرے آگے بھیجے ہوئے برے اعمال میں بہت زیادہ

۱۔ اخبرجہ البیہقی و هذه الطريق مرسلۃ کذا فی البدایۃ (ج ۳ ص ۲۱۳) وقد اخرج ابن عساکر عن انس رضی اللہ عنہ اول خطبۃ خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ اخری مختصرا کما تقدم

مسافت ہوتی اور اللہ تمہیں اپنی ذات (کے غصہ اور سزا) سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ اپنی ہر بات کو سچ کر دکھاتے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں ان کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا يَسْتَدِلُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا اَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (سورت ق آیت ۲۹) ”میرے ہاں (وہ) بات (وعدیدہ کورکی) نہیں بدلی جاوے گی اور میں (اس تجویز میں) بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں“ لہذا دنیا و آخرت کے تمام معاملات میں خفیہ اور اعلانیہ طور سے اللہ سے ڈرو کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی تمام برائیوں کو مٹا دے گا اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا اسے بہت بڑی کامیابی ملے گی اور اللہ کا ڈر ہی اس کے غصہ، اس کی سزا اور ناراضگی سے بچاتا ہے اور اللہ کے ڈر سے ہی چہرے (قیامت کے دن) سفید ہوں گے اور رب عظیم راضی ہوں گے اور درجے بلند ہوں گے لہذا تم تقویٰ میں سے پورا حصہ لو اور اللہ کی جناب میں کوتاہی نہ کرو اللہ نے تمہیں اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا ہے اور اپنا راستہ تمہارے لئے واضح کیا تاکہ اللہ کو بچوں اور جھوٹوں کا پتہ چل جائے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اللہ کے دین کے لئے خوب محنت کرو جیسے کہ محنت کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ جسے گمراہ ہو کر برباد ہونا ہے وہ دلیل اور نشانی دیکھ کر پھر برباد ہو اور جسے ہدایت پا کر حقیقی زندگی حاصل کرنی ہے وہ دلیل اور نشانی دیکھ کر حاصل کرے اور نیکیاں کرنے کی طاقت صرف اللہ سے ہی ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور آج کے بعد والی زندگی یعنی آخرت کے لئے عمل کرو جو اپنے اور اللہ کے تعلق کو ٹھیک کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود ٹھیک کر دیں گے کیونکہ اللہ کا فیصلہ لوگوں پر چلتا ہے اور لوگوں کا فیصلہ اللہ پر نہیں چلتا۔ اللہ لوگوں کی ہر چیز کے مالک ہیں اور لوگ اللہ کے ہاں کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ عظیم سے ہی نیکی کرنے کی طاقت ملتی ہے۔

## غزوات میں حضور ﷺ کے بیانات

نبی کریم ﷺ کے صحابی حضرات جدار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے ساتھ ایک غزوے میں گئے۔ جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے لوگو! تم سبز، زرد اور سرخ رنگ کی مختلف نعمتوں والے ہو گئے ہو اور تمہارے گھروں اور قیام گاہوں میں بہت قسم کی نعمتیں ہیں۔ جب تم دشمن سے لڑو تو قدم قدم آگے بڑھو کیونکہ جب بھی

۱۔ اخیر جہ ابن جریر (ج ۲ ص ۱۱۵) قال فی البدایة (ج ۳ ص ۲۱۳) هكذا اور دیا ابن جریر و فی السند ارسال. انتهى وذكره ايضا القرطبي في تفسيره (ج ۱۸ ص ۹۸) بنحوه مطولا بلا اسناد

کوئی آدمی اللہ کے راستے میں دشمن پر حملہ کرتا ہے تو وہ حوریں اس کی طرف جھپٹتی ہیں اور جب وہ شہید ہوتا ہے تو خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور یہ دونوں حوریں اس کے منہ سے غبار کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں تمہارا وقت آ گیا ہے وہ ان سے کہتا ہے تم دونوں کا وقت بھی آ گیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ غزوہ تبوک کے سفر میں حجر مقام میں ٹھہرے وہاں آپ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور فرمایا اے لوگو! تم اپنے نبی سے معجزوں کا مطالبہ نہ کرو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی جگہ ہے۔ انھوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لئے (معجزے کے طور پر) ایک اونٹنی بھیجیں۔ حضرت صالح نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا، چنانچہ وہ اونٹنی اس وسیع اور کشادہ راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اپنی باری کے دن وہ ان کا سارا پانی پی جاتی تھی اور جتنا دودھ پانی کے ناندھ والے دن دیتی تھی اتنا ہی پانی کی باری والے دن بھی دیتی تھی۔ پھر اسی وسیع راستے سے واپس چلی جاتی تھی۔ پھر انھوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ نے انہیں تین دن کی مہلت دی اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر ان پر (ایک فرشتے کی) چیخ آئی اور اس قوم کے جتنے آدمی آسمان اور زمین کے درمیان تھے ان سب کو اللہ نے اس چیخ سے ہلاک کر دیا صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ کے حرم میں تھا۔ وہ اللہ کے حرم کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا ابورغال۔

حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں حضور ﷺ غزوہ تبوک کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا اے لوگو! میں تمہیں اسی بات کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں اور اسی چیز سے تمہیں روکتا ہوں جس سے اللہ تمہیں روکتے ہیں، لہذا روزی کی تلاش میں درمیانہ راستہ اختیار کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابوالقاسم کی جان ہے! تم میں سے ہر آدمی کو اس کی روزی ایسے ڈھونڈنی ہے جیسے اسے اس کی موت ڈھونڈنی ہے۔ اگر تمہیں روزی میں کچھ مشکل پیش آئے تو اللہ کی اطاعت والے اعمال (تلاوت دعا ذکر توبہ استغفار وغیرہ) کے ذریعہ آسانی طلب کرو۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب حضور ﷺ نے مکہ فتح کر لیا تو آپ نے فرمایا اب تم ہر ایک سے اپنے ہتھیار روک لو اور کسی پر ہتھیار نہ چلاؤ، البتہ قبیلہ خزاعہ والے قبیلہ بنو بکر پر ہتھیار

۱۔ اخرجہ الطبرانی والبیزار قال الہیثمی (ج ۵ ص ۲۷۵) وفيه العباس بن الفضل الانصاری و

هو ضعيف ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۳۸) رواہ الطبرانی فی

الاوسط والبیزار و احمد بنحوہ و رجال احمد رجال الصحيح۔ انتہی

۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الكبير كذا فی الترغيب (ج ۳ ص ۱۹۶)

اٹھا سکتے ہیں، چنانچہ آپؐ نے بنو خزاعہ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی لیکن جب عصر کی نماز پڑھ لی تو قبیلہ خزاعہ سے فرمایا اب تم بھی ہتھیار روک لو۔ اگلے دن مزدلفہ میں خزاعہ کے ایک آدمی کو بنو بکر کا ایک آدمی ملا۔ اس نے بنو بکر کا وہ آدمی قتل کر دیا۔ حضورؐ کو جب خبر ملی تو آپؐ بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضورؐ اپنی کمر سے بیت اللہ کے ساتھ سہارا لگائے کھڑے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کا سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جو حرم میں کسی کو قتل کرے یا اپنے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کرے یا زمانہ جاہلیت کے قتل کے بدلے میں قتل کرے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا بیشک فلاں آدمی میرا بیٹا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا اسلام میں (جائز) نہیں ہے۔ جاہلیت کی تمام باتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ اولاد عورت کے خاوند کی ہوگی (اگر وہ عورت باندی ہے تو اس کی اولاد باندی کے آقا کی ہوگی) اور زنا کرنے والے مرد کے لیے اٹلب ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا اٹلب کیا چیز ہے؟ آپؐ نے فرمایا پتھر (یعنی زنا کار کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا) اور فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہئے اور ایسے نو کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ کسی عورت کی خالہ یا پھوپھی نکاح میں ہو تو اب اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی تمام لشکروں کو شکست دی۔ غور سے سنو! خطا، مقتول وہ ہوگا جو کہڑے یا لاشی سے قتل ہوا ہو اس کا خون بہا سوا اونٹ ہیں جن میں چالیس گاہن اونٹنیاں بھی ہوں۔ توجہ سے سنو! جاہلیت کی ہر فخر کی چیز اور جاہلیت کے زمانہ کا ہر خون میرے ان دو قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے، البتہ بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کا کام جاہلیت میں جن کے پاس تھا میں نے اب بھی انہیں کے پاس باقی رہنے دیا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فتح مکہ کے دن اپنی قصواء اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپؐ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس کا سرا مڑا ہوا تھا۔ آپؐ اس سے بیت اللہ کے کونوں کا بوسہ لے رہے تھے۔ مسجد حرام میں اونٹنی کے لیے بیٹھنے کی جگہ آپؐ کو نہ ملی، اس لیے آپؐ اونٹنی سے اترے تو لوگوں نے آپؐ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا پھر آپؐ اونٹنی کو پانی بہنے کی جگہ کے درمیان لے گئے اور اسے وہاں بٹھا دیا پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے لوگو! جاہلیت کے زمانے میں لوگ کبر و نخوت میں مبتلا تھے اور اپنے آباء

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۶ ص ۱۷۸) رجاله ثقات وفي الصحيح منه النهی عن الصلاة

۲۔ اخرجه ابن ماجه

بعد الصبح وفي السنن بعضه انتھی

واجداد کے کارناموں کی بنا پر خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ اب اللہ نے یہ تمام باتیں ختم کر دی ہیں۔ لوگ دو طرح کے ہیں ایک نیک متقی اور پرہیزگار جو کہ اللہ کے ہاں عزت و شرافت والے ہوتے ہیں دوسرے بدکار بد بخت جن کی اللہ کے ہاں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **بَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** (سورت حجرات آیت ۱۳) ترجمہ ”اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو اللہ خوب جاننے والا پورا خبردار ہے“ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔!

## رمضان کی آمد پر حضور ﷺ کے بیانات

حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں میں بیان فرمایا کہ اے لوگو! تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے جو بہت بڑا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات (شب قدر) ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام (یعنی تراویح) کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ عم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روز افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا مگر اس روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے تو آپ نے فرمایا کہ (پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں) یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کجھور سے کوئی افطار کرادے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرمادیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام (و خادم) کے بوجھ کو ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں چار چیزوں کی کثرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزوں سے تم اللہ کو



راضی کر لو گے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ وہ دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ شہادت اور استغفار کی کثرت ہے اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں جب ماہ رمضان قریب آ گیا تو حضور ﷺ نے مغرب کے وقت مختصر بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا رمضان تمہارے سامنے آ گیا ہے اور تم اس کا استقبال کرنے والے ہو۔ غور سے سنو! رمضان کی پہلی رات میں ہی اہل قبلہ (مسلمانوں) میں سے ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوئی تو حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن جنات (شیاطین) سے خود ہی نمٹ لیا ہے (کیونکہ انہیں قید کر دیا ہے) اور تم سے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور فرمایا ہے ادعونی استجب لکم 'مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا' توجہ سے سنو! اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش شیطان پر سات فرشتے مقرر فرمادئے ہیں اور وہ رمضان ختم ہونے تک چھوٹ نہیں سکتا۔ غور سے سنو! رمضان کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک آسمان کے تمام دروازے کھلے رہیں گے اور اس مہینہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آخری عشرہ کی پہلی ہوتی تو حضورؐ لنگی کس لیتے اور عورتوں کے بیچ میں سے نکل جاتے اور اعتکاف فرماتے اور رات بھر عبادت فرماتے۔ کسی نے پوچھا لنگی کسے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علیؓ نے فرمایا ان دنوں میں عورتوں سے جدا رہتے۔

## نماز جمعہ کی تاکید کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہم میں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ مشغول ہونے سے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی لگ جاؤ تمہارا اللہ سے جو تعلق ہے اس کو اللہ کے زیادہ ذکر کرنے سے اور چھپ کر اور برملا خوب صدقہ دینے سے جوڑے

۱۔ اخرجہ ابن خزيمة قال المنذرى فى الترغيب (ج ۲ ص ۲۱۸) رواه ابن خزيمة فى صحيحه ثم قال صح الحجر ورواه من طريق البهيقي ورواه ابو الشيخ ابن حبان فى النواب باختصار عنهما. انتهى و اخرجہ ايضا ابن النجار بطوله كما فى الكنز (ج ۲ ص ۳۲۳)

۲۔ اخرجہ ابن النجار كذا فى الكنز (ج ۲ ص ۳۲۵)

۳۔ اخرجہ الاصبهاني فى الترغيب كذا فى الكنز (ج ۲ ص ۳۲۳)

رکھو اس طرح تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی میرے اس مہینہ کے اس دن میں اس سال سے قیامت تک جمعہ کی نماز کو تم پر فرض کر دیا ہے، لہذا جس کا کوئی عادل یا ظالم امام ہو اور وہ میری زندگی میں یا میرے بعد جمعہ کو ہلکا سمجھ کر یا اس کا انکار کر کے اسے چھوڑ دے، اللہ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع نہ فرمائے اور اس کے حالات ٹھیک نہ کرے اور اس کے کسی کام میں برکت نہ فرمائے اور غور سے سنو! اور جب تک وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ روزہ اور نہ کوئی اور نیکی۔ جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ توجہ سے سنو! کوئی عورت ہرگز کسی مرد کی امامت نہ کرے اور نہ کوئی بدوی کسی مہاجر کا امام بنے اور نہ کوئی فاجر بدکار کسی مومن کا امام بنے۔ ہاں اگر وہ فاجر طاقت سے اسے دبا کر مجبور کر دے اور اسے اس کی تلوار اور کوڑے کا ڈر ہو۔ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا جو آدمی مدینہ سے ایک میل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آجاتا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ پھر دوسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا جو آدمی مدینہ سے دو میل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آجاتا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ پھر تیسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا جو آدمی مدینہ سے تین میل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آجاتا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ۲

## حج میں حضور ﷺ کے بیانات و خطبات

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا شیطان اس بات سے تو ناامید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے (یعنی بتوں کی پرستش ہونے لگے) لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ دوسرے ایسے گناہوں میں اس کی مانی جائے جن کو تم لوگ چھوٹا سمجھتے ہو (چونکہ کافر تو کفر و شرک کے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں اس لیے شیطان انہیں چھوٹے گناہوں میں لگانے پر زور نہیں لگاتا اور مسلمان چونکہ بڑے گناہ سے بچے ہوئے ہیں اس وجہ سے شیطان انہیں کفر و شرک سے کم درجہ کے گناہ قتل، جھوٹ، خیانت وغیرہ میں لگانے پر سارا زور لگاتا ہے) لہذا چوکنے ہو جاؤ اے لوگو! میں تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی ﷺ کی سنت۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کسی آدمی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے مال کو اس کی رضا مندی کے بغیر لینا حلال نہیں اور ظلم نہ کرنا اور میرے بعد کافر نہ بن جانا (یا ناشکرے نہ بن جانا) کہ تم ایک دوسرے کی

۱۔ اخرجه ابن ماجه (ص ۱۷۲) قال المنذرى فى الترغيب (ج ۲ ص ۳۱) ورواه الطبرانى فى الا

۲۔ رواه ابو يعلى باسنادين

وسط من حديث ابى سعيد الخدرى اخبر منه

گردن اڑانے لگ جاؤ۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں مسجد خیف میں (جو کہ منیٰ میں ہے) بیان فرمایا اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنائیاں کی پھر فرمایا جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور اسے مقصد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دے گا اور غنا کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی اور جو دنیا کو مقصد بنا کر اس کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جمع شدہ کاموں کو بکھیر دے گا اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا اور دنیا تو اسے اتنی ہی ملے گی جو مقدر میں ہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے منیٰ کی مسجد خیف میں ہم لوگوں میں بیان فرمایا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو تروتازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور کوشش کر کے وہ بات اپنے بھائی سے بیان کی۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی مسلمان کا دل کمی اور خیانت نہیں کرے گا ایک عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا اور دوسرے حاکم اور امراء کی خیر خواہی کرنا تیسرے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا کیونکہ مسلمانوں کی دعا ان کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے (اور شیطان کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت کرتی ہے)۔

حضرت جابرؓ نے حضور ﷺ کے حج کے بارے میں ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضور منیٰ سے چلے اور مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات پہنچ گئے وہاں جا کر آپؐ نے دیکھا کہ آپؐ کا خیمہ وادی نمرہ میں لگا ہوا ہے۔ آپؐ اس میں ٹھہر گئے جب زوال کا وقت ہو گیا تو آپؐ نے حکم فرمایا تو قصواء اونٹنی پر کجاوہ رکھا گیا پھر آپؐ وادی کے درمیانی حصہ میں تشریف لے گئے اور لوگوں میں مشہور خطبہ بیان فرمایا جس میں آپؐ نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر ایسے قابل احترام ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر قابل احترام ہے۔ غور سے سنو! جاہلیت کا ہر غلط کام اور طور طریقہ میرے ان دو قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے یعنی اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ جاہلیت کے تمام خون بھی آج سے ختم ہیں اور میں اپنے خونوں میں سے سب سے پہلے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ختم کراتا ہوں جو کہ بنو سعد کے ہاں دودھ پی رہا تھا اور قبیلہ ہذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کے سود بھی ختم کر دیئے گئے ہیں اور میں اپنے سودوں میں سے سب

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۱ ص ۹۳) قال الحاکم (ج ۱ ص ۹۳) قد احتج البخاری باحدیث عکرمة واحتج مسلم بابی اویس وسانر رواہ متفق علیہم وهذا الحدیث لخطبة النبی ﷺ متفق علی اخرجہ فی الصحیح بایہا لناس انی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ وانتم مسولون عنی فما انتم قائلون و ذکر الا اعتصام بالسنة فی هذه الخطبة غریب و یحتاج الیہا انتہی ووافقہ الذہبی

۲۔ اخرجہ الطبرانی و ابو بکر الخفاف فی معجمہ و ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۳) ۳۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۸)

سے پہلے حضرت عباس بن عبدالمطلب کا سو دعاف کراتا ہوں اب یہ سارا معاف کر دیا ہے اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے اللہ کی امانت سے ان کو لیا ہے (تم ان کے مالک نہیں بلکہ امین ہو) اور اللہ کے مقرر کردہ طریقہ نکاح کے ذریعہ تمہارے لیے وہ عورتیں حلال ہوئیں ہیں تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا آنا تمہیں پسند نہ ہو تو اسے وہ تمہارے گھر میں نہ آنے دیں اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار لو لیکن یہ مار سخت نہ ہو اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ دستور کے مطابق انہیں اور کپڑا دو اور تم میں سے ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپؐ نے (اللہ کا دین سارا) پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی کی اور خدا کی امانت پہنچا دی۔ پھر آپؐ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف نیچے جھکائی اور فرمایا اے اللہ! تو گواہ ہو جا، اے اللہ! تو گواہ ہو جا اور تین دفعہ ایسے فرمایا۔!

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نحر کے دن یعنی دس ذی الحجہ کو حضور ﷺ نے لوگوں میں بیان فرمایا ارشاد فرمایا اے لوگو! یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قابل احترام دن ہے۔ آپؐ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قابل احترام شہر ہے۔ آپؐ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن، تمہارا یہ شہر اور تمہارا یہ مہینہ قابل احترام ہے اور اس بات کو کئی مرتبہ فرمایا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ! میں نے پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ! میں نے پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کے بعد حضورؐ نے اپنی امت کو زبردست وصیت فرمائی کہ حاضرین (میرا سارا دین تمام) غائب انسانوں تک پہنچائیں۔ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ ۲

حضرت جریر فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا لوگوں کو چپ کر دو پھر آپؐ نے فرمایا اب تو میں تمہارے حالات اچھے دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے بعد میرے علم میں یہ بات نہ آئے کہ تم لوگ کافر بن کر ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگے ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضورؐ نے حجۃ الوداع میں فرمایا اے جریر! لوگوں کو چپ کر دو پھر کچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۳

حضرت ام الحصین فرماتی ہیں میں نے حضور ﷺ کے ہمراہ حجۃ الوداع کیا۔ میں نے دیکھا

۱۔ اخرجہ مسلم کذا فی البدایۃ (ج ۵ ص ۱۲۸) واخرجہ ایضا ابوداؤد وابن ماجہ کما فی الکنز (ج ۳ ص ۲۳)  
 ۲۔ اخرجہ البخاری کذا فی البدایۃ (ج ۵ ص ۱۹۳) واخرجہ ایضا احمد و ابن ابی شیبہ عن ابن ماجہ عن ابن عمر والطبرانی عن عمار و احمد و البغوی عن ابی غاویۃ کما فی الکنز (ج ۳ ص ۲۵)  
 ۳۔ اخرجہ احمد کما فی البدایۃ (ج ۵ ص ۱۹۷)



کہ حضرت اسامہ اور حضرت بلالؓ میں سے ایک نے حضورؐ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ رکھی ہے اور دوسرا حضورؐ کو گرمی سے بچانے کے لیے آپؐ پر اپنے کپڑے سے سایہ کھینے ہوئے ہے یہاں تک کہ حضورؐ نے جمرۃ العقبہ (بڑے شیطان) کو کنکریاں ماریں پھر حضورؐ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں پھر میں نے آپؐ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم پر ناک کان کٹنا ہو غلام امیر بنا دیا جائے جو کالا ہو لیکن وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی ہر بات سنو اور مانو۔

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے سال میں نے حضورؐ کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے لہذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی اور بچہ بستر کے مالک کا ہوگا اور زانی کو پتھر ملے گا اور سب کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے بیٹے ہونے کی نسبت کی یا جس غلام نے اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے غلام ہونے کی نسبت کی اس پر قیامت کے دن تک مسلسل اللہ کی لعنت ہوگی۔ کوئی عورت اپنے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! کھانا بھی نہیں دے سکتی۔ آپؐ نے فرمایا کھانا تو ہمارے گھر کی چیزوں میں سے سب سے افضل چیز ہے پھر آپؐ نے فرمایا عاریہ مانگی ہوئی چیز واپس دینی ہوگی اور جو جانور دودھ پینے کے لیے کسی کو دیا تھا وہ واپس کرنا ہوگا۔ قرض ادا کرنا ہوگا اور کفیل تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ ۲۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہؓ نے فرمایا کہ میں نے منیٰ میں حضورؐ کا بیان سنا۔

حضرت ابو امامہؓ فرماتے ہیں حضورؐ جدعاء نامی اونٹنی پر سوار تھے اور اس کی رکاب میں پاؤں رکھ کر آپؐ بلند ہو رہے تھے تاکہ لوگ آپؐ کی آواز سن لیں۔ میں نے سنا کہ آپؐ نے اونٹنی کی آواز میں فرمایا کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ تو مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا آپؐ ہمیں کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو اور پانچ نمازیں پڑھو اور ایک ماہ کے روزے رکھو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ۳۔

حضرت عبدالرحمن بن معاذؓ فرماتے ہیں ہم لوگ منیٰ میں تھے وہاں ہم میں حضورؐ نے بیان فرمایا اللہ نے ہمارے سننے کی طاقت بہت بڑھادی، یہاں تک کہ ہم میں سے جو لوگ اپنی قیام گاہوں میں تھے وہ بھی حضورؐ کا بیان سن رہے تھے۔ چنانچہ حضورؐ انہیں حج کے احکام سکھانے

۱۔ اخرجہ مسلم کذا فی البدایہ (ج ۵ ص ۱۹۶) واخرجہ النسائی ایضا بنحوہ کما فی الكنز (ج ۳ ص ۲۴) وابن سعد (ج ۲ ص ۱۸۳) بنحوہ

۲۔ اخرجہ احمد ورواہ اهل السنن الاربعة وقال الترمذی حسن

۳۔ عند احمد ایضا واخرجہ الترمذی وقال حسن صحیح کذا فی البدایہ (ج ۵ ص ۱۹۸)

لگے۔ جب آپ حمرے کے پاس پہنچے تو آپ نے دونوں کانوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اونچی آواز سے فرمایا چھوٹی کنکریاں مارو۔ پھر آپ نے حکم دیا تو مہاجرین مسجد (خیف) کے سامنے اور انصار مسجد کے پیچھے ٹھہرے۔ پھر باقی عام لوگ اپنی اپنی جگہوں میں ٹھہرے۔ حضرت رافع بن عمرو مزنی فرماتے ہیں جب سورج بلند ہو گیا تو میں نے حضور ﷺ کو منیٰ میں خاکستری رنگ کے ٹیچر پر لوگوں میں بیان کرتے ہوئے سنا اور حضرت علیؓ کی بات لوگوں کو آگے پہنچا رہے تھے اور لوگ کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے۔

حضرت ابو حرہ رقاشیؓ اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں حضور ﷺ کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھا اور لوگوں کو آپ سے ہٹا رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کون سا دن ہے؟ اور کون سا شہر ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا دن بھی قابل احترام ہے اور مہینہ بھی قابل احترام ہے اور شہر بھی۔ آپ نے فرمایا بیشک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے اور یہ حکم اللہ سے ملاقات تک کے لیے ہے یعنی زندگی بھر کے لیے ہے پھر آپ نے فرمایا میری بات سنو تو زندہ رہو گے۔ خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ خبردار ظلم نہ کرنا۔ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ غور سے سنو! زمانہ جاہلیت کا ہر خون، ہر مال اور ہر قابل فخر کام میرے اس قدم کے نیچے قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے یعنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلے ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کا خون ختم کیا جاتا ہے جو بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا اور قبیلہ بن ذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ غور سے سنو! زمانہ جاہلیت کا ہر سود ختم کیا جائے۔ تمہیں تمہارا اصل سرمایہ مل جائے گا۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ غور سے سنو! جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا اس دن والی حالت پر زمانہ گھوم کر پھر آ گیا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انْ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْقِيَامِ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (سورت توبہ آیت ۳۶) ”یقیناً شمار مہینوں کا (جو کہ کتاب الہی میں) اللہ کے نزدیک (معتبر ہیں) بارہ مہینے (قمری) ہیں جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے تھے (اسی روز سے اور) ان میں چار خاص مہینے ادب کے ہیں یہی (امر مذکور) دین مستقیم ہے سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں (دین کے خلاف کر کے) اپنا نقصان مت کرنا۔“ توجہ سے سنو! میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ غور

۱۔ اخرجه ابو داؤد واخرجه ابن سعد (ج ۲ ص ۱۸۵) واحمد والنسائي كذلك

۲۔ عند ابی داؤد ايضا كذا في البداية (ج ۵ ص ۱۰۸)

سے سنو! شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ یعنی مسلمان اس کی عبادت کریں، البتہ وہ تمہیں آپس میں لڑانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں کیونکہ انہیں اپنی ذات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں اور تمہارے بھی ان کے اوپر حق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو تمہارے بستر پر آنے نہ دیں اور جس کا آنا تمہیں برا لگے اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو تو انہیں سمجھاؤ وعظ و نصیحت کرو اور بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو اور انہیں اس طرح مارو کہ زیادہ تکلیف نہ ہو اور دستور کے مطابق کھانا کپڑا ان کا حق ہے اللہ کی امانت سے تم نے انہیں لیا ہے یعنی تم ان کے امین ہو مالک نہیں اور اللہ کے مقرر کردہ طریقہ سے یعنی نکاح کے ایجاب و قبول سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ غور سے سنو! جس کے پاس کوئی امانت ہے تو وہ اسے اس آدمی کو واپس کر دے جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی۔ پھر آپ نے ہاتھ پھیلا کر فرمایا غور سے سنو! میں نے (اللہ کا سارا دین) پہنچا دیا ہے۔ غور سے سنو! میں نے پہنچا دیا ہے۔ غور سے سنو! میں نے پہنچا دیا ہے اور حاضرین اب غیر حاضر لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ بعض دفعہ جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ نیک بخت ہوتا ہے۔ حضرت حمید کہتے ہیں حضرت حسن بصریؒ جب حدیث کے اس مضمون پر پہنچے تو فرمایا اللہ کی قسم! صحابہ کرامؓ نے دین ایسے لوگوں کو پہنچایا جو دین کی وجہ سے بہت زیادہ نیک بخت ہو گئے۔

بزار میں حضرت ابن عمرؓ سے اسی کے ہم معنی حدیث منقول ہے۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے حجۃ الوداع کے سفر ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں منی میں حضور ﷺ پر یہ سورت نازل ہوئی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (سورت نصر) ”(اے محمد ﷺ جب خدا کی مدد اور (ملکہ کی فتح) مع اپنے آثار کے) آ پہنچے“ اس سورت سے آپ سمجھ گئے کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ کے فرمانے پر آپ کی قصواء اوثنی پر کجاوہ رکھا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر گھاٹی پر آ کر لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے جس پر بے شمار مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا انا بعد! اے لوگو! جاہلیت کا ہر خون ختم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے اے لوگو! شیطان اس بات سے تو ناامید ہو گیا ہے کہ تمہارے علاقے میں آخری وقت تک اس کی عبادت کی جائے لیکن وہ تم سے اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تم چھوٹے موٹے گناہ کرو، اس لیے تم شیطان سے چوکنے ہو کر رہو، اپنے دین پر کپے رہو اور چھوٹے موٹے گناہ کر کے اسے خوش نہ کرو اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اے لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے

پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لہذا تم اس پر عمل کرو اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ توجہ سے سنو! تمہارے حاضرین غائبین تک پہنچائیں میں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ! گواہ ہو جا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں الوداعی بیان فرمایا ارشاد فرمایا اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ غور سے سنو! کسی عربی کو نجی پر اور کسی عجمی کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی سرخ انسان کو کالے پر اور کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان پر صرف تقویٰ سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ توجہ سے سنو! کیا میں نے (اللہ کا دین سارا) پہنچا دیا ہے؟ صحابہؓ نے کہا بالکل یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا اب حاضرین غائبین تک پہنچائیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور ﷺ عرفات میں اپنی کان کٹی ہوئی اونٹنی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہؓ نے کہا یہ قابل احترام شہر اور قابل احترام مہینہ اور قابل احترام دن ہے۔ آپ نے فرمایا غور سے سنو! تمہارے مال اور تمہارے خون تمہارے لئے اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر اور تمہارا یہ دن قابل احترام ہے۔ میں تمہاری ضرورتوں کے لئے تم سے پہلے آگے جا رہا ہوں اور حوض (کوثر) پر تمہیں ملوں گا اور میں تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کر رہا ہوں گا لہذا (برے اعمال کر کے کل قیامت کے دن) میرا منہ کالا نہ کرنا۔ غور سے سنو! (کل قیامت کے دن) میں بہت سے لوگوں کو (شفاعت کر کے دوزخ سے) چھڑا لوں گا لیکن کچھ لوگوں کو مجھ سے چھڑا لیا جائے گا (فرشتے چھڑا کر دور لے جائیں گے) میں کہوں گا اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں معلوم نہیں انہوں نے تمہارے بعد کیا کر توت کینے تھے (اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور ﷺ کے زمانہ میں مسلمان تھے لیکن حضور کی وفات پر مرتد ہو گئے)۔

۱۔ قد ذکر حدیث ابن عمر هذا بطوله في الهداية (ج ۵ ص ۲۰۲) واخرج حدیث ابی حرة الرقاشی عن عمه البغوی والباوردی وابن مردويه ايضا بطوله كما في الكنز (ج ۳ ص ۲۶)  
 ۲۔ اخرجہ البیہقی قال البیہقی فی اسنادہ بعض من یجهل کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۳۹۲)  
 ۳۔ اخرجہ ابن ماجة (ص ۵۲۵) قال ابن ماجة هذا الحدیث غریب واخرجہ احمد ايضا نحوه كما فی الكنز (ج ۳ ص ۲۵)



## دجال، مسلمہ کذاب، یا جوج ماجوج اور زمین میں

### دھنسائے جانے کے بارے میں حضور ﷺ کے بیانات

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں (حج سے پہلے) باتیں تو کرتے تھے (کہ ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ حج کریں گے وغیرہ) لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور (اپنی امت کو) الوداع فرمانے کے لیے یہ حج کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی سفر حجۃ الوداع میں حضور نے ایک بیان میں مسیح دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے سارے نبیوں نے اس سے ڈرایا ہے لیکن اس کی ایک بات ابھی تک بہت لوگوں سے مخفی ہے اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے (کہ وہ کانا ہوگا) اور تمہارا رب تبارک و تعالیٰ کانا نہیں ہے۔

حضرت سفینہؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس کی بائیں آنکھ کافی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشہ میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر چڑھا ہوا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ دو وادیاں بھی ہوں گی۔ ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ۔ لیکن اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہم السلام میں سے دونیوں کے مشابہ ہوں گے ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا بائیں طرف اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی دجال کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ میں مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں؟ اس پر ایک فرشتہ کہے گا تو غلط کہتا اس جملہ کو اسکا ساتھی فرشتہ سن سکے گا اور کوئی نہیں سنے گا۔ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتہ کو جواب میں کہے گا تم نے ٹھیک کہا اس جملہ کو تمام لوگ سن لیں گے۔ اس سے لوگ یہ نتیجہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی۔ پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا لیکن اسے مدینہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا یہ تو اس عظیم ہستی (یعنی حضرت محمد ﷺ کی ہستی ہے۔ پھر وہ وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا اور اقیق مقام کی گھائی کے پاس اللہ سے ہلاک کریں گے۔

۱۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۷ ص ۳۳۸) رجاله رجال الصحیح وفي الصحیح بعضه انتھی  
 ۲۔ اخرجه احمد والطبرانی واللفظ له قال الهیثمی (ج ۷ ص ۳۳۰) رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا یضر. انتھی.

حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدیؓ کہتے ہیں میں اور ایک انصاری ہم دونوں نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے حضور سے سنی ہو اور اس میں حضور نے دجال کا ذکر کیا ہو۔ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ حضور نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ تین دفعہ فرمایا، پھر فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اے امت والو! وہ تم میں ہوگا وہ گھنگریالے بالوں والا اور گندمی رنگ والا ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھرا ہوا ہوگا اور وہ مٹی ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور اس کے ساتھ رونی کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی وہ بارش برسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا اور وہ ایک آدمی پر غالب آکر اسے قتل کر دے گا اس کے علاوہ اور کسی کو قتل نہیں کر سکے گا وہ زمین پر چالیس دن رہے گا اور پانی کے ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ چار مسجدوں کے قریب نہیں جاسکے گا مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور، مسجد اقصیٰ اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہئے وہ (کانا ہوگا) اور تمہارا رب کانائیں ہے۔

حضرت ابو امامہ باہلیؓ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی اور جب دجال کا ذکر شروع کیا تو پھر آخر تک اسی کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔ اس دن آپ نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو اور وہ یقیناً تم میں ہی ظاہر ہوگا۔ اگر میں تم میں موجود ہوا اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کر لوں گا اور اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستہ میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں لشکر بھیج کر فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو! جسے رہنا کیونکہ پہلے تو وہ کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہے گا۔ میں تمہارا رب ہوں حالانکہ میرے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کو دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا، لہذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورت کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا لیکن اس کے بعد کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی لہذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا ہو، اسے چاہئے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے اور اللہ سے مدد مانگے تو دوزخ کی آگ اس کے لیے ایسے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے

گی جیسے حضرت ابراہیمؑ کے لیے ہوگئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے گا وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے تو وہ ان کے لیے دعا کرے گا تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی اور اسی دن ان کی ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اس دن شام کو ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے تو وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے اور ان کے پیٹ خوب بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کے تھنوں سے خوب دودھ بہ رہا ہوگا اور دوسرے قبیلہ کے پاس سے گزرے گا وہ اس کا انکار کر دیں گے اور اسے جھٹلائیں گے تو وہ ان کے خلاف بددعا کرے گا جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں وہ کل چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینہ کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا اور ایک دن عام دنوں جیسا ہوگا۔ اور اس کا آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا، اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینہ کے ایک دروازے پر ہوگا اور دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان چھوٹے دنوں میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نمازیں پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو! میں نے تم لوگوں کو آسمان سے آنے والی (نئی) خبر کی وجہ سے جمع نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے جاسہ کا ذکر کیا یعنی دجال کے لیے جاسوسی کرنے والی چیز کا اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ صبح ہے۔ چالیس دن میں اس کے لیے ساری زمین لپیٹ دی جائے گی لیکن وہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور نے فرمایا طیبہ سے مراد مدینہ ہے۔ اس کے ہر دروازے پر تلوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ ہوگا جو دجال کو اس میں جانے سے روکے گا اور مکہ میں بھی اسی طرح ہوگا۔

بصرہ والوں میں سے حضرت ثعلبہ بن عباد عبدیؓ کہتے ہیں میں ایک دن حضرت سمرہ بن جندبؓ کے بیان میں شریک ہوا انہوں نے اپنے بیان میں حضور ﷺ کی طرف سے ایک حدیث بیان کی اور سورج گرہن والی حدیث بھی ذکر کی اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب حضور دوسری رکعت میں بیٹھ گئے تو اس وقت سورج صاف ہوا اور اس کا گرہن ختم ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر فرمایا اے

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۳۶) قال الحاکم هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخر  
 جاہ بہذہ السباقة ووافقه الذہبی ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۷ ص ۳۳۶) رواہ ابو  
 یعلیٰ باسنادین رجال احد ہما رجال الصحیح۔ انتہی

لوگو! میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچانے میں کوئی کمی کی ہے تو مجھے ضرور بتاؤ۔ اس پر بہت سے آدمیوں نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے تمام پیغام پہنچا دیئے ہیں اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی ہے اور جو کام آپ کے ذمہ تھا وہ پورا کر دیا ہے پھر آپ نے فرمایا اما بعد! بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چاند سورج کا گرہن ہونا اور ستاروں کا اپنے نکلنے کی جگہ سے ہٹ جانا زمین کے کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ گرہن تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس نشانی کو دیکھ کر کفر اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور میں نے جتنے وقت میں کھڑے ہو کر نماز گرہن پڑھائی ہے اس میں میں نے دنیا اور آخرت میں تمہیں جو کچھ پیش آئے گا وہ سب دیکھ لیا ہے اللہ کی قسم! قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تمیں جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں گے جن کی آخری کانا دجال ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی بالکل ایسی آنکھ ہوگی جیسی ابوحنیفہ کی آنکھ۔ حضرت ابوحنیفہ انصار کے ایک بڑے میاں تھے جو اس وقت حضور کے اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا جب وہ ظاہر ہوگا تو دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے جو اس پر ایمان لائے گا، اس کی تصدیق کرے گا اور اس کا اتباع کرے گا اسے اس کا گزشتہ کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا اور جو اس کا انکار کرے گا اور اس کو جھٹلائے گا اس کو اس کے کسی عمل پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی اور حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی ساری زمین پر ہر جگہ جائے گا اور مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے پھر ان پر زبردست زلزلہ آئے گا پھر اللہ تعالیٰ دجال کو ہلاک کریں گے یہاں تک کہ دیوار اور درخت کی جڑ آواز دے گی اے مومن! اے مسلم! یہ یہودی ہے یہ کافر ہے آسے قتل کر اور ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایسی چیزیں نہ دیکھ لو جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہوں گی اور جن کے بارے میں تم ایک دوسرے سے پوچھو گے کہ کیا تمہارے نبی نے اس چیز کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے؟ اور (ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا) جب تک کہ کچھ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں پھر اس کے فوراً بعد عام موت ہوگی یعنی قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے حضرت سمرہ کا ایک اور بیان سنا اس میں انہوں نے یہی حدیث ذکر کی اور ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ احمد اور بزار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے جو زندہ ہے اسے موت نہیں آسکتی اس پر (دجال کے) عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور جو (دجال

سے) کہے گا تو میرا رب ہے وہ فتنہ میں مبتلا ہو گیا۔

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی لوگوں نے مسیلمہ کے بارے میں بہت باتیں کیں پھر حضور بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا اما بعد! اس آدمی کے بارے میں تم لوگ بہت باتیں کر چکے ہو یہ پکا جھوٹا اور ان تیس جھوٹوں میں سے ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور ہر شہر میں مسیح (دجال) کا رعب پہنچ جائے گا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ لیکن مدینہ میں دجال مسیح کا رعب داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے ہر راستہ پر دو فرشتے ہوں گے دجال مسیح کے رعب کو مدینہ سے رو کرے ہوں گے۔

حضرت خالد بن عبداللہ بن حرمہؓ اپنی خالہ سے نقل کرتے ہیں ان کی خالہ فرماتی ہیں حضور ﷺ نے بچھو کے ڈسنے کی وجہ سے سر پر پنی باندھ رکھی تھی اسی حالت میں آپ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا تم لوگ کہتے ہو اب کوئی دشمن باقی نہیں بچا لیکن تم لوگ دشمنوں سے جنگ کرتے رہو گے یہاں تک کہ یا جوج ماجوج ظاہر ہوں گے جن کے چہرے چھٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سفید مائل بسرخی ہوں گے۔ وہ ہراونچی جگہ سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے وہ ڈھال جس پر کھال چڑھائی گئی ہو۔

حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت بقیرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں عورتوں کے صفہ (چبوترہ) میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے حضور کو بیان فرماتے ہوئے سنا۔ آپ بائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے اے لوگو! جب تم سنو کہ اس طرف یعنی مغرب کی طرف کچھ لوگ زمین میں دھنس گئے ہیں تو سمجھ لو کہ قیامت آگئی ہے۔

## غیبت کی برائی میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت براءؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ایسی اونچی آواز سے بیان فرمایا کہ گھروں میں پردے میں بیٹھی ہوئی جوان لڑکیوں نے بھی سن لیا۔ آپ نے فرمایا اے وہ لوگو! جو زبان سے ایمان لائے ہیں اور ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے چھپے عیوب تلاش نہ کیا کرو کیونکہ جو اپنے بھائی کے پوشیدہ عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا اور اللہ جس کے پوشیدہ عیب تلاش کرنے لگے گا اسے اس کے گھر کے بیچ

۱۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۳۲۲) احد اسانید احمد والطبرانی ورجالہ

رجال الصحیح. انتہی ۲۔ اخرجہ الحاکم (ج ۴ ص ۵۲۱)

۳۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۶) رجالہما رجال الصحیح. انتہی

۴۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۹) ولیہ ابن اسحق وهو مدلس وبقیۃ رجال

احد اسنادی احمد رجال الصحیح. انتہی

میں بھی رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اطہرانی میں حضرت ابن عباسؓ سے اسی جیسی روایت منقول ہے لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان کی چھپی ہوئی خرابیاں تلاش نہ کرو کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی خرابی تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا پردہ پھاڑ دیں گے اور اسے رسوا کر دیں گے۔ ۲

## امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

### کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور نے کسی سے کوئی بات نہ فرمائی بلکہ وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے اور میں حجرہ کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور منبر پر بیٹھ گئے اور حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو مبادا وہ وقت آجائے کہ تم دعا کرو اور میں قبول نہ کروں اور تم سوال کرو اور میں اسے پورا نہ کروں تم اپنے دشمنوں کے خلاف مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بس اتنا ہی بیان فرمایا اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ ۳

### برے اخلاق سے بچانے کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن یہ ظلم بہت سے اندھیرے ہوں گے اور بدکلامی اور جھکلف بدکلامی سے بچو اور لالچ سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ لالچ میں آکر بدکاری کے مرتکب ہوئے۔ پھر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! اسلام کا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اسی آدمی نے یا دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ! ہجرت کی کون سی صورت سب سے افضل ہے؟ فرمایا یہ کہ تم ان کاموں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہیں۔ ہجرت دو طرح کی ہے ایک شہر والوں کی ہجرت اور ایک دیہات والوں کی ہجرت۔ دیہات والوں کی ہجرت یہ ہے کہ (رہے تو اپنے دیہات میں

۱۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۸ ص ۹۳) رجالہ ثقات ۲۔ قال الہیثمی (ج ۸ ص

۹۳) رجالہ ثقات و اخرجہ البیہقی عن البراء نحوہ کما فی الكنز (ج ۸ ص ۳۰۰)

۳۔ اخرجہ ابن ماجہ و ابن حبان کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۲) و اخرجہ احمد و البزار بنحوہ

کما فی المجمع (ج ۷ ص ۲۶۶)

لیکن) جب اسے (تقاضے کے لیے) بلایا جائے تو فوراً ہاں کہے اور جب اسے حکم دیا جائے تو اسے فوراً پورا کرے۔ شہر والوں کی ہجرت میں آزمائش بھی زیادہ ہے اور اجر بھی زیادہ (کیونکہ اپنا وطن ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مدینہ آ کر رہے گا اور دعوت کے تقاضوں میں ہر وقت چلے گا)۔ اطہرانی میں حضرت ہر ماس بن زیادؓ سے یہی حدیث مختصر طور سے منقول ہے لیکن اس کے شروع میں یہ ہے کہ خیانت سے بچو کیونکہ یہ بہت بری اندرونی صفت ہے۔

## کبیرہ گناہوں سے بچانے کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت ایمن بن خرمؓ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! جھوٹی گواہی اللہ کے ہاں شرک کے برابر شمار ہوتی ہے۔ یہ بات تین دفعہ ارشاد فرمائی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور "تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے (بالکل) کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔" ۳

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہم میں بیان فرمایا اور سود کا ذکر فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ بتایا اور فرمایا آدمی سود میں جو ایک درہم لیتا ہے اللہ کے ہاں اس کا گناہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ ہے اور سب سے بدترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے۔ ۴

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اے لوگو! شرک سے بچو کیونکہ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر کوئی یوں کہے یا رسول اللہ! جب شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے تو ہم اس سے کیسے بچیں؟ فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو واللہم انا نعوذ بک ان نشرك بک ونحن نعلمه ونستغفرک لعلنا نعلمه "اے اللہ! ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ شرک ہے اور ہم پھر تیرے ساتھ وہ شرک کریں اور جس شرک کا ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی ہم معافی چاہتے ہیں۔" ۵

۱۔ اخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم واللفظ له و ابو داود مختصر الكذافي الترغيب

(ج ۳ ص ۱۵۸) ۲۔ کذافی الترغیب (ص ۴۶۷)

۳۔ اخرجه احمد والترمذی وقال غریب والبخاری وابن قانع و ابو نعیم کذافی الكنز (ج ۳ ص ۷)

۴۔ اخرجه ابن ابی الدنيا کذافی الترغیب (ج ۳ ص ۲۸۲)

۵۔ اخرجه ابن ابی شیبہ کذافی الكنز (ج ۲ ص ۱۶۹)

## شکر کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے اس منبر کی لکڑیوں پر ارشاد فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کر سکتا اور جو انسانوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کر سکتا اور اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر ہے اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے۔ آپس کا جوڑ سراسر رحمت ہے اور آپس کا توڑ عذاب ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلیؓ نے کہا تم سواد اعظم کو چمپے رہو یعنی علماء حق سے جڑے رہو۔ یہ آیت فَبِأَن تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ (سورت نور آیت ۵۴) ”پھر اگر تم لوگ (اطاعت سے) روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کے ذمہ وہی (تبلیغ) ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے اور تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا ہے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے“ یعنی نہ ماننے سے منافقوں کا اپنا ہی نقصان ہوگا رسول اللہ ﷺ کا نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ان کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، اس لیے یہ تو کامیاب ہیں، منافق مانیں یا نہ مانیں۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو بیان فرماتے ہوئے سنا۔ بیان میں آپ نے یہ آیت پڑھی اِعْمَلُوا الْاَعْمَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ (سورت سبأ آیت ۱۳) ”اے داؤد کے خاندان والو! تم سب شکر یہ میں نیک کام کیا کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں“ پھر آپ نے فرمایا جسے تین خوبیاں مل گئیں اسے اتنا مل گیا جتنا داؤد علیہ السلام کو ملا تھا۔ لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خوشی اور غصہ دونوں حالتوں میں انصاف سے کام لینا، فقر اور غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی۔

## بہترین زندگی کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت علیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا صرف دو آدمیوں کی زندگی بہترین ہے ایک وہ جو سن کر محفوظ رکھے اور دوسرے وہ عالم جو حق بات کہنے والا ہو۔ اے لوگو! آجکل تم لوگ کفار سے صلح کے زمانہ میں ہو اور تم بہت تیزی سے آگے کو جا رہے ہو اور تم نے دیکھ لیا کہ دن رات کے گزرنے سے ہر نئی چیز پرانی ہو رہی ہے اور ہر دور والی چیز نزدیک آ رہی ہے اور ہر چیز کے وعدہ کا وقت آ رہا ہے چونکہ جنت میں مقابلہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا میدان بہت لمبا چوڑا ہے، اس لیے وہاں کی تیاری اچھی طرح کر لو۔ حضرت مقدادؓ نے عرض

۱۔ اخرجه عبدالله بن احمد والبخاری والطبرانی قال الهیثمی (ج ۵ ص ۲۱۸) رجالہم ثقات

۲۔ اخرجه ابن النجار کدالی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۶)



کیا یا نبی اللہ! صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا (کفار سے صلح جس سے) آزمائش کا دور ختم ہو گیا اور جب اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تم پر بہت سے کام گڈمڈ ہو جائیں (اور پتہ نہ چلے کہ ٹھیک کونسا ہے اور غلط کونسا؟) تو تم قرآن کو لازم پکڑ لو (جسے قرآن ٹھیک کہے اسے تم اختیار کر لو) کیونکہ قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے اور (انسان کی طرف سے ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کی بات سچی مانی جاتی ہے۔ جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا) اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا) قرآن اسے جنت کی طرف لے جائے گا اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا، اسے دوزخ کی طرف لے جائے گا اور یہ سب سے بہتر راستہ دکھانے والا ہے۔ یہ دونوں فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ لغو اور بیکار چیز نہیں ہے۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر تو احکام شرعیہ ہیں اور باطن یقین ہے۔ اس کا سمندر بہت گہرا ہے اس کے عجائب بے شمار ہیں۔ علماء اس کے علوم سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی حق بیان کرنے والا کلام ہے جسے سنتے ہی جنات ایک دم بول اٹھے انا سمعنا قرانا عجبا یھدی الی المرشد فامنا بہ (سورت جن آیت ۱-۲) ”(پھر اپنی قوم میں واپس جا کر) انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے“ جو قرآن کی بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اسے اجر و ثواب ملتا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ عدل کرتا ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ اس میں ہدایت کے چراغ ہیں اور یہ حکمت کا مینار ہے اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔

## دنیا کی بے رغبتی کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت حسین بن علیؑ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور ﷺ اپنے صحابہؓ میں کھڑے ہو کر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے موت ہمیں نہیں آئے گی بلکہ دوسروں کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے اور حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے ذمہ ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جن مردوں کو ہم رخصت کر رہے ہیں وہ چند دن کے لئے سفر میں گئے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے پاس واپس آ جائیں گے اور مرنے والوں کی میراث ہم اس طرح کھاتے ہیں کہ جیسے ان کے بعد ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہم ہر نصیحت کو بھول گئے ہیں اور آنے والی مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں خوشخبری ہو اس آدمی کے لئے جو اپنے عیبوں کو دیکھنے میں اس طرح سے لگے کہ اسے دوسرے لوگوں کے عیب دیکھنے کی فرصت نہ ملے اور خوشخبری ہو اس آدمی

کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو اور اس کی اندرونی حالت بھی ٹھیک ہو اور ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں اور اس کا راستہ بھی سیدھا ہو۔ اور خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس میں کوئی دینی اور اخلاقی کمی نہ ہو اور پھر وہ تواضع اختیار کرے اور اس مال میں سے خرچ کرے جو اس نے بغیر کسی گناہ کے حلال طریقہ سے جمع کیا ہے اور دین کی سمجھ رکھنے والوں اور حکمت و دانائی والوں سے میل جول رکھے اور کمزور اور مسکین لوگوں پر ترس کھائے اور خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جو اپنا ضرورت سے زائد مالی دوسروں پر خرچ کرے اور ضرورت سے زائد بات نہ کرے اور ہر حال میں سنت پر عمل کرے اور سنت چھوڑ کر کسی بدعت کو اختیار نہ کرے۔ پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔

ابن عساکر کی روایت کے شروع میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی جد عا نامی اونٹنی پر سوار ہو کر ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو! اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ہم مردوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں اور پھر ان کی میراث کھاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے سنت کا اتباع کیا اور سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف نہیں گیا اور بزار کی روایت میں یہ ہے کہ حضور ﷺ اپنی اعضا نامی اونٹنی پر تھے جو کہ جد عا نہیں تھی اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان مردوں کے گھرانے کی قبریں ہیں اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے دین کی سمجھ رکھنے والوں سے میل جول رکھا اور شک کرنے والوں اور بدعت اختیار کرنے والوں سے الگ رہا اور اس کے ظاہری اعمال ٹھیک ہوں اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ! ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی حیا کرنے والا ہے اسے چاہئے کہ وہ رات اس طرح گزارے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے ساتھ جو اور اعضاء (دل شرمگاہ وغیرہ) ہیں ان کی حفاظت کرے اور سر کی اور سر کے اندر جو اعضاء (کان، ناک، آنکھ اور منہ وغیرہ) ہیں ان کی حفاظت کرے۔ موت کو اور قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے اور دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۳ ص ۲۰۲) قال ابو نعیم هذا حدیث غریب من حدیث العنبر الطیبۃ لم نسمعه الا من القاضی الحافظ وروی هذا الحدیث من حدیث انس عن النبی ﷺ. انتہی وقد اخرج حدیث انس ابن عساکر کما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۳)

۲۔ وقال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۲۹) رواہ البزار وفیہ النصربن محرز وغیرہ من الضعفاء. انتہی

۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط ورواہ الترمذی عن ابن مسعود بنحوہ وقال حدیث غریب کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۲۰۰)

## حشر کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو منبر پر بیان فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن بغیر ختنہ کے حاضر ہو گے۔ ایک روایت میں پیدل بھی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر ہمیں نصیحت فرمائی۔ ارشاد فرمایا اے لوگو! تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں اور ننگے بدن بغیر ختنہ جمع کیا جائے گا (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (سورت انبیاء آیت ۱۰۴) ”(اور) ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت (ہر چیز کی) ابتداء کی تھی اسی طرح (آسانی سے) اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم (ضرور اس کو پورا) کریں گے۔“ غور سے سنو! (قیامت کے دن) تمام انسانوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ کو کپڑے پہنائے جائیں۔ غور سے سنو! میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا پھر انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب! یہ تو میرے ساھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے؟ اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کہیں گے وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُمْ فِيهِمْ سے لے کر الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک (سورت مائدہ آیت ۱۱۷-۱۱۸) اور میں ان پر مطلع رہا جب تک ان میں رہا پھر جب آپ نے مجھے اٹھالیا تو آپ ان پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔“ پھر مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو انہوں نے ایزدیوں کے بل واپس لوٹنا شروع کر دیا تھا اور ہوتے ہوتے یہ مرتد ہو گئے تھے (چنانچہ حضور کے انتقال کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے) ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔

## نقدیر کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت علیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے گئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا ایک رجسٹرا ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے نام و نسب سب تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں اور آخر میں ان سب کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے اب قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی پھر فرمایا ایک رجسٹرا اور ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ

والوں کے نام اور نسب سب تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں اور آخر میں ان سب کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ اب قیامت تک ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے والا زندگی بھر کیسے بھی عمل کرتا رہے لیکن اس کا خاتمہ جنت والوں کے عمل پر ہوگا اور دوزخ میں جانے والا زندگی بھر کیسے ہی عمل کرتا رہے لیکن اس کا خاتمہ دوزخ والوں کے عمل پر ہوگا۔ بعض دفعہ خوش قسمت لوگ یعنی جن کے مقدر میں جنت جانا لکھا ہوا ہے وہ بد قسمتی کے راستہ پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بد قسمتوں جیسے ہیں بلکہ ان ہی میں سے ہیں لیکن پھر خوش قسمتی انہیں آ لیتی ہے اور انہیں (بد قسمتی کے راستہ سے) چھڑا لیتی ہے اور کبھی بد قسمت لوگ یعنی جن کے مقدر میں دوزخ میں جانا لکھا ہوا ہے وہ خوش قسمتی کے راستہ پر اس طرح چل رہے ہوتے ہیں کہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل خوش قسمتوں جیسے ہیں بلکہ ان ہی میں سے ہیں لیکن پھر بد قسمتی انہیں پکڑ لیتی ہے اور (خوش قسمتی کے راستہ سے) انہیں نکال کر (بد قسمتی کے راستہ پر) لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جسے لوح محفوظ میں خوش قسمت (یعنی جنتی) لکھا ہوا ہے اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں نکالتے جب تک اس سے مرنے سے پہلے خوش قسمتی والا عمل نہیں کر لیتے چاہے وہ عمل مرنے سے اتنی ہی دیر پہلے ہو جتنا کہ اونٹنی کے دودھ نکلنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جسے لوح محفوظ میں بد قسمت (یعنی دوزخی) لکھا ہوا ہے اسے اس وقت تک دنیا سے نہیں نکالتے جب تک اس سے مرنے سے پہلے بد قسمتی والا عمل نہیں کر لیتے چاہے وہ عمل مرنے سے اتنی ہی دیر پہلے ہو جتنا کہ اونٹنی کے دودھ نکلنے کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ عمل کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔

## حضور ﷺ کی رشتہ داری کے فائدہ دینے

### کے بارے میں حضور کا بیان

حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یوں کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی رشتہ داری قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کی قسم! میری رشتہ داری دنیا اور آخرت میں جڑی ہوئی ہے۔ دونوں جگہ فائدہ دے گی اور اے لوگو! میں تم سے پہلے (تمہاری ضروریات کا خیال کرنے کے لیے) آگے جا رہا ہوں اور قیامت کے دن حوض (کوثر) پر ملوں گا۔ کچھ لوگ (وہاں) کہیں گے یا رسول اللہ! میں فلاں بن فلاں یعنی

۱۔ اخرجه الطبرانی فی الاوسط و ابو سهل الجندسی بوری کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۸۷) قال الهیثمی (ج ۷ ص ۲۱۳) رواه الطبرانی فی الاوسط و فیه حماد بن وافد الصغار و هو ضعیف.

آپ کا رشتہ دار ہوں۔ میں کہوں گا نسب کو تو میں نے پہچان لیا لیکن تم نے میرے بعد بہت سے نئے کام ایجاد کیئے اور اٹنے پاؤں کفر میں واپس چلے گئے (ایمان و عمل کے بغیر میری رشتہ داری کام نہیں دیتی اور ایمان و عمل کے ساتھ خوب کام دیتی ہے)۔

## حکام اور صدقات کی وصولی کا کام کرنے

### والوں کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اور اس بیان میں یہ ارشاد فرمایا غور سے سنو! قریب ہے کہ مجھے (اس دنیا سے) بلا لیا جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں میرے بعد ایسے لوگ تمہارے حاکم بنیں گے جو ایسے عمل کریں گے جنہیں تم جانتے پہچانتے ہو ان کی اطاعت صحیح اور اصل اطاعت ہے۔ کچھ عرصہ ایسا ہی ہوگا لیکن اس کے بعد ایسے لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے جو ایسے عمل کریں گے جنہیں تم جانتے پہچانتے نہیں ہو جو ان کی قیادت (غلط کاموں میں) کرے گا اور (دنیاوی کاموں میں) ان کا فائدہ چاہے گا وہ خود بھی برباد ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد کرے گا جس جانی طور پر تو تم ان سے ملے چلے رہو لیکن غلط اعمال میں تم ان سے الگ رہو البتہ ان میں سے جو اچھے عمل کرے تم اس کے اچھے عمل کرنے کی گواہی دو جو برے عمل کرے تم اس کے برے عمل کرنے کی گواہی دو۔

حضرت ابو حمید ساعدیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک آدمی کو صدقات (عشر و زکوٰۃ) وصول کرنے کے لیے بھیجا وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! یہ مال اور جانور تو آپ کے ہیں اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ حضور نے اس سے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کر کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ تمہیں ہدیے ملتے ہیں یا نہیں پھر شام کو حضور بیان کے لیے کھڑے ہوئے پہلے کلمہ شہادت پڑھا پھر اللہ کے شایان شان تعریف کی پھر فرمایا اما بعد! صدقات کی وصولی کے لیے جانے والے کو کیا ہوا؟ ہم اسے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجتے ہیں وہ واپس آ کر ہمیں کہتا ہے یہ تو آپ لوگوں کے کام کی وجہ سے ملا ہے اور یہ مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر کیوں نہیں دیکھ لیتا کہ اسے ہدیے ملتے ہیں یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! تم میں سے جو آدمی بھی صدقات کے مال

۱۔ اخرجہ ابن النجار کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۱۹۸) واخرجہ احمد ایضا عن ابی سعید نحوہ کما فی التفسیر لا بن کثیر (ج ۳ ص ۲۵۶)

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۵ ص ۲۳۷) رواہ الطبرانی فی الاوسط عن شیخہ محمد بن علی المروری وهو ضعیف۔ انتہی

میں تھوڑی سی بھی خیانت کرے گا اور صدقات کے جانوروں میں سے کچھ بھی لے لے گا وہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے قیامت کے دن لائے گا۔ اونٹ، گائے اور بکری جو لیا ہوگا اسے گردن پر اٹھا کر لائے گا اور ہر جانور اپنی آواز نکال رہا ہوگا۔ میں نے (تمہیں اللہ کا پیغام) پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابو حمید فرماتے ہیں پھر حضور نے اپنا ہاتھ اتنا اوپر اٹھایا کہ ہمیں آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی یہ بیان میرے ساتھ حضرت زید بن ثابتؓ نے حضور ﷺ سے سنا ہے، اس لیے ان سے بھی پوچھ لو۔!

## انصار کے بارے میں حضور ﷺ کا بیان

حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میں نے انصار کے بارے میں حضور ﷺ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا غور سے سنو! اور لوگ تو میرا اوپر کا کپڑا ہیں اور انصار میرے اندر کا کپڑا ہے یعنی ان سے میرا خاص تعلق ہے اور لوگ اگر ایک وادی میں چلیں اور انصار کسی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا اگر ہجرت کو فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک آدمی ہوتا، لہذا جو بھی انصار کا حاکم بنے اسے چاہئے کہ وہ ان کے اچھے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے برے سے درگزر کرے۔ جس نے انہیں ڈرایا اس نے اس چیز کو ڈرایا جو ان دو پہلوؤں کے درمیان ہے یعنی میرے دل کو۔ حضور نے اپنے دل کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔

حضرت کعب بن مالک انصاریؓ ان تین صحابہ میں سے ہیں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی ان کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی نے میرے والد محترم کو بتایا کہ ایک دن حضور ﷺ سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور بیان میں آپ نے یہ فرمایا اے بعد! اے جماعت مہاجرین! تمہاری تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا (اور لوگ ہجرت کر کے آتے رہیں گے) لیکن انصار جتنے آج ہیں اتنے ہی رہیں گے ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہوگا۔ انصار تو میرے ذاتی کپڑوں کا صندوق ہیں یعنی یہ میرے خاص لوگ ہیں جن کے پاس آکر میں ٹھہرا ہوں، لہذا ان کے کریم آدمی کا اکرام کرو اور ان کے برے آدمی سے درگزر کرو۔

۱۔ اخرجه البخاری (ج ۲ ص ۹۸۲) واخرجه ايضا مسلم وابو داؤد واحمد كما في الجامع الصغير  
 ۲۔ اخرجه احمد قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۳۵) رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن النضر  
 ۳۔ عند احمد ايضا قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۳۶) رجاله رجال الصحيح وهو ثقة.

## نبی کریم ﷺ کے مختلف بیانات

حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے منبر کی لکڑیوں پر حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا دوزخ کی آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقہ کے ذریعہ سے ہی بچو کیونکہ یہ صدقہ ٹیڑھ پن کو سیدھا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور جیسے پیٹ بھرے آدمی کو فائدہ دیتا ہے ایسے ہی بھوکے کو بھی فائدہ دیتا ہے یعنی جو بھی صدقہ دے گا اسے اجر و ثواب ملے گا چاہے بھوکا ہو یا پیٹ بھرا۔

حضرت عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو بیان فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے جو مجھ پر درود بھیجے گا تو جب تک وہ درود بھیجتا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے اب چاہے بندہ اپنے لیے (فرشتوں سے) تھوڑی دعا کروائے چاہے زیادہ۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے اسے چاہئے کہ اسے اس حال میں موت آئے کہ اس کے دل میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان موجود ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں ایسا زبردست بیان فرمایا کہ میں نے ویسا بیان کبھی نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ بھی وہ جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ۔ اس پر تمام صحابہ اپنے چہروں پر کپڑے ڈال کر رونے لگے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ کو اپنے صحابہ کے بارے میں کوئی شکایت پہنچی تو آپ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی اور میں نے (جنت اور جہنم دیکھ کر) جتنا خیر اور شر دیکھا ہے اتنا خیر و شر کبھی نہیں دیکھا اور جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی وہ جان لو تو تم ہنسو کم اور روؤ زیادہ چنانچہ حضور کے صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کوئی نہیں آیا۔ تمام صحابہ سڑھا تک کر رونے لگے۔

۱۔ اخرجه ابو يعلى والبخاري كذا في الترغيب (ج ۲ ص ۱۳۳)

۲۔ اخرجه احمد وابن ابى شيبة وابن ماجه كذا في الترغيب (ج ۳ ص ۱۶۰)

۳۔ اخرجه ابن جرير كذا في الكنز (ج ۱ ص ۷۶)

۴۔ اخرجه الشيخان كذا في الترغيب (ج ۵ ص ۲۲۶)

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے بیان فرمایا اور بیان کرتے کرتے یہ آیت پڑھی۔ اِنَّهُ مَنْ يٰتُ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰ (سورت طہ آیت ۷۴) ”جو شخص (بغاوت کا) مجرم ہو کر اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لیے دوزخ (مقرر) ہے اس میں نہ مرے ہی گا اور نہ جنے ہی گا“ تو حضور نے فرمایا جو اصل دوزخ والے ہیں (اور ہمیشہ اس میں رہیں گے) وہ اس میں نہ مریں گے اور نہ ہی وہ زندوں میں شمار ہوں گے لیکن وہ لوگ جو اصل دوزخ والے نہیں ہیں (بلکہ گناہوں کی وجہ سے کچھ دن کے لیے دوزخ میں گئے ہیں) آگ ان کو کچھ جلانے کی پھر سفارش کرنے والے کھڑے ہوں گے اور ان دوزخیوں کی سفارش کریں گے پھر ان کی جماعتیں بنا کر انہیں دوزخ سے نکال کر نہر حیات یا نہر حیوان پر لایا جائے گا یہ لوگ اس نہر میں ایسے اُگیں گے جیسے سیلاب کے لائے ہوئے کوڑے کرکٹ میں گھاس اُگتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو! اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔

حضرت ابو زہیر ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگو! قریب ہے کہ تم جنت والوں اور دوزخ والوں کو پہچان لو گے یا فرمایا تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لو گے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ! کیسے؟ آپ نے فرمایا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم لوگ جس کی تعریف کرو گے وہ جنتی اور بھلا ہے۔ اور جس کو برا کہو گے وہ دوزخی اور برا ہے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گواہ رہو (صحابہ کرام اور کامل ایمان والے جسے اچھا کہیں گے۔ وہ یقیناً اچھا ہوگا اور جسے برا کہیں گے وہ یقیناً برا ہوگا۔

حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور صدقہ فطر دینے کا حکم دیا اور فرمایا ہر آدمی کی طرف سے ایک صاع (ساڑھے تین سیر) کھجور یا ایک صاع جو صدقہ فطر میں دیئے جائیں چاہے وہ آدمی چھوٹا ہو یا بڑا آزاد ہو یا غلام۔

۱۔ اخرجہ ابن ابی حاتم كذا في التفسير لابن كثير (ج ۳ ص ۱۵۹) ۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا و ابن النجار كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۳۳) ۳۔ اخرجہ الحاكم (ج ۳ ص ۴۳۶) قال الحاكم هذا

حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح

۴۔ اخرجہ الحسن بن سفيان و ابو نعيم عن عبدالله بن ثعلبة كذا في الكنز (ج ۳ ص ۴۳۸)



## حضور ﷺ کے جامع بیانات جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ غزوہ تبوک میں جا رہے تھے ابھی پہنچنے میں ایک رات کا سفر باقی تھا کہ رات حضور ﷺ سوتے رہ گئے اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھل سکی بلکہ سورج نکل آیا اور ایک نیزہ کے برابر بلند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے بلال! کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ (ہم تو سونے لگے ہیں) تم ہماری فکر کا خیال رکھنا؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ! (آپ نے فرمایا تو تھا لیکن) مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے آپ کو سلائے رکھا۔ اس کے بعد حضور وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے پھر فجر کی نماز قضا پڑھی اس کے بعد اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر آپ نے ارشاد فرمایا انا بعد! سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے مضبوط کڑا تقویٰ کا کلمہ کلمہ شہادت ہے اور سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد ﷺ کا طریقہ ہے اور سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے اور سب سے اچھا بیان یہ قرآن ہے۔ سب سے بہترین کام وہ ہیں جو عزیمت اور پختگی والے ہوں جن کا کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کئے گئے ہوں اور سب سے اچھی سیرت انبیاء علیہم السلام کی سیرت ہے اور سب سے زیادہ عزت والی موت شہید کی ہے اور سب سے بہترین اندھا پن ہدایت کے بعد گمراہ ہونا ہے اور بہترین علم وہ ہے جو نفع دے اور بہترین سیرت وہ ہے جس پر چلا جائے اور سب سے برا اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے اور جو مال کم ہو اور انسان کی ضروریات کے لیے کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو اللہ سے غافل کر دے اور اللہ سے معذرت چاہنے کا سب سے برا وقت موت کے آنے کا وقت ہے اور سب سے بری ندامت وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی اور کچھ لوگ ہر نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے اور سب سے بڑا گناہ زبان کا جھوٹ بولنا ہے اور سب سے بہترین مال دار وہی دل کا غنا ہے اور بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ حکمت کی جزا اللہ کا خوف ہے۔ جو باتیں دل میں جھتی ہیں ان میں سب سے بہترین یقین ہے (اسلام میں) شک کرنا کفر ہے۔ مردہ پروا دینا کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے اور مال غنیمت میں خیانت کرنا جہنم کے ڈھیر میں سے ہے اور جس خزانے کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے داغ لگائے جائیں گے۔ شعر و شاعری ابلیس کی بانسری ہے۔ اکثر اشعار شیطانی کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ عورتوں کو ذریعہ بنا کر شیطان بہت سے برے کام کرا لیتا ہے۔ جوانی دیوانگی کا ایک حصہ

ہے۔ اور سب سے بری کمائی سود کی ہے اور سب سے بری کھانے کی چیز یتیم کا مال ہے اور خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے اور بد بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بد بخت ہوا ہے۔ آخر کار تم میں سے ہر آدمی چار ہاتھ جگہ یعنی قبر میں جائے گا اور اعمال کا دار و مدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ سب سے بری روایتیں وہ ہیں جو جھوٹی ہوں اور ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ مومن کو برا بھلا کہنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مومن کو قتل کرنا کفر جیسا گناہ ہے اور مومن کی غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے۔ اس کے مال کا احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے اس کے خون کا احترام ضروری ہے۔ جو اللہ پر قسم کھاتا ہے (مثلاً کہتا ہے اللہ کی قسم فلاں جہنم میں ضرور داخل ہوگا) اللہ تعالیٰ اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیں گے (اور جس غلط بات کے ہونے کی قسم کھائی تھی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کریں گے) جو دوسروں سے درگزر کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ جو اپنا غصہ دبائے گا اللہ اسے اجر دیں گے جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے بدلہ دیں گے جو اپنے نیک اعمال سے دنیا میں شہرت چاہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو سنائیں گے کہ یہ عمل اخلاص سے نہیں کرتا تھا بلکہ شہرت کے لیے کرتا تھا۔ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھائیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دیں گے۔ اے اللہ! میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ! میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ! میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ میں اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے بیان فرمایا اور بیان میں ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آج میرے رب نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اور آپ لوگ اسے نہیں جانتے ہو اس میں سے میں آپ لوگوں کو بھی سکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے وہ سارا ان کے لئے حلال ہے (لہذا کفار عرب نے سائبہ، وصیلہ، بحیرہ وغیرہ نام رکھ کر جو کچھ اپنے اوپر حرام کر لیا ہے وہ حرام نہیں ہوا بلکہ حلال ہے) میں نے اپنے تمام بندوں کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک صاف دین اسلام پر پیدا کیا ہے پھر شیطانوں نے آکر انہیں دین اسلام سے گمراہ کر دیا اور جو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا وہ ان پر حرام کر دیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک

۱۔ اخرجہ البیہقی فی الدلائل و ابن عساکر فی تاریخہ و اخرجہ ابونضر البخری ایضا فی کتاب الابانۃ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ مرفوعاً و اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابونعیم فی الحلیۃ و القضاعی فی الشہاب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفاً قال بعض شراح الشہاب حسن غریب و رواہ العسکری و الدیلمی عن عقبۃ کذا فی الجامع الصغیر للسيوطی و شرحہ فیض القدیور للمناوی (ج ۲ ص ۱۷۹) و اخرجہ الحاکم ایضا من حدیث عقبۃ کما فی زاد المعاد (ج ۳ ص ۷)

کریں جن کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری پھر (میری بعثت سے پہلے) اللہ تعالیٰ نے تمام زمین والوں پر نظر ڈالی تو تمام عرب و عجم کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آیا (کیونکہ سب کفر و شرک میں مبتلا تھے) لیکن کچھ اہل کتاب ایسے تھے جو اپنے سچے دین پر قائم تھے اور اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اے ہمارے نبی!) میں نے آپ کو اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کا امتحان لوں (کہ آپ میری منشاء پر چلتے ہیں یا نہیں) اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کا امتحان لوں (کہ وہ آپ کی دعوت کو مانتے ہیں یا نہیں) اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھوسکتا (اس کی لکھائی مٹنے والی نہیں یعنی آپ کے سینے میں محفوظ رہے گی آپ کو بھولے گی نہیں) اور آپ اسے سوتے اور جاتے میں پڑھا کریں گے یعنی دونوں حالتوں میں آپ کو پکایا د رہے گا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں قریش کو جلا دوں (یعنی انہیں اللہ کی دعوت دوں جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا جو نہیں مانے گا وہ برباد ہوگا دوزخ کی آگ میں جلے گا) میں نے عرض کیا اے میرے رب! پھر تو وہ میرا سر کچل دیں گے اور روٹی کی طرح چپٹا کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ انہیں (مکہ سے) ایسے نکالیں جیسے انہوں نے آپ کو نکالا ہے کہ آپ ان سے جنگ کریں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ ان پر خرچ کریں ہم آپ پر خرچ کریں گے۔ آپ ان کی طرف ایک لشکر بھیجیں ہم اس جیسے (فرشتوں کے) پانچ لشکر بھیجیں گے اور آپ اپنے فرمانبرداروں کو لے کر نافرمانوں سے جنگ کریں اور جنتی لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک عادل بادشاہ جسے اللہ کی طرف سے نیک اعمال کی خوب توفیق ملی ہو اور وہ خوب صدقہ کرنے والا ہو۔ دوسرے وہ آدمی جو رحم کرنے والا اور ہر رشتہ دار بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں نرم دل ہو تیسرے وہ آدمی جو پاک دامن، فقیر، عیالدار اور (فقیری کے باوجود دوسروں پر) صدقہ کرنے والا ہو۔ دوزخی لوگ پانچ قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ کمزور آدمی جس میں عقل بالکل نہ ہو، ہر ایک کے پیچھے لگ جاتا ہو۔ دوسرے وہ لوگ جو تم لوگوں میں دوسروں کے پیچھے والے اور ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں اور (بدکاری میں مبتلا رہنے کی وجہ سے) ان میں نہ اہل و عیال کی طلب ہے اور نہ مال کی۔ تیسرے وہ خیانت کرنے والا جس میں لالچ اتنی زیادہ ہو کہ وہ چھپ نہ سکے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خیانت کرے چوتھے وہ آدمی جس کا صبح شام ہر وقت یہی کام ہے کہ وہ تمہیں، تمہارے اہل و عیال اور مال و دولت کے بارے میں دھوکہ دیتا رہے اور پانچویں آدمی کی خرابیوں میں آپ نے کنجوسی، جھوٹ، بداخلاقی اور بدگوئی کا ذکر کیا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی اور قیامت قائم ہونے تک پیش آنے والی ہر اہم دینی چیز کو ہمارے سامنے ذکر کر دیا جس نے

ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کی اسے تو یاد رہیں اور جس نے انہیں بھلا دیا اسے بھول گئیں۔ اس بیان میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اما بعد! دنیا سرسبز اور میٹھی ہے۔ بڑی مزیدار اور اچھی لگتی ہے۔ بہت خوشنما نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر اور دنیا دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اچھے یا برے (یعنی دنیا کے اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں اور تم لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے) اس لئے دنیا کے فتنے سے بچو (بقدر ضرورت حاصل کرو اور ضرورت سے زیادہ آجائے تو اسے دوسروں پر خرچ کر دو) اور عورتوں کے فتنے سے بچو (ان کی باتوں میں آکر ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو) بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے ذریعے پیش آیا تھا۔ غور سے سنو! آدم کی اولاد کو مختلف قسم کا بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں مومن بن کر ساری زندگی گزارتے ہیں اور مومن ہونے کی حالت میں مرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، اور کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں اور کافر ہونے کی حالت میں مرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مومن پیدا ہوتے ہیں اور مومن بن کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن کافر بن کر مرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں اور کافر بن کر زندگی گزارتے ہیں لیکن مومن بن کر مرتے ہیں۔ توجہ سے سنو! غصہ ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے پیٹ میں دکھتا رہتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ غصہ میں انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اس کے گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے زمین سے چمٹ جانا چاہیے (کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے زمین کی طرح عاجز اور مسکین بن جائے) غور سے سنو! بہترین مرد وہ ہے جسے غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے اور سب سے برا مرد وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے اور جسے غصہ دیر سے آئے اور دیر سے جائے اور جسے غصہ جلدی آئے اور جلدی جائے تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا اس میں ایک اچھی صفت ہے اور ایک بری۔ غور سے سنو! سب سے بہترین تاجر وہ ہے جو عمدہ طریقے سے دے اور عمدہ طریقے سے مطالبہ کرے اور سب سے برا تاجر وہ ہے جو ادا کرنے میں بھی برا ہو اور مطالبہ کرنے میں بھی برا ہو اور جو ادا کرنے میں اچھا ہو لیکن مطالبہ کرنے میں برا ہو یا ادا کرنے میں برا ہو اور مطالبہ کرنے میں اچھا ہو تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اس میں ایک صفت اچھی ہے اور ایک بری۔ غور سے سنو! ہر بد عہد کو اس کی بد عہدی کے مطابق قیامت کے دن جھنڈا ملے گا (جس سے اس کے اس برے کام کی لوگوں میں شہرت ہوگی) غور سے سنو! سب سے بڑی بد عہدی عام مسلمانوں کے امیر کی بد عہدی ہے۔ غور سے سنو! جسے حق بات معلوم ہے اسے لوگوں کی ہیبت اس حق بات کے کہنے سے ہرگز نہ روکے۔ غور سے سنو! سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ غور سے سنو! دنیا کی اتنی عمر گزر گئی ہے

جتنا آج کا دن گزر گیا ہے اور اتنی باقی ہے جتنا آج کا دن باقی ہے۔

حضرت سائب بن مہجان رحمۃ اللہ علیہ اہل شام میں سے ہیں اور انہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ بھی پایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لائے تو انہوں نے (کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور پہلے) اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور خوب وعظ و نصیحت فرمائی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرمایا پھر حضور ﷺ نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا جیسے میں آپ لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمیں اس بیان میں اللہ سے ڈرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا اور آپس میں صلح صفائی سے رہنے کا حکم دیا اور فرمایا تم لوگ جماعت سے چمٹے رہو اور امیر کی سننے اور ماننے کو لازم پکڑے رکھو کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے شیطان بہت دور ہوتا ہے۔ کسی مرد کو کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہیں ہونا چاہئے ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا جسے اپنی برائی سے رنج ہو اور نیکی سے خوشی ہو یہ اس کے مسلمان اور مومن ہونے کی نشانی ہے اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ اسے اپنی برائی سے کوئی رنج نہیں ہوتا اور نیکی سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کوئی خیر کا عمل کر لے تو اسے اس عمل پر اللہ سے کسی ثواب کی امید نہیں ہوتی اور اگر وہ کوئی برا کام کر لے تو اسے اس عمل پر اللہ کی طرف سے کسی سزا کا ڈر نہیں ہوتا لہذا دنیا کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو کیونکہ اللہ نے تم سب کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے اور ہر انسان نے جو عمل کرنا ہے اس کا وہ عمل ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے نیک اعمال کے لیے اللہ سے مدد مانگا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جس عمل کو چاہیں مٹادیں اور جس عمل کو چاہیں باقی رکھیں اور اسی کے پاس لوح محفوظ ہے (حضور کا بیان ختم ہو گیا اور پھر حضرت عمرؓ نے بھی بیان ختم کر دیا اور ختم کرنے کے لیے فرمایا) وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و علیہ السلام ورحمة اللہ ”اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد (ﷺ) اور ان کی آل پر درود بھیجے اور ان پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت“ السلام علیکم۔

## حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیان

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک مرتبہ (مرض الوفا) میں فرمایا مختلف کنوؤں سے سات مشکوں میں (پانی بھر کر) میرے اوپر ڈالو تاکہ (مجھے کچھ آفاقہ ہو جائے اور) میں لوگوں کے پاس باہر جا کر انہیں وصیت کروں؛ چنانچہ (پانی ڈالنے

۱۔ اخرجہ احمد والترمذی و الحاکم والبیہقی کذا فی الجامع و شرحہ للمناوی و قال المناوی (ج ۲ ص ۱۸۱) وفیہ علی بن زید بن جدعان اور وہ النهبی فی الضعفاء و قال احمد و یحییٰ لیس بشیء۔ انتھی  
۲۔ اخرجہ ابن مردویہ والبیہقی فی شعب الایمان و ابن عساکر قال البیہقی و ابن عساکر هذه خطبة عمر بن الخطاب علی اهل الشام اثرها عن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۷)

سے حضورؐ کو کچھ افاقہ ہوا تو) حضورؐ سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر آئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے پھر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے اسے لے لے۔ اس بندے نے اللہ کے ہاں کے اجر و ثواب کو اختیار کر لیا (یہاں اس بندے سے مراد خود حضورؐ ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آپؐ اس دنیا سے جلد تشریف لے جانے والے ہیں) حضورؐ کے اس فرمان کا مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھ سکا اور اس پر وہ رونے لگے اور عرض کیا ہم اپنے ماں باپ اور آل اولاد سب آپؐ پر قربان کرتے ہیں حضورؐ نے فرمایا (اے ابو بکر!) ذرا آرام سے بیٹھے رہو (مت رو) میرے نزدیک ساتھ رہنے اور مال خرچ کرنے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے افضل ابن ابی قحافہ یعنی (حضرت ابو بکرؓ) ہیں۔ مسجد میں جتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دو صرف ابو بکرؓ کا دروازہ کھلا رہنے دو کیونکہ میں نے اس پر نور دیکھا ہے۔

حضرت ایوب بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضورؐ نے اپنے مرض الوفا میں ارشاد فرمایا مجھ پر پانی ڈالو پھر آگے پچھلی جیسی حدیث ذکر کی اور مزید یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد سب سے پہلے شہداء احد کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے استغفار کیا اور دعا کی پھر فرمایا اے جماعت مہاجرین! تمہاری تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور انصار اپنی اسی حالت پر ہیں ان کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے اور یہ انصار تو میرے خاص تعلق والے ہیں جن کے پاس آ کر مجھے ٹھکانہ ملا ہے۔ لہذا تم ان کے کریم آدمی کا اکرام کرو اور ان کے برے سے درگزر کرو۔ پھر حضورؐ نے فرمایا اے لوگو! اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا گیا پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور اس روایت میں ہے کہ حضورؐ کے اس فرمان کا مطلب لوگوں میں سے صرف ابو بکرؓ ہی سمجھ سکے اور اسی وجہ سے وہ رونے لگے۔

حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضورؐ نے لوگوں میں بیان فرمایا کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اسے لے لے، چنانچہ اس بندے نے اللہ کے ہاں جو کچھ ہے اس کو اختیار کر لیا اس پر حضرت ابو بکرؓ رو پڑے۔ ہم اس بات پر حیران ہوئے کہ حضورؐ نے تو کسی بندے کے بارے میں خبر دی ہے۔ اس پر یہ حضرت ابو بکرؓ کیوں رو رہے ہیں اس میں تو رونے کی کوئی بات نہیں لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے اس سے مراد تو خود حضورؐ تھے (اور حضورؐ کے اس فرمان کا

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۳۲) رواه الطبرانی فی الاوسط والکبیر باختصار الا انه

زاد و ذکر قتی احد فصلی علیہم فاکثر و اسنادہ حسن۔ انتہی

۲۔ اخرجه البیهقی قال ابن کثیر فی البدایة (ج ۵ ص ۲۲۹) هذا مرسل له شواہد کثیرة۔ انتہی

مطلب یہ تھا کہ حضورؐ یہ بتا رہے تھے کہ حضورؐ محقریب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں) یہ بات حضرت ابو بکرؓ ہم میں سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے پھر حضورؐ نے فرمایا ابو بکرؓ نے ساتھ رہ کر اور مال خرچ کر کے لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیا ہے اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو ظلیل یعنی خالص دوست بنانا تو ابو بکرؓ کو بنانا البتہ ان سے اسلامی دوستی و محبت ضرور ہے مسجد میں کھلنے والا ہر روز روزہ بند کر دیا جائے صرف ابو بکرؓ کا دروازہ رہنے دیا جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ مرض الوفاۃ میں باہر تشریف لائے۔ آپؐ نے سر پر کالی پٹی باندھی ہوئی تھی کندھوں پر چادر اوڑھی ہوئی تھی آپؐ آ کر منبر پر بیٹھ گئے۔ راوی نے آگے حضورؐ کا بیان اور انصار کے بارے میں حضورؐ کی وصیت کا ذکر کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ انتقال سے پہلے حضورؐ کی آخری مجلس اور آخری بیان تھا۔

حضرت کعب بن مالکؓ ان تین صحابہؓ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی۔ وہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر جنگ احد کے دن شہید ہونے والے صحابہؓ کیلئے دعائے مغفرت فرمائی پھر فرمایا اے جماعت مہاجرین! پھر اس کے بعد انصاف کے بارے میں حضورؐ کی وصیت کا ذکر کیا جیسے کہ بیہمی کی حضرت ایوبؓ والی حدیث میں گزر چکا۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمنؓ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں نے حضور ﷺ کو آخری بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو ان پانچ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرے گا وہ کوندتی ہوئی بجلی کی طرح سب سے پہلے پل صراط کو پار کرے گا اور (نبیؐ کا) اچھے طریقہ سے اتباع کرنے والوں کی پہلی جماعت میں اللہ اس کا حشر کرے گا اور جس دن اور رات میں وہ ان پانچ نمازوں کی پابندی کرے گا اس کے بدلے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہزار شہیدوں جیسا اجر ملے گا۔

۱۔ عند احمد و ہکذا اخرجہ البخاری و سلم کما فی البدایۃ (ج ۵ ص ۲۲۹) ۲۔ اخرجہ البخاری کذا فی البدایۃ (ج ۵ ص ۲۳۰) و اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۲۵۱) عن ابی سعید رضی اللہ عنہ بمعناہ  
 ۳۔ اخرجہ الطبرانی عن عبدالرحمن بن کعب بن مالک عن ابیہ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۷) رجالہ رجال الصحیح و اخرج الطبرانی ایضاً عن عبداللہ بن کعب بن مالک عن ابیہ قال آخر خطبہ جعلنا یارسول اللہ ﷺ فلذکر نحوہ باختصار قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۷) رواہ الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۷۸) عن عبداللہ بن کعب عن ابیہ فلذکر نحوہ وقال ہذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ وقال الذہبی صحیح ۴۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال المصنف ۲۶۱ ص ۲۹۹ و فیہ بقیۃ بن الولید و هو مدلس و قد عنعہ انتہی۔

## نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر سے مغرب تک بیان

حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نے ہم میں ظہر تک مسلسل بیان فرمایا پھر منبر سے نیچے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی پھر عصر تک بیان فرمایا پھر اتر کر عصر کی نماز پڑھائی پھر مغرب تک بیان فرمایا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب ہم سے بیان فرمادیا اب جسے حضور کی بتائی ہوئی یہ باتیں جتنی زیادہ یاد رہ گئیں وہ ہم میں اتنا زیادہ جاننے والا ہے۔

## بیان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ جب لوگوں میں بیان فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا جیسے کہ آپ لوگوں کو دشمن کے لشکر سے ڈرارہے ہوں اور فرما رہے ہوں کہ دشمن کا لشکر تم پر صبح حملہ کرنے والا ہے شام کو حملہ کرنے والا ہے پھر شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر ارشاد فرماتے مجھے اور قیامت کو اس طرح ملا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر فرماتے سب سے بہترین سیرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سیرت ہے اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے ایجاد کئے گئے ہوں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور جو مرجائے اور مال چھوڑ کر جائے تو وہ مال اس کے گھر والوں کا ہے اور جو قرضہ یا چھوٹے بچے چھوڑ کر جائے جنہیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہو تو وہ میرے ذمہ ہیں وہ قرضہ میں ادا کروں گا اور ان بچوں کو میں سنبھالوں گا۔

## امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیانات

حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ کا حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اما بعد! اے لوگو! مجھے آپ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، حالانکہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں اور اب قرآن نازل ہو چکا ہے اور حضور ﷺ سنتیں بیان فرما چکے ہیں اور آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سب سے بڑی عظمتی تقویٰ ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے اور جو تم لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے (اور وہ طاقت کے زور سے کمزوروں کے حق دبا لیتا ہے) وہ میرے نزدیک کمزور ہے میں کمزور کو اس

۱۔ اخرجه الحاكم (ج ۴ ص ۲۸۷) قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه و صححه اللهي

۲۔ اخرجه ابن سعد (ج ۱ ص ۳۷۶) و اخرجه البيهقي في الاسماء و الصفات (ص ۱۳۳) عن جابر نحوه و في رواية علاصونه وقال و رواه مسلم في الصحيح



طاقتور سے اس کا حق دلوا کر رہوں گا اور جو تم میں سب سے زیادہ کمزور ہے (جس کے حق طاقتوروں نے دبار کھے ہیں) وہ میرے نزدیک طاقتور ہے میں اس کے حق طاقتوروں سے ضرور لے کر دوں گا۔ اے لوگو! میں تو (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا) اتباع کرنے والا ہوں اور اپنی طرف سے گھڑ کر نئی باتیں لانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو آپ لوگ ان میں میری مدد کریں اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ لوگوں کے لئے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت ہو گئی تو وہ منبر پر تشریف لے گئے اور منبر پر جہاں نبی کریم ﷺ بیٹھا کرتے تھے اس سے ایک سیڑھی نیچے بیٹھے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے لوگو! اچھی طرح سے سمجھ لو کہ سب سے بڑی عقلمندی۔ اس کے بعد کچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور آخر میں اس مضمون کا اضافہ کیا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ (اللہ کی طرف سے) کیا جائے اور جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی ان پر اللہ تعالیٰ فقر مسلط کر دیں گے اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ان سب پر مصیبت بھیجیں گے لہذا جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم لوگ میری اطاعت کرو اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ لوگوں کے لئے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کچھلی حدیث کا کچھ مضمون ذکر کرتے ہیں اور یہ جو حضرت ابو بکر کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے اس کے بعد یہ اضافہ کرتے ہیں غور سے سنو! میرے نزدیک سچ بولنا امانت داری ہے اور جھوٹ بولنا خیانت ہے اور اسی طرح حضرت حسنؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے فرمان کہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں کے بعد یہ کہا کہ اللہ کی قسم! حضرت ابو بکرؓ ان سب سے بہتر تھے اور اس بات میں کوئی ان سے مزاحمت کرنے والا نہیں تھا لیکن مومن آدمی یوں ہی کسر نفسی کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسنؓ نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میری تو دلی تمنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اس خلافت کا بوجھ اٹھا لیتا اور میں اس ذمہ داری سے بچ جاتا۔ حضرت حسنؓ کہتے ہیں اللہ کی قسم! حضرت ابو بکرؓ نے یہ تمنا والی بات سچے دل سے کہی تھی (وہ واقعی خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے) پھر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اگر تم لوگ یوں چاہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اپنے نبیؐ کو سیدھے راستے پر لے آیا کرتے تھے اسی طرح مجھے بھی لے آیا کریں۔ یہ بات تو مجھے حاصل نہیں ہے میں تو عام انسان ہی ہوں، اس لیے تم لوگ میری

۱۔ اخرجه ابن سعد والمحاملی وغيرهما کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۰)

۲۔ اخرجه الدينوري في الكنز (ج ۳ ص ۱۳۵)

## نگرانی رکھو۔!

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا غور سے سنو! اللہ کی قسم! میں آپ لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں، اور میں اپنے لئے اس مقام خلافت کو پسند نہیں کرتا تھا مجھے اس کی خواہش نہیں تھی بلکہ میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی میرے بجائے خلیفہ بن جاتا کیا آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میں آپ لوگوں میں بعینہ حضور ﷺ والے طریقہ پر عمل کر لوں گا؟ تو یہ خیال بالکل غلط ہے میں ایسا نہیں کر سکوں گا کیونکہ حضور کی توحی کے ذریعہ ہر غلط بات سے حفاظت ہو جاتی تھی اور انہیں تو عصمت خداوندی حاصل تھی اور ان کے ساتھ خاص فرشتہ ہر وقت رہتا تھا۔ میرے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے۔ جب مجھے غصہ آ جائے تو مجھ سے بچ کر رہنا کہیں میں آپ لوگوں کی کھالوں اور بالوں پر اثر انداز نہ ہو جاؤں۔ غور سے سنو! آپ لوگ میری نگرانی رکھو اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرنا اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ ایسا زبردست بیان کیا تھا کہ اللہ کی قسم! اس کے بعد ویسا بیان تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ ۲ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں کام ٹھیک بھی کر لیتا ہوں اور غلط بھی ہو جاتے ہیں جب میں ٹھیک کام کروں تو آپ لوگ اللہ کی تعریف کریں (کیونکہ اسی کے کرم سے کام ٹھیک ہوا) اور جب غلط ہو جائے تو مجھے سیدھا کر دینا۔ ۳

حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کی وفات کے ایک مہینہ بعد میں حضور کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد حضرت قیس نے حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا قصہ ذکر کیا اس کے بعد کہتے ہیں تمام لوگوں کو مسجد نبویؐ میں جمع کرنے کے لیے یہ اعلان کیا گیا الصلوٰۃ جامعۃ یعنی سب لوگ نماز مسجد نبویؐ میں اکٹھے پڑھیں (مدینہ کی باقی نو مسجدوں میں سے کسی اور میں نہ پڑھیں) اور پھر جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکرؓ اس منبر پر تشریف فرما ہوئے جو ان کے بیان اور خطبے کے لئے بنایا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر فرمایا اے لوگو! میری آرزو تو یہ ہے کہ کوئی اور میری جگہ خلیفہ بن جائے اگر تم لوگ مجھ سے یہ مطالبہ کرو کہ میں عین تمہارے نبیؐ کی سنت کے مطابق چلوں تو یہ میرے بس میں نہیں ہے کیونکہ حضور تو معصوم تھے۔ اللہ نے ان کی شیطان سے مکمل حفاظت فرما رکھی تھی اور ان پر آسمان سے وحی اترتی تھی (اور یہ دونوں باتیں مجھے حاصل نہیں ہیں، اس لئے میں بالکل ان جیسا نہیں

۱۔ اخرجہ البیہقی (ج ۶ ص ۳۵۳) ۲۔ اخرجہ ابوذر الہروی و ابن راہویہ کما فی الكنز (ج ۳ ص ۱۲۶) ۳۔ اخرجہ ابوذر الہروی فی الجامع عن قیس بن ابی حازم مختصراً کما فی الکنۃ ج ۱ ص ۱۳۶

ہو سکتا)۔ اور جلد دوم میں طبرانی کی روایت عیسیٰ بن عطیہ کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیان میں فرمایا اے لوگو! لوگ اسلام میں خوشی اور ناخوشی دونوں طرح داخل ہوئے ہیں لیکن اب وہ سب اللہ کی پناہ اور اس کے پڑوس میں ہیں، اس لئے تم اس کی پوری کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری کا کچھ بھی مطالبہ نہ کرے (یعنی کسی مسلمان کو کسی طرح تکلیف نہ پہنچاؤ) میرے ساتھ بھی ایک شیطان رہتا ہے جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آ گیا ہے تو پھر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ کہ کہیں میں تمہارے بالوں اور کھالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ اے لوگو! اپنے غلاموں کی آمدنی کی تحقیق کر لیا کرو کہ حلال ہے یا حرام، اس لئے کہ جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہو وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔

حضرت عاصم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کی وفات کے اگلے دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی نے اعلان کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا کام مکمل ہو جانا چاہیے۔ غور سے سنو! اب حضرت اسامہ کے لشکر کا کوئی آدمی مدینہ میں باقی نہیں رہنا چاہیے بلکہ جُزف میں جہاں ان کے لشکر کا پڑاؤ ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ لوگوں میں بیان کے لئے کھڑے ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان فرمائی پھر فرمایا اے لوگو! میں تمہارے جیسا ہی ہوں مجھے معلوم تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھے اس چیز کا مکلف بناؤ جو صرف حضور ﷺ کے بس میں تھی (اور میرے بس میں نہیں) اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد (ﷺ) کو تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی اور انہیں چنا تھا اور انہیں تمام آفات سے حفاظت عطا فرمائی تھی اور میں (ان ہی کے) پیچھے چلنے والا ہوں اپنی طرف سے نئی چیزیں گھرنے والا نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرے پیچھے چلو اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم لوگ مجھے سیدھا کر دو۔ حضور ﷺ کی شان تو یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت امت میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو کوڑے کی مار یا اس سے بھی کم ظلم کا مطالبہ کر رہا ہو۔ غور سے سنو! میرے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے۔ جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے تم لوگ الگ ہو جاؤ کہیں میں تمہاری کھالوں اور بالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ تم لوگ صبح اور شام اس موت کے منہ میں ہو جس کا تمہیں علم نہیں کہ کب آ جائے گی۔ تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب بھی تمہاری موت آئے تو تم اس وقت نیک عمل میں لگے ہوئے ہو اور تم ایسا صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہو لہذا جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے موت کو بھلا رکھا ہے اور اپنے اعمال دوسروں کے لئے کر دیئے

ہیں۔ لہذا تم ان جیسے نہ بنو خوب کوشش کرو اور مسلسل کوشش کرو اور (سستی سے کام نہ لو بلکہ) جلدی کرو اور جلدی کرو کیونکہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہے لہذا موت سے چوکنے رہو اور آباؤ اجداد، بیٹوں اور بھائیوں (کی موت) سے عبرت حاصل کرو اور زندہ لوگوں کے ان نیک اعمال پر رشک کرو جن پر تم مردوں کے بارے میں رشک کرتے ہو یعنی دنیاوی چیزوں میں زندہ لوگوں پر رشک نہ کرو۔

حضرت سعید بن ابی مریم رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بنائے گئے تو آپؓ منبر پر تشریف فرما ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم! اگر ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے اجتماعی کاموں کے خراب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو (میں خود خلیفہ نہ بنتا بلکہ) میں یہ چاہتا کہ جو تم میں سے مجھے سب سے زیادہ مغضوب ہے اس کی گردن میں اس امر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جاتی پھر اس کے لئے اس میں کوئی خیر نہ ہوتی۔ غور سے سنو! دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بد بخت لوگ بادشاہ ہیں۔ اس پر تمام لوگوں نے گردنیں بلند کیں اور سر اٹھا کر حضرت ابو بکرؓ کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تم لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو تم لوگ جلد باز ہو جو بھی کسی ملک کا بادشاہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بادشاہ بنانے سے پہلے اس کے ملک کو جانتے ہیں اور بادشاہ بن جانے پر اس کی آدمی عمر کم کر دیتے ہیں اور اس پر خوف اور غم مسلط کر دیتے ہیں اور جو کچھ خود اس کے اپنے پاس ہے اس سے اس کا دل ہٹا دیتے ہیں اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ اس میں پیدا کر دیتے ہیں وہ چاہے کتنے اچھے کھانے کھائے اور عمدہ کپڑے پہنے لیکن اس کی زندگی تنگ ہوگی سکھ چین اسے نصیب نہ ہوگا پھر جب اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سے سختی سے حساب لیتا ہے اور اس کی بخشش کا امکان بہت کم ہوتا ہے بلکہ اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ غور سے سنو! مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ غور سے سنو! مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔ غور سے سنو! مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تو اس میں ارشاد فرمایا اما بعد! میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی شایان شان تعریف کو اور اللہ کے عذاب کا خوف تو ہونا چاہئے لیکن ساتھ کے ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی رکھو اور اللہ سے خوب گڑگڑا کر مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنَّهُمْ

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی تاریخ (ج ۲ ص ۴۶۰)

۲۔ اخرجہ ابن زنجویہ فی کتاب الاموال کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۶۲)

(۹۰) ”یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔“ پھر اے اللہ کے بندو! تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بدلہ میں تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہوا ہے اور اس پر اللہ نے تم سب سے پختہ عہد لیا ہوا ہے اور اس نے تم سے (دنیا کے) تھوڑے اور ختم ہو جانے والے مال اور سامان کو (آخرت کے) زیادہ اور ہمیشہ رہنے والے اجر کے بدلہ میں خرید لیا ہے اور یہ تم میں اللہ کی کتاب ہے جس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے اور اس کا نور کبھی بجھ نہیں سکتا لہذا اس کتاب کے ہر قول کی تصدیق کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو اور اندھیرے والے دن کے لئے اس میں سے روشنی حاصل کرو اللہ نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور لکھنے والے کریم فرشتوں کو تم پر مقرر کیا ہے جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں پھر اے اللہ کے بندو! یہ بھی جان لو کہ تم صبح اور شام اس موت کی طرف بڑھ رہے ہو جس کا وقت مقرر ہے لیکن تمہیں وہ بتایا نہیں گیا تم اس کی پوری کوشش کرو کہ جب تمہاری عمر کا آخری وقت آئے تو تم اس وقت اللہ کے کسی عمل میں لگے ہوئے ہو اور ایسا تو تم صرف اللہ کی مدد سے ہی کر سکتے ہو لہذا عمر کے پورے ہونے سے پہلے تمہیں جو مہلت ملی ہوئی ہے اس میں نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو ورنہ تمہیں اپنے برے اعمال کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے اور اپنی عمر دوسروں کو دے دی ہے یعنی اپنے ایمان و عمل کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے میں تمہیں ان جیسا بننے سے سختی سے روکتا ہوں جلدی کرو کیونکہ تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے جو تمہیں تیزی سے تلاش کر رہا ہے اس کی رفتار بہت تیز ہے۔

حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا تمہارے فقر و فاقہ کی وجہ سے میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعریف کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عکیم والی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور مزید یہ مضمون ذکر کیا کہ تم اس بات کو بھی جان لو کہ جو عمل تم خالص اللہ کے لیے کرو گے تو اس طرح تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے اور اپنے حق کو محفوظ کر لو گے لہذا تم اپنے قرضہ دینے کے زمانہ میں یعنی دنیاوی زندگی میں جو تم نے کمایا ہے وہ سب (اللہ کو) دے دو اور اپنے سامنے ان کو بطور نوافل کے رکھو (یعنی جتنا مال خرچ کرنا فرض ہے وہ تو خرچ کرنا ہی ہے مزید

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۵) واخرجه ایضا ابن ابی شیبہ وھنا دو الحاکم والبیہقی بمنزلہ

و روی بعضہ ابن ابی الدنیا فی قصر الامل کما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۶)

اور بھی خرچ کرو) اس طرح تمہیں شدید ضرورت کے وقت اور عین محتاجی کے زمانے میں اپنی ان کمائیوں کا اور دیئے ہوئے اپنے قرضوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا پھر اے اللہ کے بندو ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تم سے پہلے دنیا میں تھے وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور جو تاتھا خوب کھیتی باڑی کی تھی اور سامان تعمیرات سے زمین کو خوب آباد کیا تھا؟ آج سب لوگ انہیں بھول چکے ہیں اور ان کا تذکرہ تک بھلایا جا چکا ہے، لہذا آج وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ کچھ بھی نہ تھے اور ان کے کفر و ظلم کی وجہ سے ان کے گھر اور شہر ویران پڑے ہیں اور وہ بادشاہ خود اس وقت قبر کی تاریکیوں میں ہیں کیا تم ان ہلاک ہونے والوں میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان میں سے کسی کی ہلکی سی بھی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ ساتھی اور بھائی آج کہاں ہیں جن کو تم پہچانتے تھے؟ وہ ان اعمال کے بدلے کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے تھے اور بد بختی یا نیک بختی دونوں میں سے کسی ایک کی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا نسب کا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے برائی کو دور کرے۔ اللہ سے یہ باتیں تو صرف اس کی اطاعت اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ راحت و راحت نہیں ہے جس کے بعد جہنم ہو اور وہ تکلیف تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

حضرت نعیم بن نعمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن حکیم جیسی حدیث میں حضرت ابو بکرؓ کا بیان نقل کرتے ہیں اور مزید یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا اس قول میں کوئی خیر نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو اور اس مال میں کوئی خیر نہیں جسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس کی نادانی اس کی بربادی پر غالب ہو اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرے۔

حضرت عاصم بن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے دوسرا بیان نقل کیا جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا پھر حضرت عاصم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کے لئے کھڑے ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتے ہیں جس سے مقصود صرف ان کی ذاتِ عالی ہو، لہذا تم اپنے اعمال سے صرف اسی کی ذات کو مقصود بناؤ اور اس کا یقین رکھو کہ تم جو عمل

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۵) ۲۔ عند ابی نعیم ایضا فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۶) و اخرجہ الطبرانی ایضا بطولہ من طریق نعیم بن مع الزیادۃ الی ذکرہا ابو نعیم کما ذکر الحافظ ابن کثیر فی تفسیرہ (ج ۲ ص ۳۳۲) وقال ہنا ہذا اسناد جلیلہ ورجالہ کلہم ثقات و شیخ جریر بن عثمان وهو نعیم بن نمحہ لا اعرفہ بنفی ولا اثبات غیرہ ابی داؤد السبختانی قد حکم بان شیوخ جریر کلہم ثقات وقلروی لہذہ الخطبۃ شواہد من وجوہ اخری انتہی

خالص اللہ کے لئے کرو گے تو یہ ایک نیکی ہے جو تم نے کی ہے اور بڑا حصہ ہے جسے حاصل کرنے میں تم کامیاب ہو گئے ہو اور یہ تمہاری ایسی آمدنی ہے جو تم نے (اللہ کو) دے دی ہے اور یہ قرض ہے جو تم نے فانی دنیا کے دنوں سے لے کر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے لئے آگے بھیج دیا ہے اور یہ قرض تمہیں اس وقت کام آئے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی اے اللہ کے بندو! جو تم میں سے مر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور جو تم سے پہلے تھے ان کے بارے میں غور کرو کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں؟ ظالم اور جابر لوگ کہاں ہیں؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں جن کے میدان جنگ میں لڑنے اور غلبہ پالینے کے تذکرے ہوتے تھے؟ زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں اور اب تو ان کے تذکرے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لئے ہیں اور وہ بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو خوب بویا اور جو تاتھا اور اسے ہر طرح آباد کیا تھا؟ اب وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کا تذکرہ بھی لوگ بھول چکے ہیں اور ایسے ہو گئے ہیں جیسے کہ وہ کچھ نہیں تھے۔ غور سے سنو! اللہ نے ان کی خواہشات کا سلسلہ تو (موت کے ذریعہ سے) ختم کر دیا ہے لیکن گناہوں کی سزا کا سلسلہ باقی رکھا ہوا ہے وہ دنیا سے جا چکے اور انہوں نے جو عمل کئے تھے وہ تو اب ان کے ہیں لیکن جو دنیا ان کے پاس تھی اب وہ دوسروں کی ہو گئی ہے اب ہم ان کے بعد آئے ہیں اگر ہم ان سے عبرت حاصل کریں گے تو نجات پالیں گے اور اگر ہم دھوکے میں پڑے رہے تو ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ حسین و جمیل لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور وہ اپنی جوانی پر اڑتے تھے؟ اب وہ مٹی کے ہو چکے ہیں اور جن اعمال کے بارے میں انہوں نے کمی بیشی کی تھی اب وہ اعمال ان کے لئے حسرت کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے تھے اور شہروں کے ارد گرد بڑی مضبوط دیواریں بنائی تھیں اور ان میں عجیب و غریب چیزیں بنائی تھیں؟ اور بعد میں آنے والوں کے لئے وہ ان شہروں کو چھوڑ کر چلے گئے اور اب ان کے رہنے کی جگہیں ویران پڑی ہوئی ہیں اور وہ خود قبر کی اندھیریوں میں ہیں کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی ہلکی سی بھی آواز سنتے ہو؟ تمہارے وہ بیٹے اور بھائی کہاں ہیں جنہیں تم پہچانتے ہو؟ ان کی عمریں ختم ہو گئیں اور جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے اب وہ ان اعمال کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہاں ٹھہر گئے ہیں اور موت کے بعد بدبختی یا نیک بختی والی جگہ ان کو مل گئی ہے۔ غور سے سنو! اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے خیر دے اور اس سے برائی کو ہٹا دے۔ اللہ سے تعلق تو صرف اطاعت سے اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے بنتا ہے اور اس بات کو جان لو کہ تم ایسے بندے ہو جنہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی



اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے غور سے سنو! وہ راحتِ راحت نہیں جس کے بعد جہنم ہو اور وہ تکلیفِ تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور موت کے بعد کے اکرام کا اس سے سوال کرتے ہیں کیونکہ میری اور تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا تا کہ جو شخص زندہ ہے وہ اسے ڈرائیں اور کافروں پر (عذاب کی) حجت ثابت ہو جائے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں آپ لوگوں کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے اس دین کو مضبوطی سے پکڑو جو اس نے تمہارے لئے شریعت بنایا اور جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی اور کلمہ اخلاص (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کے بعد ہدایتِ اسلام کی جامع بات یہ ہے کہ اس آدمی کی بات سنی اور مانی جائے جس کو اللہ نے تمہارے تمام کاموں کا والی اور ذمہ دار بنایا ہے جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے والی اور ذمہ دار کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا جو حق اس کے ذمہ تھا وہ اس نے ادا کر دیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلنے سے بچو اور جو آدمی خواہش کے پیچھے چلنے سے، لالچ میں پڑنے سے اور غصہ میں آنے سے محفوظ رہا وہ کامیاب ہو گیا اور اترانے سے بچو اور اس انسان کا کیا اترانا جو مٹی سے بنا ہے اور عنقریب مٹی میں چلا جائے گا پھر اسے کیڑے کھا جائیں گے۔ آج وہ زندہ ہے اور کل وہ مرا ہوا ہوگا۔ ہر روز اور ہر گھڑی عمل کرتے رہو اور مظلوم کی بددعا سے بچو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور صبر کرو کیونکہ ہر عمل صبر کے ذریعہ ہی ہوتا ہے اور چوکنے رہو کیونکہ چوکنارہنے سے فائدہ ہوتا ہے اور عمل کرتے رہو کیونکہ عمل ہی قبول ہوتے ہیں اور اللہ نے اپنے جس عذاب سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتے رہو اور اللہ نے اپنی جس رحمت کا وعدہ کیا ہے اسے حاصل کرنے میں جلدی کرو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ تمہیں سبھادے گا اور بچنے کی کوشش کرو اللہ تمہیں بچادے گا کیونکہ اللہ نے وہ اعمال بھی تمہارے سامنے بیان کر دیئے ہیں جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے اور وہ اعمال بھی بیان کر دیئے ہیں جن کی وجہ سے نجات پانے والوں کو نجات ملی اور اللہ نے اپنی کتاب میں اپنا حلال اور حرام اور اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ اعمال سب بیان کر دیئے



ہیں اور میں تمہارے بارے میں اور اپنے بارے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی اطاعت اللہ ہی سے ملتی ہے اور تم اس بات کو جان لو کہ تم عمل خالص اللہ کے لئے کرو گے تو اس طرح تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے اور (آخرت میں اجر و ثواب کے) اپنے بڑے حصے کو محفوظ کر لو گے اور قابل رشک بن جاؤ گے اور جو اعمال تم نے فرائض کے علاوہ کئے ہیں انہیں اپنے آگے کے لئے نفل بنا لو اس طرح تم جو اللہ کو اعمال کا قرضہ دو گے اس قرضہ کا تمہیں آخرت میں پورا پورا بدلہ ملے گا جبکہ تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی پھر اے اللہ کے بندو! اپنے ان بھائیوں اور ساتھیوں کے بارے میں سوچو جو دنیا سے جا چکے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے اب وہ ان اعمال کے پاس پہنچ گئے ہیں اور وہاں ٹھہر گئے ہیں اور موت کے بعد بدبختی اور خوش قسمتی کی جگہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کے اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان کوئی زب کا رشتہ نہیں جس کی وجہ سے اللہ سے کوئی خیر دے یا اس سے کوئی برائی ہٹا دے بلکہ یہ باتیں تو صرف اللہ کی اطاعت سے اور اس کے حکم کے پیچھے چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں اور وہ راحت راحت نہیں جس کے بعد جہنم کی آگ ہو اور وہ تکلیف تکلیف نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں اور میں تمہارے لئے اور اپنے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اپنے نبی پر درود بھیجوں صلی اللہ علیہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جسے اللہ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھیں اور اسے رزق میں خوب وسعت دی تھی اور اسے جسمانی صحت کی نعمت بھی دی تھی لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے آج کے دن کے لئے کیا کیا اور اپنے لئے کون سے عمل آگے بھیجے؟ وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوا نہیں پائے گا اس پر وہ رونے لگے گا اور اتاروئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا اس پر وہ خون کے آنسو رونے لگے گا پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت کھا جائے گا پھر اللہ کے احکام ضائع کرنے پر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا جس پر وہ اونچی آواز سے روئے گا اور اس کی آنکھیں نکل کر اس کے رخساروں پر آگریں گی اور دونوں آنکھوں میں سے ہر آنکھ تین میل لمبی اور تین میل چوڑی ہوگی پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ پریشان ہو کر کہے گا اے میرے رب! مجھے

دوزخ میں بھیج دے اور مجھ پر رحم فرما کر مجھے یہاں سے نکال دے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے اِنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وِرْسُوْلَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْغِزْيُ الْعَظِيْمُ (سورت توبہ آیت ۶۳) ”جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا (جیسا یہ لوگ کر رہے ہیں) تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے۔“

حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث رحمۃ اللہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر تم تقویٰ اور پاکدامنی اختیار کرو تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور کھی ملنے لگے گا۔ ۲۔  
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں میں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ عزوجل سے حیاء کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! جب میں قضائے حاجت کے لئے جنگل جاتا ہوں تو میں اپنے رب سے حیاء کی وجہ سے اپنے اوپر کپڑا اوڑھے رہتا ہوں۔ ۳۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے ایک دن بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ سے حیاء کرو کیونکہ اللہ کی قسم! جب سے میں حضور ﷺ سے بیعت ہوا ہوں اس وقت سے جب بھی قضائے حاجت کے لئے باہر جاتا ہوں تو اپنے رب سے حیاء کی وجہ سے میں اپنا سر کپڑے سے ڈھانکے رکھتا ہوں۔ ۴۔  
حضرت ابو بکرؓ ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے تو رونے لگے پھر فرمایا پہلے سال حضور ﷺ ہم میں بیان کرنے کے لئے منبر پر کھڑے ہوئے تو رونے لگے اور ارشاد فرمایا اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی۔ کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ ۵۔

حضرت اوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا ارشاد فرمایا پچھلے سال حضور ﷺ نے میری اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان فرمایا تھا اس میں ارشاد فرمایا تھا اللہ سے عافیت مانگو کیونکہ کسی کو یقین کے بعد عافیت سے افضل نعمت نہیں دی گئی اور سچ کو لازم پکڑے رہو کیونکہ سچ بولنے سے آدمی نیک اعمال تک پہنچ جاتا ہے۔ سچ اور نیک

۱۔ اخرجہ ابو الشیخ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۳۶)

۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا و الدبنوری کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۶)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۳) عن عروہ بن الزبیر و اخرجہ ابن المبارک درسة و ابن ابی شیبہ و الخرائطی فی مکارم الاخلاق عن ابن الزبیر نحوه کما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۶)

۴۔ اخرجہ ابن حبان فی روضة العقلاء کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۱۲۳) وقال وهو منقطع

۵۔ اخرجہ الترمذی و حسنہ و النسائی کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۲۴۳)

اعمال جنت میں لے جاتے ہیں اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بولنے سے آدمی فسق و فجور تک پہنچ جاتا ہے اور جھوٹ اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ آپس میں حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ قطع تعلق نہ کرو۔ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔

حضرت ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا حضور ﷺ نے فرمایا نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! نفاق والا خشوع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دل میں تو نفاق ہو لیکن ظاہر بدن میں خشوع ہو۔

حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ہم میں بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا حضور ﷺ نے فرمایا مسافر (چار رکعت والی نماز کو) دو رکعت پڑھے گا اور مقیم چار رکعت پڑھے گا۔ میری پیدائش کی جگہ مکہ ہے اور میری ہجرت کی جگہ مدینہ ہے اور جب میں ذوالحلیفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں۔

حضرت ضمیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا عنقریب تمہارے لئے ملک شام فتح کر دیا جائے گا پھر تم وہاں نرم زمین میں جاؤ گے اور روٹی اور تیل سے اپنا پیٹ بھرو گے اور وہاں تمہارے لئے مسجدیں بنائی جائیں گی اور اس بات سے بچنا کہ اللہ کے علم میں یہ بات آئے کہ تم لوگ کھیل کود کے لئے ان مسجدوں میں جاتے ہو کیونکہ مسجدیں تو صرف ذکر کے لئے بنائی گئی ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرؓ میں بیان فرماتے تو انسان کی پیدائش کی ابتدا کا تذکرہ کرتے اور فرماتے انسان پیشاب کی نالی سے دو دفعہ گزر کر پیدا ہوا ہے اور اس کا اس طرح تذکرہ کرتے کہ ہم اپنے آپ کو ناپاک سمجھنے لگے۔

جہاد کے باب میں مرتدین سے جنگ کی ترغیب کے بارے میں اور جہاد کی ترغیب کے بارے میں اور روم سے غزوہ کرنے کے لئے جانے کے بارے میں اور صحابہ کرامؓ کے ملک شام جانے کے وقت حضرت ابو بکرؓ کے بیانات گزر چکے ہیں اور صحابہ کرامؓ کے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کے اہتمام کے باب میں آپس کے انتشار سے ڈرانے اور حضور ﷺ کی وفات کے واقع

۱۔ عند احمد و النسائی و ابن حبان و الحاكم كذا في الكنز (ج ۱ ص ۲۹۱)

۲۔ اخرجہ الحکیم و العسکری و البیہقی كذا في الكنز (ج ۳ ص ۲۲۹)

۳۔ ابونعیم فی الحلیۃ و ابن جریر كذا في الكنز (ج ۳ ص ۲۳۹) ۴۔ اخرجہ احمد فی الزهد

كذا في الكنز (ج ۳ ص ۲۵۹) ۵۔ اخرجہ ابن ابن شیبہ كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۰۵)



ہو جانے اور حضور کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اور خلافت میں قریش کو ترجیح دینے اور خلافت قبول کرنے سے عذر پیش کرنے اور بیعت مسلمانوں کو واپس کرنے اور خلیفہ کی صفات کے بارے میں حضرت ابو بکرؓ کے بیانات گزر چکے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں آیت لا یضرکم من ضل اذا ہتدیتم کی تفسیر کے بارے میں حضرت ابو بکرؓ کا بیان گزر چکا ہے۔

## امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ کے بیانات

حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک صاحب حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے ذفن سے فارغ ہو کر قبر کی مٹی ہاتھوں سے جھاڑی پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان کیا اور اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ سے مجھے اور میرے ذریعہ سے تمہیں آزمائیں گے اور اللہ نے مجھے میرے دو حضرات (رسول پاک ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ) کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے اللہ کی قسم! ایسے نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور کام کو کرے اور نہ ہی ایسے ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی سے تعلق رکھتا ہو اور میں اس کی کفایت کرنے اور اس کے بارے میں امانت داری اختیار کرنے میں کوتاہی کروں اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور اگر برے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرت ناک سزا دوں گا۔ وہ بتانے والے صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم! حضرت عمرؓ نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کے بیان کردہ اپنے اس اصول کے خلاف نہ کیا ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔

حضرت شععی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں اپنے آپ کو منبر کی اس جگہ بیٹھنے کا اہل سمجھوں جہاں ابو بکرؓ بیٹھا کرتے تھے یہ کہہ کر حضرت عمرؓ ایک میزھی نیچے ہو گئے پھر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا قرآن پڑھو اس کے ذریعے سے تم پہچانے جاؤ گے اور قرآن پر عمل کرو اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے اور اعمال نامے کے تولے جانے سے پہلے پہلے تم خود اپنا موازنہ کر لو اور اس دن کی بڑی پیشی کے لئے اپنے آپ کو (نیک اعمال) سے آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی اور کسی حق والے کا حق اتنا نہیں بنتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ غور سے سنو! میں اللہ کے مال یعنی بیت المال میں سے اتنا لوں گا جتنا یتیم کے والی کو یتیم کے مال میں سے ملتا ہے اگر مجھے اس کی بھی ضرورت نہ ہوئی تو میں یہ بھی نہیں لوں گا اور اگر ضرورت ہوئی تو کام

کرنے والے کو عام طور سے جتنا ملتا ہے اس کے مطابق لوں گا۔

حضرت عمرؓ نے ایک بیان میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے تم سے حساب لینے سے پہلے پہلے تم اپنا محاسبہ کر لو اس سے اللہ کا حساب آسان ہو جائے گا اور اعمالنا سے کے تو لے جانے سے پہلے پہلے تم اپنا موازنہ کر لو اور اس دن کی بڑی پیشی کے لئے اپنے آپ کو (نیک اعمال سے) آراستہ کر لو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کئے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔

حضرت ابو فراس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اے لوگو! غور سے سنو! پہلے ہمیں آپ لوگوں کے اندرونی حالات اس طرح معلوم ہو جاتے تھے کہ نبی کریم ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور وحی نازل ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں کے حالات بتا دیا کرتے تھے (کہ کون مومن ہے کون منافق اور کس مومن کا درجہ بڑا ہے اور کس کا چھوٹا؟) غور سے سنو! حضورؐ اب تشریف لے جا چکے ہیں اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا، اس لئے اب ہمارے لئے آپ لوگوں کے حالات و درجات معلوم کرنے کا طریقہ وہ ہوگا جو اب ہم بتانے لگے ہیں آپ میں سے جو خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے محبت کریں گے اور جو ہمارے سامنے شر ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھیں گے اور اسی وجہ سے اس سے بغض رکھیں گے اور آپ لوگوں کے پوشیدہ اور اندرونی حالات آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوں گے یعنی ہم تو ہر ایک کے ظاہر کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ غور سے سنو! ایک وقت تو ایسا تھا کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ہر قرآن پڑھنے والا صرف اللہ کے لئے اور اللہ کے ہاں کی نعمتوں کے لینے کے ارادے سے پڑھ رہا ہے لیکن اب آخر میں آ کر کچھ ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو کچھ انسانوں کے پاس ہے اسے لینے کے ارادے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ تم قرآن کے پڑھنے سے اور اپنے اعمال سے اللہ کی رضامندی کا ہی ارادہ کرو۔ توجہ سے سنو! میں اپنے گورنر آپ لوگوں کے پاس اس لئے نہیں بھیجتا کہ وہ آپ لوگوں کی کھالوں کی پٹائی کریں یا آپ لوگوں کے مال لے لیں بلکہ اس لئے بھیجتا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو دین اور سنت سکھائیں۔ جو گورنر کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ اور کرے وہ اس گورنر کی بات میرے پاس لے کر آئے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں اسے اس گورنر سے ضرور بدل لے کر دوں گا۔ غور سے سنو! مسلمانوں کی پٹائی نہ کرو ورنہ تم انہیں ذلیل کر دو گے اور اسلامی سرحد سے انہیں گھر واپس جانے سے نہ روکو ورنہ تم

۱۔ أخرجه اللیبوری کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۱۰)

۲۔ أخرجه الفضائل عن الشعبي نحوه كما فی ریاض النضرة (ج ۲ ص ۸۹) ۳۔ عند ابن المبارک و

سعيد بن منصور و احمد فی الزهد و ابن ابی شیبہ و غیرہم کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۸)

انہیں فقہ میں ڈال دو گے اور ان کے حقوق ان سے روکو (بلکہ ادا کرو) ورنہ تم انہیں ناشکری میں مبتلا کر دو گے اور گھنے درختوں والے جنگل میں انہیں لے کر مت پڑاؤ ڈالنا ورنہ (بکھر جانے کی وجہ سے دشمن کا داؤ چل جائے گا اور) وہ ضائع ہو جائیں گے۔

حضرت ابو العجفاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے بیان میں فرمایا غور سے سنو! عورتوں کے مہر بہت زیادہ مقرر نہ کرو کیونکہ اگر مہر کا زیادہ ہونا دنیا میں عزت کی چیز ہوتی یا اللہ کے ہاں تقویٰ والا کام شمار ہوتا تو نبی کریم ﷺ تم سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے۔ حضورؐ نے اپنی کسی بیوی یا بیٹی کا مہر بارہ اوقیہ یعنی چار سو اسی درہم سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا تم لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کر لیتے ہو لیکن جب دینا پڑتا ہے تو پھر دل میں اس عورت کی دشمنی محسوس کرتے ہو تم مہر دیتے بھی ہو لیکن اس عورت سے کہتے ہو کہ مجھے تیرے مہر کی وجہ سے مشک بھی اٹھانی پڑی اور بہت مشقت بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے غزوات میں جو آدمی قتل ہو جاتا ہے تم اس کے بارے میں کہتے ہو فلاں شہید ہو کر قتل ہوا یا فلاں نے شہید ہو کر وفات پائی (بغیر تحقیق کے کسی کے شہید ہونے کا ختمی فیصلہ نہ کیا کرو) کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجارت کے ارادے سے ساتھ آیا ہو اور اس نے اپنی سواری کے آخری حصے پر اور کجاوے کی ایک جانب سونا چاندی لاد رکھا ہو (یہ تجارت والا اللہ کے راستے میں نہیں ہے) اس لئے یہ بات نہ کہا کرو بلکہ جیسے حضورؐ نے فرمایا ویسے کہا کرو کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہوا یا فوت ہوا وہ جنت میں جائے گا۔

حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطابؓ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو! عورتوں کے مہر زیادہ کیوں مقرر کرتے ہو؟ حضور ﷺ اور آپ کے صحابہؓ کے زمانے میں مہر چار سو درہم یا اس سے کم ہوا کرتا تھا۔ اگر مہر بہت زیادہ مقرر کرنا اللہ کے ہاں تقویٰ کا یا عزت کا کام ہوتا تو آپ لوگ اس میں حضور اور صحابہؓ سے آگے نہ نکل سکتے۔ نکاح کے باب میں اس بیان کی چند روایات ہم ذکر کر چکے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جابہ شہر میں بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ حضرت عمرؓ کے سامنے ایک پادری بیٹھا ہوا تھا اس نے فارسی میں کچھ کہا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ترجمان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمان نے بتایا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں

۱۔ اخرجہ ابن سعد و مسعود و ابن خزیمہ و الحاکم و البیہقی و غیرہم کذافی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۹) قال الہیثمی (ج ۵ ص ۲۱۱) ابو فراس لم ار من جرحه ولا وثقه وبقیة رجالہ ثقات. انتہی وقال الحاکم (ج ۳ ص ۲۳۹) هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاہ و وافقہ الذہبی

۲۔ اخرجہ عبدالرزاق والطیالسی و احمد و الدارمی و الترمذی و صححہ و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ و غیرہم

۳۔ عند سعید بن منصور و ابی اعلیٰ کذافی الكنز (ج ۸ ص ۲۹۷)

کرتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اواللہ کے دشمن! تم غلط کہتے ہو بلکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں گمراہ کیا اور انشاء اللہ وہ تمہیں دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ اگر تمہارے (ذمی ہونے کے) عہد کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی ساری اولاد ان کے سامنے بکھیر دی اور جنت والوں کے نام اور ان کے اعمال (لوح محفوظ میں) اسی وقت لکھ دیئے اور اسی طرح دوزخ والوں کے نام اور ان کے اعمال بھی اسی وقت لکھ دیئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اس (جنت) کے لئے ہیں اور یہ لوگ اس (دوزخ) کے لئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر لوگ بکھر گئے اور تقدیر کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کسی آدمی نے آ کر حضرت عمرؓ کو بتایا کہ کچھ لوگ تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اس پر حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اے لوگو! تم سے پہلی امتیں تقدیر کے بارے میں غلط باتیں کر کے ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے! آئندہ جن دو آدمیوں کے بارے میں میں نے یہ سنا کہ یہ تقدیر کے بارے میں (اپنی عقل سے) باتیں کر رہے ہیں تو میں دونوں کی گردن اڑا دوں گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمرؓ کا یہ اعلان سن کر تمام لوگوں نے تقدیر کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی پھر حجاج کے زمانے میں شام میں ایک جماعت ظاہر ہوئی جس نے سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں بات کرنی شروع کی۔ ۲

حضرت باہلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے جابہ شہر میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا ارشاد فرمایا قرآن سیکھو اس سے تمہارا تعارف ہوگا اور قرآن پر عمل کرو اس سے تم قرآن والوں میں سے ہو جاؤ گے اور کسی حقدار کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کی جائے اور اس بات کا یقین رکھو کہ حق بات کہنے سے اور کسی بڑے کو نصیحت کرنے سے نہ تو موت قریب آتی ہے اور نہ اللہ کا رزق دور ہوتا ہے۔ اور اس بات کو جان لو کہ بندے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے اور اگر بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں گھس جاتا ہے (حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا) تو وہ اس پردے کو تو پھاڑ لیتا ہے لیکن اپنے مقدر کی روزی سے زیادہ نہیں پاسکتا گھوڑوں کو سدھاؤ اور تیر چلانا سیکھو اور جونی پہنا کر و اور مسواک کیا کرو۔ اور موٹا جھوٹا استعمال کرو اور عجمیوں کی عادتیں اختیار کرنے سے اور ظالم جابر لوگوں کے پڑوس سے بچو اور اس سے بھی بچو کہ تمہارے درمیان صلیب بلند کی جائے یا تم اس دسترخوان پر بیٹھو

۱۔ اخرجه ابو داؤد فی کتاب القدریة و ابن جریر و ابن ابی حاتم و غیرہم

۲۔ عبد اللہ لکائی و ابن عساکر و غیر ہما کذا فی الکنز (ج ۱ ص ۸۶)

جس پر شراب پی جائے اور بغیر لنگی کے حمام میں داخل ہونے سے بھی بچو اور اس سے بھی بچو کہ تم عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دو کہ وہ حمام میں داخل ہوں کیونکہ حمام میں داخل ہونا عورتوں کے لئے جائز نہیں۔ تم جب عجمیوں کے علاقہ میں پہنچ جاؤ اور ان سے معاہدہ کر لو تو پھر کمائی کے ایسے کام اختیار کرنے سے بچو جن کی وجہ سے تمہیں وہاں ہی رہنا پڑ جائے اور ملک عرب میں واپس نہ آ سکو کیونکہ تمہیں اپنے علاقہ میں عنقریب واپس آنا ہے اور ذلت اور خواری کو اپنی گردان میں ڈالنے سے بچو۔ عرب کے مال مویشی کو لازم پکڑو جہاں بھی جاؤ انہیں ساتھ لے جاؤ اور یہ بات جان لو کہ شراب تین چیزوں سے بنائی جاتی ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور جو اس میں سے پرانی ہو جائے (اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے) تو وہ شراب ہے جو کہ حلال نہیں ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین آدمیوں کو پاک نہیں کریں گے اور انہیں (رحمت کی نگاہ سے) نہیں دیکھیں گے اور انہیں اپنے قریب نہیں کریں گے اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو دنیا لینے کے ارادے سے امام سے بیعت ہو پھر اگر اسے دنیا ملے تو وہ اس بیعت کو پورا کرے ورنہ نہ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد (بیچنے کے لئے) سامان لے کر جائے اور اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہے اس کی اتنی اور اتنی قیمت لگ چکی ہے اور اس کی اس جھوٹی قسم کی وجہ سے وہ سامان بک جائے۔ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر اور تمہارے لئے یہ حلال نہیں کہ تم اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھو اور جو شخص کسی جادوگر، کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور جو وہ کہے اسے سچا مانے تو اس نے محمد ﷺ پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے جابہ میں یہ بیان فرمایا تھا، اما بعد! میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو ہمیشہ رہے گا اور اس کے علاوہ ہر ایک فنا ہو جائے گا جو فرمانبرداری کی وجہ سے اپنے دوستوں کا اکرام کرتا ہے اور نافرمانی کی وجہ سے اپنے دشمنوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب جو کسی گمراہی والے کام کو ہدایت والا سمجھ کر کرتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے یا کسی حق والے کام کو گمراہی والا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے تو اس ہلاک ہونے میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور بادشاہ کو اپنی رعایا کے بارے میں سب سے زیادہ نگرانی اور دیکھ بھال اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس دین کی ان کو ہدایت نصیب فرمائی اس دین والے احکامات ان لوگوں پر لازم ہیں۔ یہ لوگ ان احکامات کو صحیح طرح سے ادا کریں اور ہم ذمہ داران خلافت کے ذمہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اللہ کی اس اطاعت کا حکم دیں جس کا اللہ نے آپ لوگوں کو حکم دیا اور اللہ کی اس نافرمانی سے روکیں جس سے اللہ نے آپ لوگوں کو روکا اور قریب اور دور کے آپ تمام لوگوں میں اللہ کے احکام کو قائم کریں اور جو حق کو



جھکانا چاہتا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دین کے بارے میں بہت سی تمنائیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور مجاہدوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور ہم ہجرت کی نسبت حاصل کریں گے اور وہ ان کاموں کو کرتے تو ہیں لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے اور ایمان صرف صورت بنالینے سے نہیں ملتا اور ہر نماز کا ایک وقت ہے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر فرمایا ہے اس کے بغیر نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب رات ختم ہو جاتی ہے اور روزے دار کے لئے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ فجر میں خوب زیادہ قرآن پڑھا کرو اور ظہر کا وقت سورج کے زوال سے شروع ہو جاتا ہے لیکن گرمیوں میں اس وقت پڑھو جب تمہارا سایہ تمہارے جتنا لمبا ہو جائے۔ اس وقت تک انسان کا دوپہر کا آرام پورا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں اس وقت پڑھو جب کہ سورج تمہارے دائیں ابرو پر آ جائے یعنی زوال کے تھوڑی دیر بعد پڑھ لو اور وضو، رکوع اور سجدے میں اللہ نے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں وہ سب پوری کرو اور یہ سب اس لئے ہے تاکہ سوتا نہ رہ جائے اور نماز قضا ہو جائے اور عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج زرد ہونے سے پہلے ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ ابھی سورج سفید اور صاف ہو اور نماز کے بعد آدمی ست رفتار اونٹ پر چھ میل کا فاصلہ غروب سے پہلے طے کر سکے اور مغرب کی نماز سورج ڈوبتے ہی روزہ کھولنے کا وقت ہوتے ہی پڑھی جائے اور عشاء کی نماز سرخی غائب ہو کر رات کا اندھیرا چھانے سے لے کر تہائی رات تک پڑھی جائے جو اس سے پہلے سو جائے اللہ اسے آرام و سکون کی نیند نہ دے۔ یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مُّؤَقَّوٰتًا (سورت نساء آیت ۱۰۳) ”یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے“ اور ایک آدمی کہتا ہے میں نے ہجرت کی ہے حالانکہ اس کی ہجرت کامل نہیں ہے۔ کامل ہجرت والے تو وہ لوگ ہیں جو تمام برائیاں چھوڑ دیں اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ آدمی دشمن کا مقابلہ بھی کرے اور حرام سے بھی بچے۔ بہت سے لوگ اچھی طرح دشمن سے جنگ کرتے ہیں لیکن ان کا ارادہ اجر لینے کا ہوتا ہے اور نہ اللہ کو یاد کرنے کا۔ اور قتل ہو جانا بھی موت کی ایک صورت ہے یعنی قتل ہونا شہادت اس وقت شمار ہوگا جب کہ صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کی نیت سے جنگ کر رہا ہو اور ہر آدمی اسی نیت پر شمار کیا جائے گا جس نیت سے اس نے جنگ کی ہے۔ ایک آدمی اس لئے جنگ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت میں بہادری ہے اور جسے جانتا ہے اور جسے نہیں جانتا ہر ایک کو جنگ کر کے دشمن سے بچانا ہے ایک آدمی طبعاً بزدل ہوتا ہے وہ تو اپنے ماں باپ کی مدد نہیں کر سکتا بلکہ انہیں دشمن کے حوالے کر دیتا ہے حالانکہ کتابھی اپنے گھر والوں کے پیچھے سے بھونکتا ہے یعنی بزدل آدمی کتے سے بھی کیا گزرا ہوتا ہے اور جان لو کہ روزہ قابل احترام عمل ہے۔ آدمی روزہ رکھ کر جیسے کھانے، پینے اور

عورتوں کی لذت سے بچتا ہے ایسے ہی اگر مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بھی بچے تو پھر اس کا روزہ کامل درجہ کا ہوگا اور زکوٰۃ حضور ﷺ نے (اللہ کے فرمانے سے) فرض کی ہے اسے خوشی خوشی ادا کیا جائے اور زکوٰۃ لینے والے پر اپنا احسان نہ سمجھا جائے۔ تمہیں جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لو جس کا دین لٹ گیا اس کا سب کچھ لٹ گیا خوش قسمت وہ ہے جو دوسرے کے حالات سے عبرت اور نصیحت حاصل کر لے۔ بد بخت وہ ہے جو کہ ماں کے پیٹ میں یعنی ازل سے بد بخت ہوا ہو اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے گھڑے جائیں اور سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بدعت میں بہت زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے اور لوگوں کے دلوں میں اپنے بادشاہ سے نفرت ہوا کرتی ہے میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ میں اور تم میں طبعی کینہ پیدا ہو جائے یا میں اور تم خواہشات کے پیچھے چلنے لگ جائیں یا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگ جائیں اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ کہیں ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ اور مالداروں پر تمہیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ تم اس قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں نور اور شفاء ہے باقی سب کچھ تو بد بختی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے جن کاموں کا والی بنایا ہے ان میں جو حق میرے ذمہ تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کے جذبہ سے تمہیں وعظ و نصیحت بھی کر چکا ہوں۔ ہم نے اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ تمہیں تمہارے حصے (بیت المال میں سے) دے دیئے جائیں اور تمہارے لشکروں کو ہم جمع کر چکے ہیں اور جہاں جا کر تم نے غزوہ کرنا ہے وہ جگہیں ہم مقرر کر چکے ہیں اور تمہارے پڑاؤ کی جگہیں بھی مقرر کر دی ہیں اور تلواروں سے لڑ کر جو تم نے مالِ غنیمت حاصل کیا ہے اس میں ہم نے تمہارے لئے پوری طرح وسعت کی ہے لہذا اب تمہارے پاس اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کوئی عذر نہیں ہے بلکہ سارے وہ دلائل ہیں جن سے اللہ کا ہر حکم ماننا تم پر لازم آتا ہے۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لئے اور سب کے لئے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔!

سیف راوی نے اسی روایت کے ضمن میں بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علی بن ابی طالبؓ کو مدینہ میں اپنی جگہ خلیفہ بنایا پھر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تاکہ سفر تیزی سے پورا ہو۔ چلتے چلتے جابیہ شہر پہنچ گئے۔ وہاں قیام فرمایا وہاں ایک زبردست مؤثر بیان فرمایا اس میں فرمایا اے لوگو! اپنے باطن کی اصلاح کر لو تمہارا ظاہر خود بخود ڈھیک ہو جائے گا۔ تم اپنی آخرت کے لئے عمل کرو تمہاری دنیا کے کام منجانب اللہ خود ہی ہو جائیں گے اور کسی آدمی کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ایسا کوئی زندہ باپ نہیں ہے جو موت کے وقت اس کے کام آسکے اور نہ کسی آدمی کے اور اللہ کے درمیان نرمی کا کوئی معاہدہ ہے اور جو آدمی اپنے لئے جنت کا راستہ واضح کرنا چاہتا ہے

اسے چاہئے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے رکھے کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے بہت دور ہوتا ہے، اور کوئی آدمی ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے ورنہ شیطان ان دو کے ساتھ تیسرا ہوگا۔ جسے اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی سے رنج و صدمہ ہو وہ کامل ایمان والا ہے۔ راوی لکھتے ہیں یہ بیان بہت لمبا ہے جسے ہم نے اختصار سے ذکر کیا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے جاہلیہ میں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا جیسے میں تم میں کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہوں ایسے ہی ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ہم میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا تھا جس میں آپؐ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے صحابہؓ کے بارے میں اچھا معاملہ کرنے کی وصیت قبول کرو اور جو ان کے بعد والے ہیں ان کے بارے میں یہی وصیت قبول کرو اور پھر جو ان کے بعد والے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی وصیت قبول کرو یعنی تابعین اور تبع تابعین کے بارے میں۔ ان تین طبقات کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا یہاں تک کہ آدمی سے گواہی دینے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور خود ہی (جھوٹی) گواہی دینی شروع کر دے گا۔ تم میں سے جو آدمی جنت کے عین بیچ میں جانا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے رکھے کیونکہ شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے اور دو آدمیوں سے بہت دور ہوتا ہے اور تم میں سے کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی اختیار نہ کرے ورنہ شیطان ان دو کے ساتھ تیسرا ہوگا جسے اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی سے رنج و صدمہ ہو وہ ایمان والا ہے۔

حضرت سید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے جاہلیہ شہر میں لوگوں میں بیان فرمایا ارشاد فرمایا حضور ﷺ نے (مردوں کو) ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے صرف دو تین یا چار انگلی کے برابر ریشم پہننے کی اجازت دی ہے۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے سمجھانے کے لئے ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا۔

سیف راوی نے بیان کیا کہ طاعون عمو اس کے بعد ۷ھ کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام آئے جب ذی الحجہ میں وہاں سے مدینہ واپس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا غور سے سنو! مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا والی بنایا ہے اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں آتی ہیں میں نے ماشاء اللہ وہ سب ادا کر دی ہیں اور تمہارے حصہ کا مال غنیمت تم میں پھیلا دیا ہے اور پڑاؤ ڈالنے کی جگہیں اور غزوہ کرنے کی جگہیں سب تفصیل سے تمہیں بتادی ہیں جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ سب تمہیں پہنچا دیا ہے۔ تمہارے لشکر جمع کر دیئے ہیں اور تمہارے لئے ترقی کی راہیں مہیا کر دی ہیں اور تمہیں ٹھکانے دے دیئے ہیں اور ملک شام میں جنگ کر کے تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا وہ سب تم

۱۔ قالہ ابن کثیر فی الدایۃ (ج ۷ ص ۵۶) ۲۔ عند احمد (ج ۱ ص ۱۸)

۳۔ عند احمد ایضاً (ج ۱ ص ۵۱)

لوگوں میں وسعت سے تقسیم کر دیا ہے تمہاری خوراک مقرر کر دی ہے اور تمہیں عطا کیا، روزینہ اور مالِ غنیمت دینے کا ہم نے حکم دے دیا ہے۔ کوئی آدمی ایسی چیز جانتا ہو جس پر عمل کرنا مناسب ہو وہ ہمیں بتائے ہم اس پر انشاء اللہ ضرور عمل کریں گے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ سے ہی ملتی ہے۔

حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہما اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء اس کی شان کے مناسب بیان کی پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کے بارے میں یاد دہانی کرائی پھر فرمایا اے لوگو! مجھے تمہارا دالی اور امیر بنایا گیا ہے اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ میں تم میں سے تمہارے لئے سب سے بہتر، سب سے زیادہ قوی اور پیش آنے والے اہم امور میں سب سے زیادہ مضبوط رہوں گا تو ہرگز میں آپ لوگوں کا امیر نہ بنا اور عمر کے فکر مند اور غمگین ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اسے حساب کے ٹھیک نکلنے کا انتظار ہے اور حساب اس بات کا کہ تم سے حقوق لے کر کہاں رکھوں اور تم لوگوں کے ساتھ کیسے چلوں۔ میں اپنے رب سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، مدد اور تائید سے عمر کا مدارک نہ فرمادیں تو عمر کو کسی طاقت اور تدبیر پر کوئی اعتماد نہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا امیر بنا دیا ہے جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان میں سے جو چیز تمہیں سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے اس سے خوب اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اس سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز میں میری مدد کرے اور جیسے اور چیزوں میں میری حفاظت کر رہا ہے ایسے ہی اس میں میری حفاظت فرمائے اور جیسے کہ اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے وہ مجھے تم لوگوں کی تقسیم میں عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مسلمان آدمی اور کمزور بندہ ہوں لیکن اگر اللہ میری مدد فرمائے تو پھر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ امارت و خلافت جو مجھے دی گئی ہے۔ یہ انشاء اللہ میرے اچھے اخلاق کو نہیں بدل سکے گی اور عظمت اور بڑائی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور بندوں کے لئے اس میں سے کچھ بھی نہیں لہذا تم میں سے کوئی آدمی ہرگز یہ نہ کہے کہ جب سے عمر امیر بنا ہے بدل گیا ہے۔ میں اپنے نفس کے حق کو خوب سمجھتا ہوں (یا میں اپنے بارے میں حق بات کو خوب سمجھتا ہوں) میں خود آگے بڑھ کر اپنی بات بیان کرتا ہوں لہذا جس آدمی کو کوئی ضرورت ہے یا اس پر کسی نے ظلم کیا ہے یا ہماری بد چلتی کی وجہ سے اسے ہم پر غصہ آیا ہوا ہے تو وہ مجھے بتادے کیونکہ میں بھی تم میں سے ایک آدمی ہوں اور تم لوگ اپنے ظاہر اور باطن میں اور اپنی قابل احترام چیزوں اور آبرو میں اللہ سے ڈرتے رہو اور جو حقوق تمہارے اوپر ہیں تم انہیں ادا کرو اور تم

ایک دوسرے کو اپنے مقدمات میرے پاس لے کر آنے پر آمادہ نہ کرو کیونکہ میرے اور لوگوں میں سے کسی کے درمیان نرمی یا طرفداری کا کوئی معاہدہ نہیں۔ تم لوگوں کی درستگی مجھے محبوب ہے اور تمہاری ناراضگی مجھ پر بہت گراں ہے۔ تم میں سے اکثر لوگ شہروں میں مقیم ہیں اور تمہارے علاقہ میں نہ کوئی خاص کھیتی باڑی ہے اور نہ دودھ والے جانور زیادہ ہیں بس وہی غلے اور جانور یہاں ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ باہر سے لے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت زیادہ اکرام کا وعدہ کیا ہوا ہے اور میں اپنی امانت کا ذمہ دار ہوں۔ امانت کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا لیکن امانت کا جو حصہ میرے سامنے ہے اس کی دیکھ بھال تو میں خود کروں گا یہ کسی کے سپرد نہیں کروں گا لیکن امانت کا جو حصہ مجھ سے دور ہے میں اس کی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتا اسے سنبھالنے کے لئے میں تم میں سے ایسے لوگ استعمال کروں گا جو امانت دار ہیں اور عام لوگوں کے لئے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہیں اور انشاء اللہ اپنی امانت ایسے لوگوں کے علاوہ اور کسی کے سپرد نہیں کروں گا۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا پھر فرمایا اے لوگو! لالچ کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان فقیر اور محتاج ہو جاتا ہے اور (لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے) ناامیدی کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن سے انسان غنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تم وہ چیزیں جمع کرتے ہو جس کو کھانا نہیں سکتے اور ان باتوں کی امید لگاتے ہو جنہیں پانہیں سکتے۔ تم دھوکے والے گھر یعنی دنیا میں ہو اور تمہیں موت تک کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ حضور ﷺ کے زمانے میں تو تم لوگ وحی کے ذریعے سے پکڑے جاتے تھے جو اپنے باطن میں کوئی چیز چھپاتا تھا اس کی اس چیز پر پکڑ ہو جاتی تھی (اس کے اندر کی اس چیز کا پتہ وحی سے چل جاتا تھا) اور جو کسی چیز کو ظاہر کرتا تھا اس کی اس چیز پر گرفت ہو جاتی تھی۔ لہذا اب تم لوگ ہمارے سامنے اپنے سب سے اچھے اخلاق ظاہر کرو باقی رہے تمہارے اندرونی حالات اور باطن کی نیتیں تو انہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اب جو ہمارے سامنے کسی بری چیز کو ظاہر کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ اس کی اندرونی حالت بہت اچھی ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور جو ہمارے سامنے کسی اچھی چیز کو ظاہر کرے گا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے اور یہ بات جان لو کہ کنجوسی کی بعض صورتیں نفاق کا شعبہ ہیں لہذا تم خرچ کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خَبْرًا لَا نَفْسِكُمْ وَمَنْ يُّؤَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورت تغابن آیت ۱۶) اور (بالخصوص مواقع حکم میں) خرچ (بھی) کیا کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ (آخرت میں) فلاح پانے والے ہیں "اے لوگو! اپنے ٹھکانے پاک ساف رکھو اور اپنے تمام امور کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اور اپنی عورتوں کو فیصلی

(مصری) کپڑے نہ پہناؤ کیونکہ ان سے اندر جسم نظر تو نہیں آتا لیکن اس کی نوعیت معلوم ہو جاتی ہے۔ اے لوگو! میری تمنا یہ ہے کہ میں برابر سراب نجات پا جاؤں نہ مجھے انعام ملے اور نہ سزا اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ آئندہ مجھے تھوڑی یا زیادہ جتنی عمر ملے گی میں اس میں انشاء اللہ حق پر عمل کروں گا اور ہر مسلمان کا اللہ کے مال میں جتنا حصہ ہے وہ حصہ خود اس کے پاس اس کے گھر پہنچے گا اور اسے اس حصہ کے لینے کے لئے نہ کچھ کرنا پڑے گا اور نہ کبھی تھکنا پڑے گا اور جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں انہیں درست کرتے رہو اور سہولت کی تھوڑی کمائی اس زیادہ کمائی سے بہتر ہے جس کے لئے بڑی مشقت اٹھانی پڑے اور قتل ہو جانا مرنے کی ایک صورت ہے جو نیک اور بد، ہر آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے لیکن ہر قتل ہونے والا اللہ کے ہاں شہید نہیں ہوتا بلکہ شہید وہ ہے جس کی نیت اجر و ثواب لینے کی ہو اور جب تم کوئی اونٹ خریدنا چاہو تو لہبا اور بڑا اونٹ دیکھو اور اسے اپنی لاشی مارو اگر تم اسے چوکنے دل والا پاؤ تو اسے خرید لو۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں پر شکر واجب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اور بغیر طلب کے جو دنیا اور آخرت کی شرافت تمہیں عطا فرمائی ہے اس بارے میں تمہارے اوپر کئی دلیلیں بنا دی ہیں تم لوگ کچھ نہیں تھے لیکن اس نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا بھی اپنے لئے اور اپنی عبادت کے لئے کیا حالانکہ وہ تمہیں (انسان نہ بناتا بلکہ) اپنی سب سے بے قیمت مخلوق بنا سکتا تھا اور اپنی ساری مخلوق تمہارے فائدہ اور خدمت کے لئے بنائی اور تمہیں اپنے علاوہ اور کسی مخلوق کے لئے نہیں بنایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظٰهِرَةً وَّ بَاطِنَةً (سورت لقمان آیت ۲۰) ”اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی ہیں“ اور اس نے تمہیں خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار بنو پھر تمہارے کان اور آنکھیں بنائیں پھر اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمام بنی آدم کو ملی ہیں اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف تم دین اسلام والوں کو ملی ہیں پھر یہ تمام خاص اور عام نعمتیں تمہاری حکومت میں تمہارے زمانہ میں تمہارے طبقہ میں خوب فراوانی سے ہیں اور ان نعمتوں میں سے ہر نعمت تم میں سے ہر آدمی کو اتنی زیادہ مقدار میں ملی ہے کہ اگر وہ نعمت تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جائیں اور اس کا حق ادا کرنا ان پر بھاری ہو جائے۔ ہاں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ ان کی مدد کرے تو پھر وہ اس نعمت کا شکر اور اس کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اللہ نے تمام روئے زمین پر تمہیں

اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے اور زمین والوں پر تم غالب آئے ہوئے ہو اور اللہ نے تمہارے دین کی خوب مدد کی ہے اور جن لوگوں نے تمہارا دین اختیار نہیں کیا ان کے دوحصے ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسلام اور اسلام والوں کے غلام بن گئے ہیں (اس سے مراد ذمی لوگ ہیں) جو تمہیں جزیہ دیتے ہیں خون پسینہ ایک کر کے کھاتے ہیں اور طلب معاش میں ہر طرح کی مشقت اٹھاتے ہیں مشقت ساری ان کے ذمہ ہے اور ان کی کمائی سے جزیہ کا فائدہ آپ لوگوں کو ملتا ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دن رات ہر وقت اللہ کے لشکروں کے حملوں کے منتظر ہیں (اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کے پاس صحابہ کرامؓ کے لشکر جانے والے تھے) اللہ نے ان کے دلوں کو رعب سے بھر دیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہیں پناہ مل جائے یا بھاگ کر وہاں چلے جائیں اور اسلامی لشکروں سے کسی طرح بچ جائیں اللہ کے لشکر ان پر چھا گئے ہیں اور ان کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں اور اللہ کے حکم سے ان لشکروں کو زندگی کی وسعت، مال کی بہتات، لشکروں کا تسلسل اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت جیسی نعمتوں کے ساتھ عافیت امن و امان جیسی بڑی نعمت بھی حاصل ہے اور جب سے اسلام شروع ہوا ہے کبھی اس امت کے ظاہری حالات اس سے زیادہ اچھے نہیں رہے اور ہر شہر میں مسلمانوں کو جو بڑی بڑی فتوحات ہو رہی ہیں ان پر اللہ ہی کی تعریف ہونی چاہئے اور یہ جو بے حساب نعمتیں حاصل ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ان کے مقابلہ میں مسلمان کتنا ہی اللہ کا شکر اور ذکر کر لیں اور دین کے لئے کتنی ہی محنت کر لیں وہ ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہاں اللہ اگر ان کی مدد فرمائے اور ان کے ساتھ رحم اور مہربانی کا معاملہ فرمائے تو اور بات ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی نے ہم پر یہ اتنے انعام و احسان فرمائے ہیں ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت والے عمل کرنے کی اور اپنی رضا کی طرف جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کے بندو! اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں انہیں اپنی مجلسوں میں دو دو ایک ایک ہو کر یاد کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو پورا کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ (سورت ابراہیم آیت ۵) ”اپنی قوم کو (کفر کی) تاریکیوں سے (ایمان کی) روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے معاملات (نعمت اور نعمت کے) یاد دلاؤ“ اور حضرت محمد ﷺ کو فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ (سورت انفال آیت ۲۶) ”اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم قلیل تھے سرزمین میں کمزور شمار کئے جاتے تھے“ جب تم لوگ اسلام سے پہلے کمزور شمار کئے جاتے تھے اور دنیا کی خیر سے محروم تھے اگر اس وقت تم حق کے کسی شعبہ پر ہوتے اس شعبہ پر ایمان لاتے اور اس سے آرام پاتے اور اللہ اور اس کے دین کی معرفت تمہیں حاصل ہوتی اور اس شعبہ سے مرنے کے بعد کی زندگی میں تم لوگ خیر کی امید رکھتے تو یہ تو کوئی بات ہوتی لیکن تم تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں

میں سب سے زیادہ سخت زندگی والے اور اللہ کی ذات و صفات سے سب سے زیادہ جاہل تھے پھر اللہ نے اسلام کے ذریعہ تمہیں ہلاکت سے بچایا اب اچھا یہ تھا کہ صرف اسلام ہوتا اس کے ساتھ تمہاری دنیا کا کوئی حصہ نہ ہوتا اور آخرت میں جہاں تم نے لوٹ کر جانا ہے وہاں یہ اسلام تمہارے لئے بھروسہ کی چیز ہوتی اور تم جس مشقت والی زندگی پر تھے اس زندگی میں تم اس بات کے قابل تھے کہ اسلام میں سے اپنے حصہ پر کتجوسی کرو اسی سے چٹے رہو اور اسے دوسروں پر ظاہر کرو لہذا تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی فضیلت اور آخرت کی شرافت دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو اسے اس کے حال پر چھوڑو جو وہ چاہتا ہے اسے چاہنے دو میں تمہیں اس اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں جو تمہارے اور تمہارے دلوں کے درمیان حائل ہے تم اللہ کا حق پہچانو اور اس حق والے عمل کرو اور اپنے نفسوں کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرو تمہیں نعمتوں پر خوش بھی ہونا چاہئے لیکن یہ ڈر بھی ہونا چاہئے کہ نہ معلوم کب یہ نعمتیں تم سے چھین جائیں اور دوسروں کو مل جائیں کیونکہ کوئی چیز ناشکری سے زیادہ نعمت سے محروم کرانے والی نہیں ہے اور شکر کرنے سے نعمت بدل جانے سے محفوظ ہو جاتی ہے اور اس سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ کام اللہ کی طرف سے میرے ذمہ واجب ہے کہ میں تمہیں مفید کاموں کا حکم دوں اور نقصان دہ کاموں سے روکوں۔

حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن بیان کیا اور اس میں سورت آل عمران کی آیتیں پڑھیں جب اس آیت پر پہنچے اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ النَّفْثِ الْجَمْعَانِ (سورت آل عمران آیت ۱۵۵) ”یقیناً تم میں جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کہ دونوں جماعتیں باہم متقابل ہوئیں“ حضرت عمرؓ نے فرمایا جنگ احد میں ہمیں شکست ہوگئی۔ میں بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا میں نے دیکھا کہ میں پہاڑی بکرے کی طرح چھلانگیں لگا کر بھاگ رہا ہوں اور لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت محمدؐ قتل کر دیئے گئے۔ میں نے کہا جو یہ کہے گا حضرت محمدؐ قتل کر دیئے گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ پھر ہم سب پہاڑ پر جمع ہو گئے اس پر یہ آیت اِنَّ الَّذِیْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ یَوْمَ النَّفْثِ الْجَمْعَانِ نازل ہوئی۔

حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اور منبر پر سورت آل عمران پڑھی پھر فرمایا اس سورت کا جنگ احد سے بہت تعلق ہے ہم جنگ احد کے دوران حضور ﷺ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے تھے میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں نے ایک یہودی کو سنا وہ کہہ رہا تھا حضرت محمدؐ قتل کر دیئے گئے۔ میں نے کہا میں جسے بھی یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ حضرت محمدؐ قتل کر دیئے گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا تو مجھے ایک جگہ حضور نظر آئے اور لوگ آپؐ کے پاس لوٹ کر آ رہے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی



وما محمد الا رسول (سورت آل عمران آیت ۱۴۴) ”اور محمد نرے رسول ہی تو ہیں۔ آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں سواگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ اٹنے پھر جاؤ گے۔“

حضرت عبداللہ بن عدی بن خیار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے منبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا جب بندہ اللہ کی وجہ سے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر و منزلت بڑھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بلند ہو جا اللہ تجھے بلند کرے۔ یہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے اور جب بندہ تکبر کرتا ہے اور اپنی حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توڑ کر نیچے زمین پر گرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں دور ہو جا اللہ تجھے دور کرے اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کے نزدیک سور سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایسی چیزوں سے روک دیتا ہوں جن میں آپ لوگوں کا فائدہ ہو اور ایسی چیزوں کا حکم دے دیتا ہوں جن میں آپ لوگوں کا فائدہ نہ ہو اور قرآن میں سب سے آخر میں سود کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی اور حضور ﷺ ہمارے لئے ابھی سود کی اس آیت کی (موٹی موٹی اور بنیادی باتیں تو بیان فرماتے تھے لیکن اس کی تفصیلی اور باریک باریک باتیں بیان نہ کر پائے تھے کہ آپ کی وفات ہوگئی) کیونکہ حضور اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشغول تھے) اس لئے جس صورت میں تمہیں سود کا کچھ کھنکا ہوا سے چھوڑ دیا کرو اور جس میں کوئی کھنکا نہ ہو وہ اختیار کر لیا کرو۔

حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے لوگوں میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا تم میں سے جو بھی حج کا ارادہ کرے تو وہ صرف میقات سے ہی احرام باندھے اور احرام باندھنے کے لئے حضور ﷺ نے جو میقات مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں مدینہ والوں کے لئے اور دوسری جگہ کے رہنے والے مدینہ سے گزریں تو ان کے لئے ذوالحلیفہ میقات ہے اور شام والوں کے لئے اور دوسری جگہ کے رہنے والوں شام سے گزریں تو ان کے لئے جحفہ میقات ہے اور نجد والوں کے لئے اور دوسری جگہ کے رہنے والے نجد سے گزریں تو ان کے لئے قرن میقات ہے اور یمن والوں کے لئے یلملم اور عراق والوں اور باقی تمام لوگوں کے لئے ذات عرق

۱۔ عند ابن المنذر کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۳۸)

۲۔ اخرجه ابو عبيد والخراطي و الصابوني و عبدالرزاق كذا في الكنز (ج ۲ ص ۱۴۳)

۳۔ اخرجه الخطيب كذا في الكنز (ج ۲ ص ۲۳۲)

میقات ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے بیان فرمایا اور اس میں رجم کا یعنی زنا کرنے والوں کو سنگسار کرنے کی سزا کا ذکر کیا اور فرمایا رجم کے بارے میں دھوکہ نہ کھالینا کیونکہ (اگرچہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن) یہ بھی اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ غور سے سنو! حضور ﷺ نے خود رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ عمرؓ نے اللہ کی کتاب میں وہ چیز بڑھادی جو اس میں نہیں تھی تو میں قرآن کے کنارے پر یہ لکھ دیتا کہ عمر بن خطاب، حضرت عبدالرحمن بن عوف، فلاں اور فلاں صحابی اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور ﷺ نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے رجم کیا ہے۔ غور سے سنو! تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو رجم کو، دجال کو، شفاعت کو، عذابِ قبر کو اور ان لوگوں کو جو جل جانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے ان سب چیزوں کو جھٹلائیں گے۔

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ جب منیٰ سے واپس ہوئے تو انہوں نے پتھر لے میدان میں اپنی سواری بٹھائی پھر کنکریوں کی ایک ڈھیری بنا کر اپنے کپڑے کا کنارہ اس ڈھیری پر ڈالا اور اس پر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے اللہ! میری عمر زیادہ ہوگئی ہے اور میری قوت کمزور ہوگئی ہے اور میری رعایا بہت پھیل گئی ہے۔ اس لئے اب مجھے اپنی طرف اس طرح اٹھالے کہ میں تیرے احکام کو نہ ضائع کرنے والا بنوں اور نہ ان میں کمی کرنے والا پھر جب حضرت عمرؓ مدینہ پہنچے تو لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! کچھ اعمال تم پر فرض کئے گئے ہیں اور سنیں تمہارے لئے صاف بیان کر دی گئی ہیں اور تمہیں ایک واضح اور صاف ملت پر چھوڑا گیا ہے پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا اس کے بعد بھی تم دائیں بائیں ہو کر لوگوں کو گمراہ کرتے پھر تو یہ الگ بات ہے پھر تم اس بات سے بچو کہ رجم کی آیت کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی یوں کہے کہ ہمیں کتاب اللہ میں زنا کے بارے میں دو سزائیں نہیں ملتیں (ایک رجم کی اور دوسری کوڑے مارنے کی بلکہ ہمیں تو صرف ایک سزا ملتی ہے یعنی کوڑے مارنے کی) میں نے خود دیکھا کہ حضور ﷺ نے رجم کیا ہے اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ہے۔ اللہ کی قسم! اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمرؓ نے اللہ کی کتاب میں نئی چیز بڑھادی تو میں یہ عبارت قرآن میں لکھ دیتا الشیخ والشیخۃ اذا زنیفا رجموهما البتہ شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو دونوں کو ضرور رجم کرو کیونکہ (پہلے یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی اور) ہم قرآن میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے (بعد میں یہ الفاظ منسوخ ہو گئے لیکن ان کا حکم اب بھی باقی ہے) حضرت سعید کہتے ہیں ابھی ذوالحجہ کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ

حضرت عمرؓ کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا گیا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔

حضرت معدان بن ابی طلحہ یحمری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت عمر بن خطابؓ منبر پر کھڑے ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کا ذکر کیا پھر فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں یہی سمجھا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے مجھے دو دفعہ چونچ ماری ہے۔ میں نے اس خواب کا ذکر (اپنی بیوی) اسماء بنت عمیسؓ سے کیا اس نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ عجم کا ایک آدمی آپ کو قتل کرے گا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں (خلیفہ مقرر کرنا ٹھیک تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے) مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین اور خلافت دے کر اپنے نبی کریم ﷺ کو بھیجا ہے اسے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیں گے اگر (دنیا سے جانے کا) میرا معاملہ جلدی ہو گیا تو یہ چھ آدمی جن سے دنیا سے جاتے وقت حضور راضی تھے آپس کے مشورے سے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ تم ان میں سے جس سے بھی بیعت کرو اس کی بات سنو اور مانو اور مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ اس امر خلافت میں اعتراض کریں گے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے اپنے اس ہاتھ سے اسلام پر جنگ کی ہے اگر وہ لوگ ایسا کریں تو وہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہوں گے (اگر وہ اس اعتراض کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر واقعی وہ کافر ہو جائیں گے ورنہ ان کا یہ عمل کافروں کے عمل کے مشابہ ہو جائے گا) میں کوئی ایسی چیز چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں جو میرے نزدیک کلالہ کے معاملہ سے زیادہ اہم ہو (کلالہ وہ آدمی ہے جس کے نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہوں) اللہ کی قسم! جب سے میں حضور ﷺ کے ساتھ رہا ہوں حضور نے کسی بھی چیز کے بارے میں میرے ساتھ اتنی سختی نہیں کی جتنی سختی میرے ساتھ اس کلالہ کے بارے میں کی ہے یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینہ پر مار کر فرمایا سورت نساء کے آخر میں گرمیوں میں جو آیت (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله) نازل ہوئی ہے وہ تمہارے لئے کافی ہے اگر میں زندہ رہا تو کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں شہر کے گورنروں کو اس لئے بھیجتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کو دین اور ان کے نبی کریم ﷺ کی سنت سکھائیں اور جو کوئی نیا یا پچیدہ معاملہ ایسا پیش آ جائے جس کا انہیں حل سمجھ میں نہ آئے تو وہ اسے میرے پاس بھیج دیں پھر اے لوگو! تم یہ دو سبزیاں کھاتے ہو میں تو انہیں برا ہی سمجھتا ہوں دلہن اور پیاز ہیں۔ اللہ کی قسم! میں نے اللہ کے نبی ﷺ کو دیکھا ہے کہ انہیں (مسجد میں) جس

آدی سے لہسن یا پیاز کی بو آ جاتی تھی تو اسے حضورؐ کے فرمانے پر ہاتھ سے پکڑ کر مسجد سے باہر نکال کر جنت البقیع پہنچا دیا جاتا تھا لہذا جو شخص لہسن یا پیاز ضرور ہی کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر (ان کی بو) مار دے۔ حضرت عمرؓ نے یہ بیان جمعہ کے دن فرمایا اور اس کے بعد بدھ کے دن انہیں حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا جبکہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں چار دن باقی تھے۔

حضرت یسار بن معرور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! حضور ﷺ نے یہ مسجد بنائی اور مسجد بنانے میں ہم مہاجرین اور انصار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب مسجد میں مجمع زیادہ ہو جائے تو تم میں سے ہر آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے آگے والے بھائی کی پشت پر سجدے کر لے اور حضرت عمرؓ نے کچھ لوگوں کو راستہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا مسجد میں نماز پڑھو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب حضرت عمرؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا حضور ﷺ نے ہمیں متعہ کی تین دن کے لئے اجازت دی تھی پھر اس کے بعد آپ نے ہمیشہ کے لئے متعہ کو حرام فرمادیا تھا (متعہ یہ ہے کہ آدمی ایک مقرر وقت تک کے لئے شادی کرے۔ خیبر سے پہلے متعہ والا نکاح حلال تھا خیبر کے بعد حضورؐ نے حرام قرار دے دیا تھا پھر فتح مکہ کے موقع پر حضورؐ نے متعہ کی صحابہؓ کو اجازت دی تھی پھر تین دن کے بعد اسے ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا تھا) اللہ کی قسم! اب مجھے جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس نے متعہ والا نکاح کیا ہے تو میں اسے سنگسار کر دوں گا یا وہ میرے پاس چار ایسے گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ حضور ﷺ نے متعہ کو حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا اور جو غیر شادی شدہ آدمی مجھے ایسا ملا جو متعہ والا نکاح کرے تو میں اسے سو کوڑے ماروں گا یا وہ میرے پاس ایسے چار گواہ لے کر آئے جو اس بات کی گواہی دیں کہ حضورؐ نے متعہ حرام کرنے کے بعد پھر حلال کر دیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن سعید کے دادا کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چھٹی ملکوں میں سے ان کی عورتیں اور بچے مال غنیمت میں (باندی اور غلام بنا کر) اتنے دے دیئے ہیں کہ نہ تو اتنے حضورؐ کو دیئے تھے اور نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بہت سے مردان عورتوں سے صحبت

۱۔ اخرجہ الطیالسی و ابن سعد و ابن شیبہ و احمد و ابن حبان و مسلم و النسائی و ابو عوانہ و ابو یعلیٰ کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۵۳) ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط و احمد و الشافعی و البیہقی و سعید بن منصور کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۲۵۹)

۳۔ اخرجہ ابن عساکر و سعید ابن منصور و لمع کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۹۳)

کرتے ہیں (کیونکہ یہ باندیاں ہیں اور باندیوں سے صحبت کرنا مالک کے لئے جائز ہے) اب جس عجمی باندی سے تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو تم اسے نہ بیچنا کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ اپنی کسی محرم عورت سے صحبت کر لے (ہو سکتا ہے کہ آدمی باندی کو بیچ دے اور باندی سے جو لڑکا پیدا ہوا تھا وہ اسی آدمی کا بیٹا تھا وہ اسی کے پاس رہ گیا بعد میں اس لڑکے نے اسی باندی کو خرید لیا اور اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ماں ہے)۔

حضرت معرور یا ابن معرور رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ منبر پر چڑھے اور حضور ﷺ والی جگہ سے دو میٹر ہی نیچے بیٹھ گئے وہاں میں نے ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا والی و حاکم بنا دیں اس کی بات سنو اور مانو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے تم میں سے وہ آدمی کامیاب رہا جو خواہش پر چلنے سے، غصہ میں آنے اور لالچ میں پڑنے سے محفوظ رہا اور جسے گفتگو میں سچ بولنے کی توفیق دی گئی کیونکہ سچ اسے خیر کی طرف لے جائے گا اور جو شخص جھوٹ بولے گا وہ گناہ کے کام کرے گا اور جو گناہ کے کام کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور گناہ کے کاموں سے بچو اور اس شخص کا کیا گناہ کرنا جو مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی کی طرف لوٹ جائے گا۔ آج وہ زندہ ہے کل مردہ ہوگا۔ روزانہ کا کام کرو اور مظلوم کی بددعا سے بچو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔

حضرت قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا جو توبہ نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو (برے کاموں سے) نہیں بچتا اسے (عذاب سے) نہیں بچایا جاتا۔

حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے اپنے بیان میں فرمایا یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ لالچ فقر کی نشانی ہے اور ناامیدی سے انسان غنی ہو جاتا ہے۔ آدمی جب کسی چیز سے ناامید ہو جاتا ہے تو آدمی کو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔

حضرت عبداللہ بن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو

۱۔ اخرجہ البیہقی عن عبداللہ بن سعید کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۲۹۲) ۲۔ اخرجہ ابن جریر کذا فی

الکنز (ج ۸ ص ۲۰۸) ۳۔ اخرجہ البیہقی کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۲۰۸)

۴۔ اخرجہ البخاری فی الادب و ابن خزیمة و جعفر القرطابی کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۲۰۷)

۵۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۰) کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۲۳۵)



بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا اے اللہ! اپنی امان کے ذریعہ ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرما۔

حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو جس چیز کی چاہی اجازت دے دی (چنانچہ حضور ﷺ نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا بعد میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسی احرام میں عمرہ کی نیت بھی کر لی اب ایسا کرنے کی امت کو اجازت نہیں ہے) اور اب اللہ کے نبی اپنے راستہ پر (دنیا سے) تشریف لے جا چکے ہیں لہذا حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے ایسے پورا کرو جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے اور ان عورتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔

حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا اسے آخرت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ انہوں نے اذان اور اقامت کے بغیر خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! حضور ﷺ نے ان دونوں کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو عید الفطر کا دن جس دن تم رمضان کے روزوں سے افطار کرتے ہو اور عید مناتے ہو اور دوسرا وہ دن جس دن تم لوگ اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔

حضرت علقمہ بن وقاص لیشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطابؓ کو لوگوں میں بیان کرتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے میں نے حضور ﷺ کو فرماتے سنا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو عمل پر وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا لہذا جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہی شمار ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لئے شمار ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی۔

حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رمادہ کی قحط سالی کے زمانے میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۴) ۲۔ زادہ احمد فی الزہد و الروایاتی واللکاتی و ابن  
عساکر کما فی الكنز (ج ۱۰ ص ۳۰۳) ۳۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۱۷)  
۴۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۲۰) ۵۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۳۳)  
۶۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۳۳)

اور تمہارے جو کام لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں ان میں بھی اللہ سے ڈرو مجھے تمہارے ذریعہ سے آزما یا جا رہا ہے اور تمہیں میرے ذریعہ سے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے ناراض ہو کر جو یہ قحط سالی بھیجی ہے وہ کس سے ناراض ہے؟ (وہ مجھ سے ناراض ہے اور تم سے نہیں یا تم سے ناراض ہے مجھ سے نہیں یا مجھ سے اور تم سے دونوں سے ہی ناراض ہے۔ آؤ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو ٹھیک کر دے اور ہم پر رحم فرمائے اور یہ قحط ہم سے دور کر دے۔ راوی کہتے ہیں اس دن دیکھا گیا کہ حضرت عمرؓ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور لوگ بھی دعا کر رہے ہیں پھر حضرت عمرؓ اور لوگ تھوڑی دیر روٹے رہے پھر حضرت عمرؓ منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔

حضرت ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ لوگوں میں بیان کر رہے تھے میں ان کے منبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا آپؓ نے بیان فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا مجھے اس امت پر سب سے زیادہ ڈرا اس منافق کا ہے جو زبان کا خوب جاننے والا ہو یعنی جسے باتیں بنانی خوب آتی ہوں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیانات صحابہ کرامؓ کے باہمی اتحاد اور اتفاق رائے کے باب میں گزر چکے ہیں۔

## امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفانؓ کے بیانات

حضرت ابراہیم بن عبدالرحمن مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر چکے تو آپؓ نے آ کر لوگوں میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے لوگو! پہلی مرتبہ سوار ہونا مشکل ہوتا ہے آج کے بعد اور بھی دن ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو تم ایسا بیان سنو گے جو صحیح ترتیب سے ہوگا۔ ہم تو بیان کرنے والے نہیں ہیں اللہ ہمیں بیان کا صحیح طریقہ سکھادیں گے۔

حضرت بدر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے چچا بیان کرتے ہیں جب اہل شوریٰ حضرت عثمانؓ سے بیعت ہو گئے تو اس وقت وہ بہت غمگین تھے ان کی طبیعت پر بڑا بوجھ تھا وہ حضور ﷺ کے منبر پر تشریف لائے اور لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا اس کے بعد فرمایا تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے تمہیں کوچ کر جانا ہے اور تمہاری عمر تھوڑی باقی رہ گئی ہے لہذا تم جو خیر کے کام کر سکتے ہو موت سے پہلے کر لو۔ صبح اور شام موت تمہیں آنے ہی والی ہے۔ غور سے سنو! دنیا سراسر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) لَمَّا تَغَرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

وَلَا يَغْرِبَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُودُ (سورت لقمان آیت ۳۳) ”سو تم کو دنیوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکہ باز (شیطان) اللہ سے دھوکہ میں ڈالے“ اور جو لوگ جا چکے ان سے عبرت حاصل کرو اور خوب محنت کرو اور غفلت سے کام نہ لو کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا کہاں ہیں دنیا کے وہ بھائی اور بیٹے جنہوں نے دنیا میں کھتی باڑی کی اور اسے خوب آباد کیا اور لمبی مدت تک اس سے فائدہ اٹھایا؟ کیا دنیا نے انہیں پھینک نہیں دیا؟ چونکہ اللہ نے دنیا کو پھینکا ہوا ہے، اس لئے تم بھی اسے پھینک دو اور آخرت کو طلب کرو کیونکہ اللہ نے دنیا کی اور آخرت کی جو کہ دنیا سے بہتر ہے دونوں کی مثال اس آیت میں بیان کی وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ لَعَلَّكُمْ تَكْفُرُونَ (سورت کہف آیت ۴۵-۴۶) ”اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو پھر اس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاوے کہ اس کو ہوا اڑائے لئے پھرتی ہو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی“ بیان کے بعد لوگ حضرت عثمانؓ سے بیعت ہونے لگے۔ حضرت عقبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمانؓ نے بیعت کرنے کے بعد لوگوں میں بیان کیا جس میں ارشاد فرمایا ابا بعد! مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جسے میں نے قبول کر لیا ہے۔ غور سے سنو! میں (حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کے) پیچھے چلوں گا اور اپنے پاس سے گھر کر نئی باتیں نہیں لاؤں گا۔ توجہ سے سنو! اللہ کا کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے بعد میرے اوپر تمہارے تین حق ہیں پہلا حق یہ ہے کہ جس چیز میں آپ لوگ متفق ہیں اور اس کا ایک راستہ مقرر کر لیا ہے اس میں اپنے سے پہلوں کے طریقہ پر چلوں اور دوسرا حق یہ ہے کہ جس چیز میں آپ سب لوگوں نے مل کر کوئی راستہ مقرر نہیں کیا ہے اس میں میں خیر والوں کے راستے پر چلوں اور تیسرا حق یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں آپ لوگوں کو کسی قسم کی سزا نہ دوں۔ ہاں آپ لوگ ہی خود کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس پر سزا دینا میرے ذمہ واجب ہو تو یہ الگ بات ہے۔ غور سے سنو! دنیا سرسبز و شاداب ہے اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت رکھی ہوئی ہے اور بہت لوگ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لہذا تم دنیا کی طرف مت جھکو اور اس پر بھروسہ نہ کرو یہ بھروسے کے قابل نہیں اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا صرف اسے چھوڑتی ہے جو اسے چھوڑ دے۔“

۱۔ اخراجہ ابن جریر الطبری فی تاریخہ (ج ۲ ص ۳۰۵)

۲۔ اخراجہ ابن جریر ایضاً فی تاریخہ (ج ۳ ص ۴۲۶) باسناد فیہ سیف



حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمانؓ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا اے ابن آدم! یہ بات جان لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے لئے مقرر کیا گیا ہے جب سے تم دنیا میں آئے ہو وہ تمہیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہا تھا لیکن اب اس نے دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنے کا ارادہ کر لیا ہے اس لئے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور موت کی تیاری کر لو اور غفلت سے کام نہ لو کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے بالکل غافل نہیں ہے اور اے ابن آدم! جان لو کہ اگر تم اپنے بارے میں غفلت میں پڑ گئے اور تم نے موت کی تیاری نہ کی تو تمہارے علاوہ کوئی اور یہ تیاری نہیں کرے گا اور اللہ سے ملاقات ضروری ہوئی ہے، اس لئے اپنے لئے نیک اعمال لے لو اور یہ کام دوسروں پر نہ چھوڑو۔ فقط والسلام۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفانؓ نے لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کیونکہ اللہ کا تقویٰ غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے اور موت کے بعد والی زندگی کے لئے عمل کرے اور قبر کے اندھیرے کے لئے اللہ سے نور حاصل کر لے اور بندے کو اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے حشر کے دن اندھا بنا کر نہ اٹھائیں حالانکہ وہ دنیا میں آنکھوں والا تھا اور سمجھدار آدمی کو تو چند جامع کلمات کافی ہو جاتے ہیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں اور بہرے آدمی کو تو دور سے پکارنا پڑتا ہے اور یقین رکھو کہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا اور اللہ جس کے خلاف ہوگا وہ اللہ کے علاوہ اور کس سے مدد کی امید کر سکتا ہے؟

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمانؓ کو منبر پر دیکھا وہ فرما رہے تھے اے لوگو! تم چھپ کر جو عمل کرتے ہو ان میں اللہ سے ڈرو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! جو بھی کوئی عمل چھپ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی چادر علی الاعلان ضرور پہنائیں گے۔ اگر خیر کا عمل کیا ہوگا تو اسے خیر کی چادر پہنائیں گے اور بر عمل کیا ہوگا تو اسے بری چادر پہنائیں گے پھر حضرت عثمانؓ نے یہ آیت پڑھی وَرِیَاشَاؤُ وَرِیَاشَاؤُ لِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ حَیْرٌ (سورت اعراف آیت ۲۶) اس میں حضرت عثمانؓ نے وَرِیَاشَاؤُ پڑھا اور وَرِیَاشَانِہ پڑھا (جو کہ مشہور قرأت ہے) ”اور زینت اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے“ راوی کہتے ہیں زینت اور تقویٰ والے لباس سے مراد اچھی عادتیں ہیں۔

حضرت عباد بن زاہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمانؓ کو بیان کرتے ہوئے

۱۔ اخرجه الدينورى فى المجالسة و ابن عساکر کذا فى الكنز (ج ۸ ص ۱۰۹)

۲۔ اخرجه الدينورى ابن عساکر کذا فى الكنز (ج ۸ ص ۲۲۴)

۳۔ اخرجه ابن جرير و ابن ابى حاتم کذا فى الكنز (ج ۲ ص ۱۳۷)

سنا انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم! ہم لوگ سفر و حضر میں حضور ﷺ کے ساتھ رہے آپ ہمارے بیماروں کی عیادت فرماتے تھے اور ہمارے جنازوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ غزوہ میں جاتے تھے اور آپ کے پاس کم یا زیادہ جتنا ہوتا اسی سے ہم سے غمخواری فرماتے اور اب کچھ لوگ مجھے حضور کے بارے میں بتا رہے ہیں حالانکہ ان لوگوں نے تو شاید حضور کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ۱۔ احمد اور ابو یعلیٰ کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے اس پر اعمین بن امرأۃ الفرزدق نے حضرت عثمانؓ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نعل! (مصر کے ایک آدمی کا نام نعل تھا اس کی داڑھی لمبی تھی حضرت عثمانؓ کی داڑھی بھی لمبی تھی معترضین کو حضرت عثمانؓ میں اس کے علاوہ اور کوئی کمی ملتی نہیں تھی، اس لئے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کے نام سے پکارا کرتے تھے) آپ نے تو سب کچھ بدل دیا ہے حضرت عثمانؓ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اعمین ہے تو فرمایا نہیں اے غلام! تو نے بدلا ہے اس پر لوگ اعمین پر جھپٹے۔ بنولیت کا ایک آدمی لوگوں کو اعمین سے ہٹانے لگا اور وہاں سے بچا کر اعمین کو اپنے گھر لے گیا۔ ۲۔

حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان بن عفانؓ کو بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ چھوٹی عمر کے غلام کو کما کر لانے کا مکلف نہ بناؤ کیونکہ اگر تم اسے کمانے کا مکلف بناؤ گے تو وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکے گا اس لئے چوری شروع کر دے گا۔ ایسے ہی جو باندی کوئی کام یا ہنر نہ جانتی ہو اسے بھی کما کر لانے کا مکلف نہ بناؤ کیونکہ اگر تم اسے کما کر لانے کا مکلف بناؤ گے تو اسے کوئی کام اور ہنر تو آتا نہیں اس لئے وہ اپنی شرم گاہ کے ذریعہ یعنی زنا کے ذریعہ کمانے لگ جائے گی اور پاکدامنی اختیار کئے رہو کیونکہ اللہ نے تمہیں پاکدامنی عطا فرما رکھی ہے اور کھانے کی صرف وہ چیزیں استعمال کرو جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ ۳۔

حضرت زبید بن صلت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمانؓ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا اے لوگو! جو کھیلنے سے بچو یعنی نرد نہ کھیلا کرو کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کے گھروں میں نرد کھیل کے آلات ہیں، اس لئے جس کے گھر میں یہ آلات موجود ہیں وہ یا تو انہیں جلا دے یا توڑ دے اور دوسری مرتبہ حضرت عثمانؓ نے منبر پر فرمایا اے لوگو! میں نے اس نرد کھیل کے بارے میں بات کی تھی لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس کھیل کے آلات کو گھروں سے ابھی نہیں نکالا ہے اس لئے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ حکم دے کر لکڑیوں کے گٹھڑ جمع کراؤں

۱۔ اخرجہ احمد و البزار و المروزی و النشاشی و ابو یعلیٰ و ساعد بن منصور کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۴۴)  
 ۲۔ قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۲۸) رواہ احمد ابو یعلیٰ فی الکبیر و رجالہما رجال الصحیح غیر عباد بن زاہر و ہونقہ انتہی  
 ۳۔ اخرجہ الشافعی و البیہقی (ج ۸ ص ۹) عن مالک عن عمہ ابی سہیل بن مالک قال البیہقی و رفعہ بعنہم عن عثمان من حدیث الثوری و رفعہ ضعیف کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۷)

اور جن گھروں میں یہ آلات ہیں ان سب کو آگ لگا دوں۔

حضرت عبدالرحمن بن حمید کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عثمانؓ نے منیٰ میں نماز پوری پڑھائی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حج کے موقع پر منیٰ کے دنوں میں ظہر، عصر، عشاء تینوں نمازوں میں دو رکعت نماز پڑھاتے رہے۔ شروع میں حضرت عثمانؓ بھی دو رکعت پڑھاتے رہے لیکن پھر چار رکعت پڑھانے لگے تھے) پھر لوگوں میں بیان کیا جس میں فرمایا اے لوگو! اصل سنت تو وہ ہے جو حضور ﷺ اور آپ کے ساتھیوں (حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ) نے کیا لیکن اس سال لوگ حج پر بہت آئے ہیں، اس لئے مجھے ڈر ہوا کہ لوگ دو رکعت پڑھنے کو مستقل سنت نہ بنالیں (اس لئے میں نے چار رکعت پڑھائیں)۔

حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے ہم میں بیان کیا اور اس نے قبر کا تذکرہ کیا اور مسلسل کہتا رہا کہ یہ قبر تہائی کا گھر ہے اور اجنبیت اور بیگانگی کا گھر ہے۔ یہاں تک کہ خود بھی رونے لگا اور آس پاس والوں کو بھی رلا دیا پھر کہا میں نے امیر المومنین عبدالملک بن مروان کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفانؓ نے ہم میں بیان کیا جس میں فرمایا حضور ﷺ نے جب بھی کسی قبر کو دیکھا یا اس کا تذکرہ کیا تو آپ ضرور روئے۔

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمانؓ کو منبر پر بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں بنو قینقاع کے ایک یہودی خاندان سے کھجوریں خریدتا تھا اور آگے نفع پر بیچتا تھا۔ حضور ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا اے عثمان! جب خریدا کرو تو پیمانہ سے ناپ لیا کرو اور جب بیچ کر پیمانہ سے ناپ کر دیا کرو۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپؓ بیان میں تکلیف دہ کتوں کو ملنے کا اور کھیل کے طور پر اڑائے جانے والے کبوتروں کو ذبح کر دینے کا حکم دے رہے تھے (جو دوسرے کبوتروں کو لے آتے ہوں)۔

حضرت بدر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کہتے ہیں کہ مجمع میں حضرت عثمانؓ نے آخری بیان میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لئے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ سے آخرت حاصل کرو اور اس لئے نہیں دی کہ تم اسی کے ہو جاؤ۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ نہ تو فانی دنیا کی وجہ سے اترانے لگو اور نہ اس کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ فانی

۱۔ اخراجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۳۳۳) ۲۔ اخراجہ البیہقی و ابن عساکر کذا فی

الکنز (ج ۲ ص ۲۳۹) ۳۔ اخراجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۱۰۹)

۴۔ اخراجہ احمد (ج ۱ ص ۶۲) ۵۔ اخراجہ احمد (ج ۱ ص ۷۲)

دنیا پر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی اس کے عذاب سے ڈھال اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے اور احتیاط سے چلو کہیں اللہ تمہارے حالات نہ بدل دے اور اپنی جماعت سے چمٹے رہو اور مختلف گروہ نہ بن جاؤ اذکروا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَةِ اٰخِوَانَا (سورت آل عمران آیت ۱۰۳) ”اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے“۔ اور جہاد کے باب میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں پہرہ دینے کی فضیلت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان گزر چکا ہے۔

## امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالبؑ کے بیانات

حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امیر المومنین بننے کے بعد حضرت علیؑ نے جو سب سے پہلا بیان فرمایا اس میں پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اللہ نے ہدایت دینے والی کتاب نازل فرمائی اور اس میں خیر و شر سب بیان کر دیا، لہذا تم خیر کو لو اور شر کو چھوڑو اور تمام فرائض ادا کر کے اللہ کے ہاں بھیج دو اللہ ان کے بدلے میں تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے۔ اللہ نے بہت سی چیزوں کو قابل احترام بنایا ہے جو سب کو معلوم ہے لیکن ان تمام چیزوں پر مسلمان کی حرمت کو فوقیت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے اخلاص اور وحدانیت کے یقین کے ذریعہ مسلمانوں کو مضبوط کیا ہے اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ناحق تکلیف سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا حلال نہیں ہے، البتہ قصاص اور بدلہ میں جو تکلیف دینا شرعاً واجب ہو جائے اس کی اور بات ہے۔ قیامت اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اعمالِ صالحہ کر لو کیونکہ بہت سے لوگ تم سے آگے جا چکے ہیں اور تمہارے پیچھے قیامت آ رہی ہے جو تمہیں ہانک رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو یعنی گناہ نہ کرو گلوں سے جا ملو گے کیونکہ اگلے لوگ پچھلوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو! اللہ کے بندوں اور شہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں اور جانوروں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو اس کی نافرمانی نہ کرو۔ جب تمہیں خیر کی کوئی چیز نظر آئے تو اسے لے لو اور جب شر نظر آئے تو اسے چھوڑ دو اور اس وقت کو یاد رکھو جب تم تھوڑے تھے اور سر زمین مکہ میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا آدمی سے اس کے کنبہ کو اتنے

۱۔ اخرجہ ابن جریر الطبری فی تاریخہ (ج ۲ ص ۴۲۶) من طریق سیف

۲۔ اخرجہ ابن جریر فی تاریخہ (ج ۲ ص ۴۵۷) باسناد فیہ سیف

فائدے حاصل نہیں ہوتے جتنے کنبہ سے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں کیونکہ اگر آدمی کنبہ کی مدد سے اپنا ہاتھ روکتا ہے تو صرف ایک ہاتھ رکتا ہے اور کنبہ والے اپنے ہاتھ روک لیں تو پھر کئی ہاتھ رک جاتے ہیں اور کنبہ کی طرف سے آدمی کو محبت، حفاظت اور نصرت ملتی ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی دوسرے کی خاطر ناراض ہوتا ہے حالانکہ وہ اس دوسرے آدمی کو صرف اس کے خاندانی نسب کی وجہ سے ہی جانتا ہے میں تمہیں اس بارے میں اللہ کی کتاب میں بہت سی آیتیں پڑھ کر سناؤں گا پھر حضرت علیؑ نے یہ آیت پڑھی لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اِيٌّ اِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ (سورت ہود آیت ۸۰) ”کیا خوب ہوتا اگر میرا تم پر کچھ زور چلتا یا کسی مضبوط پایہ کی پناہ پکڑتا“ اس کے بعد حضرت علیؑ نے فرمایا یہ جو حضرت لوط علیہ السلام نے رکن شدید یعنی مضبوط پایہ فرمایا ہے اس سے مراد کنبہ ہے کیونکہ حضرت لوطؑ کے بعد اللہ نے جو نبی بھی بھیجا وہ اپنی قوم کے بڑے کنبہ میں سے ہوتا تھا پھر حضرت علیؑ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھی وَاِنَّا لَنَرٰكَ فَيَسًا ضَعِيْفًا (سورت ہود آیت ۹۱) ”اور ہم تم کو اپنے میں کمزور دیکھ رہے ہیں۔“ حضرت علیؑ نے فرمایا حضرت شعیبؑ چونکہ نابینا تھے، اس لئے ان لوگوں نے آپ کو کمزوری کی طرف منسوب کیا و لولا دھطک لرجمنک (سورت ہود آیت ۹۱) ”اور اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر چکے ہوتے“ حضرت علیؑ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! انہیں اپنے رب کے جلال کا ڈر تو تھا نہیں البتہ حضرت شعیب کے خاندان کا ڈر تھا۔

حضرت شععی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رمضان شریف آتا۔ تو حضرت علیؑ بیان فرماتے اور اس میں یہ ارشاد فرماتے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور اس کی تراویح کو (ثواب کی چیز بنایا لیکن) فرض نہیں کیا اور آدمی کو یہ بات کہنے سے بچنا چاہئے کہ فلاں روزہ رکھے گا تو میں بھی رکھوں گا اور جب فلاں روزہ رکھنا چھوڑ دے گا تو میں بھی چھوڑ دوں گا۔ غور سے سنو! روزہ صرف کھانے، پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ انہیں تو چھوڑنا ہے ہی لیکن اصل روزہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹ، غلط اور بیہودہ باتوں کو بھی چھوڑ دے۔ توجہ سے سنو! رمضان کے مہینہ کو اس کی جگہ سے آگے نہ لے جاؤ وہیں رہنے دو، اس لئے جب تمہیں رمضان کا چاند نظر آ جائے تو روزے شروع کر دو اور جب عید کا چاند نظر آئے تو روزے رکھنے چھوڑ دو اور اگر رمضان کی ۲۹ کو غروب کے وقت ابر ہو تو پھر مہینہ کی ۳۰ کی گنتی پوری کرو۔ حضرت شععی کہتے ہیں حضرت علیؑ یہ تمام باتیں فجر اور عصر کے بعد کہا کرتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر موت کا

۱۔ اخرجہ ابو الشیخ کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۵۰)

۲۔ اخرجہ الحسین بن یحیی القطن و البیہقی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۳۲۲)

تذکرہ فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ کے بندو! اللہ کی قسم! موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے اگر تم (تیاری کر کے) اس کے لئے ٹھہر جاؤ گے تو بھی وہ تمہیں پکڑ لے گی اور اگر (اس کے لئے تیاری نہیں کرو گے بلکہ) اس سے بھاگو گے تو بھی وہ تمہیں آ پکڑے گی، اس لئے اپنی نجات کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو اور جلدی کرو، جلدی کرو اور ایک چیز تلاش میں تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو بہت تیز ہے اور وہ ہے قبر۔ لہذا قبر کے بھینچنے سے، اس کی اندھیری سے اور اس کی وحشت سے بچو۔ غور سے سنو! قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ غور سے سنو! قبر روزانہ تین مرتبہ یہ اعلان کرتی ہے میں تاریکی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ غور سے سنو! قبر کے بعد وہ جگہ ہے جو قبر سے بھی زیادہ سخت ہے وہ جہنم کی آگ ہے جو بہت گرم اور بہت گہری ہے جس کے زیور (یعنی سزا دینے کے آلات) لوہے کے ہیں جس کے نگران فرشتے کا نام مالک ہے جس میں اللہ کی طرف سے کسی طرح کی نرمی یا رحم کا ظہور نہیں ہوگا اور توجہ سے سنو! اس کے بعد ایسی جنت ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو متقیوں میں سے بنائے اور دردناک عذاب سے بچائے۔ حضرت اصبح بن نباتہ بھی اسی بیان کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت علیؓ نے تشریف فرما ہوئے۔ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور موت کا ذکر کیا اور پھر کچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا اور قبر جو یہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں اس کے بعد اس روایت میں یہ ہے کہ غور سے سنو! قبر کے بعد (قیامت کا) ایک ایسا دن ہے جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بوڑھے مدہوش۔ اور تمام حمل والیاں (دن پورے ہونے سے پہلے ہی) اپنا حمل ڈال دیں گی اور (اے مخاطب!) تمہیں لوگ نشہ کی حالت میں نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن اس دن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا اور ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر حضرت علیؓ نے لگے اور ان کے ارد گرد کے تمام مسلمان بھی رونے لگے۔

حضرت صالحؓ علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت علی بن ابی طالبؓ نے بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا پھر فرمایا اللہ کے بندو! دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے کیونکہ یہ ایسا گھر ہے جو بلاؤں سے گھرا ہوا ہے اور جس کا ایک دن فنا ہو جانا مشہور ہے اور جس کی خاص صفت بد عہدی کرنا ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ زوال پذیر ہے اور دنیا اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس۔ اور اس میں اترنے والے اس کے شر سے ہرگز نہیں بچ سکتے اور دنیا والے خوب فراوانی اور خوشیوں میں ہوتے ہیں اور اچانک

۱۔ اخرجه الصابونی فی المتین و ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۱۱۰)

۲۔ ذکرہ ابن کثیر فی البدایہ (ج ۸ ص ۶)

آزمائش اور دھوکہ میں آجاتے ہیں۔ دنیا کے عیش و عشرت میں لگنا قابلِ مذمت کام ہے اور اس کی فراوانی ہمیشہ نہیں رہتی اور دنیا والے خود دنیا کے لئے نشانہ ہیں ان پر دنیا اپنے تیر چلائی رہتی ہے اور موت کے ذریعہ انہیں توڑتی رہتی ہے۔ اللہ کے بندو! تمہارا دنیا کا راستہ ان لوگوں سے الگ نہیں ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں جن کی عمریں تم سے زیادہ لمبی تھیں اور جن کی پکڑ تم سے زیادہ سخت تھی اور جنہوں نے تم سے زیادہ شہر آباد کئے تھے اور جن کی آبادی کے نشانات بہت زیادہ عرصہ تک رہے تھے اور ان کی آوازوں کا شور بہت زمانے تک رہا تھا لیکن اب ان کی یہ آوازیں بالکل خاموش اور بچھ چکی ہیں اور اب ان کے جسم بوسیدہ اور ان کے شہر خالی ہو چکے ہیں اور ان کے تمام نشانات مٹ چکے ہیں اور قلعی اور چوڑے والے محلات، مزین تختوں اور بچھے ہوئے گاؤں تکیوں کے بجائے اب انہیں چٹانیں اور پتھر مل گئے ہیں جو ان کی بنی قبروں میں رکھے ہوئے ہیں اور گارے سے بنے ہوئے ہیں اور ان کی قبروں کے سامنے کی جگہ ویران اور بے آباد پڑی ہوئی ہے اور مٹی کے گارے سے ان قبروں پر لپائی کی گئی ہے۔ ان قبروں کی جگہ آبادی کے قریب ہے لیکن ان میں رہنے والے بہت دور چلے جانے والے مسافر ہیں۔ ان کی قبریں آبادی کے درمیان ہیں لیکن ان قبروں والے وحشت اور تہائی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی قبریں کسی محلہ میں ہیں لیکن یہ قبروں والے اپنے ہی میں مشغول ہیں اور انہیں آبادی سے کوئی انس نہیں ہے حالانکہ یہ قبروں والے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ان کی قبریں پاس پاس ہیں لیکن ان میں پڑوسیوں والا کوئی جوڑ نہیں ہے اور ان میں آپس میں جوڑ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ بوسیدگی نے انہیں پس رکھا ہے اور چٹانوں اور گلی مٹی نے انہیں کھا رکھا ہے۔ پہلے یہ لوگ زندہ تھے اب مر چکے ہیں اور عیش و لذت والی زندگی گزار کر اب ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں ان کے مرنے پر ان کے دوستوں کو بہت دکھ ہوا اور مٹی میں انہوں نے بسیرا اختیار کر لیا اور ایسے سفر پر گئے ہیں جہاں سے واپسی نہیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس! ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ اس کی صرف ایک بات ہی بات ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے آگے آڑ یعنی عالم برزخ ہے اس دن تک کے لئے جس دن لوگ دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور تم بھی ایک دن ان کی طرح قبرستان میں اکیلے رہو گے اور بوسیدہ ہو جاؤ گے اور تمہیں بھی اس لینے کی جگہ کے سپرد کر دیا جائے گا اور یہ قبر کا امانت خانہ تمہیں اپنے میں سمیٹ لے گا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمام کام ختم ہو جائیں گے اور قبروں کے مردے زندہ کر کے کھڑے کر دیئے جائیں گے اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ سب کھول کر رکھ دیا جائے گا اور تمہیں جلال و دبدبہ والے بادشاہ کے سامنے اندر کی ساری باتیں ظاہر کرنے کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا پھر گزشتہ گناہوں کے ڈر سے دل اڑنے لگ جائیں گے اور تمہارے اوپر سے تمام رکاوٹیں اور پردے ہٹا دیئے جائیں گے اور تمہارے تمام عیب اور راز ظاہر ہو جائیں گے اور ہر انسان کو اپنے کئے کا بدلہ ملے گا برے کام



کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برابر اور اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں گے اور اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس اعمال نامہ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری بد قسمتی! اس اعمال نامہ کی عجیب حالت ہے کہ اس نے لکھے بغیر نہ چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا۔ اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اسے وہاں سب لکھا ہوا موجود پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب پر عمل کرنے والا اور اپنے دوستوں کے پیچھے چلنے والا بنائے تاکہ ہمیں اور آپ کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر یعنی جنت میں جگہ عطا فرمائے بیشک وہ تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ ابن جوزی نے حضرت علیؓ کے اسی بیان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے لیکن شروع میں اس مضمون کا اضافہ کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں میں اسی ذات کی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ ان کے ذریعہ سے اللہ تمہاری تمام بیماریوں کو دور کر دے اور تمہیں غفلت سے بیدار کر دے اور یہ بات جان لو کہ ایک دن تم لوگوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اعمال پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر ان اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے پھر آگے پھیلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کہتے ہیں حضرت علیؓ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب اس میت کو قبر میں رکھا جانے لگا تو اس کے گھر والے اور رشتہ دار سب اونچی آواز سے رونے لگے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ غور سے سنو! اللہ کی قسم! ان لوگوں کے مرنے والے نے اب قبر میں جا کر جو منظر دیکھ لیا ہے اگر یہ لوگ بھی وہ منظر دیکھ لیں تو یہ اپنے مردے کو بھول جائیں موت کے فرشتے نے بار بار ان لوگوں کے پاس آنا ہے یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا پھر (بیان کے لئے) کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے بندو! میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے لئے مثالیں بیان کیں، تمہاری موت کا وقت مقرر کیا اور تمہارے ایسے کان بنائے کہ ان میں جو بات پہنچتی ہے اسے سمجھ کر محفوظ کر لیتے ہیں اور ایسی آنکھیں عطا فرمائیں کہ جو کچھ پردے میں ہے اسے وہ ظاہر کر دیتی ہیں

۱۔ اخرجہ الدینوری و ابن عساکر عن عبد اللہ بن صالح العجلی عن ابیہ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۱۹)  
 ۲۔ ذکرہا ابن جوزی فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۱۲۳)



اور ایسے دل دیئے جو ان مصائب اور مشکلات کو سمجھتے ہیں جو ان کی صورتوں کی ترکیب میں ان کو پیش آتے ہیں اور اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں جس نے ان دلوں کو آباد کیا یعنی ذکر الہی کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور تم سے نصیحت والی کتاب یعنی قرآن کو ہٹایا بھی نہیں (بلکہ تمہیں نصیحت والی کتاب عطا فرمائی) بلکہ پوری نعمتوں سے تمہیں نوازا اور مکمل عطیات دیئے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا پوری طرح احاطہ اور شمار کیا ہوا ہے اور خوشی اور نفع کی حالت میں اور نقصان اور رنج کی حالت میں آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو اور دین کی طلب میں مزید کوشش کرو اور خواہشات کے ٹکڑے کر دینے والی اور لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو کیونکہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی اور اس کے دردناک حادثات سے امن نہیں ہے دنیا ایک دھوکہ ہے جس کی شکل بدلتی رہتی ہے اور کمزور سا سا یہ ہے اور ایسا سہارا ہے جو جھک جاتا ہے یعنی بوقت ضرورت کام نہیں آتا شروع میں یہ دھوکہ نیا نظر آتا ہے لیکن جلد ہی پرانا ہو کر گزر جاتا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والے کو اپنی شہوتوں میں تھکا کر اور دھوکہ کا دودھ پلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو! عبرت کی چیزوں سے نصیحت پکڑو اور قرآنی آیتوں اور نبوی حدیثوں سے عبرت حاصل کرو اور ڈرانے والی چیزوں سے ڈر جاؤ اور وعظ و نصیحت کی باتوں سے نفع حاصل کرو یوں سمجھو کہ موت نے اپنے بچے تم میں گاڑ دیئے ہیں اور مٹی کے گھر نے تمہیں اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور بڑے سخت اور ہولناک مناظر تم پر اچانک آگئے ہیں (ان مناظر کی تفصیل یہ ہے کہ) صور پھونک دیا گیا ہے اور قبروں میں سے تمام انسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت سے تمام انسانوں کو ہانک کر محشر میں لا رہے ہیں اور حساب کے لئے کھڑا کر رہے ہیں اور ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ لگا رکھا ہے جو اسے محشر کی طرف ہانک رہا ہے اور ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کے خلاف اس کے برے اعمال کی گواہی دے رہا ہے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی ہے اور اعمال کے حساب کا دفتر لا کر رکھ دیا گیا ہے اور انبیاء اور گواہ سب حاضر کر دیئے گئے ہیں اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جا رہا ہے اس دن کی وجہ سے تمام شہر تھرا رہے ہیں اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اور یہ اولین اور آخرین کی باہمی معاملات کا دن ہے اور اللہ کی طرف سے خاص تجلی ظاہر ہو رہی ہے اور سورج بے نور ہو رہا ہے جگہ جگہ وحشی جانور گھبرا کر اکٹھے ہو گئے ہیں اور چھپے ہوئے تمام راز کھل گئے ہیں اور شریر لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور انسانوں کے دل کانپ رہے ہیں اور جہنم والوں پر اللہ کی طرف سے ہلاک کر دینے والا رعب اور لرزانے والی سزا تر رہی ہے۔ جہنم کو ظاہر کر دیا گیا ہے اسے دیکھنے میں اب کوئی آڑ نہیں ہے۔ اس میں آنکڑے اور شور ہے اور کڑک جیسی بھیانک آواز ہے۔ جہنم سخت غصہ میں ہے اور دھمکیاں

دے رہی ہے اور اس کی آگ بھڑک رہی ہے اور اس کا گرم پانی ابل رہا ہے اور اس کی گرم ہوا میں اور تیزی آرہی ہے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے کا کوئی غم اور پریشانی دور نہیں کی جائے گی اور اس جہنم میں رہنے والوں کی حسرتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور اس جہنم کی بیڑیاں کبھی توڑی نہیں جائیں گی اور ان جہنمیوں کے ساتھ فرشتے ہیں جو انہیں گرم پانی کی آگ میں داخل ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں اور انہیں اللہ کے دیدار سے روک دیا گیا ہے اور انہیں دوستوں سے جدا کر دیا گیا ہے اور سب جہنم کی آگ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو! اللہ سے اس آدمی کی طرح ڈرو جس نے دب کر عاجزی اختیار کر لی ہو اور (دشمن سے) ڈر کر کوچ کر گیا ہو اور جسے برے کاموں سے ڈرایا گیا ہو اور دیکھ بھال کر ان سے رک گیا ہو اور جلدی جلدی تلاش کرنے لگا ہو اور بھاگ کر نجات حاصل کر لی ہو اور آخرت کے لئے اس نے نیک اعمال آگے بھیج دیئے ہوں جہاں لوٹ کر جانا ہے اور نیک اعمال کے توشہ سے اس نے مدد حاصل کی ہو اور بدلہ لینے اور دیکھنے میں اللہ کافی ہے اور جھگڑنے اور حجت کرنے میں اللہ کی کتاب کافی ہے اور جنت ثواب کے لئے اور جہنم وبال اور سزا کے لئے کافی ہے اور میں اپنے لئے اور آپ لوگوں کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔!

ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اما بعد! دنیا نے پشت پھیر لی ہے اور جدائی کا اعلان کر دیا ہے اور آخرت سامنے آرہی ہے اور بلندی سے جھانک رہی ہے۔ آج گھوڑے دوڑانے کا یعنی عمل کا میدان ہے کل تو ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہوگا۔ غور سے سنو! تم آج کل دنیاوی امیدوں کے دنوں میں ہو لیکن ان کے پیچھے موت آرہی ہے اور جس نے امید کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں کوتاہی کی وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ توجہ سے سنو! جیسے تم خوف کے وقت عمل کرتے ہو ایسے ہی دوسرے اوقات میں بھی شوق اور رغبت سے عمل کیا کرو۔ غور سے سنو! میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو جنت جیسی ہو اور پھر بھی اس کا طالب سویا ہو اور نہ ہی ایسی کوئی چیز دیکھی جو جہنم جیسی ہو اور پھر بھی اس سے بھاگنے والا سوتا رہے۔ غور سے سنو! جو حق سے نفع نہیں اٹھاتا اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی، اسے گمراہی سیدھے راستے سے ہٹا دے گی۔ غور سے سنو! آپ لوگوں کو یہاں سے کوچ کرنے کا اور سفر آخرت کا حکم مل چکا ہے اور اس سفر کا توشہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ اے لوگو! غور سے سنو! یہ دنیا تو ایسا سامان ہے جو سامنے موجود ہے اور اس میں سے اچھا برا ہر ایک کھا رہا ہے اور اللہ نے آخرت کا جو وعدہ فرما رکھا ہے وہ بالکل سچا ہے اور وہاں وہ بادشاہ فیصلہ کرے گا جو بڑی قدرت والا ہے۔ غور سے سنو! شیطان تمہیں فقیر اور محتاج ہونے سے ڈراتا ہے

اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اے لوگو! اپنی موجودہ زندگی میں اچھے عمل کر لو انجام کار محفوظ رہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمانبردار سے جنت اور نافرمان سے جہنم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ جہنم کی آگ میں جہنمیوں کا چیخا کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کے قیدی کو کبھی چھڑایا نہیں جاسکے گا اور اس میں جس کی ہڈی ٹوٹے گی تو کبھی جڑ نہ سکے گی اس کی گرمی بہت سخت ہے وہ بہت گہری ہے اور اس کا پانی خون اور پیپ ہے اور مجھے تم پر سب سے زیادہ خطرہ دو باتوں کا ہے۔ ایک خواہشات کے پیچھے چلنے کا دوسرے امیدیں لمبی رکھنے کا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان حق سے ہٹ جاتا ہے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آخرت بھول جاتا ہے۔

حضرت زیاد اعرابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں (خوارج کے) فتنہ کے بعد اور نہروان شہر سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالبؓ کو فہ کے منبر پر تشریف فرما ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر آنسوؤں کی وجہ سے ان کے گلے میں پھندا لگ گیا اور اتار روئے کہ آنسوؤں سے ڈاڑھی تر ہو گئی اور آنسو نیچے گرنے لگے پھر انہوں نے اپنی ڈاڑھی (جھاڑی تو اس کے قطرے کچھ لوگوں پر جا گرے تو ہم یہ کہا کرتے تھے حضرت علیؓ کے آنسو جس پر گرے ہیں اسے اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیں گے پھر حضرت علیؓ نے فرمایا اے لوگو! ان میں سے نہ بنو جو بغیر کچھ کئے آخرت کی امید رکھتے ہیں اور لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں باتیں تو زاہدوں جیسی کرتے ہیں لیکن دنیا کے کام ان لوگوں کی طرح کرتے ہیں جن میں دنیا کی رغبت اور شوق ہو۔ اگر انہیں دنیا ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے اور اگر نہ ملے تو ان میں قناعت بالکل نہیں ہے۔ جو نعمتیں انہیں اللہ دے رہا ہے ان کا شکر کر نہیں سکتے اور پھر چاہتے ہیں کہ نعمتیں اور بڑھ جائیں۔ دوسروں کو نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے اوروں کو برے کاموں سے روکتے ہیں لیکن خود نہیں روکتے۔ محبت تو نیک لوگوں سے کرتے ہیں لیکن ان کے والے عمل نہیں کرتے اور ظالموں سے بغض رکھتے ہیں لیکن خود ظالم ہیں اور (دنیا کے) جن کاموں پر کچھ ملنے کا صرف گمان ہی ہے ان کا نفس ان سے وہ کام تو کروا لیتا ہے اور (آخرت کے) جن کاموں پر ملنا یقینی ہے وہ کام ان سے نہیں کروا سکتا۔ اگر انہیں مال مل جائے تو فتنہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر بیمار ہو جائیں تو غمگین ہو جاتے ہیں اگر فقیر ہو جائیں تو ناامید ہو کر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں عافیت ملتی ہے تو شکر نہیں کرتے اور جب کوئی

۱۔ اخرجہ الدینوری و ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۸ ص ۲۴۰) والمنتخب (ج ۶ ص ۴۲۲) و ذکر ابن کثیر فی البدایہ (ج ۸ ص ۷) ہذا الخطبۃ بطولھا عن و کعب عن عمرو بن عبہ عن یولی بن ولہم

آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتے ایسے نظر آتا ہے جیسے دوسروں کو موت سے ڈرایا گیا ہے انہیں نہیں اور آخرت کے سارے وعدے اور وعید دوسروں کے لئے ہیں۔ اے موت کا نشانہ بننے والو! اور موت کے پاس گروی رکھے جانے والو! اے بیماریوں کے برتنو! اے زمانے کے لوٹے ہوئے لوگو! اے زمانہ پر بوجھ نہ بننے والو! اے زمانہ کے پھلو! اے حادثات کی کلیو! اے دلائل کے سامنے گونگے بن جانے والو! اے فتنہ میں ڈوبے ہوئے لوگو! اے وہ لوگو جن کے اور عبرت کی چیزوں کے درمیان رکاوٹیں ہیں! میں حق بات کہہ رہا ہوں آدمی صرف اپنے آپ کو پہچان کر ہی نجات پاسکتا ہے اور آدمی اپنے ہاتھوں ہی ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا (سورت تحریم آیت ۶)۔ "اے ایمان والو! تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) اس آگ سے بچاؤ" اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو وعظ و نصیحت سن کر قبول کر لیتے ہیں اور جب ان کو عمل کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر کے عمل کر لیتے ہیں۔

حضرت یحییٰ بن یحمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے لوگو! تم سے پہلے لوگ صرف گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے ان کے علماء اور فقہاء نے انہیں روکا نہیں اللہ نے ان پر سزائیں نازل کیں۔ غور سے سنو! نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہ عذاب اترے جو ان پر اترتا تھا اور یہ سمجھ لو کہ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے سے نہ رزق کم ہوتا ہے اور نہ موت جلدی آتی ہے۔ آسمان سے تقدیر کے فیصلے بارشوں کے قطروں کی طرح اترتے ہیں، چنانچہ ہر انسان کے اہل و عیال مال و جان کے بارے میں کم ہو جانے یا بڑھ جانے کا جو فیصلہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے۔ اب جب تمہارے اہل و عیال مال و جان میں کسی قسم کا نقصان ہو اور تمہیں دوسروں کے اہل و عیال مال و جان میں نقصان کے بجائے اور اضافہ نظر آئے تو اس سے تم فتنہ میں نہ پڑ جانا۔ مسلمان آدمی اگر دنیایت و کمینگی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو تو اسے جب بھی یہ نقصان یاد آئے گا وہ عاجزی، انکساری، دعا اور التجاء کا مظاہرہ کرے گا (اور یوں اسے باطنی نفع ہوگا) اور کمینے لوگوں کو اس پر بہت غصہ آئے گا۔ جیسے کہ کامیاب ہونے والا جوئے باز، تیروں سے جو اکھیلنے میں پہلی دفعہ ہی ایسی کامیابی کا انتظار کرتا ہے جس سے خوب مال ملے اور تاوان وغیرہ اسے نہ دینا پڑے ایسے ہی خیانت سے پاک مسلمان آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو دو اچھائیوں میں سے ایک کی اسے امید ہوتی ہے (کہ یا تو جو مانگا ہے وہ دنیا میں مل جائے گا اور اگر وہ نہ ملا تو پھر اس دعا کے دنیا میں قبول نہ ہونے کے بدلہ میں آخرت میں اسے

ثواب ملے گا) جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے لئے بہتر ہے یا پھر اللہ سے مال دیں گے اور اس کے اہل و عیال میں خوب کثرت ہوگی اور وہ خوب مالدار ہوگا۔ کھیتی دو طرح کی ہے (ایک دنیا کی دوسری آخرت کی) دنیا کی کھیتی مال اور بیٹے ہیں اور آخرت کی کھیتی نیک اعمال ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دونوں قسم کی کھیتیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالبؓ کے علاوہ اور کون ایسا ہے جو یہ بات اتنے اچھے طریقہ سے کہہ سکے۔ البدایۃ کی روایت اسی جیسی ہے اور اس کے آخر میں یہ ہے یا تو اللہ اس کی دعا دنیا میں پوری کر دیں گے اور وہ بہت زیادہ مال اور اولاد والا ہو جائے گا۔ خاندانی شرافت اور دین کی نعمت بھی اسے حاصل ہوگی یا پھر اسے اس دعا کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ اور آخرت (دنیا سے ہزار درجہ) بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کھیتیاں دو ہیں دنیا کی کھیتی مال اور تقویٰ ہے (بظاہر مال اور اولاد ہے) اور آخرت کی کھیتی باقی رہنے والے اعمال صالحہ ہیں۔ ۲

حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے کوفہ میں لوگوں میں بیان فرمایا میں نے انہیں اس بیان میں یہ کہتے ہوئے سنا اے لوگو! جو جان بوجھ کر محتاج بنتا ہے وہ محتاج ہو ہی جاتا ہے اور جس کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ مختلف بیماریوں اور کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بلا اور آزمائش کے لئے تیاری نہیں کرتا جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ جو کسی چیز پر قابو پالیتا ہے وہ اپنے کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اسے ندامت اٹھانی پڑتی ہے اور اس گفتگو کے بعد یہ فرمایا تھا عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف ظاہری نشان باقی رہ جائے گا اور یہ بھی فرمایا تھا غور سے سنو! آدمی کو سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہئے اور جس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں حیا نہیں کرنی چاہئے کہ میں نہیں جانتا۔ تمہاری مسجدیں ویسے تو اس دن آباد ہوں گی لیکن تمہارے دل اور جسم اجڑے ہوئے اور ہدایت سے خالی ہوں گے۔ آسمان کے سایہ تلے رہنے والے تمام انسانوں میں سب سے برے تمہارے فقہاء ہوں گے ان میں سے ہی فتنہ ظاہر ہوگا اور ان ہی میں لوٹ کرواپس آئے گا اس پر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین! ایسا کب ہوگا؟ حضرت علیؓ نے فرمایا جب علم تمہارے گھٹیا لوگوں میں ہوگا اور تمہارے سرداروں میں زنا اور بے حیائی عام ہوگی اور بادشاہت تمہارے چھوٹے لوگوں میں ہوگی (جنہیں نہ تجربہ ہوگا نہ سمجھ ہوگی) اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ ۳

۱۔ اخرجه ابن ابی الدنيا و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۰) و منتخبہ (ج ۶ ص ۳۲۶)  
 ۲۔ ذکرہ فی البدایۃ (ج ۸ ص ۸) عن ابن ابی الدنيا باسنادہ عن یحییٰ لذكر من قوله ان الامر ينزل من السماء الى آخره نحوه  
 ۳۔ اخرجه البيهقي كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۱۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کے لئے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو مخلوق کو پیدا کرنے والا، (رات میں سے) پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا اور قبروں میں جو مدفون ہیں انہیں قیامت کے دن اٹھانے والا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بندہ جن اعمال کو اللہ کے قرب کے لئے وسیلہ بنا سکتا ہے ان میں سب سے افضل ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ ہے اور کلمہ اخلاص ہے، اس لئے کہ وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے اور نماز قائم کرنا ہے کیونکہ وہ ہی اصل مذہب ہے اور زکوٰۃ دینا ہے کیونکہ وہ اللہ کے دینی فرائض میں سے ہے اور رمضان کے روزے رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے اور بیت اللہ کا حج ہے کیونکہ یہ فقر کے دور کرنے اور گناہوں کے ہٹانے کا سبب ہے اور صلہ رحمی کرنا ہے کیونکہ اس سے مال بڑھتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے اور گھر والوں کی محبت (دوسروں کے دلوں میں) بڑھتی ہے اور چھپ کر صدقہ کرنا ہے کیونکہ اس سے خطائیں مٹ جاتی ہیں اور رب کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا ہے کیونکہ یہ بری موت اور ہولناک جگہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کا ذکر خوب کرو کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے اچھا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے ان چیزوں کا اپنے اندر شوق پیدا کرو کیونکہ اللہ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے اور اپنے نبی کریم ﷺ کی سیرت کی اقتداء کرو کیونکہ ان کی سیرت سب سے افضل سیرت ہے اور ان کی سنتوں پر چلو کیونکہ ان کی سنتیں سب سے افضل طریقہ زندگی ہیں اور اللہ کی کتاب سیکھو کیونکہ وہ سب سے افضل کلام ہے اور دین کی سمجھ حاصل کرو کیونکہ یہی دلوں کی بہار ہے اور اللہ کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کی تمام بیماریوں کی شفاء ہے۔ اس کی تلاوت اچھی طرح کیا کرو کیونکہ (اس کے اندر) سب سے عمدہ قصے ہیں۔ جب اسے تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اور جب تمہیں اس کے علم کے حاصل کرنے کی توفیق مل گئی ہے تو اس پر عمل کرو تا کہ تمہیں ہدایت کامل درجہ کی مل جائے کیونکہ جو عالم اپنے علم کے خلاف عمل کرتا ہے وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے اس جاہل جیسا ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے درست نہیں ہو سکا بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جو عالم اپنے علم کو چھوڑ بیٹھا ہے اس کے خلاف حجت زیادہ بڑی ہوگی اور اس پر حسرت زیادہ عرصہ تک رہے گی اور اس کے مقابلہ میں جہالت حیران و پریشان رہنے والے جاہل کے خلاف حجت چھوٹی اور اس پر حسرت کم ہوگی۔ ویسے تو دونوں گمراہ ہیں اور دونوں ہلاک ہوں گے اور تردد میں نہ پڑو ورنہ تم شک میں پڑ جاؤ گے اور اگر تم شک میں پڑ گئے تو ایک دن کافر بن جاؤ گے اور اپنے لئے آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو



ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے اور اگر تم حق سے غفلت برتنے لگ گئے تو پھر خسارہ والے ہو جاؤ گے۔ غور سے سنو! یہ سمجھداری کی بات ہے کہ تم بھروسہ کرو لیکن اتنا بھروسہ نہ کرو کہ دھوکہ کھاؤ اور تم میں سے اپنے آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہے اور تم میں سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ امن میں رہے گا اور خوش رہے گا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ڈرتا رہے گا اور اسے ندامت اٹھانی پڑے گی پھر تم اللہ سے یقین مانگو اور اس کے سامنے عافیت کا شوق ظاہر کرو۔ دل کی سب سے بہتر دائمی کیفیت یقین ہے۔ فرائض سب سے افضل عمل ہیں اور جو نئے کام اپنے پاس سے گھڑے جاتے ہیں وہ سب سے برے ہیں۔ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر نئی بات گھڑنے والا بدعتی ہے جس نے کوئی نئی بات گھڑی اس نے (دین) ضائع کر دیا۔ جب کوئی بدعتی نئی بدعت نکالتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سنت ضرور چھوڑتا ہے اصل نقصان والا وہ ہے جس کا دینی نقصان ہو اور نقصان والا وہ ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے۔ ریا کاری شرک میں سے ہے اور اخلاص عمل و ایمان کا حصہ ہے۔ کھیل کود کی مجلسیں قرآن بھلا دیتی ہیں اور ان میں شیطان شریک ہوتا ہے اور یہ مجلسیں ہر گمراہی کی دعوت دیتی ہیں اور عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور ایسے آدمی کی طرف سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ عورتیں شیطان کے جال ہیں۔ اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے کے ساتھ ہے اور جھوٹ سے اجتناب کرو کیونکہ جھوٹ ایمان کا مخالف عمل ہے۔ غور سے سنو! سچ نجات اور عزت کی بلند جگہ پر ہے اور جھوٹ ہلاکت اور بربادی کی بلند جگہ پر ہے۔ غور سے سنو! حق بات کہو اس سے تم پہچانے جاؤ گے اور حق پر عمل کرو اس سے تم حق والوں میں سے ہو جاؤ جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اسے اس کی امانت واپس کرو۔ جو رشتہ دار تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور جو تمہیں نہ دے بلکہ محروم کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف والا کرو۔ آباؤ اجداد کے کارناموں پر ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔ اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ آپس میں حد سے زیادہ مذاق نہ کرو اور ایک دوسرے کو غصہ نہ دلاؤ۔ اور کمزور، مظلوم، مقروض مجاہد فی سبیل اللہ مسافر اور سائل کی مدد کرو اور غلاموں کو آزادی دلوانے میں مدد کرو اور بیوہ اور یتیم پر رحم کرو اور سلام پھیلاؤ اور جو تمہیں سلام کرے تم اسے ویسا ہی جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور مہمان کا اکرام کرو پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ بیماروں کی عیادت کرو اور جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے

بندو! بھائی بھائی بن کر رہو۔ اما بعد! دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر رہی ہے اور آخرت سایہ ڈال چکی ہے اور جھانک رہی ہے۔ آج دوڑانے کے لئے گھوڑے تیار کرنے کا دن ہے کل قیامت کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوگا اور آگے بڑھ کر جنت میں جانا ہوگا اگر آگے بڑھ کر جنت میں نہ جاسکا تو پھر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ توجہ سے سنو! تمہیں ان دنوں عمل کرنے کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد موت ہے جو بہت تیزی سے آرہی ہے جو مہلت کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لئے خالص کرے گا وہ اپنے عمل کو اچھا اور خوبصورت بنالے گا اور اپنی امید کو پائے گا اور جس نے اس میں کوتاہی کی اس کے عمل خسارے والے ہو جائیں گے اس کی امید پوری نہ ہوگی بلکہ امید کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا۔ لہذا اللہ کے ثواب کے شوق میں اس کے عذاب سے ڈر کر عمل کروا کر کبھی نیک اعمال کی رغبت اور شوق کا تم پر غلبہ ہو تو اللہ کا شکر کرو اور اس شوق کے ساتھ خوف پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اگر کبھی اللہ کے خوف کا غلبہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو اور اس خوف کے ساتھ کچھ شوق ملانے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اچھے عمل پر اچھا بدلہ ملے گا اور جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمت بڑھائے گا۔ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طالب سورہا ہو اور میں نے اس سے زیادہ کمانے والا نہیں دیکھا جو اس دن کے لئے نیک اعمال کماتا ہے جس دن کے لئے اعمال کے ذخیرے جمع کئے جاتے ہیں اور جس دن دلوں کے تمام بھید کھل جائیں گے اور تمام بری چیزیں اس دن جمع ہو جائیں گی جسے حق سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے باطل نقصان پہنچائے گا جسے ہدایت سیدھے راستہ پر نہ چلا سکی اسے گمراہی سیدھے راستہ سے ہٹا دے گی۔ جسے یقین سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے شک نقصان پہنچائے گا اور جسے اس کی موجودہ چیز نفع نہ پہنچا سکی اسے اس کی دور والی غیر حاضر چیز بالکل نفع نہیں پہنچا سکے گی یعنی جو براہ راست مجھ سے بیان سن کر فائدہ نہ اٹھا سکے وہ میرے نہ سنے ہوئے بیانات سے تو بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تمہیں کوچ کر کے سفر میں جانے کا حکم دیا جا چکا ہے اور سفر میں کام آنے والا توشہ بھی تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ توجہ سے سنو! مجھے آپ لوگوں پر سب سے زیادہ دو چیزوں کا ڈر ہے ایک لمبی امیدیں دوسرے خواہشات پر چلنا لمبی امیدوں کی وجہ سے انسان آخرت بھول جاتا ہے اور خواہشات پر چلنے کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتا ہے توجہ سے سنو! دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آرہی ہے اور دونوں کے طالب اور چاہنے والے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو آخرت والوں میں سے بنو اور دنیا والوں میں سے نہ بنو کیونکہ آج عمل کرنے کا موقع ہے لیکن حساب نہیں ہے۔ کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ہوگا۔

۱۔ ذکرہ ابن کثیر فی البدایہ (ج ۷ ص ۳۰۷) قال الحافظ ابن کثیر و ہذہ خطبۃ بلیغۃ نالغۃ جامعۃ للخیر ناهیۃ عن الشر و قدروی لها شواہد من وجہ اخر متصلۃ واللہ الحمد و المنۃ۔ انتہی



حضرت ابو خیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت علیؑ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ وہ کوفہ پہنچ گئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب تمہارے نبیؐ کی آل پر تمہارے سامنے فوج حملہ آور ہوگی؟ کوفہ والوں نے کہا ہم اللہ کو ان کے بارے میں زبردست بہادری دکھائیں گے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! تمہارے سامنے ان پر فوج حملہ آور ہوگی اور تم مقابلہ پر آ کر ان کو خود قتل کرو گے پھر یہ شعر پڑھنے لگے:

ہم اردوہ بالغرور و غردوا

اجیوادعاہ لاجاة ولا علرا

وہ اسے دھوکے سے لے آئیں گے اور پھر اونچی آواز سے یہ گائیں گے کہ اس (کے مخالف یعنی یزید) کی دعوت (بیعت) قبول کر لو اسے قبول کئے بغیر تمہیں نجات نہیں ملے گی اور اس میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے والد (حضرت یزید بن شریک رحمۃ اللہ علیہ) کہتے ہیں ہم میں حضرت علیؑ نے بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا ہے جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں تو وہ بالکل غلط کہتا ہے اور اس صحیفے میں زکوٰۃ اور دیت کے اونٹوں کی عمر اور زخموں کے مختلف احکام کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور اس صحیفے میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا مدینہ کا حرم غیر پہاڑ سے ٹور پہاڑ تک ہے۔ یہ سارا علاقہ قابل احترام ہے، لہذا جو اس علاقہ میں خود کوئی نئی چیز ایجاد کرے یا نئی چیز ایجاد کرنے والے کو ٹھکانہ دے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کسی فرض اور نفل عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے اور جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے نسب کی نسبت کرے گا اور جو غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کے غلام ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ان دونوں پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے کسی فرض اور نفل عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے جس کے لئے کم درجے کا مسلمان بھی سعی کرے گا (یعنی ادنیٰ درجہ کا مسلمان بھی کسی کافر یا دشمن کے آدمی کو امان دے دے تو اب اسے تمام مسلمانوں کی طرف سے امان مل جائے گی)۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے اس منبر پر ہاتھ مار کر کہا حضرت علیؑ نے اس منبر پر ہم میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۱) و فیہ سعید بن وہب متاخر و لم اعرفہ و بقیۃ رجالہ

۲۔ اخرجہ احمد فی مسندہ (ج ۱ ص ۸۱) عن ابراہیم النخعی عن ابیہ

ثقات. انتہی

کچھ دیر اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کیا پھر فرمایا حضور ﷺ کے بعد تمام لوگوں میں سب سے بہتر حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ ہیں پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے نئے کام کئے ہیں جن کا اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابو جحیفہؓ فرماتے ہیں حضرت علیؓ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا پھر فرمایا حضورؐ کے بعد اس امت میں سب سے بہترین آدمی حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمرؓ ہیں اور اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں خیر رکھ دیتے ہیں۔ ۲۔ مسند احمد میں حضرت وہب سوائیؓ سے اسی کے ہم معنی روایت مذکور ہے، البتہ اس میں یہ مضمون نہیں ہے کہ پھر ہم نے بہت سے نئے کام کئے اور اس میں حضرت علیؓ کا یہ فرمان ہے کہ ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عمرؓ کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔

حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؓ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتے ہیں اگر میں اس کام سے لوگوں کو منع کر چکا ہوتا تو آج میں اس پر ضرور سزا دیتا اور روکنے سے پہلے سزا دینا مجھے پسند نہیں بہر حال اب سب سن لیں کہ آئندہ میرے اس بیان کے بعد جو بھی اس بارے میں ذرا سی بھی بات کرے گا وہ میرے نزدیک بہتان باندھنے والا ہوگا اسے وہی سزا ملے گی جو بہتان باندھنے والے کی ہوتی ہے۔ حضور ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین حضرت ابوبکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ ہیں پھر ہم نے ان حضرات کے بعد بہت سے نئے کام کئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے۔ ۳۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! میں چند لوگوں کے پاس سے گزرا جو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی شان میں نامناسب کلمات کہہ رہے تھے یہ سن کر حضرت علیؓ اٹھے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو (زمین میں جانے کے بعد) پھاڑا اور جان کو پیدا کیا! ان دونوں حضرات سے وہی محبت کرے گا جو مومن اور صاحب فضل و کمال ہوگا اور ان سے بغض صرف بد بخت اور بے دین ہی رکھے گا۔ حضرات شیخین کی محبت اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور ان حضرات سے بغض و نفرت بے دینی ہے۔ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ حضور ﷺ کے دو بھائیوں، دو وزیروں، دو خاص ساتھیوں، قریش کے دوسر داروں اور مسلمانوں کے دو روحانی باپوں کا نامناسب کلمات سے ذکر کرتے ہیں۔ جو بھی ان حضرات کا ذکر برائی سے

۲۔ عند احمد ایضا (ج ۱ ص ۱۰۶)

۱۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۱۲۷)

۳۔ اخرجہ ابن ابی عاصم و ابن شاہین و اللالکانی فی السنۃ و الاصبہانی فی الحجۃ و ابن عساکر

کدافی المنتخب (ج ۲ ص ۴۳۶)

کرے گا میں اس سے بُری ہوں اور میں اسے اس وجہ سے سزا دوں گا۔ حضرت علیؑ کا یہ بیان اکابر کی وجہ سے ناراض ہونے کے باب میں پوری تفصیل سے گزر چکا ہے۔

حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت علی بن ابی طالبؑ جنگ صفین سے واپس آئے تو ان سے بنو ہاشم کے ایک نوجوان نے کہا اے امیر المؤمنین! میں نے آپ کو جمعہ کے خطبہ میں یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ! تو نے جس عمل کے ذریعہ سے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی اسی کے ذریعہ سے ہماری بھی اصلاح فرماتا تو یہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ اس پر حضرت علیؑ کی دونوں آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور فرمایا خلفاء راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں جو کہ ہدایت کے امام اور اسلام کے بڑے زبردست عالم ہیں جن سے حضور ﷺ کے بعد ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ جو ان دونوں کا اتباع کرے گا اسے صراطِ مستقیم کی ہدایت ملے گی اور جو ان دونوں کی اقتداء کرے گا وہ رشد والا ہو جائے گا۔ جو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا اور اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ۲

بنو تمیم کے ایک بڑے میاں کہتے ہیں حضرت علیؑ نے ایک مرتبہ ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھا میں گے اور مالدار اپنے مال کو روک کر رکھے گا بالکل خرچ نہیں کرے گا حالانکہ اسے اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا (بلکہ اسے تو ضرورت سے زائد سارا مال دوسروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تھا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَنسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (سورت بقرہ آیت ۲۳۷) ”اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو۔“ بڑے لوگ زور پر ہوں گے غالب آ جائیں گے۔ نیک لوگ بالکل دب جائیں گے اور مجبور لوگوں سے خرید و فروخت کی جائے گی (یا تو انہیں خرید و فروخت پر کسی طرح مجبور کیا جائے گا یا وہ قرضے وغیرہ کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنا سامان وغیرہ سستے داموں بیچیں گے) حالانکہ حضور ﷺ نے مجبور انسان سے اس طرح خریدنے سے اور دھوکہ کی خرید و فروخت سے اور پکنے سے پہلے پھل بیچ دینے سے منع فرمایا ہے۔ ۳

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت علیؑ کے ساتھ عید الفصحیٰ کی نماز میں شریک ہوا حضرت علیؑ نے خطبہ سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا اس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! حضور ﷺ نے تمہیں، تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے لہذا تم لوگ تین دن (تو گوشت

۲۔ اخرجہ اللالکانی و ابو

۱۔ عند ابی نعیم فی الحلیة کذا فی المنتخب (ج ۳ ص ۳۳۳)

طالب العشاری و نصر فی الحجۃ کذا فی المنتخب (ج ۳ ص ۳۳۳)

۳۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۱۱۶)

کھاؤ اس) کے بعد نہ کھاؤ (حضورؐ نے پہلے تو منع فرمایا تھا لیکن بعد میں تین دن کے بعد بھی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔۱

حضرت ربیع بن حراش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت علیؑ کو بیان میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضورؐ نے فرمایا میرے بارے میں جھوٹ نہ بولو کیونکہ جو میرے بارے میں جھوٹ بولے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔۲

حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؑ نے بیان کیا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنے غلام اور باندیوں پر شرعی حدود قائم کرو چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، کیونکہ حضورؐ کی ایک باندی سے زنا صادر ہو گیا تھا تو حضورؐ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس پر حد شرعی قائم کروں۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے ہاں کچھ دیر پہلے بچہ پیدا ہوا ہے تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں اسے کوڑے ماروں گا تو وہ مر جائے گی۔ میں نے حضورؐ کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی۔ آپؐ نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔۳

حضرت عبد اللہ بن سبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؑ نے ہم سے بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا! میری یہ ڈاڑھی سر کے خون سے ضرور رنگین ہوگی یعنی مجھے قتل کیا جائے گا اس پر لوگوں نے کہا آپؐ ہمیں بتائیں کہ وہ (آپؐ کو قتل کرنے والا) آدمی کون ہے؟ اللہ کی قسم! ہم اس کے سارے خاندان کو تباہ کر دیں گے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے قاتل کے علاوہ کوئی اور ہرگز قتل نہ ہو۔ لوگوں نے کہا اگر آپؐ کو یقین ہے کہ عنقریب آپؐ کو قتل کر دیا جائے گا تو آپؐ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیں فرمایا نہیں بلکہ میں تو تمہیں اسی کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد حضورؐ کر کے گئے تھے (یعنی حضورؐ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حوالے کیا تھا میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں)۔۴

حضرت علاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؑ نے بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! میں نے تمہارے مال میں سے اس شیشی کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا اور اپنے گرتے کی آستین سے خوشبو کی ایک شیشی نکال کر فرمایا یہ ایک گاؤں کے چودھری نے مجھے ہدیہ کی ہے۔۵

۱۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۱۴۱) ۲۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۱۵۰) و اخرجہ الطیالسی

(ص ۱۷) عن ربیع مثله ۳۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۱۵۶)

۴۔ اخرجہ احمد (۱ ص ۱۵۶) ۵۔ اخرجہ عبد الرزاق و ابو عیید فی الاموال و الحاکم

فی الکنی و ابونعیم فی الحلیۃ عن ابی عمر و بن العلاء عن ابیہ کنا فی المنتخب (ج ۵ ص ۵۳)

حضرت عمیر بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؑ نے کوفہ کے منبر پر ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اگر میں خود حضور ﷺ سے نہ پوچھتا تو آپ مجھے خود بتا دیتے اور اگر میں آپ سے خیر کے بارے میں پوچھتا تو آپ اس کے بارے میں بتاتے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف سے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اپنے عرش کے اوپر بلند ہونے کی قسم! جس بستی والے اور جس گھر والے اور جنگل میں اکیلے رہنے والے سب میری نافرمانی پر ہوں جو کہ مجھے ناپسند ہے پھر یہ اسے چھوڑ کر میری اطاعت اختیار کر لیں جو مجھے پسند ہے تو میرا عذاب جو انہیں ناپسند ہے ان سے ہٹا کر اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کر دوں گا جو انہیں پسند ہے اور جس بستی والے اور جس گھر والے اور جنگل میں اکیلے رہنے والے سب میری اطاعت پر ہوں جو مجھے پسند ہے وہ اسے چھوڑ کر میری نافرمانی اختیار کر لیں جو مجھے ناپسند ہے، تو میری رحمت جو انہیں پسند ہے وہ ان سے ہٹا کر اپنا غصہ ان کی طرف متوجہ کر دوں گا جو انہیں ناپسند ہے۔

## امیر المؤمنین حضرت حسن بن علیؑ کے بیانات

حضرت ہبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت علی ابن ابی طالبؑ کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن بن علیؑ کھڑے ہو کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو! آج رات ایسی ہستی دنیا سے اٹھالی گئی ہے جن سے پہلے لوگ آگے نہیں جاسکے اور جنہیں پچھلے لوگ پانہیں سکیں گے۔ حضور ﷺ انہیں کسی جگہ بھیجتے تو انہیں دائیں طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف سے حضرت میکائیل علیہ السلام اپنے گھیرے میں لے لیتے اور جب تک اللہ انہیں فتح نہ دیتے یہ واپس نہ آتے یہ صرف سات سو درہم چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ اس سے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے آج ستائیس (۲۷) رمضان کی رات میں ان کی روح قبض کی گئی ہے اسی رات میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ایک روایت میں ہے وہ سونا چاندی کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے صرف سات سو درہم چھوڑ کر گئے ہیں جو ان کے بیت المال میں سے ملنے والے وظیفہ میں سے بچے ہیں۔ اس روایت میں اس سے آگے نہیں ہے۔

جب حضرت علیؑ شہید ہو گئے تو حضرت حسنؑ نے کھڑے ہو کر بیان فرمایا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اب بعد! آج رات تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اسی رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو اٹھایا گیا اور اسی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام

۱۔ اخرجہ ابن مردويه كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۰۳) اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۸)

و عند ابی نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۵) عن هبيرة بالسباق الثاني المعناه و اخرجہ احمد (ج ۱ ص

کے خادم حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا اور اسی میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ طبرانی کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر حضرت حسنؑ نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں میں حضرت محمد ﷺ کا بیٹا حسن ہوں (میں حضور کو اپنا باپ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہما السلام کو اپنا باپ کہا ہے، حالانکہ یہ دونوں ان کے دادا پڑا دادا تھے) پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت یوسف کا قول ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي اِبْرَاهِيمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ (سورت یوسف آیت ۳۸) ”اور میں نے اپنے ان باپ دادوں کا مذہب اختیار کر رکھا ہے ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا۔“ پھر اللہ کی کتاب میں سے کچھ اور پڑھنے لگے پھر (حضور کے مختلف نام لے کر) فرمایا میں بشارت دینے والے کا بیٹا ہوں۔ میں ڈرانے والے کا بیٹا ہوں میں نبی کا بیٹا ہوں میں اللہ کے حکم سے اللہ کی دعوت دینے والے کا بیٹا ہوں میں روشن چراغ کا بیٹا ہوں۔ میں اس ذات کا بیٹا ہوں جنہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن سے اللہ نے گندگی دور کر دی اور جنہیں خوب اچھی طرح پاک کیا میں اس گھرانے کا فرد ہوں جن کی محبت اور دوستی کو اللہ نے فرض قرار دیا، چنانچہ جو قرآن حضرت محمد ﷺ پر اللہ نے نازل کیا اس میں اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى (سورت شوریٰ آیت ۲۳) ”آپ (ان سے) یوں کہئے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے۔“ طبرانی کی دوسری روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور ﷺ انہیں جھنڈا دیا کرتے اور جب جنگ میں گھسان کارن پڑتا تو جبرائیل علیہ السلام ان کے دائیں جانب آکر لڑتے۔ راوی کہتے ہیں یہ رمضان کی ایک سو سوس رات تھی۔ ۳ حاکم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ میں نبوی گھرانہ میں سے ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام (آسمان سے) اتر کر ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور ہمارے پاس سے (آسمان کو) اوپر جایا کرتے تھے۔ اس روایت میں اسی آیت کا یہ حصہ بھی ہے وَمَنْ يَّقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا (سورت شوریٰ آیت ۲۳) ”اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے۔“ یہاں نیکی کرنے سے مراد ہمارے سارے گھرانے سے محبت کرنا ہے۔ ۴

۱۔ عند ابی یعلیٰ و ابن جریر و ابن عساکر عن الحسن کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۶۱)

۲۔ اخرجہ الطبرانی عن ابی الطفیل فذکر بمعنی روایتی ابن سعد و روایۃ ابی یعلیٰ وغیرہ

۳۔ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۲۶) رواہ الطبرانی فی الاوسط و الکبیر باختصار و ابو یعلیٰ باختصار و البزار بنحوہ و رواہ احمد باختصار کثیر و اسناد احمد و بعض طرق البزار و الطبرانی فی الکبیر حسان۔ انتہی۔

۴۔ اخرجہ الحاکم فی المستدرک (ج ۳ ص ۱۷۲) عن علی بن الحسین رضی اللہ عنہما روایۃ ابی الطفیل قال النهی لیس بصحیح و مکت الحاکم

حضرت ابو جمیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما خلیفہ بنے ایک دفعہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ان کی سرین پر نخر مارا جس سے وہ زخمی ہو گئے اور چند ماہ بیمار رہے پھر کھڑے ہو کر انہوں نے بیان فرمایا تو اس میں بیان فرمایا اے عراق والو! ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تمہارے امراء بھی ہیں اور مہمان بھی اور ہم اس گھرانے کے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا (سورت احزاب آیت ۳۳) ”اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے گھر والو تم سے آلودگی کو دور رکھے اور تم کو (ہر طرح ظاہر و باطناً) پاک صاف رکھے“ حضرت حسنؑ اس موضوع پر کافی دیر گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ مسجد کا ہر آدمی روتا ہوا نظر آنے لگا۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حسنؑ ان باتوں کو بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ مسجد کا ہر آدمی آواز سے رونے لگا۔

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن بن علیؑ سے نخیلہ مقام پر صلح کی تو حضرت معاویہؓ نے ان سے کہا جب یہ (صلح کی) بات طے ہو گئی ہے تو آپ کھڑے ہو کر گفتگو کریں اور لوگوں کو بتادیں کہ آپ نے خلافت چھوڑ دی ہے اور اسے میرے حوالے کر دیا ہے، چنانچہ حضرت حسنؑ اٹھے اور منبر پر بیان کیا۔ حضرت شعبیؒ کہتے ہیں میں اس بیان کو سن رہا تھا حضرت حسنؑ نے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اما بعد! سب سے زیادہ سمجھداری تقویٰ اختیار کرنا ہے اور سب سے بڑی حماقت گناہوں میں مبتلا ہونا ہے میرا اور معاویہؓ کا خلافت کے بارے میں آپس میں اختلاف تھا یا تو یہ میرا حق تھا جسے میں نے حضرت معاویہؓ کے لئے اس لئے چھوڑ دیا تاکہ اس امت کا آپس میں معاملہ ٹھیک رہے اور ان کے خون محفوظ رہیں یا کوئی اور اس خلافت کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے تو اب میں نے یہ خلافت ان کے حوالے کر دی ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی اِنْ اَدْرٰى لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ الْاٰلِیٰٓنِیۡنِ (سورت انبیاء آیت ۱۱۱) ”اور میں (بالعین) نہیں جانتا (کہ کیا مصلحت ہے) شاید وہ (تاخیر عذاب) تمہارے لئے (صورنا) امتحان ہو اور ایک وقت (یعنی موت) تک (زندگی سے) فائدہ پہنچانا ہو۔“

حضرت شعبیؒ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہؓ سے صلح کی تو انہوں نے نخیلہ مقام میں ہم میں بیان کیا اور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء بیان

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۷۲) رجالہ ثقات. انتہی

۲۔ اخرجہ ابن ابی حاتم عن ابی جمیلہ نحوہ کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۲۸۶)

۳۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۲ ص ۲۰۸) وفی مجالدین سید وفی کلام وقد رتق

وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح. انتہی.

کی اور پچھلی حدیث جیسا مضمون بیان کیا اور آخر میں مزید یہ بھی ہے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے اس بیان میں یہ بھی فرمایا اما بعد! اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلوں کے ذریعہ سے (یعنی حضور ﷺ کے ذریعہ سے) تمہیں ہدایت دی اور ہمارے پچھلوں کے ذریعہ (یعنی میرے ذریعہ) تمہارے خون کی حفاظت کی۔ اس خلافت کی تو ایک خاص مدت ہے اور دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے کبھی کسی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ سے فرمایا ہے وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّهٗ لِنُتَّٰ لَكُمْ وَمَنَعَ الْيٰ حِينَ (سورۃ انبیاء آیت ۱۱۱) ترجمہ گزر چکا ہے۔

## امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ

حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ ایک دن مدینہ میں بیان فرما رہے تھے اس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو اس کی مالداری اللہ کے ہاں کوئی کام نہیں دے سکتی۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں نے یہ ساری باتیں (منبر کی) ان لکڑیوں پر حضور ﷺ سے سنی ہیں۔

حضرت حمید بن عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہؓ نے ہم میں بیان فرمایا میں نے انہیں بیان میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہی ہوں اور دیتے تو صرف اللہ ہی ہیں اور یہ امت ہمیشہ حق پر اور اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور یہ صورت حال اللہ کے حکم کے آنے تک یعنی قیامت کے قائم ہونے تک ایسے ہی رہے گی۔

حضرت عمیر بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت اللہ کے دین کو لے کر کھڑی رہے گی ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کی مدد چھوڑنے والے کوئی بھی ان کا نقصان نہ کر سکیں گے اور اللہ کے حکم کے آنے تک یعنی قیامت کے

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۱۷۵) من طریق مجالدو اخرجہ البیہقی (ج ۸ ص ۱۷۳) من طریقہ عنہ

نحوہ ۲۔ ذکرہ ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۲)

۳۔ عند ابن عبدالبر ایضاً۔

۴۔ اخرجہ ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۱ ص ۲۰)



قائم ہونے تک وہ ایسے ہی رہیں گے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ حضرت عمیر بن ہانی کہتے ہیں اس پر حضرت مالک بن یخامر نے کھڑے ہو کر کہا میں نے حضرت معاذ بن جبل کو فرماتے ہوئے سنا کہ (میرے خیال میں) یہ جماعت آج کل شام میں ہے۔ حضرت یونس بن حلیس جب لانی سے اسی جیسی حدیث مروی ہے اور اس میں مزید یہ بھی ہے پھر حضرت معاویہ نے اس آیت کو بطور دلیل کے ذکر کیا **عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَفَعَكَ الْاَلَمِیَّ وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الْاَذِیْنِ كَفَرُوْا وَجَاعِلِ الْاَذِیْنِ اَتَّبِعُوْكَ فَوْقَ الْاَذِیْنِ كَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِیْمَةِ** (سورت آل عمران آیت ۵۵) ”اے عیسیٰ (کچھ غم نہ کرو) بیشک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور (فی الحال) میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں اور ان لوگوں پر جو کہ (تمہارے) منکر ہیں روز قیامت تک۔“ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ نے منبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے لوگو! علم تو سیکھنے سے آتا ہے اور دین کی سمجھ تو حاصل کرنے سے آتی ہے اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں (جو اس کی قدرت کا) علم رکھتے ہیں اور میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی جو لوگوں پر غالب رہے گی اور مخالفین اور دشمنوں کی انہیں کوئی پروا نہیں ہوگی اور یہ لوگ قیامت تک یونہی غالب رہیں گے۔“

## امیر المؤمنین حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کے بیانات

حضرت محمد بن عبداللہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ حج کے موقع پر حضرت ابن زبیرؓ کے خطبہ میں شریک ہوا۔ ہمیں ان کے بارے میں اسی وقت پتہ چلا جب وہ یوم الترویہ (آٹھویں ذی الحجہ) سے ایک دن پہلے احرام باندھ کر ہمارے پاس باہر آئے وہ ادھیڑ عمر کے خوبصورت آدمی تھے وہ سامنے سے آرہے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ امیر المؤمنین ہیں پھر وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اس وقت ان پر احرام کی دو سفید چادریں تھیں پھر انہوں نے لوگوں کو سلام کیا لوگوں نے انہیں سلام کا جواب دیا پھر انہوں نے بڑی اچھی آواز سے لبیک پڑھا ایسی اچھی آواز میں نے کبھی ہی سنی ہوگی پھر اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اس کے بعد فرمایا اما بعد! تم لوگ مختلف علاقوں سے وفد بن کر اللہ کے پاس آئے ہو، لہذا اللہ پر بھی اس کے فضل سے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پاس وفد بن کر آنے

۲۔ عند ابن عساکر

۱۔ عند احمد و ابی یعلی و یعقوب بن سفیان وغیرہم

۳۔ عند ابن عساکر ایضا کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۱۳۰)

والوں کا اکرام کرے۔ اب جو ان اخروی نعمتوں کا طالب بن کر آیا ہے جو اللہ کے پاس ہیں تو اللہ سے طلب کرنے والا محروم نہیں رہتا، لہذا اپنے قول کی عمل سے تصدیق کرو کیونکہ قول کا سہارا عمل ہے اور اصل نیت دل کی ہوتی ہے ان دنوں میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہیں آپ لوگوں کا مقصد نہ تجارت ہے اور نہ مال حاصل کرنا اور نہ ہی دنیا لینے کی امید میں آپ لوگ یہاں آئے ہیں پھر حضرت ابن زبیرؓ نے لبیک پڑھا اور لوگوں نے بھی پڑھا۔ پھر انہوں نے بڑی لمبی گفتگو فرمائی پھر فرمایا ابا بعد! اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ (سورت بقرہ آیت ۱۹۷) ”(زمانہ) حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔“ فرمایا وہ تین مہینے ہیں شوال ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثٍ ”سو جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر (اس کو) نہ کوئی فحش بات (جائز) ہے“ یعنی بیوی سے صحبت کرنا وَلَا فُسُوقَ ”اور نہ کوئی بے حکمی (درست) ہے“ یعنی مسلمانوں کو برا بھلا کہنا وَلَا جِدَالَ ”اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے“ یعنی لڑائی جھگڑا کرنا وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَرَوْهُ دُونَ مَا أَنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ”اور جو نیک کام کرو گے خدائے تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور (جب حج کو جانے لگو) خرچ ضرور لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں (گداگری سے) بچا رہنا ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ”تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ (حج میں) معاش کی تلاش کرو چنانچہ اللہ نے حاجیوں کو تجارت کی اجازت دے دی پھر اللہ نے فرمایا إِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ”پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو“ اور عرفات ٹھہرنے کی وہ جگہ ہے جہاں حاجی لوگ سورج کے غروب تک وقوف کرتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں فَادُّكُرُوا وَاللَّهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ”تو مشعر حرام کے پاس (مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے) خدائے تعالیٰ کو یاد کرو“ یہ مزدلفہ کے وہ پہاڑ ہیں جہاں حاجی رات کو ٹھہرتے ہیں وَأَذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْكُمْ ”اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے“۔ حضرت ابن زبیرؓ نے فرمایا یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ صرف مکہ شہر والوں کے لئے ہے کیونکہ مکہ والے مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں اور عرفات نہیں جاتے تھے، اس لئے وہ مزدلفہ سے واپس آتے تھے۔ جبکہ باقی لوگ عرفات جاتے تھے اور وہاں سے واپس آتے تھے تو اللہ نے ان کے فعل پر انکار کرتے ہوئے فرمایا اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ”پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں“ یعنی وہاں سے واپس آ کر اپنے مناسک حج پورے کرو۔ زمانہ جاہلیت کے حاجیوں کا دستور یہ تھا کہ وہ حج سے فارغ ہو کر اپنے آباؤ اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں فَادُّكُرُوا وَاللَّهُ كَذَّابٌ كَرِيمٌ

أَبَاؤَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورت بقرہ آیت ۲۰۰، ۲۰۱) ”تو حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ یہ ذکر اس سے (بدرجہا) بڑھ کر ہے سو بعض آدمی (جو کہ کافر ہیں) ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو (جو کچھ دینا ہو) دنیا میں دے دیجئے اور ایسے شخص کو آخرت میں (بوجہ انکار آخرت کے) کوئی حصہ نہ ملے گا اور بعض آدمی (جو کہ مومن ہیں) ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔“ یعنی دنیا میں رہ کر دنیا کے لئے بھی محنت کرتے ہیں اور آخرت کے لئے بھی۔ پھر حضرت ابن زبیرؓ نے اس آیت تک تلاوت فرمائی وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ (سورت بقرہ آیت ۲۰۳) ”اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک“ اور فرمایا اس سے ایام تشریح مراد ہیں اور ان دنوں کے ذکر میں سُبْحَانَ اللّٰهِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ کہنا، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہنا، اللّٰهُ اَكْبَرُ کہنا اور اللہ کی عظمت والے کلمات کہنا سب شامل ہے پھر حضرت ابن زبیرؓ نے میقات یعنی لوگوں کے احرام باندھنے کی جگہوں کا ذکر کیا، چنانچہ فرمایا مدینہ والوں کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور عراق والوں کے لئے عقیق ہے اور نجد والوں اور طائف والوں کے لئے قرن ہے اور یمن والوں کے لئے یلملم ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کے کافروں کے لئے یہ بددعا کی اے اللہ! اہل کتاب کے ان کافروں کو عذاب دے جو تیری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تیرے رسواؤں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ! انہیں عذاب بھی دے اور ان کے دل بدکار عورتوں جیسے بنا دے۔ اس طرح بہت لمبی دعا کی پھر فرمایا یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ایسے اندھا کر دیا جیسے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا وہ حج تمتع کا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک آدمی مثلاً خراسان سے حج کا احرام باندھ کر آیا تو یہ اس سے کہتے ہیں عمرہ کر کے حج کا احرام کھول دو پھر یہاں سے حج کا احرام باندھ لینا (حالانکہ جب وہ حج کا احرام باندھ کر آیا ہے تو وہ حج کر کے ہی احرام کھول سکتا ہے اس سے پہلے نہیں) اللہ کی قسم! حج کا احرام باندھ کر آنے والے کو صرف ایک صورت میں تمتع کی یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دینے کی اجازت ہے جبکہ اسے حج سے روک دیا جائے پھر حضرت ابن زبیرؓ نے لبیک پڑھا اور تمام لوگوں نے پڑھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر قال الہیثمی (ج ۳ ص ۲۵۰) وفیہ سعید بن المرزبان وقد وثق وفیہ کلام کثیر وفیہ غیرہ ممن لم اعرفہ۔ انہی و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۲۶) عن محمد بن عبد اللہ الثقفی نحوہ الا انه لم یذکر من قوله وتکلم بکلام کثیر الی قوله الا لمحصر وفی اسنادہ سعید بن المرزبان

حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنے بیان میں فرمایا اچھی طرح سمجھ لو کہ بطنِ عنہ کے علاوہ سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور خوب جان لو کہ بطنِ محسر کے علاوہ سارا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ۱۔

حضرت عباس بن سہل بن سعد ساعدی انصاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے مکہ کے منبر پر حضرت ابن زبیرؓ کو بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگو! حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرنے لگے گا اور اگر اسے دوسری وادی دے دی جائے تو تیسری کی تمنا کرنے لگے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو (قبر کی) مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرمالتے ہیں۔ ۲۔

حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیرؓ نے ہم لوگوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا حضور ﷺ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد کی ہزار نماز سے افضل ہے اور مسجد حرام کی ایک نماز (میری مسجد کی نماز پر) سو گنا فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت عطاءؓ کہتے ہیں اس طرح مسجد حرام کی نماز کو دوسری مسجد کی نماز پر لاکھ گنا فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عطاءؓ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن زبیرؓ سے پوچھا اے ابو محمد! یہ لاکھ گنا فضیلت صرف مسجد حرام میں ہے یا سارے حرم میں ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں سارے حرم میں ہے کیونکہ سارا حرم مسجد (کے حکم میں) ہے۔ ۳۔

حضرت زبیر ابن زبیرؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت وہب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیرؓ نے عید کے دن عید کی نماز پڑھائی، پھر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ میں نے انہیں خطبہ میں یہ لہتے ہوئے سنا اے لوگو! عید کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا ہرگز درست نہیں۔ عید کے بعد خطبہ پڑھنا اللہ اور رسولؐ کی طرف سے مقرر کردہ طریقہ ہے۔ ۴۔

حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن زبیرؓ کو بیان میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا ہے جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ ۵۔

حضرت ابو الزبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کو اس منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا حضور ﷺ جب نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علیٰ کل شیء قدير لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ اهل النعمۃ والفضل والثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کفرہ الکافرُونَ

۱۔ اخرجہ ابن جریر فی تفسیرہ (ج ۲ ص ۱۶۸) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۳۷)

۳۔ اخرجہ ابو داؤد الطیالسی (ص ۱۹۵) ۴۔ اخرجہ احمد فی مسندہ (ج ۳ ص ۴)

۵۔ اخرجہ احمد (ج ۳ ص ۵)

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کے لئے ہے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کے کرنے کی طاقت صرف اسی سے ملتی ہے۔ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں وہ نعمت فضل اور اچھی تعریف والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم پورے اخلاص کے ساتھ دین پر چل رہے ہیں چاہے یہ کافروں کو برا لگے۔“

حضرت ثور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ عاشورا (دس محرم) کا دن ہے اس میں روزہ رکھو کیونکہ حضور ﷺ نے اس دن کے روزے کا حکم دیا ہے۔

حضرت کلثوم بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن زبیرؓ نے اپنی امور میں بڑی مشکل سے رعایت کرتے تھے انہوں نے ایک مرتبہ ہم میں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا اے مکہ والو! مجھے قریش کے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ زرد شیر کھیل کھلتے ہیں (یہ شطرنج جیسا کھیل ہے) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اِنَّمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ (سورت مائدہ آیت ۹۰) ”بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں سوان سے بالکل الگ رہو تا کہ تم کو فلاح ہو“ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس جو آدمی ایسا لایا گیا جو یہ کھیل کھیلتا ہوگا تو میں اس کے بال اور کھال ادھیز دوں گا اور سخت سزا دوں گا اور اس کا سامان اسے دے دوں گا جو اسے میرے پاس لائے گا۔

## حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیانات

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے مختصر بیان فرمایا بیان سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا اے ابو بکر! تم کھڑے ہو کر بیان کرو چنانچہ انہوں نے حضور سے کم بیان کیا جب وہ بیان سے فارغ ہو گئے تو حضور نے فرمایا اے عمر! اب تم اٹھو اور بیان کرو چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور سے بھی اور حضرت ابو بکر سے بھی کم بیان کیا۔ جب وہ بیان سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے فلانے! اب تم کھڑے ہو کر بیان کرو اس نے کھڑے ہو کر خوب منہ بھر کر باتیں کیں حضور نے اسے فرمایا خاموش ہو جاؤ اور بیٹھ جاؤ کیونکہ خوب منہ بھر کر باتیں کرنا شیطان کی طرف سے ہے اور بعض بیان جادو کی طرح اثر انداز ہوتے ہیں پھر آپ نے (حضرت عبداللہ بن مسعود سے) فرمایا اے ابن ام عبد! اب تم کھڑے ہو کر بیان کرو۔ انہوں نے

کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر کہا اے لوگو! اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے اور قرآن ہمارا امام ہے اور بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے اور ہاتھ سے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا اور یہ ہمارے نبی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہمارے لئے پسند کیا ہم نے بھی اسے اپنے لئے پسند کیا اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لئے ناپسند کیا ہم نے بھی اسے اپنے لئے ناپسند کیا۔ اس پر حضور نے فرمایا ابن ام عبد نے ٹھیک کہا، ابن ام عبد نے ٹھیک اور سچ کہا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لئے اور میری امت کے لئے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہے اور جو کچھ ابن ام عبد نے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے میرے لئے اور میری امت کے لئے ناپسند کیا وہ مجھے بھی ناپسند ہے اور جو کچھ ابن ام عبد نے ناپسند کیا وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ ابن عساکر کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا اب تم بات کرو، چنانچہ شروع میں انہوں نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور حضور پر درود و سلام بھیجا پھر کلمہ شہادت پڑھا پھر یہ کہا ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور میں نے بھی آپ لوگوں کے لئے وہی پسند کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا اس پر حضور نے فرمایا میں بھی تمہارے لئے وہی پسند کرتا ہوں جو تمہارے لئے ابن ام عبد یعنی حضرت ابن مسعود نے پسند کیا۔ ۳

حضرت ابوالاحوص حشمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں انہیں دیوار پر سانپ چلتا ہوا نظر آیا انہوں نے بیان چھوڑ کر چھڑی سے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا پھر فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی سانپ کو مارا تو گویا اس نے ایسے مشرک آدمی کو مارا جس کا خون بہانا حلال ہو گیا ہو۔ ۴

حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عثمان بن عفان خلیفہ بنے تو حضرت ابن مسعود مدینہ سے کوفہ کو روانہ ہوئے آٹھ دن سفر کرنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ بیان کیا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اما بعد! امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کا انتقال ہوا تو ہم نے لوگوں کو اس دن سے زیادہ روتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا پھر ہم حضرت محمد ﷺ کے صحابہ جمع ہوئے اور ایسے آدمی کے تلاش کرنے میں کوئی کمی نہیں کی جو ہم میں سب سے بہتر ہو اور ہر لحاظ سے ہم پر فوقیت رکھنے والا ہو، چنانچہ ہم نے امیر المؤمنین حضرت عثمان سے بیعت کر لی ہے۔ آپ

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۹۰) رجالہ ثقات الا ان عبید اللہ بن عثمان بن خثیم لم یسمع من ابی الدرداء واللہ اعلم انتھی ۲۔ اخرجہ ابن عساکر عن سعید بن جبیر عن ابی الدرداء مثله قال ابن عساکر سعید بن جبیر لم یدرک ابالدرداء ۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۳۷) ۴۔ اخرجہ احمد (ج ۱ ص ۲۲۱)

لوگ بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔

## حضرت عتبہ بن غزو ان رضی اللہ عنہ کے بیانات

حضرت خالد بن عمیر عدوی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عتبہ بن غزو ان بصرہ کے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہم لوگوں میں بیان کیا تو پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے اللہ! دنیا نے اپنے ختم ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹھ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے اور دنیا میں سے بس تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے جیسے برتن میں اخیر میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے اور تم یہاں سے منتقل ہو کر ایسے جہاں میں چلے جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا لہذا جو اچھے اعمال تمہارے پاس موجود ہیں ان کو لے کر اگلے جہان میں جاؤ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو ستر سال تک جہنم میں گرتا رہے گا لیکن پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کی قسم! یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دو پتوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا اور میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ صرف سات آدمی تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا اور ہمیں کھانے کو صرف درختوں کے پتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جڑے بھی زخمی ہو گئے تھے اور مجھے ایک گرمی پڑی چادر ملی تھی میں نے اس کے دو ٹکڑے کئے ایک ٹکڑے کو میں نے لنگی بنا لیا اور ایک کو حضرت سعد بن مالکؓ نے۔ ایک زمانہ میں تو ہمارے فقر و فاقہ کا یہ حال تھا اور آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے اور میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوں اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں۔ ۲۔ حاکم کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہر نبوت کی لائن دن بدن کم ہوتی چلی گئی ہے اور بالآخر اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے اور میرے بعد تم اور گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ ۳۔ ابن سعد میں اس روایت کے شروع میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عتبہؓ نے بصرہ میں سب سے پہلا یہ بیان کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۳) ۲۔ اخرجہ مسلم کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۷۹)

۳۔ اخرجہ الحاکم فی المستدرک (ج ۲ ص ۲۹۱) عن خالد نحوه قال الحاکم صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه و ذکرہ ابن الجوزی فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۱۵۲) عن مسلم وقال ان فردبه مسلم و لیس لعتبة فی الصحیح غیرہ و هكذا ذکرہ النابلسی فی ذخائر الموارث (ج ۲ ص ۲۲۹) و عزاء الی مسلم و ابن ماجہ فی الزهد و الترمذی فی صفة جہنم و اخرجہ احمد فی مسنده (ج ۳ ص ۱۷۳) عن خالد نحوه زیادة زادها الحاکم و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۷۱) بمعناه



اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد! اے لوگو! آگے کھجلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔

## حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بیانات

حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان مدائن شہر کے گورنر تھے۔ ہمارے اور مدائن کے درمیان ایک فرسخ یعنی تین میل کا فاصلہ تھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ مدائن جمعہ پڑھنے گیا، چنانچہ وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا قیامت قریب آگئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ غور سے سنو! چاند کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ توجہ سے سنو! دنیا نے جدائی کا اعلان کر دیا ہے۔ غور سے سنو! آج تو تیاری کا دن ہے کل کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ ہے میں نے اپنے والد سے کہا ان کے نزدیک آگے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کون جنت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ۲۔ ابن جریر کی روایت کے شروع میں یہ مضمون ہے غور سے سنو! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر (سورت قمر آیت ۱) ”قیامت نزدیک آچھنی اور چاند شق ہو گیا“ غور سے سنو! بیشک قیامت قریب آچکی ہے۔ اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا سچ مچ کل لوگوں کا آگے نکلنے میں مقابلہ ہوگا؟ میرے والد نے کہا اے میرے بیٹے! تم تو بالکل نادان ہو اس سے تو اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مراد ہے پھر اگلا جمعہ آیا ہم جمعہ میں آئے حضرت حذیفہؓ نے پھر بیان فرمایا غور سے سنو! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر ”توجہ سے سنو! دنیا نے جدائی کا اعلان کر دیا ہے۔ غور سے سنو! آج تیاری کا دن ہے کل ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ ہوگا اور (تیاری نہ کرنے والے کا) انجام جہنم کی آگ ہے اور آگے نکل جانے والا وہ ہے جو جنت کی طرف سبقت لے جائے گا۔ ۳۔

حضرت کر دوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت حذیفہؓ نے مدائن شہر میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! تم نے اپنے غلاموں کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ مال کما کر تمہیں دیں وہ اپنی کمائی لا کر تمہیں دیتے ہیں ان کی کمائیوں کا خیال رکھو اگر وہ حلال کی ہوں تو کھا لو ورنہ چھوڑ دو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے گا وہ جنت

۱۔ اخرجه سعد (ج ۷ ص ۶) عن مصعب بن محمد بن شرجیل بطوله مع زیادة الحاکم

۲۔ اخرجه ابونعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۸۱) ۳۔ اخرجه ابن جریر عن ابی عبدالرحمن

السلمی بنحوہ کما فی التفسیر (ج ۳ ص ۲۶۱) و اخرجه الحاکم فی المستدرک (ج ۳ ص ۶۰۹) عن

ابی عبدالرحمن بنحوہ وقال هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وقال الذہبی صحیح



میں نہیں جاسکے گا۔

حضرت ابوداؤد احمدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہؓ نے مدائن شہر میں ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! اپنے غلاموں کی کمائی کی تحقیق کرتے رہو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں سے کما کر تمہارے پاس لاتے ہیں کیونکہ حرام سے پرورش پانے والا گوشت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اور یہ بات جان لو کہ شراب کا بیچنے والا، خریدنے والا اور اپنے لئے بنانے والا یہ سب شراب پینے والے کی طرح ہیں۔

### حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت قسامہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰؓ نے بصرہ میں لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! رویا کرو اگر رونانہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو کیونکہ جہنم دانے اتار دیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے پھر وہ خون کے اتنے آنسو روئیں گے کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل جائیں۔

### حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان

حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ ایک مرتبہ موسم حج کے امیر تھے انہوں نے ہم میں بیان فرمایا انہوں نے سورت بقرہ شروع کر دی آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی تفسیر کرتے جاتے تھے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا نہ تو میں نے ان جیسا آدمی دیکھا اور نہ ان جیسا کلام بھی سنا اگر فارس اور روم والے ان کا کلام سن لیں تو سب مسلمان ہو جائیں۔

### حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت ابو یزید مدنیؓ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نے مدینہ میں حضور ﷺ کے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا اور حضور کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ابو ہریرہؓ کو اسلام کی ہدایت دی اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ابو ہریرہؓ کو قرآن سکھایا اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے حضرت محمد ﷺ کی صحبت میں رہنے کا موقع عنایت فرما کر ابو ہریرہؓ پر بڑا احسان فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے خمیری روٹی کھلائی اور اچھا کپڑا پہنایا تمام تعریفیں اس اللہ کے

۱۔ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۲۸۱) ۲۔ عند عبدالرزاق کما فی الکنز (ج ۲ ص ۲۱۸)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۴ ص ۱۱۰) و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۶۱) عن قسامہ نحوه و

احمد فی مسنده عن نحوه ۴۔ اخرجہ ابو نعیم الحلیة (ج ۱ ص ۳۴۲)

لئے ہیں جس نے بیتِ غزوان سے میری شادی کرادی، حالانکہ پہلے میں پیٹ بھر کھانے کے بدلے اس کے پاس مزدوری پر کام کرتا تھا اور وہ مجھے سواری دیا کرتی تھی اب میں اسے سواری دیتا ہوں جیسے وہ دیا کرتی تھی پھر فرمایا عربوں کے لئے ہلاکت ہو کہ ایک بہت بڑا شر قریب آ گیا ہے اور ان کے لئے ہلاکت ہو کہ عنقریب بچے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے اور غصہ میں آ کر لوگوں کو ناحق قتل کریں گے۔ اے (حضرت ابراہیم کے بیٹے) فروخ کے بیٹو! یعنی عجم کے رہنے والو! (حضرت ابراہیم کے اس بیٹے کی اولاد عجم کہلاتی ہے) تمہیں خوشخبری ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر دینِ ثریا ستارے کے پاس لڑکا ہوا ہوتا تو بھی تمہارے کچھ آدمی اسے ضرور حاصل کر لیتے۔

حضرت ابو حبیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جن دنوں حضرت عثمانؓ اپنے گھر میں محصور تھے میں ان کی خدمت میں ان کے گھر گیا وہاں میں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عثمانؓ سے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ بیان کے لئے کھڑے ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد تم پر ایک بڑا فتنہ اور بڑا اختلاف ظاہر ہوگا ایک صحابی نے حضورؐ سے پوچھا یا رسول اللہ! ان حالات میں آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم کرتے ہیں؟ حضورؐ نے فرمایا امیر اور اس کے ساتھیوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا یہ فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ حضرت عثمانؓ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔

## حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حجاج بن یوسف سے اندر آنے کی اجازت مانگی اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا۔ حجاج کے تخت کے قریب دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے حجاج نے ان سے کہا انہیں جگہ دے دو۔ انہوں نے مجھے جگہ دے دی۔ میں وہاں بیٹھ گیا حجاج نے مجھ سے کہا اللہ نے آپ کے والد کو بہت خوبیاں عطا فرمائی تھیں کیا آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو آپ کے والد نے عبدالملک بن مروان کو آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف سے سنائی تھی؟ میں نے کہا آپ پر اللہ رحم فرمائے کون سی حدیث؟ حدیثیں تو بہت ہیں حجاج نے کہا مصریوں نے حضرت عثمانؓ کا محاصرہ کیا تھا ان کے بارے میں حدیث۔ میں نے کہا ہاں وہ حدیث مجھے معلوم ہے اور

۱۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۸۳) ۲۔ اخرجہ الحاکم (۳ ص ۳۳۳) قال  
الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ وقال الذہبی صحیح.

وہ یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ محصور تھے حضرت عبداللہ بن سلامؓ تشریف لائے اور حضرت عثمانؓ کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اندر موجود لوگوں نے ان کے لئے راستہ بنا دیا جس سے وہ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمانؓ سے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ نے فرمایا وعلیک السلام یا عبداللہ بن سلام! کیسے آتا ہوا؟ حضرت ابن سلامؓ نے کہا میں تو یہ پختہ عزم لے کر آیا ہوں کہ یہاں سے ایسے ہی نہیں جاؤں گا (بلکہ آپ کی طرف سے ان مصریوں سے لڑوں گا) پھر یا تو شہید ہو جاؤں گا یا اللہ آپ کو فتح نصیب فرمادیں گے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا تو یہ آپ کے لئے تو بہتر ہوگا لیکن ان کے لئے بہت برا ہوگا۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا آپ کے اوپر میرا جو حق ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس ضرور جائیں اور انہیں سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے خیر کو لے آئیں اور شر کو ختم کر دیں حضرت ابن سلامؓ نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور حضرت عثمانؓ کی بات مان لی اور ان مصریوں کے پاس باہر آئے جب مصریوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب ان کے پاس اکٹھے ہو گئے وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابن سلامؓ کوئی خوشی کی بات لائے ہیں چنانچہ حضرت ابن سلامؓ بیان کے لئے کھڑے ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے اللہ! اللہ نے حضرت محمد ﷺ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا جو ان کی اطاعت کرتا تھا اسے جنت کی بشارت دیتے تھے اور جو نافرمانی کرتا تھا اسے جہنم سے ڈراتے تھے آخر اللہ تعالیٰ نے حضور کا اتباع کرنے والوں کو تمام دین والوں پر غالب کر دیا اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بہت ناگوار گزری اللہ تعالیٰ نے حضور کے لئے بہت سی رہنے کی جگہیں پسند فرمائیں اور ان میں سے مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا اور اسے ہجرت کا گھر اور ایمان کا گھر قرار دیا (ہر جگہ سے مسلمان ہجرت کر کے وہاں آتے رہے اور ایمان سیکھتے رہے) اللہ کی قسم! جب سے حضور ﷺ مدینہ تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ہر وقت فرشتے اسے ہر طرف سے گھیرے رہتے ہیں اور جب سے حضور مدینہ تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی تلوار آپ لوگوں سے نیام میں ہے (یعنی مسلمان قتل نہیں ہو رہے ہیں) پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو حق دے کر بھیجا لہذا جسے ہدایت ملی اسے اللہ کے دین سے ملی اور جو گمراہ ہوا وہ واضح اور کھلی دلیل کے آنے کے بعد گمراہ ہوا۔ پہلے زمانے میں جو بھی نبی شہید کیا گیا اس کے بدلے میں ستر ہزار جنگجو جوان قتل کئے گئے ان میں سے ہر ایک اس نبی کے بدلے میں قتل ہوا اور جو بھی خلیفہ شہید کیا گیا اس کے بدلے میں ۲۵ ہزار جنگجو جوان قتل کئے گئے ان میں سے ہر ایک اس خلیفہ کے بدلے میں قتل ہوا لہذا تم جلد بازی میں کہیں ان بڑے میاں کو قتل نہ کر دو۔ اللہ کی قسم! تم میں سے جو آدمی بھی نہیں قتل کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا اور شل ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح

جان لو کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر جتنا حق ہوتا ہے اتنا ہی ان بڑے میاں کا تمہارے اوپر ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر وہ سارے باغی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہودی جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں (چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اس لئے بطور طعنہ کے انہوں نے ایسا کہا) حضرت عبداللہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو اللہ کی قسم! یہ بات کہہ کر تم گہنکار ہو گئے ہو میں یہودی نہیں ہوں میں تو مسلمان ہوں۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول اور سارے مومن جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (سورت رعد آیت ۴۳) ”آپ فرمادیتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان (میری نبوت پر) اللہ تعالیٰ وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسمانی) کا علم ہے کافی گواہ ہیں۔“ (جس کے پاس گزشتہ آسمانی کتاب کا علم ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے یہودی علماء ہیں جو تورات کی بتائی ہوئی نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے) اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ (سورت احقاف آیت ۱۰) ”آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن منجانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آوے اور تم تکبر ہی میں رہو۔“ پھر راوی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں حدیث ذکر کی۔

## حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا بیان

حضرت محمد بن حسن، حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب عمر بن سعد نے (لشکر لے کر) حضرت حسینؑ کے پاس پڑاؤ کیا اور حضرت حسینؑ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا جو معاملہ تم دیکھ رہے ہو وہ سر پر آن پڑا ہے (ہمیں قتل کرنے کے لئے لشکر آ گیا ہے) دنیا بدل گئی ہے اور اوپری ہو گئی ہے۔ اس کی نیکی پیٹھ پھیر کر چلی گئی ہے اور دنیا کی نیکی میں صرف اتارہ گیا جتنا برتن کے نچلے حصہ میں رہ جایا کرتا ہے بس گھٹیا زندگی رہ گئی ہے جیسے مضر صحت چراگاہ ہوا کرتی ہے جس کا گھاس کھانے سے ہر جانور بیمار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے رکنا نہیں جا رہا (ان حالات میں) مومن کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہئے۔ میں تو اس وقت موت کو بڑی سعادت کی چیز اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو پریشانی اور بے چینی کی چیز سمجھتا

ہوں۔ ۱۔ حضرت عقبہ بن ابی العیزار کی روایت تاریخ ابن جریر میں اس طرح ہے کہ حضرت حسینؑ نے ذی حسم مقام میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ ۲۔ حضرت عقبہ بن ابی العیزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حسینؑ نے بیضہ مقام میں اپنے ساتھیوں میں اور حر بن یزید کے ساتھیوں میں بیان کیا پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا اے لوگو! حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایسے ظالم سلطان کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے اور اللہ سے کئے ہوئے معاہدے کو توڑے اور حضور ﷺ کی سنت کا مخالف ہو اور اللہ کے بندوں کے بارے میں گناہ اور زیادتی کے کام کرتا ہو اور پھر وہ آدمی اس بادشاہ کو اپنے قول اور فعل سے نہ بد لے تو اللہ پر حق ہوگا کہ وہ اسے اس جرم کے لائق جگہ یعنی جہنم میں داخل کرے۔ غور سے سنو! ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور فساد کو غالب کر دیا ہے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کو چھوڑ دیا ہے اور مالِ غنیمت پر خود قبضہ کر لیا ہے اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان لوگوں کو بدلنے کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے۔ تمہارے خط میرے پاس آئے تھے اور تمہارے قاصد بھی مسلسل آتے رہے کہ تم مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو اور مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے اب اگر تم اپنی بیعت پر پورے اترتے ہو تو تمہیں پوری ہدایت ملے گی اور پھر میں بھی علی کا بیٹا حسین ہوں اور محمد ﷺ کی صاحبزادی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے اور میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ تم لوگوں کے لئے میں بہترین نمونہ ہوں اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد توڑ دیا اور میری بیعت کو اپنی گردن سے اتار پھینکا تو میری جان کی قسم! ایسا کرنا تم لوگوں کے لئے کوئی اجنبی اور اوپری چیز نہیں ہے بلکہ تم لوگ تو ایسا میرے والد میرے بھائی اور میرے چچا زاد بھائی (مسلم بن عقیل) کے ساتھ بھی کر چکے ہو۔ جو تم لوگوں سے دھوکہ کھائے وہ اصل دھوکہ میں پڑا ہوا ہے تم اپنے حصے سے چوک گئے اور تم نے (خوش قسمتی میں سے) اپنا حصہ ضائع کر دیا اور جو عہد توڑے گا تو اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا اور عنقریب اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے مستثنیٰ کر دے گا تم لوگوں کی مجھے ضرورت نہ رہے گی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ۳۔

۱۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۳) محمد بن الحسن هنا هو ابن زبالة متروک ولم یدرک القصة. انتھی ۲۔ ذکر ابن جریر فی تاریخہ (ج ۲ ص ۳۰۵) هذه الخطبة عن عقبہ بن ابی العیزار ۳۔ ذکرہ ایضا ابن جریر عن عقبہ بن ابی العیزار

## حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا عمل ان کے قول کی تصدیق کرتا تھا انہوں نے ایک مرتبہ ہم میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ کی یہ نعمتیں کتنی اچھی ہیں، ہم سرخ، سبز اور زرد رنگ برنگے کپڑے دیکھ رہے ہیں اور گھروں میں جو سامان ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت یزید یہ بھی فرماتے تھے کہ جب لوگ نماز کے لئے صفیں بنا لیتے ہیں اور لڑائی کے لئے صفیں بنا لیتے ہیں تو آسمان کے، جنت کے اور دوزخ کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور موٹی آنکھوں والی حوریں سجائی جاتی ہیں اور وہ جھانک کر دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتی ہیں اے اللہ! اس کی مدد فرما اور جب آدمی پیٹھ پھیرتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے تو اس سے پردہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما، لہذا تم پورے زور سے جنگ کرو۔ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں اور موٹی آنکھوں والی حوروں کو رسوا نہ کرو۔ کیونکہ جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس نے جتنے گناہ کئے ہوتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں اور دو حوریں آسمان سے اترتی ہیں اور اس کے چہرے کو صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے پھر اسے سو جوڑے پہنائے جاتے ہیں جو بنی آدم کی بنائی کے نہیں ہوتے بلکہ جنت کی پیداوار کے ہوتے ہیں اور وہ اتنے باریک اور لطیف ہوتے ہیں کہ وہ سو جوڑے دو انگلیوں کے درمیان رکھ دیئے جائیں تو سارے دونوں کے درمیان آ جائیں اور حضرت یزید فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یزید بن شجرہ رباوی شام کے گورنروں میں سے ایک گورنر تھے۔ حضرت معاویہؓ انہیں لشکروں کا امیر بنایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں یاد رکھو۔ اگر تم غور سے دیکھو تو تمہیں بھی وہ سیاہ، سرخ، سبز اور سفید رنگ برنگی نعمتیں نظر آ جائیں گی جو مجھے نظر آ رہی ہیں اور گھروں میں بھی کتنی نعمتیں ہیں اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آسمان کے، جنت کے اور جہنم کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور حوروں کو سجایا جاتا ہے اور وہ زمین کی طرف جھانکتی ہیں (اور جب میدان جنگ میں مسلمان صفیں بناتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے) اور جب مسلمان جنگ کی طرف متوجہ ہو کر آگے بڑھتا ہے تو وہ حوریں کہتی ہیں (اے

اللہ! اس کو جہادے۔ اے اللہ! اس کی مدد فرما اور جب کوئی پشت پھیر کر میدان سے بھاگتا ہے تو وہ حوریں اس سے پردہ کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اے اللہ! اس پر رحم فرما لہذا تم دشمن کے چہروں پر پورے زور سے حملہ کرو۔ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں جب کوئی آگے بڑھتے ہوئے زخمی ہو کر گرتا ہے تو خون کے پہلے قطرے کے گرتے ہی اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں اور موٹی آنکھوں والی دو حوریں اتر کر اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی ہیں۔ وہ ان دونوں سے کہتا ہے، میں تم دونوں کے لئے ہوں۔ وہ کہتی ہیں نہیں ہم دونوں آپ کے لئے ہیں اور اسے ایسے سو جوڑے پہنائے جاتے ہیں کہ اگر انہیں اکٹھا کر کے میری ان دو انگلیوں (درمیانی اور شہادت کی انگلیوں) کے درمیان رکھا جائے تو وہ باریکی اور لطافت کی وجہ سے سارے ان کے درمیان آ جائیں اور وہ بنی آدم کے بنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جنت کے کپڑوں میں سے ہیں۔ تم لوگوں کے نام، نشانیاں، حلیئے، تنہائی کی باتیں اور مجلسیں سب چیزیں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو کسی سے کہا جائے گا اے فلانے! یہ تیرا نور ہے اور کسی سے کہا جائے گا اے فلانے! تیرے لئے کوئی نور نہیں ہے اور جیسے سندر کا ساحل ہوتا ہے ایسے ہی جہنم کا بھی ساحل ہے وہاں کیڑے مکوڑے، حشرات الارض اور کھجور کے درخت جتنے لمبے سانپ اور نخر کے برابر بچھو ہیں۔ جب جہنم والے اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمارا جہنم کا عذاب ہلکا کر دیا جائے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم سے نکل کر ساحل پر چلے جاؤ وہ نکل کر وہاں آئیں گے تو کیڑے مکوڑے حشرات الارض ان کے ہونٹوں، چہروں اور دوسرے اعضاء کو پکڑ لیں گے اور انہیں نوچ کھائیں گے تو اب یہ فریاد کرنے لگیں گے کہ ہمیں ان سے چھڑایا جائے اور جہنم میں واپس جانے دیا جائے اور جہنم والوں پر خارج کا عذاب بھی مسلط کیا جائے گا اور جہنمی اتنا کھجائے گا کہ اس کی ہڈی ننگی ہو جائے گی۔ فرشتہ کہے گا اے فلانے! کیا تجھے اس خارش سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں فرشتہ کہے گا تو جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا یہ اس کے بدلہ میں ہے۔

## حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت سعد بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے صحابہ ہمیں سے تھے اور حمص کے گورنر تھے وہ منبر پر فرمایا کرتے تھے غور سے سنو! اسلام کی ایک مضبوط دیوار ہے اور اس کا ایک مضبوط دروازہ ہے۔ اسلام کی دیوار عدل و انصاف ہے اور اس کا دروازہ حق ہے

لہذا جب دیوار توڑ دی جائے گی اور دروازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں گے تو اسلام مفتوح ہو جائے گا اور جب تک سلطان قوی ہوگا اسلام مضبوط رہے اور سلطان کی قوت کموار سے قتل کرنے یا کوڑے مارنے سے نہیں ہے بلکہ حق کے فیصلے کرنے اور عدل و انصاف کرنے سے ہے۔

## حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے والد

### حضرت سعد بن عبید القاری رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا کل دشمن سے ہماری مڈ بھیڑ ہوگی اور کل ہم شہید ہو جائیں گے، لہذا ہمارے جسم پر جو خون لگا ہوا ہو اسے مت دھونا اور ہمارے جسم پر جو کپڑے ہوں گے وہی ہمارا کفن ہوں گے۔

### حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت سلمہ بن سبرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ملک شام میں حضرت معاذ بن جبل نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا تم لوگ ایمان والے ہو تم لوگ جنتی ہو اللہ کی قسم! مجھے امید ہے کہ تم لوگوں نے روم و فارس کے جن لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جب تمہارا کوئی کام کر دیتا ہے تو تم شکر یہ میں اسے یہ تعریفی اور دعائیہ کلمات کہتے ہو تم نے اچھا کیا۔ تم پر اللہ رحم فرمائے۔ تم نے اچھا کیا تم کو اللہ برکت عطا فرمائے (تمہاری ان دعاؤں کی برکت سے اللہ انہیں ایمان دے کر جنت میں داخل کر دے گا) پھر حضرت معاذ نے یہ آیت پڑھی **لَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ** (سورت شوریٰ آیت ۲۶) ”اور (اللہ تعالیٰ) ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ (ثواب) دیتا ہے۔“

### حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا بیان

حضرت حوشب فرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابوالدرداءؓ کو منبر پر بیان میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس دن سے بہت ڈرتا ہوں جس دن میرا رب مجھے پکار کر کہے گا اے عویر! میں کہوں گا بلیک پھر میرا رب کہے گا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اللہ کی کتاب کی وہ

۱۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۷۵) ۲۔ اخراجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۵۸)

۳۔ اخراجہ ابن جریر و ابن ابی حاتم کنزانی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۱۱۵)



آیت بھی آئے گی جو کسی برے عمل سے روکنے والی ہے اور وہ آیت بھی آئے گی جو کسی نیک عمل کا حکم دینے والی ہے اور ہر آیت مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ اب اگر میں نے اس نیک عمل کو نہیں کیا ہوگا تو وہ حکم دینے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی اور اگر میں نے اس برے کام کو نہیں چھوڑا ہوگا تو وہ روکنے والی آیت میرے خلاف گواہی دے گی۔ اب بتاؤ میں کیسے چھوٹ سکتا ہوں۔

نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح سفر اور حضر میں لوگوں کو وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے اور دوسروں کی نصیحت قبول کیا کرتے تھے اور کس طرح دنیا کی ظاہری چیزوں اور اس کی لذتوں سے نگاہ ہٹا کر آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کی طرف پھیر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈراتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور دل ڈرنے لگ جاتے گویا کہ آخرت ان کے سامنے ایک نمایاں اور کھلی ہوئی حقیقت تھی اور محشر کے حالات ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہتے تھے اور وہ کس طرح اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے امت محمدیہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ کرتے اور اس طرح اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے شرکِ جلی اور خفی کی تمام باریک رگوں کو کاٹ دیتے۔

## نبی کریم ﷺ کی نصیحتیں

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت ابراہیم کے صحیفے کیا تھے؟ آپ نے فرمایا ان صحیفوں میں صرف مثالیں اور نصیحتیں تھیں (مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا) اے مسلط ہونے والے بادشاہ! جسے آزمائش میں ڈالا جا چکا ہے اور جو دھوکہ میں پڑا ہوا ہے میں نے تجھے اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تو جمع کر کے دنیا کے ڈھیر لگالے میں نے تو تجھے اس لئے بھیجا تھا کہ کسی مظلوم کی بددعا کو میرے پاس آنے نہ دے کیونکہ جب کسی مظلوم کی بددعا میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر میں اسے رد نہیں کرنا چاہتا وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو اور جب تک عقل مند آدمی کی عقل مغلوب نہ ہو جائے اس وقت تک اسے چاہئے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے۔ کچھ وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لئے ہونا چاہئے کچھ وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لئے ہونا چاہئے کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی کارگیری اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے لئے ہونا چاہئے اور کچھ وقت کھانے پینے کی ضروریات کے لئے فارغ ہونا چاہئے اور عقل مند کو چاہئے کہ صرف تین کاموں کے لئے سفر کرے یا تو آخرت کا توشہ بنانے کے لئے یا اپنی معاش ٹھیک کرنے کے لئے یا کسی حلال لذت اور راحت کو حاصل کرنے کے لئے اور عقل مند کو چاہئے کہ وہ اپنے زمانہ (کے حالات) پر نگاہ رکھے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ رہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اور جو بھی اپنی گفتگو کا اپنے عمل سے محاسبہ کرے گا وہ کوئی بیکار بات نہیں کرے گا بلکہ صرف مقصد کی بات کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ نے فرمایا ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں (مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ) مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور وہ پھر خوش ہوتا ہے۔ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے۔ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے۔ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے ایک جگہ رہتی نہیں اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے۔ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ اور فرمادیں۔ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی پابندی کرو کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لئے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لئے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ اور فرمادیں۔ آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور

جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ اور فرمادیں۔ آپ نے فرمایا جہاد کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ اور فرمادیں۔ آپ نے فرمایا زیادہ دیر خاموش رہا کرو کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! مجھے کچھ اور فرمادیں۔ آپ نے فرمایا مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ اور فرمادیں۔ آپ نے فرمایا (دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں) ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو اور پر والے کو مت دیکھا کرو کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ اور فرمادیں آپ نے فرمایا حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ اور فرمادیں۔ آپ نے فرمایا جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہیں تو دوسروں (کے عیب دیکھنے) سے رک جاؤ اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ذر! حسن تدبیر کے برابر کوئی عقلمندی نہیں اور ناجائز، مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقویٰ نہیں اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے پوچھا تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی کیا مثل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی مثالیں اس آدمی جیسی ہے جس کے تین بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بھائیوں کو بلا کر ایک بھائی سے کہا تم دیکھ رہے ہو میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں تمہارے یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا اور تمہاری خدمت سے اکتاؤں گا نہیں اور تمہارا ہر کام کروں گا جب تم مر جاؤ گے تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن پہناؤں گا اور دوسروں کے ساتھ تمہارے جنازے کو اٹھاؤں گا کبھی تمہیں اٹھاؤں گا اور کبھی راستہ کی تکلیف دہ چیز تم سے ہٹاؤں گا اور جب دفن کرواؤں گا تو پوچھنے والوں کے سامنے تمہاری

۱۔ اخرجہ ابن حبان فی صحیحہ واللفظ لہ و الحاکم و صحیحہ لال المنذری فی الترغیب (ج ۳ ص ۴۳) انفرادہ ابراہیم بن ہشام بن یحییٰ العنابی عن ابیہ وهو حدیث طویل فی اولہ ذکر الانبیاء علیہم السلام ذکرت منہ القطعة لما فیہا من الحکم العظیمة والمواعظ الجسیمة۔ انتہی وقد اخرج الحدیث بتمامہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۶۶) من طریق ابراہیم بن ہشام و اخرجہ ایضاً بتمامہ الحسن بن سفیان و ابن عساکر کما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۱)

خوبیاں بیان کر کے تمہاری تعریف کروں گا۔ اس کا یہ بھائی تو اس کے اہل و عیال اور رشتہ دار ہیں۔ اس بھائی کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے کوئی خاص فائدے کی بات تو ہم نے سنی نہیں آپ نے فرمایا پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ موت کی مصیبت میرے سر پر آگئی ہے تو اب تم میرے کیا کام آسکتے ہو؟ اس نے کہا جب تک آپ زندہ ہیں میں تو اسی وقت تک آپ کے کام آسکوں گا جب آپ مرجائیں گے تو آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ یہ بھائی اس کا مال ہے۔ یہ تمہیں کیسا لگا؟ صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! اس کے فائدے کی کوئی بات ہمارے سننے میں تو نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے تیسرے بھائی سے کہا تم دیکھ ہی رہے ہو موت میرے سر پر آگئی ہے اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے تو اب تم میرے کیا کام آسکتے ہو؟ اس نے کہا میں قبر میں تمہارا ساتھی ہوں گا اور وحشت میں تمہارا جی بہلاؤں گا اور اعمال تلنے کے دن ترازو میں بیٹھ کر اسے بھاری کروں گا۔ یہ بھائی اس کا عمل ہے۔ اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بہترین بھائی اور بہترین ساتھی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا بات بھی اسی طرح ہے۔ حضرت عائشہؓ عمر مانی ہیں حضرت عبداللہ بن کرز رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اس مثال کے بارے میں کچھ اشعار کہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ حضرت عبداللہؓ چلے گئے اور ایک ہی رات کے بعد اشعار تیار کر کے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو گئے انہیں دیکھ کر لوگ بھی جمع ہو گئے انہوں نے حضورؐ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے:

فانی و اہلی والذی قدمت یدی  
کداع اللہ صحبہ ثم قائل

لاخونہ اذہم ثلاثة اخوة

اعینوا علی امر بی الیوم نازل

میں اور میرے اہل و عیال اور میرے وہ عمل جو میرے ہاتھوں نے آگے بھیج دیئے ہیں ان سب کی

مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے تین بھائی تھے اس نے ساتھیوں اور بھائیوں کو بلا کر ان سے کہا آج مجھ پر موت کی مصیبت آنے والی ہے اس بارے میں میری مدد کرو۔

فماذا لدیکم فی الذی ہو غائل

بہت لمبی جدائی ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں اب بتاؤ اس ہلاک کرنے والی موت کے بارے میں تم

لوگ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟

اطیعک فیہا شنت قل التزائل

فقال امرؤ منهم انا الصاحب الذی

ان تینوں میں سے ایک بولا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں لیکن جدا ہونے سے پہلے تم جو کہو گے تمہاری وہ بات مانوں گا۔

فاما اذا جد الفراق فانسی  
لما بیننا من خلة غیر واصل  
اور جب جدائی ہو جائے گی تو پھر میں آپس کی دوستی کو باقی نہیں رکھ سکتا اسے نہیں نباہ سکتا۔

فخذ ما اردت الان منی فانسی  
سیلک بی فی مہیل من مہائل  
اب تو تم مجھ سے جو چاہے لے لو لیکن جدائی کے بعد مجھے کسی ہولناک راستہ پر چلا دیا جائے گا پھر  
کچھ نہیں لے سکو گے۔

فان تبغنی لاتبق فاستفد ننی  
وعجل صلاحا قبل حتف معاجل  
پھر اگر تم مجھے باقی رکھنا چاہو گے تو باقی نہیں رکھ سکو گے لہذا مجھے خرچ کر کے ختم کر دو اور جلد آنے  
والی موت سے پہلے جلدی اپنے عمل ٹھیک کر لو۔

وقال امرؤ قد کنت جدا احبه  
واوثره من بینہم فی التفاضل  
پھر وہ آدمی بولا جس سے مجھے بہت محبت تھی اور زیادہ دینے اور بڑھانے میں اسے باقی تمام  
لوگوں پر ترجیح دیتا تھا۔

غنائی انی جاہد لک ناصح  
اذا جد جد الکرب غیر مقاتل  
اس نے کہا میں آپ کا اتنا کام کر سکتا ہوں کہ جب پریشان کن موت واقعی آجائے گی تو آپ کو  
بچانے کی کوشش کروں گا آپ کا بھلا چاہوں گا لیکن میں آپ کی طرف سے لڑ نہیں سکوں گا۔

ولکننی باک علیک و معول  
ومشن بخیر عند من ہو سائل  
البتہ آپ کے مرنے پر روؤں گا اور خوب اونچی آواز سے روؤں گا اور آپ کے بارے میں جو بھی  
پوچھے گا میں اس کے سامنے آپ کی خوبیاں بیان کر کے آپ کی تعریف کروں گا۔

ومتبع الماشین امشی مشیعا  
اعین برفق عقبہ کل حامل  
اور آپ کے جنازے کو لے کر جو لوگ چلیں گے میں بھی رخصت کرنے کے لئے ان کے پیچھے  
چلوں گا اور ہر اٹھانے والے کی باری میں نرمی سے اٹھا کر اس کی مدد کروں گا۔

الی بیت متواک الذی انت مدخل  
ارجع مقرونا بما ہو شاغل  
میں جنازے کے ساتھ اس گھر تک جاؤں گا جہاں آپ کا ٹھکانہ ہے جس میں لوگ آپ کو داخل  
کر دیں گے پھر واپس آ کر میں ان کاموں میں لگ جاؤں گا جن میں میں مشغول تھا۔

کان لم یکن بینی و بینک خلة  
ولاحسن و دمرہ فی التبادل  
اور چند ہی دنوں کے بعد ایسی حالت ہو جائے گی کہ گویا میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوستی  
ہی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی عمدہ محبت تھی جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔

فذلک اهل المرء ذاک غناء ہم  
ولیس وان کانوا حرا صا بطائل  
یہ مرنے والے کے اہل و عیال اور رشتہ دار ہیں یہ بس اتنا ہی کام آسکتے ہیں اگرچہ انہیں مرنے

والے کو فائدہ پہنچانے کا بہت تقاضا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

وقال امرء منهم انا الاخ لاترى  
اخالك مثلى عند كرب الزلازل  
ان میں سے تیسرے بھائی نے کہا میں آپ کا اصلی بھائی ہوں اور ہلادینے والی پریشانی موت کے  
آنے پر آپ کو میرے جیسا کوئی بھائی نظر نہیں آئے گا۔

لدى القبر تلقانى هنالك فاعدا  
اجادل عنك القول رجع التجادل  
آپ مجھے قبر کے پاس ملیں گے میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا اور باتوں میں آپ کی طرف سے جھگڑا  
کروں گا اور ہر سوال کا جواب دوں گا۔

واقعد يوم الوزن فى الكفة التى  
تكون عليها جاهدا فى الشاقل  
اور اعمال تو لے جانے کے دن یعنی قیامت کے دن میں اس پلڑے میں بیٹھوں گا جس کو بھاری  
کرنے کی آپ پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔

فلا تنسنى واعلم مكانى فانى  
عليك شفيق ناصح غير خاذل  
لہذا آپ مجھے بھلا نہ دینا اور میرے مرتبہ کو جان لو کیونکہ میں آپ کا بڑا شفیق اور بہت خیر خواہ ہوں  
اور کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔

فذلك ما قدمت من كل صالح  
تلافيه ان احسنت يوم التواصل  
یہ آپ کے وہ نیک اعمال ہیں جو آپ نے آگے بھیجے ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح کریں گے تو  
ایک دوسرے سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن آپ کی ان اعمال سے ملاقات ہو جائے  
گی۔

یہ اشعار سن کر حضور ﷺ بھی رونے لگے اور سارے مسلمان بھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن  
کرر مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ انہیں بلا کر ان سے ان اشعار کی فرمائش  
کرتے اور جب حضرت عبداللہ انہیں یہ اشعار سناتے تو وہ سب رونے لگ جاتے۔

## امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطابؓ کی نصیحتیں

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو یہ نصیحت فرمائی لوگوں میں لگ کر اپنے  
سے غافل نہ ہو جاؤ کیونکہ تم سے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا  
جائے گا۔ ادھر ادھر پھر کر دن نہ گزار دیا کرو کیونکہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ محفوظ کر لیا جائے گا جب تم

۱۔ اخرجه الراهمر منى فى الامثال كذا فى الكثر (ج ۸ ص ۱۲۳) و اخرجه ايضا جعفر القريابى فى  
كتاب الكنى له وابن ابى عاصم فى الواحدان وابن شاهين وابن مندة فى الصحابة وابن ابى الدنيا فى الكفالة  
كلهم من طريق محمد بن عبدالعزيز الزهرى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا نحوہ  
كما فى الاصابة (ج ۲ ص ۳۶)

سے کوئی برا کام ہو جایا کرے تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو کیونکہ جس طرح غنی نیکی پرانے گناہ کو بہت زیادہ تلاش کرتی ہے اور اسے جلدی سے پابندی ہے اس طرح اس سے زیادہ تلاش کرنے والی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے اس سے تم کنارہ کشی اختیار کر لو اور نیک آدمی کو دوست بناؤ لیکن ایسا آدمی مشکل سے ملے گا اور اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔

حضرت سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے لوگوں کے لئے اٹھارہ باتیں مقرر کیں جو سب کی سب حکمت و دانائی کی باتیں تھیں۔ انہوں نے فرمایا (۱) جو تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تم اسے اس جیسی اور کوئی سزا نہیں دے سکتے کہ تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو (۲) اور اپنے بھائی کی بات کو کسی اچھے رخ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرو۔ ہاں اگر وہ بات ہی ایسی ہو کہ اسے اچھے رخ کی طرف لے جانے کی تم کوئی صورت نہ بنا سکو تو اور بات ہے (۳) اور مسلمان کی زبان سے جو بول بھی نکلا ہے اور تم اس کا کوئی بھی خیر کا مطلب نکال سکتے ہو تو اس سے برے مطلب کا گمان مت کرو (۴) جو آدمی خود ایسے کام کرتا ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے تو وہ اپنے سے بدگمانی کرنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرے (۵) جو اپنے راز کو چھپائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا (۶) اور سچے بھائیوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو۔ ان کے سایہ خیر میں زندگی گزارو کیونکہ وسعت اور اچھے حالات میں وہ لوگ تمہارے لئے زینت کا ذریعہ اور مصیبت میں حفاظت کا سامان ہوں گے (۷) اور ہمیشہ سچ بولو چاہے سچ بولنے سے جان ہی چلی جائے (۸) بے فائدہ اور بیکار کاموں میں نہ لگو (۹) جو بات ابھی پیش نہیں آئی اس کے بارے میں مت پوچھو کیونکہ جو پیش آچکا ہے اس کے تقاضوں سے ہی کہاں فرصت مل سکتی ہے (۱۰) اپنی حاجت اس کے پاس نہ لے جاؤ جو یہ نہیں چاہتا کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ (۱۱) جھوٹی قسم کو ہلاک نہ سمجھو ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیں گے (۱۲) بدکاروں کے ساتھ نہ رہو ورنہ تم ان سے بدکاری سیکھ لو گے (۱۳) اپنے دشمن سے الگ رہو (۱۴) اپنے دوست سے بھی جو کئے رہو لیکن اگر وہ امانتدار ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں اور امانتدار صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو (۱۵) اور قبرستان میں جا کر خشوع اختیار کرو (۱۶) اور جب اللہ کی فرمانبرداری کا کام کرو تو عاجزی اور تواضع اختیار کرو (۱۷) اور جب اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی پناہ چاہو (۱۸) اور اپنے تمام امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو

۱۔ اخراجہ الدینوری کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۸)

۲۔ اخراجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۸)

اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (سورت فاطر آیت ۲۸) ”خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔“  
حضرت محمد شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا لا یعنی کاموں میں نہ لگو اور اپنے دشمن سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اپنے دوست سے اپنی حفاظت کرو لیکن اگر وہ امانت دار ہے تو پھر ضرورت نہیں کیونکہ امانت دار انسان کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور کسی بدکار کی صحبت میں نہ رہو ورنہ وہ تمہیں بھی بدکاری سکھا دے گا اور کسی بدکار کو اپنا راز نہ بتاؤ اور اپنے تمام کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔۱

حضرت سمرہ بن جندب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا مرد بھی تین قسم کے ہوتے ہیں اور عورتیں بھی تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک عورت تو وہ ہے جو پاکدامن، مسلمان نرم طبیعت، محبت کرنے والی، زیادہ بچے دینے والی ہو اور زمانہ کے فیشن کے خلاف اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہو (سادہ رہتی ہو) اور گھر والوں کو چھوڑ کر زمانہ کے فیشن پر نہ چلتی ہو۔ لیکن تمہیں ایسی عورتیں بہت کم ملیں گی۔ دوسری وہ عورت ہے جو خاوند سے بہت زیادہ مطالبے کرتی ہو اور بچے جننے کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہ ہو۔ تیسری وہ عورت ہے جو خاوند کے گلے کا طوق ہو اور جوں کی طرح سے چمٹی ہوئی ہو (یعنی بد اخلاق بھی ہو اور اس کا مہر بھی زیادہ ہو جس کی وجہ سے اس کا خاوند اسے چھوڑ نہ سکتا ہو) ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کی گردن سے اتار لیتے ہیں۔ اور مرد بھی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک پاکدامن، منکسر المزاج، نرم طبیعت، درست رائے والا، اچھے مشورے دینے والا۔ جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو خود سوچ کر فیصلہ کرتا ہے اور ہر کام کو اس کی جگہ رکھتا ہے۔ دوسرا وہ مرد ہے جو سمجھدار نہیں اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے لیکن جب اسے کوئی کام پیش آتا ہے تو وہ سمجھدار درست رائے والے لوگوں سے جا کر مشورہ کرتا ہے اور ان کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ تیسرا وہ مرد جو حیران و پریشان ہو اسے صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا یوں ہی ہلاک ہو جاتا ہے کیونکہ اپنی سمجھ پوری نہیں اور سمجھدار اور صحیح مشورہ دینے والوں کی ماننا نہیں۔۲ حضرت احنف بن قیسؓ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے مجھ سے فرمایا اے احنف! جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزش زیادہ ہو جاتی ہے جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے اور جس کی حیا کم ہو جاتی

۱۔ اخرجه الخطيب و ابن عساکر و ابن النجار كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۳۵)

۲۔ عند ابی نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۵) ۳۔ اخرجه ابن ابی شیبہ و ابن ابی الدنيا والخرائطی

والبیهقی و ابن عساکر كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۳۵)



ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جو زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے اور کسی کام کو زیادہ کرتا ہے وہ اسی کام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے اس کے بعد پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ ۲

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو باطل کو کلیتہً چھوڑ کر اسے مٹا دیتے ہیں اور حق کا بار بار تذکرہ کر کے اسے زندہ کرتے ہیں۔ جب انہیں کسی عمل کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ اس کا اثر لیتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے کبھی بے خوف نہیں ہوتے۔ جن چیزوں کو انہوں نے آنکھ سے نہیں دیکھا انہیں یقین کی طاقت سے دیکھ لیتے ہیں اور یقین کو ان شبہی امور کے ساتھ ملاتے ہیں جن سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ خوفِ خداوندی نے ان کو عیوب سے بالکل پاک صاف کر دیا۔ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کی وجہ سے دنیا کی فانی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ان کے لئے نعمت ہے اور موت ان کے لئے باعثِ عزت ہے۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کی شادی کر دی جائے گی اور ہمیشہ نو عمر رہنے والے لڑکے ان کی خدمت کریں گے۔ ۳

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم کتاب اللہ کے برتن اور علم کے چشمے بن جاؤ یعنی قرآن اپنے اندر اتار لو پھر علم اندر سے پھوٹ کر نکلے گا اور اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں ایک دن کی روزی مانگو اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ ۴

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی کسی پر اپنا غصہ نہیں نکالے گا یعنی کسی سے انتقام نہیں لے گا بلکہ اپنا غصہ پیئے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی مرضی کا ہر کام نہیں کر سکے گا اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ نہ ہوتا بلکہ افراتفری کا کچھ اور عالم ہوتا۔ ۵

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اس کے لئے اپنی جان پر جو مشقت جھیلنی پڑے اسے جھیلتا ہے۔ اسے اپنے تمام کاموں میں کامیابی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی وجہ سے ذلت اٹھانا فرمانی کی عزت کی نسبت نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ ۶

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۳۰۲) وفيه ووبد بن مجاشع ولم اعرفه وبقية

رجالہ ثقات. ۲۔ اخرجہ ابن ابی الدیاء والعسکری والبیہقی وغيرہم کما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۵)

۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۵) ۴۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۱)

۵۔ اخرجہ ابن ابی الدیاء والدیوروی فی المجالسة والحاکم فی الکنی کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۵)

۶۔ اخرجہ الخرائطی وغيره کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۵)

نے فرمایا آدمی تقویٰ سے عزت پاتا ہے اور اسے دین سے شرافت ملتی ہے۔ آدمی کی مروت اور مردانگی عمدہ اخلاق ہیں۔ بہادری اور بزدلی خداداد صفات ہیں۔ بہادر آدمی تو ان لوگوں کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں جانتا ہے اور ان کی طرف سے بھی لڑتا ہے جنہیں نہیں جانتا اور بزدل آدمی تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں عزت مال سے ملتی ہے لیکن اللہ کے ہاں تقویٰ سے ملتی ہے۔ تم کسی فارسی، عجمی اور نبطی سے صرف تقویٰ کی وجہ سے بہتر ہو سکتے ہو عربی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتے۔<sup>۱</sup>

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو خط میں یہ لکھا کہ حکمت و دانائی عمر بڑی ہونے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ تو اللہ کی دین ہے جسے اللہ چاہتے ہیں دیتے ہیں اور کمینے کاموں اور گھٹیا اخلاق سے بچو۔<sup>۲</sup>

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمرؓ کو خط میں یہ لکھا اما بعد! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ہر شر اور فتنے سے بچاتے ہیں اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی کفایت کرتے ہیں اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے یعنی دوسروں پر اپنا مال اللہ کے لئے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں اور تقویٰ ہر وقت تمہارا نصب العین، تمہارے اعمال کا سہارا اور ستون اور تمہارے دل کی صفائی کرنے والا ہونا چاہئے۔ جس کی کوئی نیت نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا۔ جس نے ثواب لینے کی نیت سے عمل نہ کیا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ جس میں نرمی نہیں ہوگی اسے اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک پہلا کپڑا پرانا نہ ہو جائے نیا نہیں پہننا چاہئے۔<sup>۳</sup>

حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے گورنر کو خط لکھا خط کے آخر میں یہ مضمون تھا فراخی اور وسعت والے حالات میں سختی والے حساب سے پہلے (جو قیامت کے دن ہوگا) اپنے نفس کا خود محاسبہ کرو کیونکہ جو فراخی اور وسعت والے حالات میں سختی کے حساب سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا وہ انجام کار خوش ہوگا بلکہ اس کے حالات قابل رشک ہوں گے اور جس کو دنیا کی زندگی نے (اللہ سے، آخرت سے اور دین سے) غافل رکھا اور وہ برائیوں میں مشغول رہا تو انجام کار وہ ندامت اٹھائے گا اور حسرت و افسوس کرتا رہے گا۔ جو نصیحت تمہیں کی جا رہی ہے اسے یاد رکھو تا کہ تمہیں جن کاموں سے روکا

۱۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ والعسکری و ابن جریر و الدارقطنی و ابن عساکر کذافی الکنز (ج ۸

ص ۲۳۵) ۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا و الدینوری کذافی الکنز (ج ۲ ص ۲۳۵)

۳۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا و ابوبکر الصولی و ابن عساکر کذافی الکنز (ج ۸ ص ۲۰۷)

جا رہا ہے تم ان سے رک سکو۔

حضرت عمرؓ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کو خط میں یہ مضمون لکھا ابا بعد! حق کو ہر حال میں لازم پکڑو اس طرح حق تمہارے لئے اہل حق کے مراتب کھول دے گا اور ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کرو۔

## امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالبؓ کی نصیحتیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ نے جب حضرت علیؓ سے فرمایا اے ابوالحسن! مجھے کچھ نصیحت کرو۔ حضرت علیؓ نے کہا آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں (یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے) اور اپنے علم کو جہالت نہ بنائیں (جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اور جاہل دونوں برابر ہوتے ہیں) اور اپنے گمان کو حق نہ سمجھیں (یعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھیں) اور یہ بات آپ جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی ہے کہ جو آپ کو ملی اور آپ نے اسے آگے چلا دیا یا تقسیم کر کے برابر کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے ابوالحسن! آپ نے سچ کہا۔

حضرت علی بن ابی طالبؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا اے امیر المؤمنین اگر آپ کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں حضور ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ سے جا ملیں تو آپ اپنی امیدیں مختصر کریں اور کھانا کھائیں لیکن پیٹ نہ بھریں اور لنگی بھی چھوٹی پہنیں اور کرتے پر پیوند لگائیں اور اپنے ہاتھ سے جوتی گانٹھیں اس طرح کریں گے تو ان دونوں سے جا ملیں گے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اور تمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو اور اپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اگر تم سے نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کی تعریف کرو اور اگر برائی کا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو اور دنیا میں صرف دو آدمیوں میں سے ایک کے لئے خیر ہے ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہو گیا اور پھر اس نے توبہ کر کے اس کی تلافی کر لی دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو اور جو عمل تقویٰ کے ساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہو سکتا کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہو سکتا ہے (کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں)۔

۱۔ اخرجہ البیہقی فی الزہد و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۸)

۲۔ اخرجہ ابوالحسن بن رزقویہ فی جزئہ کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۰۸) ۳۔ اخرجہ ابن عساکر

کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۴۱) ۴۔ اخرجہ البیہقی کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۱۹)

۵۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۷۵) و اخرجہ ابن عساکر فی امالیہ عن علی رضی اللہ عنہ نحوہ

کما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۱)

حضرت عقبہ بن ابوالصہبہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب ابن ملجم نے حضرت علیؑ کو خنجر مارا تو حضرت حسنؑ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسنؑ رورہے تھے حضرت علیؑ نے فرمایا اے میرے بیٹے! کیوں رورہے ہو؟ عرض کیا میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج آپ کا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا چار اور چار (کل آٹھ) چیزوں کو پلے باندھ لو۔ ان آٹھ چیزوں کو تم اختیار کرو گے تو پھر تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت حسنؑ نے عرض کیا ابا جان! وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے بڑی مالداری عقیقندی ہے یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے اور سب سے بڑی فقیری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ سب سے زیادہ وحشت کی چیز اور سب سے بڑی تنہائی عجب اور خود پسندی ہے اور سب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت حسنؑ فرماتے ہیں میں نے کہا اے ابا جان! یہ چار چیزیں تو ہو گئیں، مجھے باقی چار چیزیں بھی بتادیں۔ فرمایا بے وقوف کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کر دے گا اور جھوٹے کی دوستی سے بچنا کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کر دے گا اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کر دے گا (یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اور نزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اور تمہارا نقصان کر دے گا) اور کنجوس کی دوستی سے بھی بچنا کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہو جائے گا اور بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔

حضرت علیؑ نے فرمایا توفیق خداوندی سب سے بہترین قائد ہے اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں عقیقندی بہترین مصاحب ہے حسن ادب بہترین میراث ہے اور عجب و خود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اور وحشت والی کوئی چیز نہیں۔<sup>۱</sup>

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے مت دیکھو کہ کوئی بات کر رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ہر بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔<sup>۲</sup>

۱۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۶)

۲۔ عند البیہقی و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۶)

۳۔ اخرجہ ابن السمعانی فی الدلائل

## حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کی نصیحتیں

حضرت نمران بن خمر ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ لشکر میں چلے جا رہے تھے فرمانے لگے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کپڑوں کو تو خوب اجالا اور سفید کر رہے ہیں لیکن اپنے دین کو میلا کر رہے ہیں یعنی دین کا نقصان کر کے دنیا اور ظاہری شان و شوکت حاصل کر رہے ہیں۔ غور سے سنو! بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اپنے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بے عزتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے سے ختم کرو۔ اگر تم میں سے کوئی اتنے گناہ کر لے جس سے زمین و آسمان کے درمیان کا خلاء بھر جائے اور پھر وہ ایک نیکی کر لے تو یہ نیکی ان سب گناہوں پر غالب آ جائے گی۔

حضرت سعید بن ابی سعید مقبری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کی قبر اردن میں ہے۔ جب وہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو وہاں جتنے مسلمان تھے ان سب کو بلا کر فرمایا میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں اگر تم اسے قبول کرو گے تو ہمیشہ خیر پر رہو گے، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ خیرات دو، حج اور عمرہ کرتے رہو، ایک دوسرے کو وصیت کرو، اپنے امیروں کی خیر خواہی کرو، ان کو دھوکہ نہ دو اور دنیا تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اگر کسی آدمی کو ہزار برس کی زندگی بھی مل جائے تو آخر اسے اسی جگہ جانا ہوگا جہاں آج تم مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم پر موت کو لکھ دیا ہے، لہذا ان سب کو مرنا ہے اور ان میں سب سے زیادہ عقلمند وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا اور اپنی آخرت کے لئے سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے معاذ بن جبل! آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پھر حضرت ابو عبیدہؓ کا انتقال ہو گیا پھر حضرت معاذؓ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو! تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو کیونکہ جو بندہ بھی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے لیکن اس توبہ سے قرض معاف نہیں ہوگا وہ تو ادا ہی کرنا ہوگا کیونکہ بندہ اپنے قرضہ کے بدلے میں گروی رکھ دیا جائے گا تم میں سے جس نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہوا ہے اسے چاہئے کہ وہ خود جا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرے اور اس سے مصافحہ کرے کسی مسلمان کو اپنا بھائی تین دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہئے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

۱۔ عند ابن السمعانی کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۶)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۰۲)

۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۷۴)

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نیا معلوم کتنی مرتبہ ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے (اس لئے آدمی مشورہ کے تابع ہو کر چلے)۔ ۱۔

## حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت محمد بن سیر بن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جو انہیں سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت معاذؓ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت معاذؓ نے اس سے فرمایا میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں اگر تم نے ان دونوں کی پابندی کی تو تم ہر شر اور فتنہ سے محفوظ رہو گے۔ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اس کی بھی تمہیں ضرورت ہے اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں لیکن تمہیں آخرت کے حصہ کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لئے دنیا کے حصے پر آخرت کے حصے کو ترجیح دو اور آخرت کا ایسا انتظام کرو کہ تم جہاں بھی جاؤ وہ تمہارے ساتھ جائے۔ ۲۔

حضرت عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبلؓ نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا اے بنی اود! میں اللہ کے رسول ﷺ کا قاصد ہوں۔ اچھی طرح جان لو کہ سب کو لوٹ کر اللہ کے ہاں جانا ہے پھر جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں اور وہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں سے آگے کہیں جانا نہیں ہوگا اور ایسے جسموں میں ہم ہمیشہ رہیں گے جنہیں موت نہیں آئے گی۔ ۳۔

حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبلؓ نے اپنے بیٹے سے فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو تو دنیا سے جانے والے کی طرح نماز پڑھا کرو اور یوں سمجھا کرو کہ اب دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور اے میرے بیٹے! یہ بات جان لو کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے پاس دو قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں ایک تو وہ نیکی جو اس نے آگے بھیج دی دوسری وہ جسے وہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے یعنی صدقہ جا رہا ہے۔ ۴۔

حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی خدمت میں عرض کیا مجھے کچھ سکھا دیں فرمایا تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا مجھے تو آپ کی بات ماننے کا بہت شوق ہے فرمایا کبھی روزہ رکھا کرو کبھی افطار کیا کرو اور رات کو کبھی نماز پڑھا کرو اور کبھی سو جایا کرو اور کمائی کرو اور گناہ نہ کرو اور تم پوری کوشش کرو کہ تمہاری موت مسلمان ہونے

۱۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۰۲) ۲۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۳)

۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۶) ۴۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۳)

کی حالت میں آئے اور مظلوم کی بددعا سے بچو۔

حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو انہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو بیزاری اور نفرت کے لئے پیش کرے گا یعنی لوگ اس سے بیزار ہو کر نفرت کریں گے بغیر تعجب کی بات کے ہنسنا اور بغیر جاگے رات بھر سونا اور بغیر بھوک کے کھانا۔<sup>۲</sup>

حضرت معاذ بن جبلؓ نے فرمایا تنگدستی کی آزمائش سے تم لوگوں کا امتحان لیا گیا اس میں تو تم کامیاب ہو گئے تم نے صبر سے کام لیا اب خوشحالی کی آزمائش میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جائے گا اور مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر عورتوں کی آزمائش کا ہے جب وہ سونے چاندی کے کنگن پہن لیں گی اور شام کی باریک اور یمن کی پھولدار چادریں پہن لیں گی تو وہ مالدار مرد کو تھکا دیں گی اور فقیر مرد کے ذمہ ایسی چیزیں لگا دیں گی جو اسے میسر نہیں ہوں گی۔<sup>۳</sup>

### حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آتا ہے جو مجھے فارغ نظر آتا ہے نہ آخرت کے کسی عمل میں لگا ہوا ہے اور نہ دنیا کے کسی کام میں۔<sup>۴</sup> حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا مجھے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ملنا چاہئے جو رات کو مردہ پڑا رہے اور دن کو قطرب کیڑے کی طرح پھدکتا پھرے۔ یعنی رات بھر تو پڑا سوتا رہے اور دن بھر کے کاموں میں خوب بھاگ دوڑ کرے۔<sup>۵</sup>

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کا صاف حصہ تو چلا گیا اور گدلا حصہ رہ گیا ہے لہذا آج تو موت ہر مسلمان کے لئے تھمہ ہے۔<sup>۶</sup> ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا تو پہاڑ کی چوٹی کے تالاب کی طرح ہے جس کا صاف حصہ جاچکا ہو اور گدلا حصہ رہ گیا ہو۔<sup>۷</sup>

حضرت عبداللہؓ نے فرمایا غور سے سنو! وہ ناگوار اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہی اچھی ہیں ایک موت اور دوسری فقیری۔ اور اللہ کی قسم! انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا مالدار یا فقیری۔ اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کونسی حالت میں مجھے مبتلا کیا جائے۔ اگر مالدار کی حالت ہوگی تو میں اپنے مال کے ذریعہ سے لوگوں کے ساتھ غمخواری اور مہربانی کا معاملہ کروں گا (اور یوں اللہ کا حکم پورا کروں گا) اور اگر فقیری کی حالت ہوگی تو صبر کروں گا (اور

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۳) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۷)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۳۶) ۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص

۱۳۰) و اخرجہ عبدالرزاق عنہ نحوه کما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۴۲)

۵۔ عند ابی نعیم فی الحلیۃ ۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۱)

۷۔ عندہ ایضاً (ج ۱ ص ۱۳۲)

یوں اللہ کا حکم پورا کروں گا)۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ایمان کی چوٹی تک نہ پہنچ جائے اور اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک فقیری مالداری سے اور چھوٹا بننا بڑا بننے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اور اس کی تعریف کرنے والا اور اس کی بڑائی کرنے والا دونوں اس کے نزدیک برابر نہ ہو جائیں (نہ تعریف سے اثر لے اور نہ بڑائی سے) حضرت عبداللہ کے شاگردوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کمائی کے ساتھ فقیری حرام کمائی کی مالداری سے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے چھوٹا بننا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بڑا بننے سے زیادہ محبوب ہو اور حق بات میں تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہو۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! جو بندہ اسلام کی حالت پر صبح اور شام کرتا ہے کوئی دنیاوی مصیبت اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔

حضرت حجیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود جب بیان کے لئے بیٹھتے تو فرماتے تم سب دن اور رات کی گزرگاہ میں ہو تمہاری عمریں کم ہو رہی ہیں اور سارے اعمال حفاظت سے رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آئے گی جو خیر بوئے گا وہ اپنی پسند کی چیز کاٹے گا اور جو شر بوئے گا وہ ندامت و حسرت کاٹے گا۔ انسان جیسا بوئے گا ویسا اسے ملے گا (اور ہر انسان کو اس کے مقدر کا ضرور مل کر رہے گا لہذا) ست آدمی کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر رہے گا اور کوئی تیز آدمی اس سے آگے بڑھ کر اس کے مقدر کا نہیں لے سکتا اور خوب زیادہ کوشش کرنے والا انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے اور جسے کوئی خیر ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ہی ملتی ہے اور جس کے کسی شر سے حفاظت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتی ہے متقی لوگ ہی سردار ہوتے ہیں اور فقہاء لوگ امت کے قائد ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے دین کی سمجھ بڑھتی ہے۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک مسلمان ہے اور اس کے پاس جتنا مال ہے وہ سب اسے عاریت پر ملا ہے اور مہمان نے ہر حال میں آگے جانا ہی ہوتا ہے اور عاریت پر

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۳۲) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۳۲) و

اخرجہ احمد عنہ مثله كما فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۱۶۳)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۳۲)

۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۳۳) عن عبدالرحمن بن حجيرة عن ابيه و اخرجہ الامام

احمد عن عبدالرحمن بن حجيرة عن ابيه عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه كان يقول اذا قعد انکم فذکر

مثله كما فی صفة الصفوة (ج ۱ ص ۱۶۱)



مانگی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس کرنی ہی پڑتی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے میرے والد (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ) کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ مجھے ایسے کارآمد کلمات سکھادیں جو مختصر ہوں لیکن ان کے معنی زیادہ ہوں فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور قرآن کے تابع بنو وہ جدھر چلے تم بھی ادھر کرو اس کے ساتھ چلو اور جو بھی تمہارے پاس حق لے کر آئے تم اسے قبول کرو چاہے وہ لے کر آنے والا دور کا یعنی دشمن ہو اور تمہیں ناپسند ہو اور جو بھی تمہارے پاس باطل اور غلط بات لے کر آئے اسے رد کر دو چاہے وہ لے کر آنے والا تمہارا محبوب اور رشتہ دار یا دوست ہو۔

حضرت ابو مسعودؓ نے فرمایا حق (نفس پر) بھاری ہوتا ہے لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے اور باطل ہلکا لگتا ہے لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے اور انسان کی بہت سی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کو بڑے لمبے عہد اٹھانے پڑتے ہیں۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کبھی دلوں میں نیک اعمال کا بڑا شوق اور جذبہ ہوتا ہے اور کبھی شوق اور جذبہ باطل نہیں رہتا تو جب دل میں شوق اور جذبہ ہو تو اسے تم لوگ غنیمت سمجھو اور جب شوق اور جذبہ باطل نہ ہو تو دل کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔

حضرت منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ چودھری صاحبان حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی مولیٰ مولیٰ گردنیں اور جسمانی صحت دیکھ کر لوگ تعجب کرنے لگے۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا تمہیں بعض ایسے کافر نظر آئیں گے جن کی جسمانی صحت سب سے زیادہ اچھی ہوگی لیکن ان کے دل سب سے زیادہ بیمار ہوں گے اور تمہیں بعض ایسے مومن ملیں گے جن کے دل سب سے زیادہ تندرست ہوں گے لیکن ان کے جسم سب سے زیادہ بیمار ہوں گے۔ اللہ کی قسم! اگر تمہارے دل تو بیمار ہوں (ان میں کفر و شرک کی بیماریاں ہوں) لیکن تمہارے جسم خوب صحتمند ہوں تو اللہ کی نگاہ میں تمہارا درجہ گندگی کے کیڑے سے بھی کم ہوگا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی ملاقات کے بغیر مومن کو چین نہیں آسکتا اور جس کا چین اور راحت اللہ کی ملاقات میں سے تو سمجھ لو اس کی اللہ سے ملاقات ہوگئی۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی دین میں کسی زندہ انسان کے پیچھے ہرگز نہ چلے کیونکہ زندہ آدمی کا کیا اعتبار نہ معلوم کب تک ایمان کی حالت میں رہے اور کب کافر

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۳) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۴)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم (ج ۱ ص ۱۳۴) ۴۔ اخرجہ ابو نعیم (ج ۱ ص ۱۳۴)

۵۔ اخرجہ ابو نعیم (ج ۱ ص ۱۳۵) ۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۶)

ہو جائے (خود براہ راست قرآن وحدیث سے تم اپنے لئے دینی رہنمائی حاصل کرو اور کسی کے پیچھے نہ چلو لیکن اگر ایسا نہ کر سکو) اور تم ضرور ہی کسی دوسرے کی امید کی اقتداء کرنا چاہو تو پھر ان لوگوں کی اقتداء کرو جو دنیا سے جا چکے ہیں کیونکہ زندہ آدمی کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں کہ کب کس فتنہ میں مبتلا ہو جائے۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ہرگز اُمّہ نہ بنے لوگوں نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن! اُمّہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا اُمّہ وہ ہوتا ہے (جس کی اپنی عقل سمجھ کچھ نہ ہو اور) یوں کہے کہ میں تو لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اگر یہ ہدایت والے راستہ پر چلیں گے تو میں بھی ہدایت والے راستہ پر چلوں گا اور اگر یہ گمراہی والے راستہ پر چلیں گے تو میں بھی گمراہی والے راستہ پر چلوں گا۔ غور سے سنو! تم میں سے ہر آدمی اپنے دل کو اس پر ضرور پکار کھے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی کافر ہو جائیں تو بھی وہ کفر اختیار نہیں کرے گا۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں بلکہ چوتھی بات پر بھی قسم کھا لوں تو میں اس قسم میں سچا ہوں گا۔ جس آدمی کا اسلام میں حصہ ہے اسے اللہ تعالیٰ اس آدمی جیسا نہیں بنائیں گے جس کا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہو اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دنیا میں محبت کریں اور قیامت کے دن اسے کسی دوسرے کے سپرد کر دیں اور آدمی دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ آئے گا اور چوتھی بات جس پر میں قسم کھاؤں تو میں سچا ہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کی پردہ پوشی کریں گے آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی ضرور کریں گے۔

حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا جو دنیا کو چاہے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا اور جو آخرت کو چاہے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا، لہذا ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی وجہ سے فانی دنیا کا نقصان کر لو (لیکن آخرت کا نہ کرو)۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے مضبوط حلقہ تقویٰ کا کلمہ ہے اور سب سے بہترین ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور سب سے عمدہ طریقہ حضرت محمد ﷺ کا طریقہ ہے اور سب سے بہترین سیرت انبیاء علیہم السلام والی سیرت ہے اور سب سے اعلیٰ بات اللہ کا ذکر ہے اور بہترین قصے قرآن میں ہیں اور بہترین کام وہ ہیں جن کا انجام بہترین ہو اور سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے گھڑے جائیں اور جو مال کم ہو لیکن انسان کی ضروریات کے لئے کافی ہو وہ اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو اللہ

۲۔ عبد ابی نعیم ایضا

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۲۶)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۸)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۳۷)

سے اور آخرت سے غافل کر دے تم کسی جان کو (برے کاموں سے اور ظلم سے) بچالو یہ تمہارے لئے اس امارت سے بہتر ہے جس میں تم عدل و انصاف سے کام نہ لے سکو اور موت کے وقت کی ملامت سب سے بری ملامت ہے اور قیامت کے دن کی شرمندگی سب سے بری شرمندگی ہے اور ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہو جانا سب سے بری گمراہی ہے اور دل کا غنا سب سے بہترین غنا ہے (پیسہ پاس نہ ہو لیکن دل غنی ہو) اور سب سے بہترین تو شہ تقویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ دل میں جتنی باتیں ڈالتے ہیں ان میں سب سے بہترین بات یقین ہے اور شک کرنا کفر میں شامل ہے اور دل کا اندھا پن سب سے برا اندھا پن ہے اور شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے اور عورتیں شیطان کا جال ہیں اور جوانی پاگل پن کی ایک قسم ہے اور میت پر نوحہ کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے اور بعض لوگ جمعہ میں سب سے آخر میں آتے ہیں اور صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں دل بالکل متوجہ نہیں ہوتا اور سب سے بڑی خطا جھوٹ بولنا ہے اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے اور اس کے مال کا احترام کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اس کے خون کا احترام کرنا۔ جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا جو غصہ پی جائے۔ اللہ اسے اجر دے گا اور جو اوروں سے درگزر کرے گا اللہ اس سے درگزر کرے گا اور جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے بہت عمدہ بدلہ دیں گے اور سب سے بری کمائی سود کی ہے اور سب سے برا کھانا تمیم کا مال ہے اور خوش قسمت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے اور بد قسمت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ازل سے بد بخت ہو گیا ہو اور تم میں سے ہر ایک کو اتنا کافی ہے جس سے اس کے دل میں قناعت پیدا ہو جائے۔ تم میں سے ہر ایک کو بالآخر چار ہاتھ جگہ یعنی قبر میں جانا ہے اور اصل معاملہ آخرت کا ہے اور عمل کا دار و مدار اس کے انجام پر ہے اور سب سے بری روایتیں جھوٹی روایتیں ہیں اور سب سے اعلیٰ موت شہادت والی موت ہے اور جو اللہ کی آزمائش کو پہچانتا ہے وہ اس پر صبر کرتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ اس کا انکار کرتا ہے اور جو بڑا بنتا ہے اللہ اسے نچا کرتے ہیں۔ جو دنیا سے دوستی کرتا ہے دنیا اس کے قابو میں نہیں آتی۔ جو شیطان کی بات مانے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دیں گے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو دنیا میں دکھاوے کی وجہ سے عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ اور عیوب لوگوں کو دکھائیں گے اور جو دنیا میں شہرت کے لئے عمل کرے گا اللہ اس کے گناہ قیامت کے دن لوگوں کو سنائیں گے اور جو بڑا بننے کے لئے خود کو اونچا کرے گا اللہ اسے نچا کریں گے اور جو عاجزی کی وجہ خود کو نچا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیں گے۔ ۲

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۲۸)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۲۸)

## حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی کہ حضرت سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تین آدمیوں پر ہنسی آتی ہے اور تین چیزوں سے رونا آتا ہے ایک تو اس آدمی پر ہنسی آتی ہے جو دنیا کی امیدیں لگا رہا ہے، حالانکہ موت اسے تلاش کر رہی ہے۔ دوسرے اس آدمی پر جو غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس سے غفلت نہیں برتی جا رہی یعنی فرشتے اس کا ہر برا عمل لکھ رہے ہیں اور اسے ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ تیسرے منہ بھر کر ہنسنے والے پر جسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے اپنے رب کو خوش کر رکھا ہے یا ناراض۔ اور مجھے تین چیزوں سے رونا آتا ہے پہلی چیز محبوب دوستوں یعنی حضرت محمد ﷺ اور ان کی جماعت کی جدائی دوسری موت کی سختی کے وقت آخرت کے نظر آنے والے مناظر کی ہولناکی تیسری اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا جبکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا یا جنت میں۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی اور ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس سے حیا نکال لیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے بغض رکھتا ہے۔ جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رحم کرنے اور ترس کھانے کی صفت نکال دی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بد اخلاق، اکھڑا طبیعت اور سخت دل ہو گیا ہے جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے امانتداری کی صفت چھین لی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم دیکھو گے وہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے اور لوگ بھی اس سے خیانت کرتے ہیں جب وہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کا پٹہ اس کی گردن سے اتار لیا جاتا ہے اور پھر اللہ اور اس کی مخلوق بھی اس پر لعنت کرتی ہے اور وہ بھی دوسروں پر لعنت کرتا ہے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دنیا میں مومن کی مثال اس بیمار جیسی ہے جس کا طبیب اور معالج اس کے ساتھ ہو جو اس کی بیماری اور اس کے علاج دونوں کو جانتا ہو۔ جب اس کا دل کسی ایسی چیز کو چاہتا ہے جس میں اس کی صحت کا نقصان ہو تو وہ معالج اسے اس سے منع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ اگر تم نے اسے کھایا تو یہ تمہیں ہلاک کر دے گی اسی طرح وہ معالج اسے نقصان دہ چیز سے روکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اسی طرح مومن کا دل بہت سی ایسی دنیاوی چیزوں کو چاہتا رہتا ہے جو دوسروں کو اس سے زیادہ دی گئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ موت تک اسے ان

سے منع کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔

حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ (دمشق میں رہتے تھے انہوں نے حضرت سلمان فارسیؓ کو خط لکھا کہ آپ (دمشق کی) پاک سرزمین میں تشریف لے آئیں حضرت سلمانؓ نے انہیں جواب میں لکھا کہ زمین کسی کو پاک نہیں بناتی انسان تو اپنے عمل سے پاک اور مقدس بنتا ہے اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کو وہاں طبیب (یعنی قاضی) بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ذریعہ سے بیماروں کو صحت مل رہی ہے یعنی آپ عدل و انصاف والے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے شاباش ہو آپ کو اور اگر آپ کو طب نہیں آتی اور زبردستی حکیم و طبیب بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کسی انسان کو (غلط فیصلہ کر کے) مار ڈالنے سے بچیں ورنہ آپ کو جہنم میں جانا ہوگا، چنانچہ حضرت ابوالدرداءؓ جب بھی دو آدمیوں میں فیصلہ کرتے اور وہ دونوں پشت پھیر کر جانے لگتے تو انہیں دیکھ کر فرماتے میں تو اللہ کی قسم! انا زمی حکیم ہوں تم دونوں میرے پاس آ کر اپنا سارا قصہ دوبارہ سناؤ (یعنی بار بار تحقیق کر کے فیصلہ کرتے)۔

## حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے تم لوگ اس وقت تک خیر پر رہو گے جب تک کہ تم اپنے بھلے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے اور تم میں حق بات کہی جائے اور تم اسے پہچانتے رہو گے کیونکہ حق بات کو پہچاننے والا حق پر عمل کرنے والے کی طرح شمار ہوتا ہے۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا تم لوگوں کو ان چیزوں کا مکلف نہ بناؤ جن کے وہ (اللہ کی طرف سے) مکلف نہیں ہیں لوگوں کا رب تو ان کا محاسبہ نہ کرے اور تم ان کا محاسبہ کرو، یہ ٹھیک نہیں۔ اے ابن آدم! تو اپنی فکر کر کیونکہ جو لوگوں میں نظر آنے والے عیوب تلاش کرے گا اس کا غم لمبا ہوگا اور اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ

۱۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۰۷) ۲۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۰۵)

۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۱۰) ۴۔ اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان و ابن عساکر عن ابی النرداء مثله کما فی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۳) اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۴۱۱)

رہے ہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور جان لو کہ تھوڑا مال جو تمہاری ضروریات کے لئے کافی ہو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے اور یہ بھی جان لو کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا خیر یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال یا تمہاری اولاد زیادہ ہو جائے بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہاری بردباری بڑھ جائے اور تمہارا علم زیادہ ہو اور تم اللہ کی عبادت میں لوگوں سے آگے نکلنے میں مقابلہ کرو اگر تم نیکی کرو تو اللہ کی تعریف کرو اور اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اللہ سے استغفار کرو۔

حضرت سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا آدمی کو اس سے بچتے رہنا چاہئے کہ مومنوں کے دل اس سے نفرت کرنے لگ جائیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا بندہ خلوت میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نفرت مومنوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے تھے ایمان کی چوٹی اللہ کے فیصلے کی وجہ سے پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی ہونا اور توکل میں مخلص ہونا اور اللہ کی ہر بات کو بے چون و چرا مان لینا اور اللہ کے سامنے گردن جھکا لینا ہے۔

حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے تھے ہلاکت ہو اس شخص کے لئے جو بہت زیادہ مال جمع کرنے والا ہو اور مال کے لالچ میں اس طرح منہ پھاڑے ہوئے ہو کہ گویا پاگل ہو گیا ہے اور لوگوں کے پاس جو دنیا ہے بس اسے دیکھتا رہتا ہے کہ کسی طرح مجھے مل جائے اور جو اپنے پاس ہے نہ اسے دیکھتا ہے اور نہ اس پر شکر کرتا ہے اگر اس کے بس میں ہو تو رات کو بھی دن سے ملا دے یعنی دن کو تو کماتا ہے اس کا بس چلے تو وہ رات کو بھی کمایا کرے۔ اس کے لئے ہلاکت ہو اس کا حساب بھی سخت ہوگا اور اہل پر عذاب بھی سخت ہوگا۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اے دمشق والو! کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا مال جمع کر رہے ہو جسے تم کھا نہیں سکتے اور اتنے گھر بنا رہے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے اور اتنی بڑی امیدیں لگا رہے ہو جن تک تم پہنچ نہیں سکتے اور تم سے پہلے قوموں کی قومیں مال جمع کر کے محفوظ کر لیتی تھیں اور انہوں نے بڑی لمبی امیدیں لگا رکھی تھیں اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں تھیں

۱۔ اخراجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۲) ۲۔ اخراجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۲)

۳۔ اخراجہ ابونعیم (ج ۱ ص ۲۱۵) ۴۔ اخراجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۶)

۵۔ اخراجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۷)

لیکن اب وہ سب ہلاک ہو چکی ہیں اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئیں اور ان کے گھر قبر بن چکے ہیں یہ قوم عاد ہے جن کے مال اور اولاد سے عدن سے عمان تک کا سارا علاقہ بھرا ہوا تھا لیکن اب مجھ سے عاد کا سارا ترکہ و درہم میں خریدنے کے لئے کون تیار ہے؟ حضرت عون بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابوالدرداءؓ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے غوطہ میں نئی عمارتیں بنالی ہیں اور نئے نئے باغات لگائے ہیں تو ان کی مسجد میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان فرمایا اے دمشق والو! تو تمام دمشق والے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا کیا تمہیں شرم نہیں آتی پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت صفوان بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ فرمایا کرتے تھے اے مال والو! اپنے مال کو صدقہ وغیرہ میں خرچ کر کے اپنی کھالوں کے لئے آخرت کی ٹھنڈک کا انتظام کر لو (صدقہ وغیرہ کرنے سے تم لوگ جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ گے) مبادا کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے اور تمہارے مال میں ہم اور تم برابر ہو جائیں تم اپنے مال کو دیکھ رہے ہو اور ہم بھی تمہارے ساتھ اسے دیکھ رہے ہیں (اس وقت تم اپنے مال کو صرف دیکھ سکو گے خرچ نہیں کر سکو گے) حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم چھپی ہوئی خواہش کی وجہ سے نعمت استعمال کرو گے تو وہ نعمت تمہیں غفلت میں ڈال دے گی اور یہ اس وقت ہوگا جب تم کھانا پیٹ بھر کر کھاؤ گے لیکن علم سے بھوکے رہو گے اسے کچھ بھی حاصل نہیں کرو گے۔ یہ بھی فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے آؤ مرنے سے پہلے ہم روزے رکھ لیں اور تم میں سب سے برا وہ ہے جو اپنے ساتھی سے یہ کہے آؤ مرنے سے پہلے ہم کھاپی لیں اور کھیل تماشا کر لیں۔ ایک دفعہ حضرت ابوالدرداءؓ کا چند لوگوں پر گزر رہا جو مکان بنا رہے تھے تو ان سے فرمایا تم دنیا میں نئی نئی عمارتیں کھڑی کر رہے ہو حالانکہ اللہ تو اس کے اجازت سے کارادہ کئے ہوئے ہیں اور اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے وجود میں ضرور لے آتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ حضرت محول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ اجازت جگہیں تلاش کیا کرتے تھے اور جب کوئی اجازت جگہ مل جاتی تو فرماتے اے رہنے والوں کو اجازت دانی والی اجازت جگہ! تجھ میں بسنے والے پہلے لوگ کہاں ہیں؟

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں لیکن عام لوگوں کو پسند نہیں ہیں فقر، بیماری اور موت۔ اور یہ بھی فرمایا اپنے رب کی ملاقات کے شوق کی وجہ سے مجھے موت

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۷۷)

۲۔ اخرجه ابن ابی حاتم کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۳۱)

۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۸) ۴۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۷)

سے محبت ہے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کی وجہ سے مجھے فقر سے محبت ہے اور گناہوں کے لئے کفارہ ہونے کی وجہ سے مجھے بیماری سے محبت ہے۔

حضرت شریعتی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے تم صبح کو جا رہے ہو شام کو ہم بھی تمہارے پاس آ جائیں گے یا تم شام کو جا رہے ہو، صبح کو ہم بھی آ جائیں گے۔ جنازہ ایک زبردست اور موثر نصیحت ہے لیکن لوگ کتنی جلدی غافل ہو جاتے ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لئے موت کافی ہے ایک ایک کر کے لوگ جا رہے ہیں اور آخر میں ایسے لوگ رہتے جا رہے ہیں جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے (جنازہ دیکھ کر پھر اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں)۔

حضرت عون بن عبد اللہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا جو دوسروں کے حالات معلوم کرے گا اسے اپنی پسند کے حالات نظر نہیں آئیں گے (کیونکہ خیر والے آدمی کم ہوا کرتے ہیں) اور جو پیش آنے والے دردناک حالات کے لئے صبر تیار نہیں کرے گا وہ آخر کار بے بس و عاجز ہو جائے گا۔ اگر تم لوگوں کو برا بھلا کہو گے تو لوگ بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے اگر تم انہیں کہنا چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عون نے پوچھا تو اس صورت میں آپ میرے لئے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تو تم ان سے بدلہ آج نہ لو بلکہ یہ ان کے ذمہ ادھار رہنے دو جس دن تمہیں اس بدلہ کی شدید ضرورت ہوگی اس دن ان سے اس کا بدلہ لے لینا یعنی قیامت کے دن۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کا اترانا اور حسد دونوں ختم ہو جائیں گے۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس روزی کی اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے اس کے لئے تو تم بہت فکر اور کوشش کرتے ہو اور اللہ نے جو عمل تمہارے ذمہ لگائے ہیں انہیں تم ضائع کر رہے ہو۔ جانوروں کا علاج کرنے والا گھوڑوں کو جتنا جانتا ہے میں اس سے زیادہ تمہارے بڑوں کو جانتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے تو ہیں لیکن دل سے نہیں سنتے اور غلاموں کو آزاد تو کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آزاد نہیں ہوتے ان سے غلاموں کی طرح خدمت لیتے رہتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا زندگی بھر خیر کو تلاش کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے جھونکوں

۱۔ عبد اسی نعیم ایضاً ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۷)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۸)

۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۰) ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۱)



کے سامنے خود کو رلاتے رہو کیونکہ اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنے جن بندوں پر چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں اور اللہ سے یہ سوال کرو کہ وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے اور تمہاری خوف کی جگہوں کو امن والا بنائے۔ ۱۔

حضرت عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابوالدرداءؓ کی خدمت میں عرض کیا آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے اللہ مجھے نفع دے فرمایا ایک نہیں دو، تین، چار، بلکہ پانچ باتیں سکھانے کو تیار ہوں جن پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرمائیں گے پھر فرمایا صرف پاکیزہ روزی کھاؤ اور صرف پاکیزہ مال کھاؤ اور صرف پاکیزہ روزی گھر میں لاؤ اور اللہ سے یہ مانگو کہ وہ تمہیں ایک دن میں ایک دن کی روزی عطا فرمائے اور جب تم صبح اٹھو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو گویا کہ تم ان میں جا ملے ہو، اپنی آبرو کو اللہ کی خاطر قربان کر دو لہذا جو تمہیں برا بھلا کہے یا گالی دے یا تم سے لڑے تم اسے اللہ کے لئے چھوڑ دو اور جب تم سے کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً اللہ سے استغفار کرو۔ ۲۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا انسان کا دل دنیا کی محبت میں جو ان رہتا ہے اگر چہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی ہنسی کی دونوں ہڈیاں آپس میں مل جائیں لیکن جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لئے آزمایا ہے ان کے دل دنیا کی محبت میں جو ان نہیں رہتے اور ایسے کامل متقی لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ۳۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے ابن آدم کے سارے کام قابو میں آجائیں گے تم اپنی مصیبت کا کسی سے شکوہ نہ کرو اور اپنی بیماری کسی کو مت بتاؤ اور اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کرو اور اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ نہ سمجھو۔ ۴۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا مظلوم کی اور یتیم کی بددعا سے بچو کیونکہ ان دونوں کی بددعا رات کو اللہ کی طرف چلتی ہے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے لوگوں میں اس پر ظلم کرنا سب سے زیادہ مبغوض ہے جو بالکل بے بس اور بے کس ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے میرے خلاف مدد نہ لے سکے۔ ۵۔

حضرت معمرؓ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداءؓ نے حضرت سلمان کو خط میں یہ لکھا کہ اے میرے بھائی! اپنی صحت اور فراغت کو اس بلا کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو جس کو تمام

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۱) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۲)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۳) و اخرجہ ابن عساکر عن ابی الدرداء، منہ کما فی الکنز (ج ۸ ص ۲۲۳)

۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۳) ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۲۱)

بندے مل کر نال نہیں سکتے (اس بلا سے مراد موت ہے) اور مصیبت زدہ کی دعا کو غنیمت سمجھو اور اے میرے بھائی! مسجد تمہارا گھر ہونا چاہئے یعنی مسجد میں زیادہ وقت اعمال میں گزرے کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد ہر مشقی کا گھر ہے اور مسجد جن لوگوں کا گھر ہوگی ان کے لئے اللہ نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ انہیں خوشی اور راحت نصیب ہوگی اور وہ پل صراط کو پار کر کے اللہ کی رضا مندی حاصل کریں گے اور اے میرے بھائی! یتیم پر رحم کرو اسے اپنے قریب کرو اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ کیونکہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اس نے کہا جی ہاں حضور نے فرمایا یتیم کو اپنے سے قریب کرو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اسے اپنے کھانے میں سے کھلاؤ اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی اور اے میرے بھائی! اتنا جمع نہ کرو جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ دنیا والا انسان جس نے اس دنیا کے خرچ کرنے میں اللہ کی اطاعت کی تھی اسے قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ آگے آگے ہوگا اور اس کا مال پیچھے ہوگا وہ جب بھی پل صراط پر لڑکھڑائے گا تو اس کا مال اسے کہے گا تم بے فکر ہو کر چلتے رہو (تم جہنم میں نہیں گر سکتے کیونکہ) مال کا جو حق تمہارے ذمہ تھا وہ تم نے ادا کیا تھا پھر حضور نے فرمایا جس آدمی نے اس دنیا کے بارے میں اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی اسے اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا مال اس کے کندھے کے درمیان ہوگا اور اس کا مال اسے ٹھوکر مار کر کہے گا تیرا ناس ہو تو نے میرے بارے میں اللہ کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ مال اس کے ساتھ بار بار ایسے ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ ہلاکت کو نیکار نے لگے گا اور اے میرے بھائی! مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے ایک خادم خریدا ہے حالانکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے تعلق اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کی خدمت نہ کی جائے اپنے کام وہ خود کرے اور جب اس کی خدمت ہونے لگتی ہے تو اس پر حساب واجب ہو جاتا ہے۔ ام دراء نے مجھ سے ایک خادم مانگا اور میں ان دنوں مالدار بھی تھا لیکن میں نے چونکہ حساب والی حدیث سن رکھی تھی اس وجہ سے مجھے خادم خریدنا پسند نہ آیا اور اے میرے بھائی! میرے لئے اور تمہارے لئے کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایک دوسرے سے مل سکیں گے اور ہمیں حساب کا کوئی ڈر نہ ہوگا؟ اور اے میرے بھائی! حضور ﷺ کے صحابی ہونے کی وجہ سے دھوکے میں مت آ جانا کیونکہ ہم نے حضور کے بعد بہت لمبا عرصہ گزار لیا ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ہم نے حضور کے بعد کیا کیا ہے۔!

حضرت عبدالرحمن بن محمد محاربلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۴) و اخرجہ ایضا ابن عساکر بن محمد بن واسع قال کتب ابو الدرواء الی سلمان فذکر نحوه الا انه لم یذکر وان ام الدرواء سالتنی الی احرہ کما فی الکفر (ج ۸ ص ۲۲۳)

ابوالدرداءؓ نے اپنے ایک بھائی کو خط میں یہ لکھا ابا بعد! تمہارے پاس جتنی دنیا ہے وہ تم سے پہلے دوسروں کے پاس تھی اور تمہارے بعد پھر دوسروں کے پاس چلی جائے گی اس میں سے تمہاری صرف اتنی ہے جو تم نے اپنے لئے آگے بھیج دی یعنی اللہ کے نام پر دوسروں پر خرچ کر دی لہذا اپنے آپ کو اپنی نیک اولاد پر ترجیح دو یعنی دوسروں پر خرچ کر جاؤ گے تو تمہارے کام آئے گی ورنہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کو مل جائے گی کیونکہ تم ایسی ذات کے پاس پہنچ جاؤ گے جو تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گی اور تم ان لوگوں کے لئے جمع کر رہے ہو جو تمہاری کبھی تعریف نہیں کریں گے اور تم دو طرح کے آدمیوں کے لئے جمع کر رہے ہو یا تو وہ تمہارے مال میں اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اور تم تو اس مال کو دوسروں پر خرچ کرنے کی سعادت حاصل نہ کر سکتے لیکن یہ سعادت اسے مل جائے گی یا وہ اس مال میں اللہ کی نافرمانی پر عمل کرے گا اور چونکہ یہ مال تم نے اس کو جمع کر کے دیا ہے، اس لئے اس کے غلط خرچ کرنے کا ذریعہ بننے کی وجہ سے تم خود بد بخت بن جاؤ گے بہر حال اللہ کی قسم! ان دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ تم اس کی وجہ سے اپنی کمر پر بوجھ لاؤ اور اس کی سزا کو کم کراؤ لہذا تم اسے اپنی ذات پر ترجیح مت دو اور جو جا چکے ہیں ان کے لئے اللہ کی رحمت کی امید رکھو اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی عطا پر اعتماد کرو والسلام۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلمہ بن مخلدؓ کو خط میں یہ لکھا ابا بعد! بندہ جب اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کی محبت اپنی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی والا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور جب اللہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو اس کی نفرت اپنی مخلوق میں ڈال دیتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا اسلام صرف بے چوں و چرا حکم ماننے کا نام ہے۔ خیر صرف جماعت میں ہے اور انسان اللہ اور خلیفہ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔

## حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو! میں جناب غفاری ہوں اس بھائی کے پاس آ جاؤ جو تمہارا خیر خواہ اور بڑا شفیق ہے اس پر لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تو فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ جب تم میں سے کسی کا سفر کا ارادہ ہوتا ہے تو کیا وہ اتنا مناسب زوراء نہیں لیتا جس سے وہ منزل مقصود تک پہنچ

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۶) ۲۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۴۵)

۳۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۴۷)

جائے؟ لوگوں نے کہا لیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے راستہ کا سفر تو سب سے لمبا سفر ہے لہذا اتنا زور راہ لے لو جس سے یہ سفر ٹھیک طرح ہو جائے لوگوں نے کہا وہ زور راہ کیا ہے جس سے ہمارا یہ سفر ٹھیک طرح ہو جائے؟ فرمایا حج کرو اس سے تمہارے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے اور سخت گرم دن میں روزے رکھو کیونکہ قیامت کا دن بہت لمبا ہے اور رات کے اندھیرے میں دو رکعت نماز پڑھو یہ دو رکعتیں قبر کی تنہائی میں کام آئیں گی یا تو خیر کی بات کہو یا پھر چپ رہو شر کی بات مت کرو کیونکہ ایک بہت بڑے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اپنا مال صدقہ کرو تا کہ قیامت کی مشکلات سے نجات پاسکو اس دنیا میں دو باتوں کے لئے کسی مجلس میں بیٹھو یا تو آخرت کی تیاری کے لئے یا حلال روزی حاصل کرنے کے لئے۔ ان دو کاموں کے علاوہ کسی اور کام کے لئے مجلس میں بیٹھنے سے تمہارا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا ایسی مجلس کا ارادہ بھی نہ کرو مال کے دو حصے کرو ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو اور دوسرا حصہ اپنی آخرت کے لئے آگے بھیج دو ان دو جگہوں کے علاوہ کہیں اور خرچ کرو گے تو اس سے تمہارا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا لہذا اس کا ارادہ بھی نہ کرو پھر حضرت ابو ذرؓ نے بلند آواز سے فرمایا اے لوگو! دنیا کے لالچ نے تمہیں مار ڈالا اور تم جتنا لالچ کرتے ہو اس کو تم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔

حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک قابل اعتماد انسان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابو ذرؓ فرمایا کرتے تھے اے لوگو! میں تمہارا خیر خواہ اور بڑا شفیق ہوں۔ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھا کرو۔ یہ نماز قبر کی تنہائی میں کام آئے گی۔ دنیا میں روزے رکھو قبروں سے اٹھائے جانے کے دن کی گرمی میں کام آئیں گے اور دشوار دن سے ڈر کر صدقہ دیا کرو اے لوگو! میں تمہارا خیر خواہ اور بڑا شفیق ہوں۔

حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں جو ایک دن مر جائیں گے اور لوگ عمارتیں بناتے ہیں جو ایک دن گر جائیں گی۔ لوگوں کو فانی دنیا کا بڑا شوق ہے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غور سے سنو! دو چیزیں عام لوگوں کو ناپسند ہیں لیکن وہ بہت اچھی۔ ایک موت اور دوسرا فقر۔ حضرت حبان بن ابی جبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا تمہارے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو ایک دن مر جائیں گے اور تم عمارتیں بنا رہے ہو جو ایک دن اجڑ جائیں گی۔ فانی دنیا کے تم حریص ہو لیکن باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑ دیتے ہو غور سے سنو! تین چیزیں لوگوں کو پسند نہیں ہیں لیکن بہت اچھی ایک موت دوسرے بیماری، تیسرے فقر۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۶۵) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۶۵)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۱۶۳) ۴۔ عند ابن عساکر کما فی الکفر (ج ۸ ص ۲۲۳)

## حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت حذیفہؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! اور لوگ تو حضور ﷺ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو کیا تم لوگ زندوں میں سے مردہ کے بارے میں نہیں پوچھتے؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انہوں نے لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف اور کفر سے ایمان کی طرف بلایا پھر جس کا مقدر اچھا تھا اس نے حضورؐ کی دعوت کو قبول کر لیا اور جو لوگ مردہ تھے وہ حق کو قبول کر کے زندہ ہو گئے اور جو زندہ تھے وہ باطل پر چلتے رہنے کی وجہ سے مردہ ہو گئے پھر (حضور کے انتقال سے) نبوت چلی گئی پھر نبوت کی نیچ پر خلافت آگئی اب اس کے بعد ظلم والی بادشاہت ہوگی۔ جو ان کے ظلم پر دل، زبان اور ہاتھ سے انکار کرے گا تو وہ پورے حق پر عمل کرنے والا ہوگا اور جو ہاتھ کو روک لے گا اور صرف دل اور زبان سے انکار کرے گا وہ حق کے ایک حصہ کو چھوڑنے والا ہوگا اور جو ہاتھ اور زبان کو روک لے گا اور صرف دل سے انکار کرے گا وہ حق کے دو حصوں کو چھوڑنے والا ہوگا اور جو دل سے بھی انکار نہیں کرے گا وہ انسان زندوں میں سے مردہ ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دل چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ دل جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ تو کافر کا دل ہے دوسرا دامنہ والادل یہ منافق کا دل ہے تیسرا وہ صاف ستھرا دل جس میں چراغ روشن ہے یہ مومن کا دل ہے چوتھا وہ دل جس میں نفاق بھی ہے اور ایمان بھی۔ ایمان کی مثال درخت جیسی ہے جو عمدہ پانی سے بڑھتا ہے اور نفاق کی مثال پھوڑے جیسی ہے جو پیپ اور خون سے بڑھتا ہے۔ ایمان اور نفاق میں سے جس کی صفات غالب آجائیں گی وہی غالب آجائے گا۔

حضرت حذیفہؓ نے فرمایا فتنہ دلوں پر ڈالا جاتا ہے تو جس دل میں وہ فتنہ نہ پوری طرح داخل ہو جاتا ہے اس میں ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے اور جو دل اس فتنہ سے انکار کرتا ہے اس میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے اب تم میں سے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس پر فتنہ کا اثر پڑا ہے یا نہیں وہ یہ دیکھے کہ جس چیز کو پہلے وہ حلال سمجھتا تھا اب اسے حرام سمجھنے لگ گیا ہے یا جس چیز کو وہ پہلے حرام سمجھتا تھا اب اسے حلال سمجھنے لگ گیا ہے تو بس سمجھ لے کہ اس پر فتنہ کا پورا اثر ہو گیا ہے۔

حضرت حذیفہؓ نے فرمایا فتنوں سے بچ کر رہو اور کوئی آدمی خود اٹھ کر فتنے کی طرف نہ جائے

۱۔ اخراجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۳) ۲۔ اخراجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۶)

۳۔ اخراجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۲)

کیونکہ اللہ کی قسم! جو بھی از خود اٹھ کر فتنوں کی طرف جائے گا اسے فتنے ایسے بہا کر لے جائیں گے جیسے سیلاب کوڑے کے ڈھیروں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ فتنہ جب آتا ہے تو بالکل حق جیسا لگتا ہے یہاں تک کہ جاہل کہتا ہے کہ یہ تو حق جیسا ہے (اس وجہ سے لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں) لیکن جب جاتا ہے تو اس وقت صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو فتنہ تھا، لہذا جب تم فتنہ کو دیکھو تو اس سے بچ کر رہو اور گھروں میں بیٹھ جاؤ اور تلواریں توڑ ڈالو اور کمان کی تانت کے ٹکڑے کر دو۔

حضرت حذیفہؓ نے فرمایا فتنے رک جاتے ہیں اور پھر اچانک شروع ہو جاتے ہیں اس لئے اس کی پوری کوشش کرو کہ تمہیں ان دنوں میں موت آ جائے جن دنوں فتنہ رکا ہوا ہو (مرنے کے کوشش سے مراد مرنے کی تمنا اور اس کی دعا ہے)۔ ۲۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فتنہ تین آدمیوں کے ذریعہ سے آتا ہے ایک تو اس ماہر اور طاقتور عالم کے ٹھہرے ہو جانے کے ذریعے سے جو اٹھنے والی ہر چیز کا تلواریں کے ذریعہ سے قلع قمع کر دیتا ہے دوسرے اس بیان والے کے ذریعہ سے جو فتنہ کی دعوت دیتا ہے تیسرے سردار اور حاکم کے ذریعہ سے۔ عالم اور بیان کرنے والے کو تو فتنہ منہ کے بل گرا دیتا ہے، البتہ سردار کو فتنہ خوب کر دیتا ہے اور پھر جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس سب کو فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ۳۔

حضرت حذیفہؓ نے فرمایا فتنہ، خالص شراب سے زیادہ عقل کو لے جاتا ہے۔ ۴۔  
حضرت حذیفہؓ نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانہ میں فتنوں سے صرف وہی آدمی نجات حاصل کر سکے گا جو ڈوبنے والے کی طرح دعا کرے گا۔ ۵۔

حضرت امش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت حذیفہؓ فرمایا کرتے تھے تم میں وہ لوگ سب سے بہترین نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کی وجہ سے یا آخرت کو دنیا کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں بلکہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے محنت کرتے ہیں۔ ۶۔

## حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت ابی بن کعبؓ کی خدمت میں عرض کیا مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ فرمایا اللہ کی کتاب کو امام بنا لو اور اس کے قاضی اور فیصلہ کرنے والا، حکم ہونے پر راضی رہو کیونکہ اسی کو تمہارے رسول ﷺ تمہارے لئے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۳) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۴)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۴) ۴۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۴)

۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۴) ۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۷۸)

ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش مانی جاتی ہے اور ایسا گواہ ہے جس پر کوئی تہمت نہیں لگائی جاسکتی۔ اس میں تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے اور اس میں تمہارے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ ہے اور اس میں تمہارے بعد والوں کے حالات ہیں۔ ۱۔

حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا جو بندہ بھی کسی چیز کو اللہ کے لئے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان نہیں ہوتا اور جو بندہ کسی چیز کو ہلکا سمجھ کر اسے وہاں سے لے لیتا ہے جہاں سے لینا ٹھیک نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ سخت چیز وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ۲۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن چار حالتوں کے درمیان رہتا ہے۔ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اگر بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے اور اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو انصاف والا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ایسے مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نُورٌ عَلٰی نُورٍ (سورت نور آیت ۳۵) یہ مومن پانچ قسم کے نوروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کا کلام نور ہے اور اس کا علم نور ہے۔ یہ اندر جاتا ہے تو نور میں جاتا ہے۔ یہ باہر نکلتا ہے تو نور سے باہر نکلتا ہے اور قیامت کے دن یہ نور کی طرف لوٹ کر جائے گا اور کافر پانچ قسم کی ظلمتوں (اندھیروں) میں چلتا پھرتا ہے اس کا کلام ظلمت ہے اس کا عمل ظلمت ہے اور اندر جاتا ہے تو ظلمت میں اور باہر آتا ہے تو ظلمت سے اور قیامت کے دن یہ بے شمار ظلمتوں کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ ۳۔

حضرت ابو نضرہؓ کہتے ہیں ایک آدمی کو جبر یا جبریز کہا جاتا تھا انہوں نے کہا میں نے حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ان سے ایک باندی لینے کا ارادہ کیا۔ میں سفر کر کے رات کے وقت مدینہ پہنچا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت اور بات کرنے کا بڑا سلیقہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں حضرت عمرؓ کی خدمت میں گیا اور دنیا کے بارے میں بات شروع کی اور دنیا کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنے لگا اور اس کا حال ایسا بنا کر چھوڑا کہ گویا دنیا کسی چیز کے برابر نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ کے پہلو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جب میں بات پوری کر چکا تو انہوں نے فرمایا تمہاری ساری بات تقریباً ٹھیک تھی لیکن تم نے دنیا کی جو برائی بیان کی یہ ٹھیک تھا اور تم جانتے ہو کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کے ذریعہ سے تو ہم جنت تک پہنچیں گے اور یہی آخرت کے لئے زاہرہ ہے اور دنیا ہی میں تو تمہارے وہ اعمال ہیں جن کا بدلہ تو تم کو آخرت میں ملے گا۔ غرضیکہ انہوں نے دنیا کے بارے میں جو بات کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ تو دنیا کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۵۳) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۵۴)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۵۵)

امیر المؤمنین! یہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے صاحب کون ہیں؟ فرمایا یہ مسلمانوں کے سردار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔

ایک آدمی نے حضرت ابی بن کعبؓ کی خدمت میں عرض کیا اے ابوالمنذر! آپ مجھے کچھ وصیت فرمادیں۔ فرمایا یعنی کام میں ہرگز نہ لگو اور دشمن سے کنارہ کش رہو اور دوست کے ساتھ چوکنے ہو کر چلو (دوستی میں تم سے غلط کام نہ کروالے) زندہ آدمی کی ان ہی باتوں پر رشک کرو جن پر مر جانے والے پر رشک کرتے ہیں یعنی نیک اعمال اور اچھی صفات پر۔ اور اپنی حاجت اس آدمی سے طلب نہ کرو جسے تمہاری حاجت پوری کرنے کی پروا نہیں ہے۔

### حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت عبداللہ بن دینار بہرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زید بن ثابتؓ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو خط میں یہ لکھا ابا بعد! اللہ تعالیٰ نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا اور دل کو خزانہ اور حکمران بنایا دل زبان کو جو حکم دیتا ہے زبان اسے پورا کرتی ہے جب دل زبان کی موافقت پر ہوتا ہے تو گفتگو مرتب اور مناسب ہوتی ہے اور نہ زبان سے کوئی لغزش ہوتی ہے اور نہ وہ ٹھوکر کھاتی ہے اور جس انسان کا دل اس کی زبان سے پہلے نہ ہو یعنی دل اس کی نگرانی اور دیکھ بھال نہ کرے تو اس کی بات عقل و سمجھ والی نہیں ہوگی۔ جب آدمی اپنی زبان کو بات کرنے میں کھلا اور آزاد چھوڑ دے گا اور زبان دل کی مخالفت کرے گی تو اس طرح وہ آدمی اپنی ناک کاٹ ڈالے گا یعنی خود کو ذلیل کر لے گا اور جب آدمی اپنے قول کا اپنے فعل سے موازنہ کرے گا تو عملی صورت سے ہی اس کے قول کی تصدیق ہوگی اور یہ کہاوت عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ جو بخیل بھی تمہیں ملے گا وہ باتوں میں تو بڑا سخی ہوگا لیکن عمل میں بالکل کنجوس ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان اس کے دل سے آگے رہتی ہے یعنی بولتی بہت ہے اور دل کے قابو میں نہیں ہے اور یہ کہاوت بھی عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے کہے کی پابندی نہ کرے یعنی اس پر عمل نہ کرے حالانکہ اس بات کو کہتے وقت وہ جانتا تھا کہ یہ بات حق ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے تو کیا تم اس کے پاس شرف و عزت اور مردانگی پاؤ گے؟ اور آدمی کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو نہ دیکھے کیونکہ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور اپنے عیبوں کو ہلکا سمجھتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو جتکف ایسا کام کر رہا ہے جس کا اسے محکم نہیں دیا گیا والسلام۔

۱۔ اخرجه البخاری فی الادب کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۲۶)

۲۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۳)

۳۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۳)



## حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اے گناہ کرنے والے! گناہ کے برے انجام سے مطمئن نہ ہو جانا کیونکہ گناہ کرنے کے بعد بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہیں گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتوں سے شرم نہ آئے تو تم نے جو گناہ کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے اور پھر تم ہنتے ہو تمہارا یہ ہنسنا گناہ سے بھی بڑا ہے اور جب تمہیں گناہ کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اور تم اس گناہ پر خوش ہوتے ہو تو تمہاری یہ خوشی اس گناہ سے بھی بڑی ہے اور جب تم گناہ نہ کر سکو اور اس پر تم غمگین ہو جاؤ تو تمہارا یہ غمگین ہونا اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہوا کے چلنے سے تمہارے دروازے کا پردہ ہل جائے اس سے تم ڈرتے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس سے تمہارا دل پریشان نہیں ہوتا تو یہ کیفیت اس گناہ کے کر لینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تمہارا بھلا ہو۔ کیا تم جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام سے کیا چوک ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے جسم کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا تھا اور ان کا سارا مال ختم کر دیا تھا؟ ان سے چوک یہ ہوئی تھی کہ ایک مسکین پر ظلم ہو رہا تھا اس مسکین نے حضرت ایوب سے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ یہ ظلم رکوادیں۔ حضرت ایوب نے اس کی مدد نہیں کی تھی اور ظالم کو اس مسکین پر ظلم کرنے سے نہیں روکا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا تھا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا فراغِ ارض کا اہتمام کرو اور اللہ نے اپنے جو حق تمہارے ذمے لگائے ہیں انہیں ادا کرو اور ان کی ادائیگی میں اللہ سے مدد مانگو کیونکہ جب اللہ کو کسی بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ سچی نیت سے اور اللہ کے ہاں جو ثواب ہے اسے حاصل کرنے کے شوق میں عمل کر رہا ہے تو اس سے ناگواریاں ضرور ہٹا دیتے ہیں اور اللہ حقیقی بادشاہ ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر مومن اور قاجر بندے کیلئے حلال روزی مقرر فرما رکھی ہے اگر وہ اس روزی کے آنے تک صبر کرتا ہے تو اللہ اسے حلال روزی دیتے ہیں اور اگر وہ بے صبری کرتا ہے اور حرام میں سے کچھ لے لیتا ہے تو اللہ اس کی اتنی حلال روزی کم کر دیتے ہیں۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۲۳) و اخرجہ ابن عساکر عن ابن عباس نحوہ الی قولہ و

یحک هل تلری کما فی الكنز (ج ۲ ص ۲۳۸) ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۲۶)

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۲۶)

## حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا بندے کو جب بھی دنیا کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اللہ کے ہاں عزت و شرف والا ہو۔  
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے۔  
 حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں ان کا ایک ویران جگہ پر گزر رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا تم یہ کہو اے ویرانے! تیرے ہاں رہنے والوں کا کیا بنا؟ میں نے کہا اے ویرانے! تیرے ہاں رہنے والوں کا کیا بنا؟ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا وہ سب خود تو چلے گئے البتہ ان کے اعمال باقی رہ گئے۔

## حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی نصیحتیں

حضرت وہب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے مجھے یہ نصیحت لکھ کر بھیجی۔ اما بعد! تقویٰ والے لوگوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ نشانیاں ہیں اور وہ نشانیاں یہ ہیں مصیبت پر صبر کرنا، رضا بر قضا، نعمتوں پر شکر کرنا اور قرآن کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ امام کی مثال بازار جیسی ہے جو چیز بازار میں چلتی ہے اور جس کا رواج ہوتا ہے وہی چیز بازار میں لائی جاتی ہے اسی طرح امام کے پاس اگر حق کا رواج چل پڑے تو اس کے پاس حق ہی لایا جائے گا اور حق والے ہی اس کے پاس آئیں گے اور اگر اس کے پاس باطل کا رواج چل پڑے تو باطل والے ہی اس کے پاس آئیں گے اور باطل ہی اس کے پاس چلے گا۔

## حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نصیحتیں

حضرت حسن بن علیؓ نے فرمایا جو دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اسے لے بیٹھتی ہے اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے تو اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ کون دنیا استعمال کر رہا ہے۔ دنیا کی طلب والا اس آدمی کا غلام ہوتا ہے جو دنیا کا مالک ہوتا ہے اور جس کے دل میں دنیا کی طلب نہیں ہوتی اسے تھوڑی دنیا کافی ہو جاتی ہے اور جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اسے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی اس کا کام نہیں چلتا اور جس کا آج کا دن پستی اعتبار سے کل گزشتہ کی طرح ہے تو وہ

۱۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۶) ۲۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۰۶)

۳۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۱۲) ۴۔ اخراجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۳۶)

دھوکے میں ہے اور جس کا آج کا دن کل آئندہ سے بہتر ہے یعنی کل آئندہ میں اس کی دینی حالت آج سے خراب ہوگئی تو وہ سخت نقصان میں ہے اور جو اپنی ذات کے بارے میں نقصان کی چھان بین نہیں کرتا تو وہ بھی نقصان میں ہے اور جو نقصان میں چل رہا ہے اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔

حضرت حسن بن علیؓ نے فرمایا یہ جان لو کہ حلم اور بردباری زینت ہے اور وعدہ پورا کرنا مردانگی ہے اور جلد بازی بے وقوفی اور سفر کرنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور کمینہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا عیب کا کام ہے اور فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے انسان پر تہمت لگتی ہے۔

حضرت حسن بن علیؓ نے فرمایا لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جسے بھلائی میں سے بہت حصہ ملا لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں دوسرا وہ جس کے اخلاق تو اچھے ہیں لیکن بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ نہیں تیسرا وہ جس کے نہ اخلاق اچھے ہیں اور نہ بھلائی کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ یہ تمام لوگوں میں سب سے برا ہے۔ چوتھا وہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں اس کا حصہ بھی خوب ہے یہ لوگوں میں سب سے افضل ہے۔

### حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت یاد بن مایک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت شداد بن اوسؓ فرمایا کرتے تھے آپ لوگوں نے خیر نہیں دیکھی اس کے اسباب دیکھے ہیں اور شر نہیں دیکھا اس کے اسباب دیکھے ہیں۔ ساری کی ساری خیر اپنی تمام صورتوں کے ساتھ جنت میں ہے اور سارا کا سارا شر اپنی تمام صورتوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں ہے اور دنیا تو وہ سامان ہے جو سامنے موجود ہے نظر آ رہا ہے جس میں سے نیک اور برے سب کھارے ہیں اور آخرت ایک سچا وعدہ ہے جس میں سب پر غالب آنے والے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بیٹے یعنی ہر ایک کے چاہنے والے ہیں لہذا تم آخرت کے بیٹوں میں سے بنو اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو۔ حضرت ابوالدرداءؓ نے فرمایا بعض لوگوں کو علم تو مل جاتا ہے لیکن بردباری نہیں ملتی اور حضرت ابو یعلیٰؓ (یہ حضرت شدادؓ کی کنیت ہے) کو علم بھی ملا اور بردباری بھی۔

### حضرت جناب بجلی رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت جناب بجلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور قرآن پڑھو کیونکہ قرآن اندھیری رات کا نور ہے اور چاہے دن میں مشقت اور فاقہ ہو لیکن قرآن پڑھنے سے دن میں رونق آ جاتی

۱۔ اخراجہ ابن النجار کتافی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۲)

۲۔ اخراجہ ابن عساکر کتافی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۷) ۳۔ اخراجہ ابن عساکر کتافی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۷)

۴۔ اخراجہ ابولیم فی الحلۃ (ج ۱ ص ۲۶۳)

ہے اور جب کوئی مصیبت تمہارے مال اور تمہارے جسم میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ مال کا نقصان ہو جائے اور جان کا نہ ہو اور جب مصیبت تمہاری جان اور تمہارے دین میں سے کسی ایک پر آنے لگے تو کوشش کرو کہ جان کا نقصان ہو جائے لیکن دین کا نہ ہو اور اصل ناکام اور نامراد وہ ہے جو اپنے دین میں ناکام و نامراد ہو اور حقیقت میں ہلاک ہونے والا وہ ہے جس کا دین برباد ہو جائے۔ غور سے سنو! جنت میں جانے کے بعد کوئی فقر و فاقہ نہیں ہوگا اور جہنم میں جانے کے بعد غنا اور مال داری کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی کیونکہ جہنم کا قیدی کبھی چھوٹ نہیں سکے گا اور اس کا زخمی کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور نہ اس کی آگ کبھی بجھے گی اور اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا مٹھی بھر خون بہایا ہوگا تو یہ اس کے لئے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا اور اب بھی جنت کے کسی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا تو وہاں اسے یہ خون دھکے دیتا ہوا ملے گا اور جان لو کہ آدمی کو مرنے کے بعد جب دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ سڑتا ہے اور اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے لہذا اس بدبو کے ساتھ حرام روزی سے گندگی کا اضافہ نہ کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور خون بہانے سے بچو۔

### حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت عامر بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم ایک جنازے کے ساتھ باب دمشق میں گئے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو امامہ باہلی بھی تھے۔ جب وہ نماز جنازہ پڑھا چکے اور لوگ جنازے کو دفن کرنے لگے تو انہوں نے فرمایا اے لوگو! تم اب تو صبح و شام ایسی جگہ کر رہے ہو جہاں تم لوگ اپنے اپنے حصہ کی نیکیاں اور برائیاں جمع کر رہے ہو پھر حضرت ابو امامہ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا عنقریب یہاں سے کوچ کر کے اس (قبر والی) جگہ آ جاؤ گے یہ قبر تنہائی کا گھر ہے اندھیرے کا گھر ہے کیڑوں کا گھر ہے اور تنگی کا گھر ہے لیکن جس کے لئے اللہ قبر کو کشادہ کر دیں تو یہ الگ بات ہے پھر قیامت کے دن تم لوگ یہاں سے منتقل ہو کر میدان حشر میں پہنچ جاؤ گے اور وہاں اللہ کا ایک حکم آئے گا جس سے بہت سے چہرے سفید اور بہت سے سیاہ ہو جائیں گے پھر وہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ گے۔ اس جگہ سب لوگوں پر سخت اندھیرا چھا جائے گا پھر نور تقسیم کیا جائے گا مومن لوگوں کو تو نور مل جائے گا لیکن کافروں اور منافقوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا انہیں کچھ بھی نور نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس مثال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ (سورت نور آیت

(۴۰) ”یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کہ اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو اس (لہر) کے اوپر دوسری لہر اس کے اوپر بادل (ہے غرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہیں کہ اگر (کوئی ایسی حالت میں) اپنا ہاتھ نکالے (اور دیکھنا چاہے) تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں اور جس کو اللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اس کو (کہیں سے بھی) نور نہیں میسر ہو سکتا“ اور کافر و منافق مومن کے نور سے روشنی حاصل نہیں کر سکیں گے جیسے اندھا بینا کی دیکھنے کی طاقت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے (پل صراط پر) کہیں گے اَنْظُرُوْنَا نَنْقَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قَبْلَ اَرْجِعُوْا وِرْءَاكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُورًا (سورۃ حدید آیت ۱۳) ”(ذرا) ہمارا انتظار کر لو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر (وہاں سے) روشنی تلاش کرو۔“ اس طرح اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کی چالبازی کی سزا دیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یُخَدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (سورۃ نساء آیت ۱۴۲) ”چالبازی کرتے ہیں اللہ سے حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا ان کو دینے والے ہیں۔“ پھر کفار اور منافقین اسی جگہ واپس آئیں گے جہاں نور تقسیم ہوا تھا لیکن انہیں وہاں کچھ نہیں ملے گا پھر وہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئیں گے پھر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ (بھی) ہوگا۔ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ (سورۃ حدید آیت ۱۳) ”(جس کی کیفیت یہ ہے کہ) اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کی طرف عذاب ہوگا۔“ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں یوں منافق دھوکے میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ نور تقسیم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ منافق اور مومنوں کو الگ الگ کر دیں گے۔!

حضرت سلیمان بن جبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابوامامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تودبے تلے عمر رسیدہ بڑے میاں ہیں اور ان کا ظاہری منظر جو نظر آ رہا تھا ان کی عقل اور ان کی گفتگو اس سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ہم سے یہ بات کی کہ اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تم تک پہنچا رہے ہیں اور یہ مجلس تم پر اللہ کی حجت ہے کیونکہ حضور ﷺ کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا تھا آپ نے وہ سب کچھ اپنے صحابہ کو پہنچا دیا تھا اور آپ کے صحابہ نے جو کچھ حضور سے سنا تھا وہ سب آگے پہنچا دیا، لہذا تم جو کچھ سن رہے ہو اسے آگے پہنچا دینا۔ تین آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی ذمہ داری میں ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو انہیں جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور غنیمت دے کر

۱۔ اخرجہ ابن ابی حاتم کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۳۰۸) (۲) اخرجہ البیہقی فی الاسماء والصفات (ص ۳۲۰) عن سلیم بن عامر نحوه

انہیں واپس کریں گے ایک تو وہ آدمی جو اللہ کے راستہ میں نکلا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسے (شہادت کا مرتبہ دے کر) جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور مالِ غنیمت دے کر واپس کریں گے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر مسجد گیا وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اسے (موت دے کر) جنت میں داخل کریں گے یا اجر و ثواب اور مالِ غنیمت دے کر واپس کریں گے۔ تیسرا وہ آدمی جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو پھر فرمایا جہنم پر ایک بڑا پل ہے جس سے پہلے سات چھوٹے پل ہیں۔ ان میں سے درمیان والے پل پر حقوق العباد کا فیصلہ ہوگا چنانچہ ایک بندے کو لایا جائے گا جب وہ درمیان والے پل پر پہنچ جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تم پر قرضہ کتنا تھا؟ وہ اپنے قرضہ کا حساب لگانے لگے گا۔ پھر حضرت ابو امامہؓ نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ حَدِيثًا (سورۃ نساء آیت ۴۲) ”اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا انخفا نہ کر سکیں گے“ پھر وہ بندہ کہے گا اے میرے رب! مجھ پر اتنا اتنا قرضہ تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنا قرضہ ادا کرو وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں کس چیز سے قرضہ اتار سکتا ہوں پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے لو (اور اس کے قرض خواہوں کو دے دو) چنانچہ اس کی نیکیاں لے کر قرض خواہوں کو دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کہا جائے گا اس سے مطالبہ کرنے والوں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو، چنانچہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بہت سے لوگ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کرنے والوں کو ان سے نیکیاں لے کر دی جاتی رہیں گی یہاں تک کہ ان کی ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی پھر مطالبہ کرنے والوں کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے یہاں تک کہ وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں گے۔ پھر حضرت ابو امامہؓ نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی رہبری کرتا ہے اور فسق و فجور جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں اور سچ بولنے کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو! تم تو زمانہ جاہلیت والوں سے زیادہ گمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں درہم و دینار اس لئے دیئے ہیں کہ تم ایک درہم اور ایک دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سات سو درہم اور سات سو دینار کا ثواب حاصل کرو اور پھر تم لوگ تھیلیوں میں درہم و دینار بند کر کے رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ غور سے سنو! اللہ کی قسم! یہ تمام فتوحات ایسی تلواریں کے ذریعہ سے ہوئی ہیں جن میں زینت کے لئے سونا اور چاندی لگا ہوا نہیں تھا بلکہ کچا پٹھا، سیسہ اور لوہا لگا ہوا تھا۔

## حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ نے فرمایا متقی لوگ سردار ہیں اور علماء قاعد و رہنما ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے بلکہ عبادت سے بڑھ کر ہے اور دن و رات کے گزرنے کی وجہ سے تمہاری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن تمہارے اعمال کو بڑی حفاظت سے رکھا جا رہا ہے، لہذا تم زیادہ سفر تیار کر لو اور یوں سمجھو کہ تم لوٹنے کی جگہ یعنی آخرت میں پہنچ گئے ہو۔

جب نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے مادی اسباب کو چھوڑ دیا اور روحانی اسباب کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور حضور کی طرح سے صحابہ کرام کو اقوامِ عالم کی ہدایت کا اور انہیں دعوت دینے کا فکر تھا اور وہ حضرات دعوت و جہاد کے سلسلہ میں حضور ﷺ کے اخلاق اور عادات کے ساتھ متصف ہو گئے تھے تو کس طرح سے انہیں ہر وقت غیبی تائید حاصل رہتی تھی۔

## فرشتوں کے ذریعے مدد

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابواسید نے بینائی جانے کے بعد فرمایا اے میرے بھتیجے! میں اور تم اگر میدان بدر میں ہوتے اور اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دیتے تو میں تمہیں وہ گھائی دکھاتا جہاں سے فرشتے نکل کر ہمارے لشکر میں آئے تھے اور اس بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔

حضرت عروہ نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگ بدر کے دن حضرت زبیر کی شکل و صورت پر اترے تھے انہوں نے سر پر زرد رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر بھی تھا۔

۱۔ اخرجہ البيهقي وابن عساكر كذا في الكنز (ج ۸ ص ۲۲۴)

۲۔ اخرجہ البيهقي وھكذا عند ابن اسحق كذا في البداية (ج ۳ ص ۲۸۰) و اخرجہ الطبرانی عن سہل بن سعد مثله قال الهيشمي (ج ۶ ص ۸۴) وفيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان و ضعفه غيره لفقلة فيه

۳۔ اخرجہ الطبرانی قال الهيشمي (ج ۶ ص ۸۴) هو مرسل صحيح الاسناد

حضرت عباد بن عبد اللہ بن زبیرؓ نے فرمایا حضرت زبیر بن عوامؓ کے سر پر غزوہ بدر کے دن زرد پگڑی تھی جس کا کچھ کپڑا ان کے چہرے پر تھا، چنانچہ فرشتے آسمان سے اترے تو ان کے سروں پر زرد پگڑیاں تھیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا غزوہ بدر کے دن فرشتوں کی نشانی سفید پگڑیاں تھیں جن کے شملے پشت پر لٹکے ہوئے تھے (بعض فرشتوں کی پگڑیاں سفید تھیں اور بعض کی زرد) اور غزوہ حنین کے دن ان کی نشانی سبز پگڑیاں تھیں اور غزوہ بدر کے دن تو فرشتوں نے جنگ کی تھی باقی کسی غزوے کے دن جنگ نہیں کی تھی، البتہ شریک ہو کر مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے کسی کافر پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافعؓ نے فرمایا میں حضرت عباس بن عبد المطلبؓ کا غلام تھا اور اسلام ہمارے گھر میں داخل ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت عباسؓ، ان کی اہلیہ حضرت ام فضلؓ اور میں، ہم سب مسلمان ہو چکے تھے لیکن حضرت عباسؓ اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے ان کا بہت سامان ان کی قوم میں بکھرا ہوا تھا۔ ابولہب بھی جنگ بدر میں نہیں گیا تھا اور اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا تھا باقی تمام کافروں نے بھی یہی کیا تھا جو خود اس جنگ میں نہیں گیا تھا، اس نے اپنی جگہ کسی نہ کسی کو بھیجا تھا۔ جب اسے جنگ بدر میں کفار قریش کے شکست کھانے کی خبر ملی تو اللہ نے اسے خوب رسوا اور ذلیل کیا اور ہمیں اس خبر سے اپنے اندر بہت قوت اور غلبہ محسوس ہوا۔ حضرت ابو رافعؓ کہتے ہیں میں ایک کمزور آدمی تھا اور زمزم کے خیمے میں تیر بنایا کرتا تھا انہیں چھیلا کرتا تھا، اللہ کی قسم! میں خیمے میں بیٹھا ہوا تیر چھیل رہا تھا اور حضرت ام فضلؓ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ جو خبر آئی تھی اس سے ہم بہت خوش تھے کہ اتنے میں ابولہب بری طرح پاؤں گھسیٹا ہوا آیا اور خیمے کی رسی پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کی پشت میری پشت کی طرف تھی وہ یوں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں لوگوں نے کہا یہ ابوسفیان ہے جو جنگ بدر سے واپس آیا اس ابوسفیان کا نام مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب ہے (یہ ابوسفیان اور ہیں اور جو ابوسفیان قریش کے سردار اور ہر جنگ کے سپہ سالار تھے وہ اور ہیں ان کا نام صحز بن حرب بن امیہ ہے) ابولہب نے ابوسفیان سے کہا میرے پاس آؤ کیونکہ میری زندگی کی قسم! صحیح خبر تو تمہارے پاس ہے وہ ابولہب کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور لوگ بھی پاس آ کر کھڑے ہو گئے ابولہب نے کہا اے میرے بھتیجے! ذرا یہ تو بتاؤ کہ لوگوں کو کیا ہوا؟ کیسے شکست ہو گئی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم! ہم لڑنے کے لئے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہی ہوئے

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۳۶۱) و اخرجہ الطبرانی عن اسامة بن عمیر بمعناه و ابن عساکر عن

عبد اللہ بن زبیر نحوه کما فی الكنز (ج ۵ ص ۲۶۸) ۲۔ اخرجہ ابونعیم فی الدلائل (ص ۱۷۰)



تھے کہ مسلمان ہم پر چھا گئے اور جسے چاہتے قتل کر دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے قید کر لیتے تھے اور اللہ کی قسم! میں اس میں اپنے لشکر کا کوئی قصور نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارا مقابلہ تو مسلمانوں سے ہوا ہی نہیں بلکہ ہمارے مقابلہ میں تو ایسے لوگ آ گئے تھے جن کا رنگ سفید تھا اور وہ زمین و آسمان کے درمیان چستکبرے گھوڑوں پر سوار تھے اور وہ لوگ تو کسی چیز کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ حضرت ابورافع کہتے ہیں میں نے خیمہ کی رسی ہاتھ میں اٹھائی اور کہا اللہ کی قسم! یہ تو فرشتے تھے (چونکہ کفار قریش فرشتوں کو مانتے نہیں تھے اس وجہ سے) ابولہب نے ہاتھ اٹھا کر مجھے زور سے مارا میں اس سے گتہ گیا اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹھا اور پھر میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں کمزور آدمی تھا اس پر حضرت ام فضلؓ نے کھڑے ہو کر خیمہ کا ایک کھونٹا لیا اور زور سے ابولہب کے سر پر مارا جس سے اس کے سر میں بڑا زخم ہو گیا اور یوں کہا چونکہ اس غلام کا آقا موجود نہیں ہے، اس لئے تو نے اسے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ ابولہب اٹھا اور رسوا ہو کر پشت پھیر کر چلا گیا (کہ مکہ کے اس سردار نے آج ایک غلام اور ایک عورت سے مار کھائی) اللہ کی قسم! وہ اس کے بعد صرف سات دن ہی زندہ رہا پھر اللہ نے اسے چیچک میں مبتلا کر دیا جس سے وہ مر گیا۔ یونس کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ ابولہب کے دو بیٹھے تھے انہوں نے اس کی لاش کو مرنے کے بعد تین دن ویسے ہی پڑا رہنے دیا، اسے دفن نہیں کیا یہاں تک کہ وہ سڑ گیا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور قریش کے لوگ طاعون کی طرح چیچک سے بھی ڈرتے تھے اور اس سے بچتے تھے آخر قریش کے ایک آدمی نے ان دونوں سے کہا تم دونوں کا ناس ہو! کیا تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا باپ گھر میں پڑا سڑ رہا ہے تم اسے دفن نہیں کرتے دونوں نے کہا یہ چیچک اور اس کے زخم ایک متعدی بیماری ہے، اس لئے ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں نہ ہو جائے۔ اس نے کہا چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، چنانچہ تینوں نے دور سے اس پر پانی پھینک کر غسل دیا، اس کے قریب نہ گئے پھر اسے اٹھا کر مکہ کے بالائی حصہ میں لے گئے اور ایک دیوار کے سہارے اسے لٹا کر اس پر پتھر ڈال دیئے۔

حضرت ام برثن رحمۃ اللہ علیہا کے غلام حضرت عبدالرحمن ان صحابی سے نقل کرتے ہیں جو غزوہ حنین میں حالت کفر میں شریک ہوئے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں جب میدان جنگ میں ہمارا اور حضور ﷺ کا آنا سامنا ہوا تو مسلمان ہمارے سامنے اتنی دیر بھی

۱۔ اخرجہ ابن اسحق کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۳۰۸) و اخرجہ ابن سعد فی طبقاتہ (ج ۳ ص ۷۳) و الحاکم فی مستدرکہ (ج ۳ ص ۳۲۱) من طریق ابن اسحق نحوه مطولا و اخرجہ ایضا الطبرانی و البزار عن ابی رافع بطوله قال الہیثمی (ج ۶ ص ۸۹) و فی اسنادہ حسین بن عبداللہ بن عبیداللہ و ثقفہ ابو حاتم و غیرہ و ضعفہ جماعة و بقیة رجالہ لقات. انتہی و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۳۲۲) ایضا من طریق یونس عن ابن اسحق عن الحسن بن عبداللہ عن عکرمہ عن ابن عباس ابی رافع نحوه و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۷۰) عن عکرمہ عن ابی رافع مختصرا

نہیں ٹھہر سکے جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں شکست ہو گئی اور ہم تلواریں ہلاتے ہوئے حضور کے سامنے پہنچ گئے۔ جب ہم حضور پر چھا گئے تو ایک دم ہمارے اور حضور کے درمیان ایسے لوگ آ گئے جن کے چہرے بڑے خوبصورت تھے انہوں نے کہا (تمہارے) چہرے بگڑ جائیں لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ بس ان لوگوں کی اتنی سی بات سے ہمیں شکست ہو گئی۔ ۱

حضرت ابن برثن کے آزاد کردہ غلام حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں ایک صاحب جو غزوہ حنین کے دن مشرکوں کے ساتھ تھے انہوں نے مجھے واقعہ یوں بتایا کہ جب ہم نے انہیں شکست دے دی تو ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ سفید خچر والے سوار تک پہنچ گئے۔ ہم نے دیکھا تو وہ حضور ﷺ تھے۔ حضور کے پاس ہمیں گورے چٹے خوبصورت چہرے والے لوگ ملے۔ انہوں نے ہم سے کہا (تمہارے) چہرے بگڑ جائیں تم واپس چلے جاؤ بس اس پر ہمیں شکست ہو گئی اور صحابہ ہمارے اوپر سوار ہو گئے اور وہ جیت گئے۔ یہ تھا ہماری شکست کا قصہ۔ ۲

حضرت حیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ حنین کے دن ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ تھے اور لوگ لڑ رہے تھے میری آسمان پر اچانک نظر پڑی تو مجھے ایک کالی چادر آسمان سے اترتی ہوئی نظر آئی جو ہمارے اور کافروں کے درمیان اگر گر پڑی۔ وہ چیونٹیاں تھیں جو بکھر گئیں اور ساری وادی میں پھیل گئیں اس کے بعد کافروں کو ایک دم شکست ہو گئی۔ ہمیں ان چیونٹیوں کے فرشتے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ ۳

حضرت عبداللہ بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ نے جنگ احد کے دن حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت مصعب شہید ہو گئے تو ایک فرشتے نے اس جھنڈے کو پکڑ لیا جو کہ حضرت مصعب کی شکل میں تھا۔ دن کے آخری حصہ میں حضور ا سے فرمانے لگے اے مصعب آگے بڑھو۔ اس فرشتے نے حضور کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں مصعب نہیں ہوں تب حضور کو پتہ چلا کہ یہ فرشتہ ہے جو حضرت مصعب کی مدد و نصرت کے لئے آیا ہے۔ ۴

حضرت انس نے فرمایا جب حضور ﷺ قبیلہ بنو قریظہ کی طرف تشریف لے گئے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر قبیلہ بنی غنم کی گلی میں سے گزرے تھے جس سے اس گلی میں غبار اٹھا تھا وہ غبار اب بھی گویا کہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ ۵

۱۔ اخرجہ البیہقی عن عوف کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۳۲۲)

۲۔ اخرجہ ابن جریر عن عوف الاعرابی کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۳۵)

۳۔ اخرجہ ابن اسحق رواہ البیہقی من طریقہ کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۳۲۲)

۴۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۲۱)

۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۸۲) و اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۷۶) عن انس نحوه

حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ نے بنو قریظہ کے غزوے کے بارے میں پوری حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ اور آپ کے صحابہؓ نے (غزوہ خندق سے فارغ ہو کر) ہتھیار رکھ دیئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور حضرت جبرائیل کے پاس باہر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیلؑ اپنے گھوڑے کے سینے پر سہارا لے کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی پلکوں پر خوب غبار پڑا ہوا تھا۔ حضور نیچے تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا ہم نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے، بنو قریظہ کی طرف تشریف لے چلیں (ان سے جنگ کرنی ہے) حضور نے فرمایا میرے ساتھی تھکے ہوئے ہیں آپ انہیں چند دن کی مہلت دے دیں تو اچھا ہے۔ حضرت جبرائیلؑ نے عرض کیا نہیں آپ ابھی وہاں تشریف لے چلیں میں اپنے اس گھوڑے کو ان کے قلعوں میں گھسا دوں گا اور ان کے سارے قلعے گرا کر زمین کے برابر کر دوں گا، چنانچہ حضرت جبرائیلؑ اور ان کے ساتھ جتنے فرشتے تھے یہ سب وہاں سے پشت پھیر کر چلے تو انصار کے قبیلہ بنی غنم کی گلیوں میں غبار اڑنے لگا۔

## فرشتوں کا مشرکوں کو قید کرنا اور ان سے جنگ کرنا

حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جنگ بدر کے دن بہت سے گورے جئے آدمی دیکھے جو چستکبرے گھوڑوں پر آسمان اور زمین کے درمیان سوار تھے ان پر نشانیاں لگی ہوئی تھیں وہ بعد میں جنگ بھی کر رہے تھے اور کافروں کو قید بھی کر رہے تھے۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی حضرت عباسؓ کو قید کر کے لائے (حضرت عباسؓ نے اس وقت تک اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا تھا اس لئے وہ جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ تھے) حضرت عباسؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! انہوں نے مجھے قید نہیں کیا بلکہ مجھے تو ایسے آدمی نے قید کیا ہے جس کے سر کا شروع کا حصہ گنجا تھا اور اس کی شکل و صورت ایسی اور ایسی تھی۔ حضور ﷺ نے ان انصاری سے فرمایا اللہ نے ایک کریم فرشتے کے ذریعہ تمہاری مدد فرمائی ہے۔

حضرت علیؓ نے غزوہ بدر کے بارے میں ایک ایسی حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت عباسؓ کو قید کر کے لائے۔ حضرت عباسؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! انہوں نے مجھے قید نہیں کیا مجھے تو اس آدمی نے قید کیا ہے جو کپٹی

۱۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۲ ص ۷۷)

۲۔ اخرجہ ابن عساکر والواقدی کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۲۶۸)

۳۔ اخرجہ احمد قال الہبشمی (ج ۶ ص ۷۶) رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی

سے گنجا تھا اس کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور چستکبرے گھوڑے پر سوار تھا اب وہ مجھے مسلمانوں میں نظر نہیں آ رہا۔ ان انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے انہیں قید کیا ہے حضورؐ نے فرمایا ارے میاں! خاموش رہو۔ اللہ نے ایک کریم فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عباسؓ کو بنو سلمہ کے حضرت ابوالسیر کعب بن عمروؓ نے قید کیا تھا حضرت ابوالسیر ایک پست قد آدمی تھے اور حضرت عباسؓ قد آور اور بڑے ڈیل ڈول والے تھے۔ حضور ﷺ نے حضرت ابوالسیرؓ سے فرمایا اے ابوالسیر! تم نے عباس کو کیسے قید کر لیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! انہیں قید کرنے میں ایک آدمی نے میری مدد کی ہے میں نے نہ جنگ سے پہلے اسے دیکھا ہے اور نہ اب جنگ کے بعد وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی شکل و صورت ایسی اور ایسی تھی۔ حضورؐ نے فرمایا ایک کریم فرشتے نے اس میں تمہاری مدد کی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایک مشرک آگے تھا اور ایک انصاری مسلمان اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اتنے میں اس مسلمان نے اپنے اوپر کی جانب کوڑا مارنے کی آواز سنی اور ایک گھوڑے سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا اے حیزوم! (یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے) آگے بڑھ۔ اس مسلمان نے دیکھا تو وہ مشرک پشت کے بل نیچے گرا ہوا تھا اور کوڑے کی مار سے اس کی ناک زخمی تھی اور چہرہ پھٹا ہوا تھا اور یہ سارا حصہ نیلا ہو چکا تھا۔ اس انصاری نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ حضورؐ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی، چنانچہ مسلمانوں نے اس دن ستر کافروں کو قتل کیا اور ستر کو قید کیا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی غفار کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں اور میرے ایک چچا زاد بھائی ہم دونوں ایک پہاڑ پر چڑھے جہاں سے ہمیں میدان بدر اچھی طرح نظر آ رہا تھا ہم دونوں ان دنوں مشرک تھے اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ کسے شکست ہوتی ہے تاکہ ہم جیتنے والوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کریں۔ ہم ابھی پہاڑ پر تھے کہ اتنے میں ہمارے قریب سے ایک بادل گزرا جس میں سے ہمیں گھوڑے کے ہنہانے کی آواز سنائی دی اور کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا اے حیزوم آگے بڑھ۔ یہ سن کر میرے چچا زاد بھائی کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور وہ وہیں مر گیا میں بھی مرنے کے قریب

۱۔ عند ابن ابی شیبہ و احمد و ابن جریر و صحیحہ و البیہقی فی الدلائل کما ذکرہ، فی الکنز (ج ۵ ص ۲۶۶) و عزاء الہیثمی (ج ۶ ص ۷۵) الی احمد و البزار و قال رجال احمد رجال الصحیح غیر حارثۃ بن مضرب و ہونقہ ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۱۲) و اخرجہ احمد عن ابن عباس نحوہ و زاد الحدیث بعد ذلک فی فناء العباس و غیرہ قال الہیثمی (ج ۶ ص ۸۶) و فیہ راو لم یسم و بقیۃ رجالہ نقات و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۶۹) عن ابن عباس بسیاق ابن سعد ۳۔ اخرجہ مسلم کذا فی البدایۃ (ج ۳ ص ۲۷۹) و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ج ۲ ص ۱۷۰) عن ابن عباس فی حدیث طویل فی غزوة بدر نحوہ

ہو گیا تھا لیکن مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک غزوہ میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے دشمن سے مقابلہ ہوا۔ میں نے حضور کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: **يَا مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ ۝ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝** اے روز جزا کے مالک! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دشمن کے آدمی گرتے چلے جا رہے ہیں اور فرشتے انہیں آگے سے پیچھے سے مار رہے ہیں۔<sup>۲</sup>

حضرت ابو امامہ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد (حضرت سہیلؓ) نے فرمایا اے میرے بیٹے! ہم نے غزوہ بدر میں اللہ کی غیبی نصرت کی وجہ سے اپنا یہ حال دیکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی آدمی مشرک کے سر کی طرف اشارہ کر دیتا تو اس کا سر تلوار لگنے سے پہلے ہی جسم سے کٹ کر نیچے گر جاتا۔<sup>۳</sup>

حضرت ابو واقد لیسٹی فرماتے ہیں میں ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا تا کہ میں اس پر تلوار کا وار کروں لیکن میری تلوار اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر زمین پر گر گیا جس سے میں سمجھ گیا کہ میرے علاوہ کسی اور (نظر نہ آنے والی مخلوق یعنی فرشتے) نے اسے قتل کیا ہے۔<sup>۴</sup>

حضرت سہل بن ابی حمزہ فرماتے ہیں حضرت ابو بردہ حارثی جنگ بدر کے دن (مشرکوں کے) تین سراٹھائے ہوئے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا تمہارا دایاں ہاتھ کامیاب رہا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان میں سے دو کو تو میں نے قتل کیا اور تیسرے کی صورت یہ ہوئی کہ میں نے ایک خوبصورت خوب رو اور گورا چٹا آدمی دیکھا جس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضور نے فرمایا وہ فلاں فرشتہ تھا۔<sup>۵</sup>

حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حارث بن صمہ نے فرمایا حضور ﷺ ایک گھائی میں تھے آپ نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے عبدالرحمن بن عوف کو دیکھا؟ میں نے عرض کیا

۱۔ اخرجہ ابو نعیم ایضاً ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۶۴)  
 ۳۔ اخرجہ البیہقی کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۲۸۱) و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۴۰۹) عن ابی امامة  
 مشہ الا ان فی روايته وان احد نايشير بسيفه قال الحاکم صحيح الاسناد ولم يخبر جاه و صحخه الذهبی  
 و اخرجہ الطبرانی عن ابی امامة نحو رواية الحاکم قال الهیثمی (ج ۶ ص ۸۴) وفيه محمد بن يحيى  
 الاسکندر انی قال ابن یونس روی منا کبر ۴۔ اخرجہ ابن اسحاق کذا فی البدایة (ج ۳ ص  
 ۲۸۱) و اخرجہ احمد عن ابی دانود المازنی و کان شهد بدر اقال انی لاتبع فذکر نحوه قال الهیثمی (ج  
 ۶ ص ۸۴) وفيه رجل لم یسم و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۷۰) عن ابی دانود المازنی نحوه  
 وفي رواية انی لاتبع رجلا من المشرکین یوم بدر ۵۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال  
 الهیثمی (ج ۶ ص ۸۴) وفيه عبدالعزیز بن عمران وهو ضعيف. انتهى



جی ہاں، یا رسول اللہ! میں نے انہیں پہاڑ کے دامن میں دیکھا تھا اور کافروں کی ایک فوج نے ان پر حملہ کیا ہوا تھا اس لئے میں نیچے اترنے لگا (تاکہ ان کی مدد کروں) لیکن راستہ میں آپ مجھے نظر آ گئے تو میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا۔ حضورؐ نے فرمایا غور سے سنو! فرشتے ان کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کر رہے ہیں۔ حضرت حارثؓ کہتے ہیں میں وہاں سے حضرت عبدالرحمنؓ کی طرف چل پڑا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ مشرکوں کا لشکر جاچکا ہے اور حضرت عبدالرحمنؓ کے چاروں طرف سات مشرک قتل ہوئے پڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا دایاں ہاتھ کامیاب ہو گیا کیا آپ نے اکیلے ان سب کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ارسطو بن عبد شریل اور یہ کافران دو کو تو میں نے قتل کیا ہے اور باقی ان پانچ کو اس شخص نے قتل کیا ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسولؐ نے سچ کہا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضورؐ مکہ میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے وہ پیچھے سے اشارہ کر کے حضورؐ کے بارے میں کہنے لگے یہ وہ آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور اس وقت حضورؐ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت جبرائیلؑ نے ان کافروں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو ایک دم ان کے جسم پر ناخن جیسے نشان پڑ گئے جو بعد میں زخم بن گئے اور سڑ گئے جس سے ان میں بدبو پیدا ہوگی اور اس وجہ سے کوئی بھی ان کے قریب نہ جاسکا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (سورت حجر آیت ۹۵) ”یہ لوگ جو ہنتے ہیں (اور) اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں ان سے آپ کے لئے ہم کافی ہیں۔“

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ تو یہ ہنسنے والے اور مذاق اڑانے والے کافر ولید بن مغیرہ، اسود بن عبدالغیوث، اسود بن مطلب ابو زمعہ جو کہ قبیلہ بنو اسد بن عبدالعزی میں سے تھا، حارث بن عبطل سہمی اور عاصی بن وائل تھے۔ حضرت جبرائیلؑ حضورؐ کے پاس آئے تو حضورؐ نے ان سے کافروں کی شکایت کی۔ حضرت جبرائیلؑ نے کہا آپ مجھے یہ لوگ دکھادیں۔ چنانچہ حضورؐ نے انہیں ولید بن مغیرہ دکھایا حضرت جبرائیلؑ نے ولید کے بازو کی بڑی رگ کی طرف بس ایک اشارہ ہی کیا حضورؐ نے فرمایا آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا؟ حضرت جبرائیلؑ نے کہا اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں نے اس کی سزا کا انتظام کر دیا ہے۔ پھر حضورؐ نے انہیں حارث بن عبطل سہمی دکھایا۔ حضرت جبرائیلؑ نے اس کے پیٹ

۱۔ اخرجہ الطبرانی و البزار قال الهیثمی (ج ۶ ص ۱۱۳) وفيه عبدالعزیز بن عمران وهو ضعيف. انتھی و اخرجہ ایضا ابن مندہ و ابو نعیم عن الحارث بن الصمة نحوه كما فی المنتخب (ج ۵ ص ۷۶) وزاد فيه فهويت اليه لا منعه وفي رواية فاجده بين نصر سبعة صرعی وفي رواية وهذان

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الهیثمی (ج ۷ ص ۳۶) رواه الطبرانی فی الاوسط و البزار بنحوه وفيه يزيد بن درهم ضعفه ابن معین و وثقه الفلاس. انتھی

کی طرف اشارہ کیا حضورؐ نے فرمایا آپ نے کچھ تو کیا ہے نہیں؟ حضرت جبرائیلؑ نے کہا اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے پھر حضورؐ نے عاصی بن وائل دکھایا حضرت جبرائیلؑ نے اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ حضورؐ نے فرمایا آپ نے کچھ تو کیا ہے نہیں؟ حضرت جبرائیلؑ نے کہا اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے، چنانچہ ولید بن مغیرہ کا یہ ہوا کہ وہ قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزرا جو اپنا تیر جھیل رہا تھا وہ تیر ولید کے بازو کی بڑی رگ کو لگ گیا جس سے وہ رگ کٹ گئی اور اسود بن مطلب اندھا ہو گیا بعض کہتے ہیں ویسے ہی اندھا ہو گیا بعض کہتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے اترادہ کہنے لگا اے میرے بیٹو! کیا تم مجھ سے ہٹاتے نہیں میں تو ہلاک ہو گیا میری آنکھوں میں کانٹے چھ رہے ہیں اس کے بیٹوں نے کہا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کچھ دیر اسے یوں ہی کانٹے چھتے رہے پھر اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں اور اسود بن عبد یغوث کے سر میں پھوڑے نکل آئے جن سے وہ مر گیا اور حارث بن عبطل کے پیٹ میں صفراء یعنی زرد پانی کا زور ہو گیا آخر پاخانہ منہ کے راستے سے آنے لگا جس سے وہ مر گیا اور عاصی بن وائل چلا جا رہا تھا اس کے پاؤں میں شبرقہ نامی کانٹے دار جھاڑی کا کانٹا لگ گیا جس سے اس کا پاؤں سوچ گیا اور وہ مر گیا۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے اور وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے انیس راستہ میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس صحابی نے کہا تم نے مال لینا ہے وہ لے لو ڈاکو نے کہا نہیں میں تو تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا مجھے ذرا مہلت دو میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو، چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا تین مرتبہ مانگی یا ودود یا ذالعرش المسجد یا لعلالما یربدا منک بعزک التی لا ترام و ملکک الذی لا یضام و بنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغبث الغصی ”اے بہت محبت کرنے والے! اے بڑے عرش والے! اے ہر اس کام کو کر لینے والے جس کا تو ارادہ کر لے! میں تیری اس عزت کے واسطے سے جس کو کوئی مانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور تیری اس بادشاہت کے واسطے سے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور تیرے اس نور کے واسطے سے جس نے تیرے عرش کے تمام کونوں کو بھرا ہوا ہے۔ یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس ڈاکو کے شر سے بچالے، اے فریادرس میری فریاد کو پہنچ۔“ تو اچانک ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا جس

۱۔ عند الطبرانی فی الاوسط قال الہشمی (ج ۷ ص ۴۷) ولیہ محمد بن عبدالمحکم النسابوری ولم اعرفہ وبقیہ رجالہ لغات. التھی.

کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جسے اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا تا جبر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے (پہلی مرتبہ) دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو میں نے آسمان والوں کی چیخ و پکار سنی پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے اس کی دعا ضرور قبول ہوگی چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔

حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنا قصہ اس طرح سنایا کہ میں نے طائف میں ایک آدمی سے کرایہ پر خچر لیا کرایہ پر دینے والے نے یہ شرط لگائی کہ وہ راستہ میں جس منزل پر چاہے گا مجھے ٹھہرائے گا، چنانچہ وہ مجھے ایک ویرانے کی طرف لے کر چل پڑا اور وہاں پہنچ کر اس نے کہا یہاں اتر جاؤ میں وہاں اتر گیا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ وہاں قتل ہوئے پڑے تھے۔ جب وہ مجھے قتل کرنے لگا تو میں نے کہا مجھے ذرا دور رکعت نماز پڑھنے دو اس نے کہا پڑھ لو تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نماز پڑھی تھی لیکن نماز سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لئے آگے بڑھا تو میں نے کہا یا ارحم الراحمین! تو اس نے ایک آواز سنی کہ اسے قتل نہ کرو۔ وہ ایک دم ڈر گیا اور اس آواز والے کو تلاش کرنے گیا تو اسے کوئی نہ ملا وہ آپس آیا تو میں نے اونچی آواز سے کہا یا ارحم الراحمین! اس طرح تین مرتبہ ہوا پھر اچانک گھوڑے پر ایک سوار نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک نیزہ تھا اس نیزے کے سر سے آگ کا شعلہ نکل رہا تھا۔ اس سوار نے اس کو اس زور سے نیزہ مارا کہ پار ہو کر کمر کی طرف نکل آیا اور وہ مرکز زمین پر گر گیا پھر مجھ سے کہا جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین! کہہ کر پکارا تھا تو اس وقت میں ساتویں آسمان پر تھا۔ جب تم نے دوبارہ پکارا تھا تو میں آسمان دنیا پر تھا جب تم نے تیسری بار پکارا تھا تو میں آپ کے پاس پہنچ گیا۔

### صحابہ کرام کا فرشتوں کو دیکھنا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ نے کسی شخص کی آواز سنی تو آپ جلدی سے اٹھے اور گھر کے باہر اس کے پاس گئے۔ میں بھی دیکھنے کے لئے آپ کے پیچھے گئی تو

۱۔ اخرجہ ابن ابی اللیث و اخرجہ ابو موسیٰ فی کتاب الو طائف بتمامہ کنالی الاصابہ (ج ۳ ص ۱۸۲)

۲۔ اخرجہ ابن عبد البر فی الاستیعاب (ج ۱ ص ۵۲۸)



میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ترکی گھوڑے کی گردن کے بالوں پر سہارا لگائے کھڑا ہے۔ جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو ایسے لگا کہ یہ حضرت دجیہ کلبیؓ ہیں اور وہ پگڑی باندھے ہوئے ہیں جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ جب حضور میرے پاس اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ بہت تیزی سے اٹھ کر باہر گئے تھے میں نے بھی پاہر جا کر دیکھا تو وہ حضرت دجیہ کلبیؓ تھے (ان کی وجہ سے آپ کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی) حضور نے فرمایا کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا یہ حضرت جبرائیلؑ تھے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں بنو قریظہ پر حملہ کرنے کے لئے چلوں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بنو قریظہ کے بارے میں لمبی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نبی کریمؐ بنو قریظہ تشریف لے چلے تو راستہ میں نبی کریمؐ کا صحابہ کرام کی کئی مجلسوں پر گزر رہا تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا کیا ابھی تمہارے پاس سے کوئی گزرا ہے؟ ان سب نے کہا جی ہاں! ابھی حضرت دجیہ کلبیؓ گزرے تھے جو سفید خچر پر سوار تھے ان کے نیچے ایک ریشمی چادر بھی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ حضرت دجیہؓ نہیں تھے بلکہ حضرت جبرائیلؑ تھے جنہیں بنو قریظہ اس لئے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے قلعوں کو ہلا کر ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں۔ ۲

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک مرتبہ ایک انصاری کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ جب حضور ان کے گھر کے قریب پہنچے تو حضور نے سنا کہ وہ انصاری گھر کے اندر کسی سے بات کر رہے ہیں جب حضور اجازت لے کر اندر تشریف لے گئے تو آپ کو وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے ان سے پوچھا ابھی میں سن رہا تھا کہ تم کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں نے میرے بخار کی وجہ سے جو باتیں کیں ان سے مجھے بہت غم و صدمہ ہوا اس وجہ سے میں اندر آ گیا پھر میرے پاس اندر ایک آدمی آیا آپ کے بعد میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ عمدہ مجلس والا اور زیادہ اچھی بات والا ہو۔ حضور نے فرمایا یہ حضرت جبرائیلؑ تھے اور تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کر دے۔ ۳

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ کے کان میں چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے آپ نے میرے والد سے اعراض کئے رکھا۔ جب ہم حضور کے پاس سے باہر آئے تو میرے والد

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۸۲) و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۵۰) عن عائشہ نحوہ

۲۔ اخرجہ ابو نعیم (ص ۱۸۲) ۳۔ اخرجہ البزار و الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۴۱) رواہ

البزار و الطبرانی فی الکبیر والاوسط و اسانیدہم حسنة۔ انتہی

نے کہا اے میرے بیٹے! کیا تم نے اپنے چچا زاد بھائی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھ سے اعراض کئے رکھا۔ میں نے کہا ان کے پاس تو ایک آدمی تھا جو ان کے کان میں چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا۔ ہم پھر دوبارہ حضورؐ کی خدمت میں گئے میرے والد نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنے بیٹے عبد اللہ سے یہ اور یہ بات کہی اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک آدمی تھا جو آپ کے کان میں چپکے چپکے باتیں کر رہا تھا تو کیا آپ کے پاس کوئی تھا؟ حضورؐ نے فرمایا اے عبد اللہ! کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! حضورؐ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیلؑ تھے ان ہی وجہ سے میں آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔! حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت عباسؓ نے مجھے کسی کام سے حضورؐ کی خدمت میں بھیجا۔ حضورؐ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس لئے میں نے حضورؐ سے کوئی بات نہ کی بلکہ ویسے ہی واپس آ گیا بعد میں حضورؐ نے پوچھا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا یہ حضرت جبرائیلؑ تھے۔ اس کے بعد حضورؐ نے میرے بارے میں فرمایا انہیں علم خوب دیا جائے گا لیکن مرنے سے پہلے ان کی مینائی جاتی رہے گی (چنانچہ بعد میں اللہ نے ایسے ہی کیا)۔ ۲۔

حضرت عروہ بن رویمؓ کہتے ہیں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ حضورؐ کے صحابہؓ میں سے تھے بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں موت آجائے، اس لئے یہ دعا کرتے تھے اے اللہ! میری عمر بڑی ہوگئی اور میری ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو گئیں لہذا مجھے اپنے پاس اٹھالے۔ حضرت عرباضؓ فرماتے ہیں ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا وہاں مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت حسین و جمیل تھا۔ اس نے سبز جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ یہ کیا دعا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا اے میرے بھتیجے! پھر میں کیا دعا کروں؟ اس نے کہا یہ دعا کریں اے اللہ! میرے عمل اچھے کر دے اور مجھے موت تک پہنچا دے۔ میں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ریبائل (وہ فرشتہ) ہوں جو مومنوں کے دلوں سے تمام غم نکالتا ہوں۔ ۳۔

## فرشتوں کا صحابہ کرامؓ کو سلام کرنا اور ان سے مصافحہ کرنا

حضرت مطرف بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمران بن حصینؓ نے مجھ سے فرمایا اے مطرف! یہ بات جان لو کہ فرشتے میرے سر کے پاس اور میرے کمرے کے پاس اور حطیم کعبہ کے پاس آ کر مجھے سلام کیا کرتے تھے اور اب میں نے اپنے آپ کو (علاج کے لئے) لوہے سے

۱۔ اخرجه الطبرانی و احمد قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۷۶) رواه احمد و الطبرانی فی باسائید و رجالہ رجال الصحیح. انتہی ۲۔ عند الطبرانی قال الهیثمی (ج ۹ ص ۲۷۷) رواه الطبرانی باسائید و رجالہ ثقات. ۳۔ اخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۱۰ ص ۱۸۴) و عروہ و ثقہ

غیر واحد و سعید بن مقلاص لم اعرفه و بقیة رجال الصحیح. انتہی

داغ دیا تو یہ بات جاتی رہی، چنانچہ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے مطرف! جان لو کہ جو بات جاتی رہی تھی وہ اب پھر دوبارہ شروع ہو گئی ہے لیکن اے مطرف! میرے مرنے تک میرا یہ راز چھپائے رکھنا۔

حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمران بن حصینؓ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں پتہ چلا کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے؟ لیکن جب میں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو پھر سلام کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا وہ فرشتے آپ کے سر کی طرف سے آتے تھے یا پیروں کی طرف سے انہوں نے فرمایا نہیں۔ وہ تو سر کی طرف سے آتے تھے میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے مرنے سے پہلے یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا کچھ عرصہ کے بعد مجھ سے انہوں نے فرمایا کیا تمہیں پتہ چلا کہ سلام کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے؟ اس کے چند دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ۲  
حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتے حضرت عمران بن حصینؓ سے مصافحہ کیا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو داغ دیا تو فرشتے ہٹ گئے۔ ۳

### صحابہ کرامؓ کا فرشتوں سے گفتگو کرنا

حضرت سلمہ بن عطیہ اسدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک آدمی کی عبادت کے لئے گئے وہ نزع کی حالت میں تھا تو حضرت سلمانؓ نے فرمایا اے فرشتے! ان کے ساتھ نرمی کرو اس بیمار آدمی نے کہا وہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ ۴

### صحابہ کرامؓ کا فرشتوں کی باتیں سننا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا میں مسجد میں جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ ویسی کسی نے نہیں کی ہوگی چنانچہ جب وہ نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنے کے لئے بیٹھے تو انہوں نے اچانک اپنے پیچھے سے ایک بلند آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں اور ساری بادشاہت تیری ہے اور ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں اور سارے چھپے اور پوشیدہ امور تیری طرف ہی لوٹتے ہیں ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں تو ہر چیز پر قادر ہے میرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور آئندہ زندگی میں ہر گناہ اور ہر ناگواری سے میری حفاظت فرما اور ان پاکیزہ اعمال کی مجھے توفیق عطا فرما جن سے تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میری توبہ قبول فرما۔ حضرت ابیؓ نے حضور ﷺ کی

۲۔ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۲۸۹)

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۴۷۲)

۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۰۳)

۴۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۸۸)

خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ سنایا آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل تھے۔

## فرشتوں کا صحابہ کرام کی زبان پر بولنا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جس نے عمر (رضی اللہ عنہ) سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور عرفات کی شام کو اللہ نے مسلمانوں پر عام طور سے فخر کیا لیکن عمر پر خاص طور سے فخر کیا اور اللہ نے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں ایک محدث ضرور پیدا کیا اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ! محدث کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔

حضرت انس بن حلیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فارس والے ہم سے شکست کھا کر بہر سیر قلعہ کے اندر چلے گئے تھے اور ہم نے بہر سیر کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو بادشاہ کے قاصد نے قلعہ کے اوپر سے جھانک کر ہمیں کہا بادشاہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے کیا آپ لوگ اس شرط پر صلح کرنے کے لئے تیار ہیں کہ دریائے دجلہ کا جو کنارہ ہماری طرف ہے وہاں سے لے کر ہمارے پہاڑ تک کی جگہ ہماری ہو اور دوسرے کنارے سے لے کر ہمارے پہاڑ تک کی جگہ تمہاری ہو؟ کیا ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ اللہ کبھی تمہارا پیٹ نہ بھرے تو حضرت ابو مضر اسود بن قطبہ لوگوں سے آگے بڑھے اور اللہ نے ان سے ایسی بات کہلوادی جس کا نہ انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور نہ ہمیں۔ وہ قاصد واپس چلا گیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ ٹکڑیاں بن کر بہر سیر سے مدائن شہر جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا اے ابوالمضر! آپ نے اسے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کیا کہا تھا مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ اس وقت مجھ پر خاص قسم کا سیکنہ نازل ہوا تھا اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے خیر کی بات کہلوائی گئی ہے۔ لوگ باری باری آ کر ان سے یہ بات پوچھتے رہے یہاں تک کہ حضرت سعد نے اس بارے میں سنا وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ابو مضر! تم نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم! وہ تو سارے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت ابو مضر نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو ہمیں دیا تھا پھر حضرت سعد نے لوگوں میں (قلعہ پر حملہ کرنے کا) اعلان کر لیا اور ان کو لے کر صف آراء ہو گئے اور جھینٹیں قلعہ پر مسلسل پتھر پھینکنے لگیں اس پر قلعہ کی دیوار پر کوئی آدمی ظاہر نہ ہوا اور نہ ہی شہر میں سے نکل کر کوئی باہر آیا بس

۱۔ اخرجہ ابن ابی الدنیاء فی کتاب الذکر کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۰۱)

۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۹ ص ۶۹) وفيه ابو سعد خادم الحسن البصری و لم اعرفه و بقية رجاله ثقات. انتهى

ایک آدمی امان پکارتا ہوا باہر آیا ہم نے اسے امان دی اس نے کہا اب اس شہر میں کوئی نہیں رہا تو تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ اس پر لشکر والے دیوار پھاند کر اندر چلے گئے اور ہم نے اسے فتح کر لیا اس میں نہ کوئی چیز ملی اور نہ کوئی انسان۔ بس شہر سے باہر چند آدمی ملے جنہیں ہم نے قید کر لیا ہم نے ان لوگوں سے اور امن لینے والے آدمی سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کیوں بھاگ گئے؟ انہوں نے کہا بادشاہ نے قاصد بھیجا تھا جس نے آپ لوگوں کو صلح کی پیش کش کی آپ لوگوں نے اسے یہ جواب دیا کہ ہماری اور تمہاری صلح تب ہوگی جب ہم افریڈین شہر کے شہد کو کوئی شہر کے ترنج کے ساتھ ملا کر کھالیں گے اس پر بادشاہ نے کہا ہائے ہماری بربادی! غور سے سنو! فرشتے ان کی زبانوں پر بولتے ہیں اور عربوں کی طرف سے ہمیں جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم! اگر فرشتہ اس آدمی کی زبان پر نہیں بھی بولا تو بھی یہ جواب ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کی زبان پر جاری کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کے مقابلہ سے باز آجائیں اس پر سارے شہر والے دور والے شہر مدائن چلے گئے۔

## صحابہ کرامؓ کے قرآن کو سننے کے لئے فرشتوں کا اترنا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضرت اسید بن حضیرؓ اپنے کھلیان میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ وہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر بدکنے لگا وہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو وہ پھر بدکنے لگا۔ حضرت اسید فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا (میرے بیٹے) یحییٰ کو نہ روند ڈالے میں کھڑا ہو کر گھوڑے کے پاس گیا تو مجھے اپنے سر کے اوپر ایک سائبان نظر آیا جس میں بہت سے چراغ تھے پھر اس سائبان نے آسمان پر چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے صبح حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! آج آدھی رات کو میں اپنے کھلیان میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ حضور! نے فرمایا تم اپنے معمول کے مطابق آدھی رات کو قرآن پڑھتے ہو۔ میں نے اگلی رات پھر قرآن پڑھا وہ گھوڑا پھر بدکا۔ میں نے حضور سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا پڑھتے رہو اے ابن حضیر! میں نے پھر پڑھا وہ پھر بدکا۔ حضور نے فرمایا اے ابن حضیر! پڑھتے رہو۔ یحییٰ گھوڑے کے قریب تھا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے روند نہ ڈالے اس لئے میں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو مجھے سائبان سا نظر آیا جس میں بہت سے چراغ تھے وہ آسمان میں چڑھنے لگا یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے

تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو صبح کو سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور یہ فرشتے ان لوگوں سے چھپ نہ سکتے۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت اسیدؓ فرماتے ہیں میں نے ادھر دیکھا تو مجھے چراغ کی مانند بہت سی چیزیں نظر آئیں جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اسے دیکھ کر میرے بس میں نہ رہا کہ میں آگے پڑھوں حضورؐ نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اترے تھے۔ اگر تم آگے پڑھتے رہتے تو بہت سے عجائبات دیکھتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا یہ فرشتے تمہاری آواز کی وجہ سے اتنے قریب آئے تھے اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کو لوگ ان کو دیکھتے اور یہ ان سے چھپ نہ سکتے۔

## فرشتوں کا صحابہ کرام کے جنازوں کو خود غسل دینا

حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنگ احد کے دن قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے حضرت حظلہ بن ابی عامرؓ کا اور حضرت ابوسفیان بن حربؓ کا (جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) مقابلہ ہوا جب حضرت حظلہؓ حضرت ابوسفیانؓ پر غالب آگئے تو شداد بن اسود جسے ابن شعوب کہا جاتا تھا، نے دیکھا کہ حضرت حظلہؓ حضرت ابوسفیانؓ پر چڑھ بیٹھے ہیں تو اس نے تلوار کے وار سے حضرت حظلہؓ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے اس ساتھی کو یعنی حضرت حظلہؓ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ کیا بات ہے۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا جو نبی انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی آواز سنی تھی اسی وقت گھر سے چل پڑے تھے اور اس وقت انہیں نہانے کی حاجت تھی۔ حضورؐ نے فرمایا اسی وجہ سے فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ ۳

حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب غزوہ خندق کے دن حضرت سعدؓ کے بازو کی رگ میں تیر لگنے سے زخم ہو گیا تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ اس لئے انہیں رفیدہ نامی عورت کے پاس منتقل کر دیا گیا آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے انتقال کی

۱۔ اخرجہ بخاری و مسلم واللفظ له  
 ۲۔ اخرجہ الحاکم بنحوہ باختصار وقال صحیح علی شرط مسلم کذا فی الترغیب (ج ۲ ص ۱۳) و اخرجہ ابن حبان والطبرانی والبیہقی عن اسید بن حضیر بنحو روایۃ الحاکم کما فی الکنز (ج ۷ ص ۷) و اخرجہ ایضا ابو عبیدہ فی فضائلہ و احمد و البخاری معلقا و النسائی و غیرہم عنہ مختصرا۔

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۵۷) و اخرجہ ابن اسحاق المقازی عن عاصم بن عمرو اخرج السراج من طریق ابن اسحاق ایضا عن یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہ عن جدہ نحوه کما فی الاصابۃ (ج ۱ ص ۳۶۱) و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۰۲) من طریق ابن اسحاق عن یحییٰ بن عباد بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ بمعناه وقال هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه

خبر پر حضور ﷺ تشریف لے گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ آپ اتنی تیزی سے چلے کہ ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹنے لگے اور ہمارے کندھوں سے چادریں گرنے لگیں۔ صحابہ نے بطور شکایت عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تیز چل کر ہمیں تھکا دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جیسے فرشتوں نے حضرت حظلہؓ کو غسل دے دیا تھا کہیں ان کو بھی فرشتے ہم سے پہلے غسل نہ دے دیں۔

حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ سو گئے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل یا کوئی اور فرشتہ آیا اور اس نے کہا آپ کی امت میں سے آج رات کون فوت ہوا ہے جن کے مرنے پر آسمان والے خوش ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اور تو مجھے کوئی معلوم نہیں، البتہ سعدؓ رات کو بہت بیمار تھے۔ سعدؓ کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کی قوم کے لوگ انہیں اٹھا کر اپنے محلہ میں لے گئے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی پھر حضرت سعدؓ کی طرف تشریف لے چلے۔ آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے آپ اتنے تیز چلے کہ صحابہ گودقت پیش آنے لگی اور تیزی کی وجہ سے ان کے جوتوں کے تسمے ٹوٹنے لگے اور ان کی چادریں کندھوں سے گرنے لگیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ جیسے فرشتوں نے ہم سے پہلے حظلہؓ کو غسل دے دیا تھا کہیں ان کو بھی نہ دے دیں۔

## فرشتوں کا صحابہ کرامؓ کے جنازوں کا اکرام کرنا

جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد شہید ہوئے تو وہ ان کے چہرے سے کپڑا بنا کر رونے لگے۔ لوگوں نے انہیں منع کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا تم اپنے والد کو روؤ یا نہ روؤ تمہاری مرضی ہے لیکن (اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ) آپ لوگوں کے اٹھانے تک فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے رہے۔ حضرت جابرؓ کی دوسری روایت میں بھی یہی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جنازے کے اٹھانے تک فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے رہے۔

حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دروازے پر تھے اور حضور ﷺ بھی تھے ہمارا ارادہ تھا کہ جب حضور اندر تشریف لے جائیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے اندر چلے جائیں گے اندر کمرے میں صرف حضرت سعدؓ تھے جنہیں کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ بہت آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں اور

۲۔ اخرجہ ایضاً (ج ۳ ص ۴۲۳)

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۴۲۷)

۳۔ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۵۶۱)

۳۔ اخرجہ الشیخان کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۴۴)



ایسے چل رہے ہیں کہ گویا کسی کی گردن پھلانگ رہے ہیں یہ دیکھ کر میں رک گیا اور حضورؐ نے مجھے اشارے سے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ میں خود بھی رک گیا اور جو میرے پیچھے تھے ان کو بھی روک دیا۔ حضورؐ کچھ دیر وہاں بیٹھے پھر باہر تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے تو اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آپ آہستہ آہستہ اس طرح چل رہے تھے کہ جیسے آپ کسی کی گردن پھلانگ رہے ہوں حضورؐ نے فرمایا اندر فرشتے بہت زیادہ تھے مجھے بھی بیٹھنے کی جگہ تھی جب ایک فرشتے نے اپنے دو پروں میں سے ایک کو سمیٹ لیا پھر میں بیٹھ سکا اور حضورؐ نے حضرت سعدؓ کو فرما رہے تھے، اے ابو عمرو! (یہ حضرت سعدؓ کی کنیت ہے) تمہیں مبارک ہو۔ اے ابو عمرو! تمہیں مبارک ہو!

ابو عمرو! تمہیں مبارک ہو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضورؐ نے فرمایا سعد بن معاذؓ کی وجہ سے ایسے ستر ہزار فرشتے اترے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا اور جب حضرت سعدؓ دفن ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا سبحان اللہ! اگر قبر کے بھینچنے سے کسی کو چھٹکارا ملتا تو سعدؓ کو ضرور مل جاتا۔ ۲۔ حضرت سعد بن ابراہیمؓ کہتے ہیں جب حضرت سعدؓ کا جنازہ باہر نکالا گیا تو کچھ منافقوں نے کہا سعدؓ کا جنازہ کتنا ہلکا ہے حضورؐ نے فرمایا ستر ہزار فرشتے اترے ہیں جو سعدؓ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں اور ان فرشتوں نے آج سے پہلے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا۔ ۳۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذؓ بڑے بھاری بھر کم جسیم آدمی تھے جب ان کا انتقال ہوا اور لوگ ان کا جنازہ لے کر جا رہے تھے تو منافق بھی ان کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے منافق کہنے لگے ہم نے آج جیسا ہلکا آدمی تو کبھی دیکھا نہیں (یہ ان کے گناہ گار ہونے کی نشانی ہے) اور کہنے لگے کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے بنو قریظہ کے یہودیوں کے بارے میں غلط فیصلہ کیا تھا جب حضورؐ سے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! فرشتے ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے تھے (اس لئے ان کا جنازہ ہلکا لگ رہا تھا)۔ ۴۔

## دشمنوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا رعب

حضرت معاویہ بن حیدہ قشیریؓ فرماتے ہیں میں نبی کریمؐ کی خدمت میں حاضری کے ارادہ سے آیا۔ جب مجھے آپؐ کی خدمت میں لایا گیا تو آپؐ نے فرمایا غور سے سنو! میں نے اللہ

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۲۸) ۲۔ اخرجہ البزار قال الہبشمی (ج ۹ ص ۳۰۸) رواہ البزار باسنادین ورجال احد ہما رجال الصحیح. انتہی و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۲۹) عن ابن عمر بمعناہ ۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۳۰) ۴۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۳ ص ۳۳۰)



تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ دو چیزوں سے میری مدد کرے ایک تو تم لوگوں پر ایسی قحط سالی ڈالے جو تمہیں جڑ سے اکھیڑ دے اور دوسرے تمہارے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا آپ بھی غور سے سن لیں میں نے اتنی اور اتنی مرتبہ (یعنی انٹلیوں کی تعداد کے مطابق دس مرتبہ) قسم کھائی تھی کہ نہ آپ پر ایمان لاؤں گا اور نہ آپ کا اتباع کروں گا لیکن آپ کی اس بددعا کی وجہ سے قحط سالی میری جڑیں اکھیڑتی رہی اور میرے دل میں آپ کا رعب بڑھتا رہا یہاں تک کہ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔!

حضرت سائب بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت یزید بن عامر سوائیؓ سے ہم لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے دن جو رعب مشرکوں کے دل میں ڈالا تھا اس کی کیا صورت ہوئی تھی؟ تو حضرت یزید ہمیں سمجھانے کے لئے کنکری لے کر ظشت میں پھینکتے تھے جس سے ظشت میں آواز ہوتی تھی پھر حضرت یزید فرماتے ہیں بس اس جیسی آواز ہم اپنے پیٹ میں محسوس کرتے تھے (حضرت یزید غزوہ حنین میں مشرکوں کے ساتھ تھے اس لئے اپنا حال بتا رہے ہیں)۔

## اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کرامؓ کے دشمنوں کی پکڑ

حضرت زید بن اسلم وغیرہ حضرات کہتے ہیں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ (ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ہجرت کے موقع پر انہوں نے حضور ﷺ کی تلاش میں جانے نہ جانے کے بارے میں تین دفعہ تیروں سے فال نکالی تھی ہر دفعہ فال میں نہ جانا نکلتا تھا لیکن وہ پھر بھی حضور کی تلاش میں گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے اور حضورؐ اور آپ کے ساتھیوں تک پہنچ گئے حضورؐ نے ان کے لئے بددعا کی کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گڑ جائیں، چنانچہ ایسے ہی ہوا اور ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اس پر انہوں نے کہا اے محمد! (ﷺ) آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے گھوڑے کو چھوڑ دے میں آپ کی تلاش میں آنے والوں کو واپس کروں گا، چنانچہ حضورؐ نے ان کے لئے دعا کی اے اللہ! اگر یہ سچا ہے تو اس کے گھوڑے کو چھوڑ دے۔ اس پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئے۔

حضرت عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت سراقہؓ نے کہا اے دونوں حضرات! میرے لئے اللہ سے دعا کر دیں میں آپ دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۶ ص ۶۶) اسنادہ حسن و رواہ النسائی وغیرہ غیر ذکر الرعب والسنة. انتھی

۲۔ اخرجہ البیہقی کذا فی البدایة (ج ۴ ص ۳۳۳)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (۱ ص ۱۸۸)

آپ حضرات کا پیچھا نہیں کروں گا چنانچہ ان دونوں حضرات نے دعا کی تو اس کا گھوڑا باہر نکل آیا اس نے پھر پیچھا کرنا شروع کر دیا جس پر پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تو انہوں نے کہا میرے لئے اللہ سے دعا کر دیں اور اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب پیچھا نہیں کروں گا اور حضرت سراقہؓ نے ان حضرات کی خدمت میں زاد سفر اور سواری بھی پیش کی ان حضرات نے فرمایا اس کی تو ضرورت نہیں ہے بس تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اپنی ذات سے ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ انہوں نے کہا بہت اچھا ایسے ہی کروں گا۔

حضرت ابو معبد خزاعی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے سفر ہجرت کی لمبی حدیث بیان کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت سراقہؓ نے کہا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے گھوڑے کو چھوڑ دے میں واپس چلا جاؤں گا اور جتنے لوگ مجھے آپ کی تلاش میں ملیں گے میں ان سب کو واپس لے جاؤں گا، چنانچہ حضورؐ نے دعا فرمائی جس سے ان کا گھوڑا باہر نکل آیا انہیں واپسی میں بہت سے لوگ ملے جو حضورؐ نے دعا فرمائی جس سے ان کا گھوڑا باہر نکل آیا انہیں واپسی میں بہت سے لوگ ملے جو حضورؐ کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے ان سب سے کہا واپس چلے جاؤ اس طرف کا سارا علاقہ میں اچھی طرح دیکھ آیا ہوں اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ نشانات قدم پہنچانے کے بارے میں میری نگاہ کتنی تیز ہے، چنانچہ وہ سب واپس چلے گئے۔ ۲

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہجرت کی حدیث بیان کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے مڑ کر دیکھا تو انہیں ایک گھوڑے سوار نظر آیا جو بالکل قریب آچکا تھا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی! یہ گھوڑے سوار تو ہمارے بالکل پاس آ گیا ہے۔ حضور ﷺ نے اس طرف متوجہ ہو کر دعا مانگی اے اللہ! اسے پچھاڑ دے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں حضورؐ کے دعا فرماتے ہی گھوڑے نے اسے پچھاڑ دیا اور خود ہنہناتے ہوئے کھڑا ہو گیا، چنانچہ اس سوار نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ مجھے جو بھی حکم دیں میں اس کے لئے تیار ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا آگے مت آؤ اپنی جگہ ٹھہرے رہو (بلکہ واپس چلے جاؤ) اور کسی کو ہماری طرف نہ آنے دینا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ وہ سوار یعنی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ دن کے شروع میں تو حضورؐ کے خلاف کوشش کرنے والے تھے اور دن کے آخر میں ہتھیار کی طرح حضورؐ کے لئے حفاظت کا ذریعہ بن گئے۔ ۳ اور پہلی جلد میں صفحہ ۳۶۶ پر ہجرت کے باب میں نبی کریم ﷺ کی ہجرت کے بارے میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضرت سراقہ کا قصہ گزر چکا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں اربد بن قیس اور عامر بن طفیل حضور ﷺ سے ملنے مدینہ

۱۔ اخرجہ ابن سعد ایضا (ج ۱ ص ۲۲۲) ۲۔ عند ابن سعد ایضا

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۲۳۵)

آئے۔ جب یہ دونوں حضورؐ کے پاس آئے تو حضورؐ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں بھی حضورؐ کے سامنے بیٹھ گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا اے محمد ﷺ اگر میں اسلام لے آؤں تو آپ مجھے کیا خاص چیز دیں گے حضورؐ نے فرمایا تمہیں بھی وہ تمام حقون حاصل ہوں گے جو سارے مسلمانوں کو حاصل ہیں اور تم پر بھی وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو ان پر ہیں۔ عامر بن طفیل نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا آپ اپنے بعد خلیفہ بننے کا حق مجھے دیں گے۔ حضورؐ نے فرمایا یہ حق نہ تمہیں مل سکتا ہے اور نہ تمہاری قوم کو البتہ تمہیں گھڑ سوار دستہ کا کمانڈر بنادیں گے۔ عامر نے کہا میں تو اب بھی نجد کی گھڑ سوار فوج کا کمانڈر ہوں۔ اچھا آپ ایسا کریں دیہات کی حکومت مجھے دے دیں اور شہروں کی حکومت آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب دونوں حضورؐ کے پاس سے واپس جانے لگے تو عامر نے کہا خبردار اللہ کی قسم میں سارے مدینہ کو آپ کے خلاف گھوڑے سوار اور پیادہ فوج سے بھر دوں گا۔ حضورؐ نے فرمایا اللہ تمہیں ایسا کرنے سے روک دے گا تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ جب اربد اور عامر باہر نکلے تو عامر نے کہا اے اربد میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو باتوں میں مشغول کر لوں گا تم تلوار سے ان کا کام تمام کر دینا کیونکہ جب تم محمد کو قتل کر دو گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کریں گے اور لڑائی کو اچھا نہیں سمجھیں گے ہم انہیں خون بہا دے دیں گے اربد نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ چنانچہ دونوں واپس آئے اور عامر نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ذرا میرے ساتھ کھڑے ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضورؐ اٹھ کر اس کے ساتھ گئے وہ دونوں ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضورؐ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور عامر سے باتیں کرنے لگے اربد نے حضورؐ پر تلوار سوتنے کا ارادہ کیا جب اس نے تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور وہ تلوار نہ سونت سکا اس طرح اسے کافی دیر ہو گئی۔ حضورؐ نے مڑ کر اربد کی طرف دیکھا تو اس کی یہ بزدلانہ حرکت نظر آئی۔ حضورؐ دونوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ عامر اور اربد حضورؐ کے پاس سے چلے اور جب حرہ راقم یعنی پتھر یلے میدان میں پہنچے تو دونوں وہاں ٹھہر گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیرؓ دونوں ان کے پاس گئے اور ان سے کہا اے اللہ کے دشمنو! اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ اللہ تم دونوں پر لعنت کرے۔ عامر نے پوچھا اے سعد! یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت سعدؓ نے کہا یہ اسید بن حضیرؓ کا کاتب یعنی پڑھے لکھے آدمی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ جب وہ مقام رقم میں پہنچے تو اللہ نے اربد پر ایسی بجلی گرائی جس سے وہ وہیں مر گیا۔ عامر وہاں سے آگے چلا۔ جب وہ مقام خریم پہنچا تو اللہ نے اس کے جسم میں ایک پھوڑا پیدا کر دیا اور اسے قبیلہ بنی سلول کی ایک عورت کے گھر میں رات گزارنی پڑی (یہ قبیلہ عربوں میں گھٹیا شمار ہوتا تھا) وہ پھوڑا حلق میں ہوا تھا۔ وہ اپنے پھوڑے کو ہاتھ لگاتا اور کہتا یہ اتنی بڑی گلٹی ہے جتنی بڑی اونٹ کی ہوتی

ہے۔ میں سلویہ عورت کے گھر میں پڑا ہوا ہوں اور میں اس کے گھر میں مرنا نہیں چاہتا (اول تو قبیلہ سب سے گھنیا ہے پھر عورت کا گھر یہ دونوں باتیں ذلت کی ہیں) پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگائی اور یوں واپسی میں اپنے گھوڑے پر ہی مر گیا اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْتِیْ سے لے کر وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٰیٰتِ (سورت رعد آیت ۸-۱۱) ”اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی و بیشی ہوتی ہے اور ہر شے اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے (مقرر) ہے وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ سب سے بڑا (اور) عالیشان ہے تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے اور جو شخص رات میں کہیں چھپ جاوے اور جو دن میں چلے پھرے یہ سب برابر ہیں۔ ہر شخص (کی حفاظت) کے لئے فرشتے (مقرر) ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے۔ کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے۔ وہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو (اچھی) حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی (صلاحیت کی) حالت کو نہیں بدل دیتے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں اور کوئی خدا کے سوا ان کا مددگار نہیں رہتا۔“ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کے حکم سے باری باری آنے والے فرشتے حضرت محمد ﷺ کی حفاظت کرتے ہیں پھر انہوں نے ار بد پر بجلی گرنے کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا وَاَوْیْرُسُلُ الصَّوَاعِقِ (سورت رعد آیت ۱۳) ”اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے۔“

## کنکریاں اور مٹی پھینکنے سے صحابہ کرامؓ کے دشمنوں کی شکست

حضرت حارث بن بدل رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں وہ صحابی فرماتے ہیں میں غزوہ حنین کے دن حضور ﷺ کے مقابلہ پر مشرکوں کے ساتھ تھا پہلے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت ابوسفیان بن حارثؓ کے علاوہ حضورؐ کے تمام صحابہ شکست کھا گئے۔ حضورؐ نے زمین سے ایک مٹی اٹھا کر ہمارے چہروں پر پھینکی جس سے ہمیں شکست ہو گئی اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر درخت اور ہر پتھر ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے۔

حضرت عمرو بن سفیان ثقفیؓ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں جنگ حنین کے دن پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور حضور ﷺ کے ساتھ حضرت عباس بن عبدالمطلب اور حضرت ابوسفیان بن حارثؓ

۱۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۵۰۶)

۲۔ اخرجہ الطبرانی و ابونعیم و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۵ ص ۳۰۲) و اخرجہ ابن مندہ و ابن عساکر عنہ مختصر کما فی الكنز

کے علاوہ اور کوئی نہ رہا پھر حضورؐ نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کے چہروں پر پھینکی جس سے ہمیں شکست ہوگئی اور ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہر پتھر اور ہر درخت گھوڑے سوار ہے جو ہمیں تلاش کر رہا ہے۔ حضرت عمرؓ و ثقیفؓ کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا یہاں تک کہ طائف میں داخل ہو گیا۔!

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سنا کہ ایک آواز آسمان سے زمین کی طرف آئی وہ آواز ایسی تھی جیسی طشت میں کنکری کے گرنے کی ہوتی ہے اور حضورؐ نے وہ کنکری اٹھا کر ہماری طرف پھینک دی جس سے ہمیں شکست ہوگئی۔ ۲

حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں جب بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو حکم دیا جس پر آپؐ نے کنکریوں کی مٹھی لی اور ہمارے سامنے آ کر اسے ہم پر پھینک دیا اور فرمایا تمہارے چہرے بگڑ جائیں اس پر ہمیں شکست ہوگئی اور اسی پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (سورت انفال آیت ۱۷) اور آپؐ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جس وقت آپؐ نے پھینکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی۔ ۳

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا مجھے ایک مٹھی کنکریاں دو حضرت علیؓ نے حضورؐ کو ایک مٹھی کنکریاں دیں حضورؐ نے وہ مٹھی میں لے کر کافروں کے چہروں پر پھینک دیں اللہ کی قدرت سے ہر کافر کی دونوں آنکھیں کنکریوں سے بھر گئیں پھر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (سورت انفال آیت ۱۷)۔ ۴

حضرت یزید بن عامر سوائیؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے زمین سے ایک مٹھی لی اور مشرکوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کے چہروں پر پھینک دی اور فرمایا واپس چلے جاؤ تمہارے چہرے بگڑ جائیں چنانچہ جو کافر بھی اپنے بھائی سے ملتا تھا اس سے اپنی دونوں آنکھوں میں خاک پڑ جانے کی شکایت کرتا۔ ۵

## صحابہ کرامؓ کو دشمنوں کا کم دکھائی دینا

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن کفار ہمیں بہت تھوڑے دکھائی دے رہے تھے یہاں تک میرے قریب جو ساٹھی تھا میں نے اس سے کہا تمہارے خیال میں یہ کافر ستر ہوں گے اس نے کہا میرے خیال میں سو ہوں گے پھر ہم نے ان کے ایک آدمی کو پکڑا اور اس سے

۱۔ اخرجه يعقوب بن سفیان كذا في البداية (ج ۳ ص ۳۲۲)

۲۔ اخرجه الطبرانی في الكبير والوسط قال الهیثمی (ج ۶ ص ۸۳) اسنادہ حسن

۳۔ عند الطبرانی ایضا قال الهیثمی (ج ۶ ص ۸۳) اسنادہ حسن

۴۔ عند الطبرانی ایضا قال الهیثمی (ج ۶ ص ۷۴) رجالہ رجال الصحیح ۵۱

۵۔ عند البیہقی كذا في البداية (ج ۳ ص ۳۲۳)



اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا ہم ہزار تھے۔

## پروا ہوا کے ذریعہ صحابہ کرامؓ کی مدد

حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غزوہ خندق مدینہ میں ہوا تھا حضرت ابوسفیان بن حربؓ (اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ) قریش کو اور اپنے پیچھے چلنے والے تمام قبائل عرب کو لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے ان قبائل میں کنانہ، عیینہ بن حصن، غطفان، طیجہ، بنو اسد، ابو العور اور بنو سلیم شامل تھے اور قریظہ کے یہودیوں اور حضور ﷺ کے درمیان پہلے سے معاہدہ تھا جسے انہوں نے توڑ دیا اور مشرکوں کی مدد کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَافِيَتِهِمْ (سورت احزاب آیت ۲۶) ”اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا۔“ حضرت جبرائیلؑ ہوا کو ساتھ لے کر آئے۔ جب حضورؐ نے حضرت جبرائیلؑ کو دیکھا تو تین دفعہ فرمایا غور سے سنو! تمہیں خوشخبری ہو پھر اللہ نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے خیمے پھاڑ دیئے اور ان کی دیکیں الٹ دیں اور ان کے کجاوے مٹی میں دبا دیئے اور خیموں کے باندھنے کے کھونٹے توڑ دیئے اور وہ لوگ ایسے گھبرا کر بھاگے کہ کوئی مڑ کر دوسرے کو نہیں دیکھتا تھا اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا أَلْمَ تَرَوُهَا (سورت احزاب آیت ۹) ”جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی۔“ کفار کے بھاگنے کے بعد حضورؐ مدینہ واپس آ گئے۔

حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی کریم ﷺ اور قریظہ کے درمیان کچا پکا معاہدہ تھا جب غزوہ خندق میں کفار کے گروہ اپنے لشکر لے کر آئے تو قریظہ نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور مشرکوں کی مدد کی پھر اللہ نے فرشتوں کے لشکر اور ہوا بھیجی جس سے یہ گروہ بھاگ گئے اور قریظہ کے یہود نے اپنے قلعہ میں پناہ لی اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں حدیث ذکر کی۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں غزوہ خندق کی ایک رات کو مشرقی ہوا شمالی ہوا کے پاس آئی اور کہنے لگی چل اور حضور ﷺ کی مدد کر شمالی ہوا نے کہا آزاد اور شریف عورت رات کو نہیں چلا کرتی (اس لئے میں نہیں چلوں گی) چنانچہ جس ہوا کے ذریعہ حضورؐ کی مدد کی گئی وہ ہوا یعنی مشرقی ہوا تھی۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی المجمع (ج ۶ ص ۸۳) و اخرجہ ابن ابی حاتم و ابن جریر عن ابن مسعود نحوه كما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۳۱۵) ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۷۱) ۳۔ عند ابن سعد ایضا (ج ۲ ص ۷۷) ۴۔ اخرجہ البزار قال الهیثمی (ج ۶ ص ۶۶) رجاله رجال الصحیح و اخرجہ ابن ابی حاتم عن ابن عباس و ابن جریر عن عکرمۃ بمعناه كما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۷۰)

## دشمنوں کا زمین میں دھنس جانا اور ہلاک ہونا

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک کافر نے جنگ احد کے دن کہا اے اللہ! اگر محمد (علیہ السلام) حق پر ہیں تو تو مجھے زمین میں دھنسا دے چنانچہ وہ اسی وقت زمین میں دھنس گیا۔  
حضرت نافع بن عاصم کہتے ہیں بنو ہذیل کے عبد اللہ بن قمرہ نے حضور ﷺ کے چہرے کو زخمی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بکر مسلط کر دیا جس نے اسے سینگ مار مار کر مار ڈالا۔<sup>۱</sup>

## صحابہ کرام کی بددعا سے بینائی کا چلا جانا

حضرت عبد اللہ بن مغفل مزنی فرماتے ہیں ہم حدیبیہ میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بارے میں حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اسی حال میں تھے کہ تمیں نوجوان ہتھیار لگائے ہوئے سامنے آئے اور ہمارے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ حضور نے ان کے لئے بددعا فرمائی تو اللہ نے اسی وقت ان کی بینائی ختم کر دی اور ہم نے جا کر انہیں پکڑ لیا حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ کسی سے معاہدہ کر کے آئے ہو؟ کیا کسی نے تمہیں امن دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تو حضور نے انہیں چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَابْتَدِئَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (سورۃ فتح آیت ۲۴) ”اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ تم سے (یعنی تمہارے قتل سے) اور تمہارے ہاتھ ان (کے قتل) عین مکہ (کے قرب) میں روک دیئے بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔“<sup>۲</sup>

حضرت زاذان کہتے ہیں حضرت علیؑ نے ایک حدیث بیان کی ایک آدمی نے اس حدیث کو جھٹلایا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے لئے بددعا کروں گا۔ اس نے کہا کر دیں، چنانچہ حضرت علیؑ نے اس کے لئے بددعا کی تو اسی مجلس میں اس کی بینائی جاتی رہی۔<sup>۳</sup>

حضرت عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے حدیث بیان کی اس نے اس حدیث کو جھٹلایا تو وہ آدمی وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اندھا ہو گیا۔<sup>۴</sup>  
حضرت زاذان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت علیؑ سے ایک حدیث بیان کی

۱۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۶ ص ۱۲۲) رجالہ رجال الصحیح  
۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۷۶) ۳۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۶ ص ۱۴۵) رجالہ رجال الصحیح . ۴۔ اخرجہ النسائی نحوه کما فی التفسیر لابن کثیر . (ج ۳ ص ۱۹۲)  
۵۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۱۶) و فیہ عمار الحضرمی ولم اعرفه وبقیة رجالہ ثقات . انتہی ۵۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۱)

حضرت علیؑ نے کہا میرے خیال میں تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو اس نے کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت علیؑ نے کہا اگر تم نے جھوٹ نہیں بولا ہے تو میں تمہارے لیے بددعا کروں گا اس نے کہا کر دیں۔ حضرت علیؑ نے بددعا کی وہ اسی مجلس میں اندھا ہو گیا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اروی بنت اویس عورت نے کسی چیز کے بارے میں حضرت سعید بن زیدؓ سے جھگڑا کر رکھا تھا۔ مروان نے کچھ لوگوں کو حضرت سعیدؓ کے پاس بھیجا تاکہ وہ اروی کے بارے میں ان سے گفتگو کریں۔ حضرت سعیدؓ نے فرمایا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اس عورت پر ظلم کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ظلم کر کے کسی سے ایک بالشت زمین لے گا تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے ایک بالشت زمین طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ اے اللہ! اگر اروی جھوٹی ہے تو اسے موت نہ دے جب تک کہ وہ اندھی نہ ہو جائے اور اس کی قبر اس کے کنویں میں بنا دے۔ اللہ کی قسم! اسے موت تب ہی آئی جب اس کی بینائی جاتی رہی۔ ایک دفعہ وہ اپنے گھر میں بڑی احتیاط سے چل رہی تھی کہ وہ اپنے کنویں میں گر گئی اور وہ کنواں ہی اس کی قبر بن گیا۔

حضرت ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اروی نامی عورت نے حضرت سعید بن زیدؓ کے ظلم کی جھوٹی شکایت کر کے مروان سے مدد چاہی۔ حضرت سعیدؓ نے یہ بددعا کی اے اللہ! یہ اروی دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے اس پر ظلم کیا ہے۔ اگر یہ جھوٹی ہے تو تو اسے اندھا کر دے اور اسے اس کے کنویں میں گرا دے اور میرے حق میں ایسی روشن دلیل ظاہر کر جس سے سارے مسلمانوں کو صاف نظر آ جائے کہ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا۔ اسی دوران وادی عقیق میں ایسا زبردست سیلاب آیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا سیلاب نہیں آیا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے وہ حد صاف واضح ہو گئی جس میں حضرت سعیدؓ اور اروی کا اختلاف تھا اور اس میں حضرت سعیدؓ بالکل سچے نکلے پھر ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اروی اندھی ہو گئی اور ایک دفعہ وہ اپنی اسی زمین کا چکر لگا رہی تھی کہ اچانک اپنے کنویں میں گر گئی اور جب ہم چھوٹے بچے تھے تو سنا کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے اللہ تجھے ایسے اندھا کرے جیسے اروی کو اندھا کیا۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ اروی سے مراد جنگلی پہاڑی بکریاں ہیں (کیونکہ عربی زبان میں اروی کا یہی ترجمہ ہے) یہ تو بعد میں ہمیں اس قصہ کا پتہ چلا اور اس سے معلوم ہوا کہ اروی سے مراد تو ایک عورت ہے جسے حضرت سعید بن زیدؓ کی بددعا لگی تھی اور چونکہ اللہ نے ان کی بددعا پوری کر دی تھی اس لئے لوگ یہ بات کہتے تھے۔

۱۔ عند ابن ابی الدنيا كذا في البداية (ج ۸ ص ۵)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۹۶) و اخرجہ ایضا عن عروة نحوه

۳۔ عند ابی نعیم ایضا (ج ۱ ص ۹۷)



حضرت ابو رجا عطار دی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا حضرت علیؑ کو اور حضور ﷺ کے گھرانے میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ ہمارا ایک پڑوسی بنو نجیم کا تھا اس نے گستاخی کی اور یوں کہا کیا تم لوگوں نے اس فاسق حسین بن علی کو نہیں دیکھا! اللہ انہیں قتل کرے یہ گستاخی کرتے ہی اللہ نے اس کی دونوں آنکھوں میں دو سفید نقطے پیدا کر دیئے اور اس کی بینائی کو ختم کر دیا۔!

## حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی

### دعا سے بینائی کا واپس آ جانا

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ مسجد حرام میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے جس سے قریش کے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی اور وہ حضور کو پکڑنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک دم ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ بندھ گئے اور وہ اندھے ہو گئے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کر کہا اے محمد! ہم تمہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں (کہ دعا کر کے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیں) قریش کے ہر خاندان کی حضور سے رشتہ داری تھی، چنانچہ حضور ﷺ نے دعا کی تو ان کی یہ مصیبت جاتی رہی اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السُّبُوْحَةَ اِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ** (سورۃ بقرہ آیت ۱۰۱)۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ مجملہ پیغمبروں کے ہیں اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ یہ ایمان نہ لاویں گے، تک چنانچہ ان لوگوں میں سے کوئی آدمی ایمان نہیں لایا۔!

حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں کسی نے حضور ﷺ کو ہدیہ میں کمان دی جو جنگ احد کے دن حضور نے مجھے عطا فرمائی۔ میں حضور کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے تیر چلاتا رہا یہاں تک کہ اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا پھر میں حضور کے چہرے کے سامنے اسی جگہ کھڑا رہا اور آنے والے تیروں کو اپنے چہرے پر لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر حضور کے چہرے کی طرف آتا تو میں حضور کے چہرے کو بچانے کے لئے اپنا چہرہ اور سر اس کے آگے کر دیتا اور یہ سب کچھ میں بغیر تیر چلائے کر رہا تھا (کیونکہ کمان تو ٹوٹ چکی تھی) آخری تیر مجھے اس طرح لگا کہ میری آنکھ نکل کر میرے رخسار پر گر گئی۔ پھر مشرکوں کا لشکر بکھر گیا پھر میں اپنی آنکھ ہتھیلی میں پکڑ کر دوڑ کر حضور کی خدمت میں گیا۔ جب حضور نے میری آنکھ کو دیکھا تو حضور کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر آپ نے یہ دعا

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۶) رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی دلائل النبوة (ص ۶۳)

فرمائی اے اللہ! قنادہؓ نے اپنے چہرے کو تیرے نبی کے سامنے رکھا تھا (جس کی وجہ سے اس کی آنکھ باہر نکل آئی ہے) اب اس کی اس آنکھ کو دونوں آنکھوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی بنا دے (پھر حضورؐ نے وہ آنکھ اپنے ہاتھ سے اندر رکھ دی) چنانچہ وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی تھی۔

حضرت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنگ احد کے دن حضرت قنادہؓ کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی اور باہر نکل کر ان کے رخسار پر گر گئی تھی جسے نبی کریم ﷺ نے اپنی جگہ واپس رکھ دیا تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز ہو گئی تھی۔

حضرت عاصم بن عمر بن قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت قنادہ بن نعمانؓ کی آنکھ جنگ بدر کے دن زخمی ہو گئی تھی اور آنکھ کا ڈیلا نکل کر ان کے رخسار پر آ گیا تھا۔ صحابہؓ نے اسے کاٹنا چاہا تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں۔ ٹھہرو۔ پہلے ہم حضور ﷺ سے مشورہ کر لیں۔ حضورؐ سے مشورہ کیا تو آپؐ نے فرمایا: کانٹو۔ پھر حضرت قنادہؓ کو حضورؐ نے بلایا اور ہتھیلی ڈیلے پر رکھ کر اسے دبایا اور اندر کر دیا۔ چنانچہ وہ آنکھ ایسی ٹھیک ہوئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کونسی ضائع ہوئی تھی۔

حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنگ احد کے دن حضرت ابو ذرؓ کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی۔ حضور ﷺ نے اس پر اپنا لعاب لگایا تو وہ دوسری سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔

حضرت رفاع بن رافع فرماتے ہیں جنگ بدر کے دن مجھے ایک تیر لگا جس سے میری آنکھ پھوٹ گئی حضور ﷺ نے اس پر لعاب لگایا اور میرے لئے دعا فرمائی جس سے مجھے آنکھ میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔

قبیلہ بنو سلیمان کے ایک آدمی کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ماموں حضرت حبیب بن فویک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ ان کے والد کو لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں لے گئے ان کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ حضورؐ نے ان سے آنکھیں سفید ہونے کی

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۹۷) فی اسنادہ من لم اعرفہم ۱۵ و اخرجہ ابو نعیم فی

الدلائل (ص ۱۷۴) عن قتادہ نحوہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۵۳) عن عاصم بن عمر بن قتادہ مختصراً

۲۔ اخرجہ الدار قطنی و ابن شاہین و اخرج الدار قطنی و البیہقی عن ابی ان الحلزی عن قتادہ نحوہ

کذا فی الاصابۃ (ج ۳ ص ۲۲۵) ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۷۴) عن قتادہ نحوہ

۴۔ اخرجہ البغوی و ابو یعلیٰ کذا فی الاصابۃ (ج ۳ ص ۲۲۵) قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۹۸) و فی

اسنادہ ابی یعلیٰ یحییٰ بن عبدالحمید الحمائی و هو ضعیف۔

۵۔ اخرجہ ابو یعلیٰ عن عبدالرحمن بن الحارث بن عبیدۃ قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۹۸) و فیہ

عبدالعزیز بن عمران و هو ضعیف ۶۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۲۳)

وجہ پوچھی تو میرے والد نے کہا میں اپنے ایک اونٹ کو سدھار رہا تھا کہ اتنے میں میرا پاؤں کسی سانپ کے انڈے پر پڑ گیا جس سے میری بینائی جاتی رہی۔ حضور نے ان کی آنکھوں پر دم فرمایا جس سے وہ ایک دم بینا ہو گئے۔ میرے ماموں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے والد کی عمر اتنی سال ہو چکی تھی اور ان کی دونوں آنکھیں سفید تھیں لیکن وہ سوئی میں دھاگہ ڈال لیتے تھے۔ اطرہانی کی روایت میں یہ ہے کہ میرے والد نے حضور کو یہ بتایا کہ (جب میرا پاؤں سانپ کے انڈے پر پڑا تو) اس وقت میں اپنی اونٹنیوں کے تھنوں پر دودھ نکالنے کے لئے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ میں اپنے اونٹ کو سدھار رہا تھا۔

حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت زبیرؓ رومی باندی تھیں۔ وہ مسلمان ہوئیں تو ان کی بینائی جاتی رہی اس پر مشرکوں نے کہالات و عزئی ہمارے بتوں نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا (نہیں، انہوں نے نہیں کیا) میں لات اور عزئی (کے معبود ہونے) کا انکار کرتی ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ام ہانی بنت ابی طالبؓ نے فرمایا جب حضرت ابو بکرؓ نے حضرت زبیرؓ کو آزاد کیا تو ان کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر کفار قریش نے کہا انہیں لات اور عزئی ہی نے اندھا کیا ہے۔ حضرت زبیرؓ نے کہا یہ لوگ غلط کہتے ہیں بیت اللہ کی قسم! لات و عزئی کسی کام نہیں آسکتے اور کچھ نفع نہیں دے سکتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی۔

## صحابہ کرامؓ کے لالہ اللہ اور اللہ اکبر

### کہنے سے دشمنوں کے بالا خانوں کا ہل جانا

حضرت ہشام بن عاص اموی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (دو صدیقی میں) مجھے اور ایک اور آدمی کو روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا، چنانچہ ہم سفر میں روانہ ہوئے اور دمشق کے غوطہ مقام پر پہنچے اور جبلہ بن اسہم غسانی (شاہ غسان) کے ہاں ٹھہرے۔ ہم نے جبلہ کے پاس جانا چاہا تو اس نے اپنا قاصد ہم سے بات کرنے کے لئے بھیجا۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم! ہم کسی قاصد سے بات نہیں کریں گے ہمیں تو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا ہے۔

۱۔ اخرجہ ابن ابی شیبۃ قال ابن السکن لم یردہ غیر محمد بن بشیر لا اعلم لحیب غیرہ کذا فی

الاصابة (ج ۱ ص ۳۰۸) و اخرجہ الطبرانی ایضا عن رجل من سلامان بن سعد عن امہ مثله

۲۔ قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۹۸) و لہ من اعرافہم ۱ و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۲۳) بهذا

الاسناد نحوہ ۳۔ اخرجہ الفاکھی و ابن مندہ

۴۔ عند محمد بن عثمان بن ابی شیبۃ فی تاریخہ کذا فی الاصابة (ج ۳ ص ۳۱۲)

اگر بادشاہ ہمیں اجازت دے تو ہم اس سے بات کریں گے ورنہ ہم اس قاصد سے بات نہیں کریں گے۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو ساری بات بتائی جس پر بادشاہ نے ہمیں اجازت دے دی (ہم اندر گئے) اس نے کہا بات کرو چنانچہ میں نے اس سے بات کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے میں نے کہا آپ نے یہ کالے کپڑے کیا پہن رکھے ہیں؟ اس نے کہا میں نے یہ کپڑے پہن کر قسم کھائی ہے کہ جب تک تمہیں ملک شام سے نکال نہ دوں یہ کپڑے نہیں اتاروں گا ہم نے کہا تمہارے بیٹھے کی اس جگہ کی قسم! انشاء اللہ! یہ جگہ بھی ہم آپ سے لے لیں گے بلکہ شہنشاہ اعظم (شاہ روم) کا ملک بھی لے لیں گے۔ ہمیں یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ نے بتائی ہے۔ اس نے کہا تم وہ لوگ نہیں ہو (جو ہم سے ہمارا ملک چھین لیں) بلکہ وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو دن کو روزے رکھتے ہوں گے اور رات کو عبادت کرتے ہوں تو بتاؤ تمہارے روزے کس طرح ہیں؟ ہم نے اس کو روزے کے بارے میں بتایا تو اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو گیا اور اس نے کہا چلو پھر اس نے ہمارے ساتھ شاہ روم کے پاس ایک قاصد بھیجا، چنانچہ ہم وہاں سے چلے۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو ہمارے ساتھ جو قاصد تھا اس نے ہم سے کہا آپ لوگوں کی یہ سواریاں بادشاہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتیں، اگر آپ لوگ کہیں تو ہم سواری کے لئے ترکی گھوڑے اور خچر دے دیں۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم! ہم تو ان ہی سواریوں پر شہر میں داخل ہوں گے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ لوگ تو نہیں مان رہے ہیں بادشاہ ہر قل نے انہیں حکم دیا کہ ہم لوگ اپنی سواریوں پر ہی آجائیں، چنانچہ ہم کمواریں لٹکائے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے بالا خانے تک پہنچ گئے۔ ہم نے بالا خانہ کے نیچے اپنی سواریاں بٹھا دیں وہ ہمیں دیکھ رہا تھا ہم نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا تو اللہ جانتا ہے وہ بالا خانہ ہلنے لگا اور ایسے ہل رہا تھا جیسے درخت کی ٹہنی کو ہوا ہلا رہی ہو۔ ہر قل نے ہمارے پاس پیغام بھیجا کہ تم لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے دین کی باتیں ہمارے سامنے زور سے کہو پھر اس نے پیغام بھیجا کہ اندر آ جاؤ ہم اس کے پاس گئے وہ اپنے قیمتی بچھونے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس روم کے تمام جرنیل اور سپہ سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی مجلس میں ہر چیز سرخ تھی اس کے چاروں طرف سرخی تھی اور اس کے کپڑے بھی سرخ تھے۔ ہم اس کے قریب گئے تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اگر آپ لوگ مجھے ویسے ہی سلام کرتے جیسے آپس میں کرتے ہو تو اس میں کیا حرج تھا؟ اس کے پاس ایک آدمی تھا جو فصیح عربی بولتا تھا اور بہت باتیں کرتا تھا (جو ترجمانی کر رہا تھا) ہم نے کہا جس طرح ہم آپس میں سلام کرتے ہیں اس طرح آپ کو سلام کرنا ہمارے لئے جائز نہیں اور جس طرح آپ کو سلام کیا جاتا ہے اس طرح سلام کرنا ویسے جائز نہیں۔ اس نے پوچھا آپ لوگ آپس میں کیسے سلام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا السلام علیکم! اس نے کہا آپ لوگ اپنے بادشاہ کو

کس طرح سلام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اسی طرح اس نے کہا وہ آپ لوگوں کو جواب کیسے دیتا ہے؟ ہم نے کہا ان ہی الفاظ سے۔ پھر اس نے پوچھا آپ لوگوں کا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ جانتا ہے ان کلمات کے کہتے ہی وہ بالا خانہ پھر ہلنے لگا اور بادشاہ سراٹھا کر دیکھنے لگا پھر اس نے کہا اچھا یہ ہیں وہ کلمات جن کے کہنے سے یہ بالا خانہ ہلنے لگا تھا تو جب یہ کلمات آپ لوگ اپنے گھروں میں کہتے ہیں تو کیا وہ بھی ہلنے لگتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یہ بات تو ہم نے صرف آپ کے ہاں دیکھی ہے۔ اس نے کہا میری آرزو یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہ کلمات کہیں تو لوگوں کی ہر چیز ہلنے لگے چاہے مجھے اس کے لئے اپنا آدھا ملک دینا پڑے۔ ہم نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لئے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ نبوت کی نشانی نہ ہوگی بلکہ لوگوں کی شعبدہ بازی میں سے ہوگا پھر اس نے بہت سے سوالات کئے جن کے ہم نے جوابات دیئے پھر اس نے کہا آپ لوگوں کے نماز روزے کس طرح ہوتے ہیں؟ اس کی ہم نے تفصیل بتائی پھر اس نے کہا اب آپ لوگ انھیں اور چلے جائیں پھر اس کے حکم دینے پر ہمیں بہت عمدہ مکان میں ٹھہرایا گیا اور بہت زیادہ مہمانی کا اہتمام کیا گیا۔ ہم وہاں تین دن ٹھہرے رہے پھر ایک رات اس نے ہمارے پاس پیغام بھیجا ہم اس کے پاس گئے اس نے کہا اپنی بات دوبارہ کہو ہم نے اپنی ساری بات کہہ دی پھر اس نے ایک چیز منگوائی جو بڑی چوکور پٹاری کی طرح تھی اور اس پر سونے کے پانی کا کام کیا ہوا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے تھے اس نے تالا کھول کر ایک خانہ کھولا اور اس میں کالے رنگ کے ریشم کا ایک کپڑا نکالا اسے ہم نے پھیلا یا تو اس پر ایک آدمی کی سرخ رنگ کی تصویر بنی ہوئی تھی جس کی آنکھیں بڑی اور سرین موٹے تھے اور اتنی لمبی گردن میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ اس کی داڑھی نہیں تھی، البتہ سر کے بالوں کی دو مینڈھیاں تھیں اللہ نے جتنے انسان بنائے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں اس نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں ان کے بال عام لوگوں سے زیادہ تھے پھر اس نے دوسرا دروازہ کھول کر کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر سفید تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے بال گھنگھریالے تھے، آنکھیں سرخ، سر بڑا اور داڑھی خوبصورت تھی۔ اس نے کہا کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں پھر اس نے ایک دروازہ کھول کر کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا اس پر ایک آدمی کی تصویر تھی جو بہت سفید تھا۔ اس کی آنکھیں خوبصورت، پیشانی سنی ہوئی، رخسار لمبے، داڑھی سفید تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہا ہو۔ اس نے کہا کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اس میں سفید تصویر تھی اللہ کی قسم! وہ حضور ﷺ کی تصویر تھی اس نے کہا کیا

انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں یہ حضرت محمد ﷺ ہیں اور ہم خوشی کے مارے رونے لگے اور اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ایک دم اٹھا اور کچھ دیر کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا پھر کہا اللہ کی قسم! یہ وہی ہیں ہم نے کہا ہاں بے شک یہ وہی ہیں گویا کہ آپ ان کو ہی دیکھ رہے ہیں پھر کچھ دیر وہ اسی تصویر کو دیکھتا رہا پھر کہنے لگا یہ تصویر تھی تو آخری خانے میں لیکن میں نے آپ لوگوں کا امتحان لینے کے لئے ذرا جلدی نکال لی تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی معلومات کیا ہیں پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے کالے رنگ کے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر گندی رنگ والے، سیاہی مائل آدمی کی تصویر تھی جس کے بال بہت زیادہ گھنگھریالے، آنکھیں اندر گھسی ہوئیں، نگاہ تیز، منہ چڑھا ہوا اور دانت ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے اور ہونٹ سمٹا ہوا تھا اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ غصہ میں ہو اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے پہلو میں ایک اور تصویر تھی جو بالکل ان جیسی تھی البتہ ان کے سر پر تیل لگا ہوا تھا پیشانی چوڑی تھی اور ان کی آنکھوں میں کچھ بھیجنا پن تھا اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام ہیں پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر ایک آدمی کی تصویر تھی جس کا رنگ گندی، بال سیدھے اور قد درمیانہ تھا اور وہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ جیسے غصہ میں ہوں۔ اس نے کہا کیا ان کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت لوط علیہ السلام ہیں پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس پر ایک سفید آدمی کی تصویر تھی سفیدی میں کچھ سرخی ملی ہوئی تھی ناک اونچی، رخسار ہلکے اور چہرہ حسین و جمیل تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں پھر ایک اور دروازہ کھول کر اس نے سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا اس پر ایک تصویر تھی جو حضرت اسحاق کے مشابہ تھی صرف یہ فرق تھا کہ ان کے ہونٹ پر تل تھا اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں ایک سفید آدمی کی تصویر تھی جس کا چہرہ خوبصورت، ناک اونچی اور قد اچھا تھا۔ اس کے چہرے پر نور بلند ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے خشوع معلوم ہو رہا تھا اور اس کا رنگ مائل سرخی تھا۔ اس نے کہا کیا آپ لوگ انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے نبی کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں حضرت آدم علیہ السلام جیسی تصویر تھی اور ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں سرخ رنگ کے آدمی کی تصویر تھی جس کی پنڈلیاں پتلی، آنکھیں چھوٹی

اور کمزور، پیٹ بڑا اور قد درمیانہ تھا۔ تلوار بھی گلے میں لٹکائی ہوئی تھی اس نے پوچھا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے سفید ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں ایک آدمی کی تصویر تھی جس کے سرین بڑے، پاؤں لمبے تھے اور وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے اس نے کہا کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ سلیمان بن داؤد علیہما السلام ہیں پھر اس نے ایک اور دروازہ کھول کر اس میں سے کالے ریشم کا ایک کپڑا نکالا جس میں سفید تصویر تھی وہ بالکل جوان تھے، داڑھی بے انتہا کالی اور بال بہت زیادہ، آنکھیں اور چہرہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے کہا کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ کو یہ تصویریں کہاں سے ملی ہیں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو شکل و صورت عطا فرمائی گئی تھی یہ اس کے مطابق ہیں اس لئے ہم نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تصویر ان کی شکل و صورت کے مطابق بنی ہوئی دیکھی ہے۔ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ میری اولاد میں سے جتنے نبی ہوں گے وہ مجھے دکھا دیں اس پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی یہ تصویریں حضرت آدم پر اتاری تھیں اور سورج ڈوبنے کی جگہ کے پاس جو حضرت آدم کا خزانہ تھا اس میں یہ تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کو وہاں سے نکال کر ذوالقرنین نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دی تھیں پھر ہرقل نے کہا غور سے سنیں! اللہ کی قسم! اس کے لئے میں دل سے تیار ہوں کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ دوں اور آپ لوگوں میں جو اپنے غلاموں کے ساتھ سب سے برا سلوک کرتا ہو میں اس کا مرتے دم تک کے لئے غلام بن جاؤں (لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لئے تیار نہیں) پھر اس نے بہت عمدہ تحفے دے کر ہمیں رخصت کیا۔ جب ہم حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس پہنچے تو ہم نے ان کو ساری کارگزاری سنائی ہرقل نے ہمیں جو کچھ دکھایا جو کچھ کہا اور جو تحفے دیئے وہ سب ہم نے ان کو بتا دیئے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکرؓ رو پڑے اور فرمایا یہ بے چارہ ہرقل مسکین ہے اگر اللہ کا اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا تو یہ بھلائی کا کام کر لیتا یعنی اسلام میں داخل ہو جاتا اور حضرت ابوبکرؓ نے یہ بھی فرمایا کہ حضور ﷺ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہود و نصاریٰ کی کتابوں میں حضرت محمد ﷺ کے حلیہ مبارک اور صفات وغیرہ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ہشام بن عاصؓ کی اس حدیث میں تو ان تصویروں میں حضرت ابوبکرؓ کی تصویر کا ذکر نہیں ہے لیکن

۱۔ اخرجہ الحاکم وھکذا اورده الحافظ ابوبکر البیہقی فی کتاب دلایل النبوة عن الحاکم اجازة فذکرہ و اسنادہ لاباس به کذا فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۲۵۱) و ذکرہ فی الکنز (ج ۵ ص ۳۲۲) عن البیہقی بتمامہ ثم قال قال ابن کثیر هذا حدیث جید الاسناد و رجالہ ثقات. انتهى و اخرجہ ابونعیم فی الدلائل النبوة (ص ۹) عن موسی بن عقبہ فذکر القصة بنحوها.

بیہتی نے حضرت جبیر بن معظم سے یہی حدیث روایت کی ہے کہ اس میں حضرت ابو بکرؓ کی تصویر کا ذکر اس طرح ہے (کہ بصری شہر کے نصاریٰ مجھے ایک گر جاگھر میں لے گئے اس میں بہت سی تصویریں تھیں) پھر انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو کیا اس نبی کی تصویر ان میں نظر آ رہی ہے؟ میں نے دیکھا تو ان میں حضور ﷺ کی تصویر بھی تھی اور حضرت ابو بکرؓ کی تصویر بھی تھی۔ وہ حضور کی ایڑی پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تمہیں ان کی تصویر نظر آئی؟ میں نے کہا جی ہاں انہوں نے حضور کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا وہ یہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یہی ہیں پھر انہوں نے کہا تم ان کو پہچانتے ہو جو ان کی ایڑی پکڑے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تمہارے حضرت یعنی تمہارے نبیؐ ہیں اور یہ ان کے بعد ان کے خلیفہ ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ میں نے کہا یہ ان کی ایڑی کے پاس کھڑا ہوا آدمی کون ہے؟ اس نصرانی نے کہا تمہارے نبیؐ کے علاوہ ہر نبی کے بعد نبی ضرور ہوتا تھا لیکن تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یہ ان کے بعد ان کے خلیفہ ہیں تو یہ حضرت ابو بکرؓ کی تصویر تھی۔ ۲ (پہلے نبیوں کی شریعت میں جاندار کی تصویر کی اجازت تھی لیکن ہماری شریعت میں اجازت نہیں)۔

قبیلہ غسان اور قبیلہ بنو قین کے چند مشائخ بیان کرتے ہیں کہ حمص کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے صبر کا بدلہ یہ دیا کہ حمص والوں پر زلزلہ آیا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ مسلمان ان کے مقابلہ کے لئے کھڑے ہوئے تو انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا جس کی وجہ سے شہر حمص میں رومیوں پر زلزلہ آ گیا اور دیواریں پھٹ گئیں تو وہ سب گھبرا کر اپنے ان سرداروں اور اصحاب شوری کے پاس گئے جو ان کو مسلمانوں سے صلح کرنے کی دعوت دینے لگے لیکن ان لوگوں نے ان سرداروں اور اصحاب شوری کی یہ بات نہ مانی بلکہ اس پر ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا مسلمانوں نے دوبارہ پھر زور سے اللہ اکبر کہا جس سے بہت سے گھراور دیواریں گر گئیں اور شہر والے پھر گھبرا کر سرداروں اور اصحاب شوری کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے اس پر شہر والوں نے صلح کی بات مان لی۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ ۳

## دور دراز علاقوں تک صحابہ کرامؓ کی آواز کا پہنچ جانا

حضرت ابن عمرؓ مارتے ہیں حضرت عمرؓ نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کا امیر ایک آدمی کو بنایا

۱۔ اخرجہ البخاری فی التاريخ مختصراً كما فی البداية (ج ۶ ص ۲۳) ۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر والوسط قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۳۳) وفيه من لم اعرفهم ۱ و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل النبویہ (ص ۹) نحو رواية البيهقي ۳۔ ذكره ابن جرير فی تاريخه (ج ۳ ص ۹۷)



جنہیں ساریہ کہا جاتا تھا ایک دفعہ حضرت عمرؓ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دم انہوں نے تین مرتبہ پکار کر کہا اے ساریہ! لشکر کو لے کر پہاڑ کی طرف ہو جاؤ پھر اس لشکر کا قاصد آیا حضرت عمرؓ نے اس سے حالات پوچھے اس نے کہا اے امیر المومنین ہمیں شکست ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے ایک بلند آواز تین مرتبہ سنی اے ساریہ! پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، چنانچہ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی طرف کر دیں جس پر اللہ نے کفار کو شکست دے دی پھر لوگوں نے حضرت عمرؓ سے کہا آپ ہی نے تو بلند آواز سے یہ کہا تھا۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو خطبہ میں کہنے لگے اے ساریہ! پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چرواہا بنایا اس نے بکریوں پر ظلم کیا۔ لوگ ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ حضرت علیؓ نے ان سے فرمایا پریشان مت ہو حضرت عمرؓ خود بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے۔ جب حضرت عمرؓ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا انہوں نے فرمایا میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ مشرکوں نے ہمارے بھائیوں کو شکست دے دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے بھائی اگر پہاڑ کی طرف مڑ جائیں تو ان کو صرف ایک طرف سے ہی لڑنا پڑے گا (اور اس طرح ان کو فتح ہو جائے گی) اور اگر یہ لوگ پہاڑ سے آگے نکل گئے تو پھر (ان کو ہر طرف سے لڑنا پڑے گا اور) یہ ہلاک ہو جائیں گے بس اس پر میری زبان سے وہ کلمات نکل گئے جو آپ لوگوں نے سنے ہیں پھر ایک مہینے کے بعد (اس لشکر کی طرف سے فتح کی) خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس دن حضرت عمرؓ کی آواز سنی تھی اور آواز سن کر ہم لوگ پہاڑ کی طرف ہو گئے تھے جس سے اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمادی۔<sup>۱</sup> خطیب اور ابن عساکر کی روایت میں یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت علیؓ سے کہا کیا آپ نے حضرت عمرؓ کو منبر پر خطبہ کے دوران یا ساریہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ حضرت علیؓ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو حضرت عمرؓ کو کچھ نہ کہو وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔

ابونعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دشمن نے حضرت ساریہ کو پہاڑ کی پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے تو اس خیال سے میں نے یہ کہہ دیا کہ شاید اللہ کا کوئی بندہ میری آواز حضرت ساریہ تک پہنچادے یعنی کوئی فرشتہ یا مسلمان جن پہنچادے۔<sup>۲</sup>

۱۔ اخرجہ البيهقي و اللالكاتي في شرح السنة والدير عاقولي في فوائدہ و ابن الاعرابي في كرامات الاولياء وهكذا ذكره حرملقي جمعه لحدیث ابن وهب وهو اسناد حسن.

۲۔ رواه ابن مردويه كذا في الاصابة (ج ۲ ص ۳) و اخرجہ أيضاً ابونعیم في الدلائل (ص ۱۹۰) و ابو عبد الرحمن المسلمي في الاربعين و اخرجہ الخطيب في رواة مالك و ابن عساکر عن ابن عمر كما في المنتخب (ج ۳ ص ۳۸۶) قال ابن كثير في البداية (ج ۷ ص ۱۳۱) وفي صحفة من حدیث مالك نظر.

۳۔ اخرجہ ابونعیم في الدلائل (ص ۲۱۰) من طريق نصر بن طريف

ابو نعیم کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ پھر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ حضرت عمرؓ کے پاس گئے۔ حضرت عمرؓ کو حضرت عبدالرحمنؓ پر مکمل اعتماد اور اطمینان تھا۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا مجھے آپ کی وجہ سے لوگوں کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور یوں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہ خطبہ دیتے دیتے آپ ایک دم اے ساریہؓ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ زور سے کہنے لگے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اللہ کی قسم! میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ساریہؓ کا لشکر ایک پہاڑ کے پاس لڑ رہا ہے اور ان پر آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے اس پر میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا اور ایک دم میری زبان سے نکل گیا اے ساریہؓ! پہاڑ کی طرف ہو جاؤ اور میں نے یہ اس لئے کہا تا کہ یہ لوگ پہاڑ کی طرف ہو جائیں (اور انہیں صرف ایک طرف سے لڑنا پڑے) کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت ساریہؓ کا قاصدان کا خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا ہم نے صبح نماز پڑھ کر لڑائی شروع کی یہاں تک کہ جمعہ کا وقت ہو گیا اور سورج کا کنارہ ڈھل گیا تو ہم نے سنا کہ کسی آدمی نے دو مرتبہ زور سے یہ اعلان کیا اے ساریہؓ! پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے اس طرح ہم دشمن پر غالب آنے لگے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی اور ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا لوگوں نے حضرت عمرؓ کے اس عمل پر خواہ مخواہ اعتراض کیا تھا اس آدمی کو چھوڑے رکھو اسے کچھ نہ کہو کیونکہ اس کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔! واقدی میں زید بن اسلم اور یعقوب بن زید کی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر بن خطابؓ سے پوچھا یہ آپ نے کیا کہہ دیا تھا؟ حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم! میں نے حضرت ساریہؓ کو وہی بات کہی جو اللہ کی طرف سے میری زبان پر جاری ہوئی۔

حضرت عذہ بنت عیاض بن ابی قرصافہ رحمۃ اللہ علیہا کہتی ہیں رومیوں نے حضرت ابو قرصافہؓ کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت ابو قرصافہؓ عسقلان شہر کی فصیل کی دیوار پر چڑھ کر زور سے کہتے اے فلا نے! نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ان کا میناروم کے شہر میں ان کی یہ آواز سن لیا کرتا۔۲

۱۔ عند ابی نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۱) من طریق عمر و بن الحارث و اخرجہ الواقدی عن زید بن اسلم و یعقوب بن زید کما فی البدایہ (ج ۷ ص ۱۳۱) قال ابن کثیر فہذہ طرق یشد بعضها بعضا۔ انہی علی ان طریق ابن وہب حسنہ ابن کثیر ثم الحافظ ابن حجر رحمہما اللہ تعالیٰ  
۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۹۶) رجالہ ثقات ۵۱

## صحابہ کرامؓ کا غیبی آوازیں سننا جن کا بولنے والا نظر نہیں آتا تھا

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو غسل دینے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ غسل کے لئے حضورؐ کا کرتا اتارا جائے یا نہ اتارا جائے تو ان سب نے ایک غیبی آواز کو سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نبیؐ کو کرتے ہی میں غسل دے دو آواز تو آرہی تھی لیکن بولنے والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے؟ چنانچہ حضورؐ کو کرتے ہی میں غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا تم انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دے دو، کہنے والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے سمندر کا سفر کرنے والے ایک لشکر کا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تو رات کے وقت کشتی ان کو لیئے جارہی تھی کہ اچانک ایک منادی نے اوپر سے انہیں پکار کر کہا کیا تمہیں وہ فیصلہ نہ بتا دوں جو اللہ نے اپنے بارے میں کیا ہوا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی (روزہ رکھ کر) گرم دن میں اللہ کے لئے پیاسا رہے گا تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے بڑی پیاس والے دن یعنی قیامت کے دن اچھی طرح پانی پلائے۔

حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ سمندری غزوے میں گئے، چنانچہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے ہوا بالکل موافق تھی اور باد بان اٹھے ہوئے تھے ہم نے ایک منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا انے کشتی والو! ٹھہر جاؤ میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں اس نے یہ اعلان مسلسل سات مرتبہ کیا۔ میں نے کشتی کے اگلے حصہ پر کھڑے ہو کر کہا تو کون ہے؟ اور کہاں سے آیا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کیا میں آپ لوگوں کو وہ فیصلہ نہ بتاؤں جو اللہ نے اپنے بارے میں کیا ہے میں نے کہا ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گرم دن میں اپنے آپ کو اللہ کے لئے (روزہ رکھ کر) پیاسا رکھے گا اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اسے قیامت کے دن سیراب کرے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰؓ اس سخت گرم دن کی تلاش میں رہتے جس میں انسان کی کھال جل جائے اور اس دن روزہ رکھتے۔

حضرت سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کا طائف میں انتقال ہوا۔ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تو اتنے میں ایک پرندہ آیا اس جیسی شکل و صورت کا پرندہ کبھی

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۲ ص ۲۷۶) و اخرجہ ایضا عن عائشہ رضی اللہ عنہا بمعناہ  
 ۲۔ اخرجہ الحاکم (ج ۲ ص ۲۷۷) قال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد و ولم یخرجاه و قال  
 الذہبی ابن المؤمل ضعیف  
 ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۶۰) عن ابی بردۃ

کسی نے نہیں دیکھا تھا وہ پرندہ آ کر ان کے جسم میں داخل ہو گیا ہم دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا اب باہر نکلے گا لیکن کسی نے اسے باہر نکلتے نہ دیکھا اور جب انہیں دفن کیا گیا تو کسی نے قبر کے کنارے پر یہ آیت پڑھی اور پڑھنے والے کا کچھ پتہ نہ چلا یا آیتھا النفس المطمئنة ۵ ارجعی الی ربک راضیة مرضیة ۵ فاذخلی فی عبادی واذخلی جنتی (سورت فجر آیت ۲۷-۳۰) (اور جو اللہ کے فرمانبردار تھے ان کو ارشاد ہوگا) اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار (کے جوار رحمت) کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش پھر (ادھر چل) تو میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو جا (کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے) اور میری جنت میں داخل ہو جا۔" احاکم میں اسماعیل بن علی اور عیسیٰ بن علی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ سفید پرندہ تھا اور ٹیٹھی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ سفید پرندہ تھا جسے بگلا کہا جاتا ہے میمون بن مہران کی روایت میں ہے کہ جب ان پر مٹی ڈال دی گئی تو ہم نے ایک آواز سنی تو ہم سن رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ۲ میمون بن مہران کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابن عباس کا انتقال ہوا اور انہیں کفن پہنایا جانے لگا تو ایک سفید پرندہ تیزی سے ان پر گرا اور ان کے کفن کے اندر چلا گیا۔ اسے بہت تلاش کیا گیا لیکن نہ ملا۔ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت عکرمہ نے کہا کیا تم لوگ بیوقوف ہو؟ (جو پرندہ تلاش کر رہے ہو) یہ تو ان کی بیٹائی ہے جس کے بارے میں حضور ﷺ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وفات کے دن انہیں واپس مل جائے گی پھر جب لوگ جنازہ قبر پر لے گئے اور انہیں لحد میں رکھ دیا گیا تو غیبی آواز نے چند کلمات کہے جنہیں ان سب لوگوں نے سنا جو قبر کے کنارے پر تھے پھر میمون نے پچھلی آیات ذکر کیں۔

## جنات اور غیبی آوازوں کا صحابہ کرام کی مدد کرنا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضرت خرم بن خرم بن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطابؓ سے کہا اے امیر المؤمنین! کیا آپ کو نہ بتاؤں کہ میرے اسلام لانے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا ضرور بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ اپنے جانور تلاش کر رہا تھا اور ان کے نشانات پر چل رہا تھا کہ اسی میں براق العزاف مقام پر مجھے رات آگئی تو میں نے اونچی آواز سے پکار کر کہا میں اس وادی کے (جن) بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کی قوم کے بیوقوفوں سے۔ تو غیب سے کسی نے بلند آواز سے کہا

۱۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۵۳۲) و اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۲۸۵) و رجالہ رجال الصحیح و روی عن عبد اللہ بن یامین عن ابیہ نحوہ الا انه قال جاء طائر ابيض یقال له الغر نوک۔ انتہی  
۲۔ اخرجہ ابونعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۳۲۹) عن میمون بن مہران فی حدیث طویل کما فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۳۰)

و یحک عذ باللہ ذی الجلال والمجد والنعماء والافضال  
تیرا بھلا ہوا اللہ کی پناہ مانگ جو جلال، بزرگی، نعمت اور فضل والا ہے  
واقرا آیات من الانفال ووجد اللہ ولا تبال  
سورت انفال کی آیتیں پڑھ اور اللہ کو ایک مان اور کسی کی پرواہ نہ کر۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ ڈر  
گیا۔ جب میری جان میں جان آئی تو میں نے کہا  
یا ایہا الہاتف ماتقول ارشد عندک ام تضلیل

بین لنا ہدیت ما الحویل  
”اے نبی آواز دینے والے! تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے یا گمراہ کرنا چاہتا  
ہے؟ اللہ تجھے ہدایت دے ہمیں صاف صاف بتا کہ کیا صورت ہے؟ اس نے جواب میں کہا۔

ان رسول اللہ ذوالخیرات یامر بالصوم والصلاة  
بیشرب یدعو الی النجاة  
ویزجر الناس عن المہنات  
”تمام خیروں کو۔ لے کر آنے والے اللہ کے رسولؐ یثرب میں نجات کی دعوت دے رہے ہیں وہ  
نماز اور روزے کا حکم دیتے ہیں اور شر والے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔“ میں نے اپنی  
سواری آگے بڑھا کر کہا۔

ارشد نبی رشد اہدیت لاجعت ولا عریت  
”مجھے سیدھا راستہ بتا اللہ تجھے ہدایت دے تو کبھی بھوکا ننگا نہ ہو اور تو ہمیشہ طاقتور سردار بنا رہے اور  
جو خیر تجھے ملی ہے اس کا مجھ پر زیادہ بوجھ نہ ڈال۔“ وہ یہ اشعار پڑھتا ہوا میرے پیچھے آیا  
صاحبک اللہ وسلم نفسکا وبلغ الاہل وادی رحلکا  
امن بہ افلیح ربی حفکا  
”اللہ ہمیشہ تیرا ساھی ہو اور تیری جان کو صحیح سالم رکھے اور تجھے گھر والوں تک پہنچائے اور تیری  
سواری کو بھی پہنچائے۔“

”تو اللہ کے رسولؐ پر ایمان لا میرا رب تیرے حق کو بامراد کرے اور اس رسولؐ کی مدد کر میرا رب  
تیری اچھی طرح نصرت کرے۔“

میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اٹال کا بیٹا عمرو ہوں اور اللہ کے رسولؐ  
کی طرف سے نجد کے مسلمان جنات کا امیر ہوں تمہارے گھر پہنچنے تک تمہارے اونٹوں کی حفاظت  
ہوگی تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ میں جمعہ کے دن مدینہ میں داخل ہوا۔  
حضرت ابو بکر صدیقؓ میرے پاس باہر آئے اور کہا اللہ تجھ پر رحم کرے اندر آ جاؤ ہمیں تمہارے  
مسلمان ہونے کی خبر پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا مجھے اچھی طرح وضو کرنا نہیں آتا، چنانچہ انہوں نے

مجھے وضو کرنا سکھایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا میں نے حضور کو منبر پر بیان کرتے ہوئے دیکھا آپ بالکل چودھویں رات کے چاند کی طرح لگ رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر سوچ سمجھ کر دھیان سے ایسی نماز پڑھتا ہے جس کی ہر طرح حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا پھر حضرت عمر بن خطابؓ نے مجھ سے کہا تم اپنی اس حدیث پر گواہ لاؤ نہیں تو میں تمہیں سزا دوں گا، چنانچہ قریش کے بزرگ حضرت عثمان بن عفانؓ نے میرے حق میں گواہی دی جسے حضرت عمرؓ نے قبول کر لیا۔

ابونعیم نے دلائل النبوة میں حضرت ابو ہریرہؓ سے اسی جیسی حدیث نقل کی ہے جس میں اشعار

اس طرح ہیں

لا جعت با هذا ولا عربنا

ارشدنی رشد ابہا ہدینا

لا یثوبن الخیر ان ثوبنا

ولا صحبت صاحبنا مقینا

”مجھے صحیح راستہ بتا اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے اے فلانے! تو نہ کبھی بھوکا ہو اور نہ کبھی تنگ اور نہ کبھی ایسے ساتھی کے ساتھ رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور اگر تو مر جائے تو تیری خیر ختم نہ ہو بلکہ ہمیشہ باقی رہے۔“ حضرت حسن کہتے ہیں حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا مجھے کوئی ایسی حدیث سناؤ جس سے حیرت بھی ہو اور خوشی بھی ہو تو حضرت ابن عباسؓ نے مجھے حضرت خرم بن فاتک رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ سنایا پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں میں نے جب بھی سنا کہ حضرت عمرؓ نے کسی چیز کے بارے میں کہا ہو کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے تو وہ اسی طرح ہوتی جس طرح ان کا گمان ہوتا، چنانچہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک خوبصورت آدمی گزرا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا یا تو میرا اندازہ غلط ہے یا یہ آدمی ابھی تک اپنے جاہلیت والے دین پر ہے یا پھر یہ جاہلیت میں کاہن تھا اسے میرے پاس لاؤ لوگ اس آدمی کو بلا کر لائے تو حضرت عمرؓ نے اس سے اپنی بات کہی اس نے کہا میں نے آج جیسا دن کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان آدمی کے منہ پر ایسی بات صاف کہہ دی گئی ہو۔ حضرت عمرؓ نے کہا میں تمہیں پُر زور تاکید کرتا ہوں کہ تم مجھے ساری بات بتاؤ۔ اس آدمی نے کہا میں جاہلیت میں کاہن تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا جو جن تمہارے پاس آتا تھا اس کا سب سے عجیب و غریب قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک دن میں بازار میں تھا وہ جن میرے پاس

۱۔ اخرجہ الرویانی و ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۳۳) ۲۔ اخرجہ ابونعیم فی الدلائل النبوة (ص ۳۰) ۳۔ اخرجہ الطبرانی عن محمد بن ابی الحسن عن ابیہ کذا فی الاصابة (ج ۳ ص ۳۵۳) قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۵۱) رواہ الطبرانی و فیہ من لم اعرفہم و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۶۲۱) من طریق الحسن بن محمد بن علی عن ابیہ قال قال عمر ف ذکر بمعناه قال الذہبی لم یصح و اخرجہ الاموی ایضا کما فی البدایة (ج ۲ ص ۳۵۳)

گھبرایا ہوا آیا اور اس نے یہ شعر پڑھے

الم تر الجن و ابلاسها و یاسها من بعد انکاسها

ولحو قها بالفلاص و احلاسها

”کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمام جنات حیران و پریشان ہیں اور (پہلے تو آسمان پر چڑھ جاتے تھے اور) اب آسمان سے ناامید ہو کر واپس آ رہے ہیں بلکہ اسلام میں داخل ہو کر جوان اونٹنیوں اور ان پر کجاوے کے نیچے بچھائی جانے والی چادروں والے عربوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔“ حضرت عمرؓ نے کہا اس نے سچ کہا میں بھی ایک دن کفار کے معبودوں کے پاس سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی ایک پکھڑا لایا اور اس نے اسے ذبح کیا پھر کسی چیخنے والے نے زور سے چیخ کر کہا میں نے اس سے زیادہ سخت چیخ کبھی نہیں سنی تھی اس نے کہا اے صلح! (یہ کسی آدمی کا نام ہے) یہ کامیابی والا کام ہے ایک فصیح آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ سب لوگ گھبرا کر اٹھ گئے میں نے کہا میں تو یہاں ہی رہوں گا جب پتہ چل جائے گا کہ اس آواز کے پس پردہ کیا ہے تب یہاں سے جاؤں گا اس نے پھر پکار کر کہا اے صلح! یہ کامیابی والا کام ہے ایک فصیح آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے پھر میں وہاں سے اٹھا کچھ عرصہ بعد ہی ہمیں بتایا گیا کہ یہ نبی ہیں یہ روایت صرف بخاری میں ہے اور یہ کاہن آدمی حضرت سواد بن قاربؓ ہیں۔!

حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر بن خطابؓ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا اے امیر المؤمنین کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حضرت سواد بن قاربؓ ہیں جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور ﷺ کے ظاہر ہونے کی خبر دی تھی، چنانچہ حضرت عمرؓ نے پیغام دے کر انہیں بلایا اور فرمایا کیا آپ ہی سواد بن قاربؓ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم زمانہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتے تھے؟ اس پر حضرت سوادؓ غصہ آ گیا اور کہا اے امیر المؤمنین! جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے منہ پر ایسی بات نہیں کہی ہے حضرت عمرؓ نے کہا سبحان اللہ! ہم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا۔ تمہارے تابع جن نے حضور ﷺ کے ظاہر ہونے کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین! جی ہاں! ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کے درمیان کی حالت میں تھا میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب! اٹھ اور میری بات سن اور اگر تیرے اندر عقل ہے تو تو سمجھ لے کہ (قریش کی شاخ) لوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے پھر یہ شعر پڑھنے لگا

عجبت للجن و نطلابها  
تھوی الی مکة تبغی الهدی  
فارحل الی الصفوة من ہاشم  
و شدھا العیس باقتابھا  
ما صادق الجن ککذابھا  
لیس قدامھا کاذنابھا

”مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف سفر کر رہے ہیں یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لئے مکے جا رہے ہیں۔ سچا جن اور جھوٹا جن دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے لہذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور عمدہ اور ہدایت میں پہل کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا۔ بلکہ اس سے افضل ہوگا۔“

میں نے اس جن سے کہا مجھے سونے دو مجھے شام سے بہت نیند آرہی ہے۔ اگلی رات وہ میرے پاس پھر آیا اور اس نے پھر پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب! اٹھ اور میری بات سن اور اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ لوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگا۔

عجبت للجن و تحبارھا  
تھوی الی مکة تبغی الهدی  
فارحل الی الصفوة من ہاشم  
و شدھا العیس باکو اراھا  
مامونو الجن ککفارھا  
بین روایبھا واحجازھا

”مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جنات حیران پریشان ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے مکے جا رہے ہیں۔ مومن جن کافر جن جیسے نہیں ہو سکتے لہذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں چیدہ اور برگزیدہ ہیں اور مکہ کے ٹیلوں اور پتھروں کے درمیان رہتے ہیں۔“

میں نے اس سے کہا مجھے سونے دو مجھے شام سے بہت نیند آرہی ہے۔ تیسری رات وہ پھر میرے پاس آیا اور پھر پاؤں مار کر کہا اے سواد بن قارب! اٹھ اور میری بات سن اور اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ لوی بن غالب میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے پھر وہ یہ اشعار پڑھنے لگا

عجبت للجن و تجاسھا  
تھوی الی مکة تبغی الهدی  
فارحل الی الصفوة من ہاشم  
و شدھا العیس باحلاسھا  
ماخیر الجن کانجاسھا  
واسم بعینک الی راسھا

”مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے کے نیچے ٹاٹ رکھ کر ہر طرف کا سفر کر رہے ہیں یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لئے مکے



جار ہے ہیں اور خیر والا جن ناپاک جن کی طرح نہیں ہو سکتا لہذا تم سفر کر کے اس ہستی کے پاس جاؤ جو بنی ہاشم میں برگزیدہ ہیں اور آنکھیں بلند کر کے مکہ کی چوٹی کی طرف دیکھو۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ نے میرے دل کو اچھی طرح جانچ لیا ہے یعنی جن کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا پھر میں مدینہ آیا تو وہاں حضور ﷺ اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے، میں نے قریب جا کر عرض کیا میری درخواست بھی سن لیں آپ نے فرمایا کہہ میں نے یہ اشعار پڑھے

اتانی نجی بعد هدء ورفدة	ولم یک فیما قد بلوت بکاذب
ثلاث لیلال قولہ کل لیلۃ	اتاک رسول من لوی بن غالب
فشمزت عن ذیل الازار ووسطت	بی الذعلب الوجناء خیر السباب
فاشهد ان اللہ لاشیء غیرہ	وانک مامون علی کل غائب
وانک اذنی المزاملین ونبیۃ	الی اللہ یا ابن الاکرمین الا طایب
فمرنا بما یا نیکب یا خیر من مشی	وان کان فیما جاء شیب الذوائب
وکن لی شفیعاً یوم لا ذو شفاعة	سواک بمعن عن سواد بن قارب

”ابتدائی رات کے کچھ حصے کے گزر جانے اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھ سے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس تین رات آتا رہا اور جہاں تک میں نے اسے آزما یا وہ جھوٹا نہیں تھا اور ہر رات مجھ سے یہی کہتا رہا کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو قبیلہ لوی بن غالب میں سے ہے اس پر میں نے سفر کے لئے اپنی لنگی چڑھالی اور (میں نے سفر شروع کر دیا) تیز رفتار بڑے رخساروں والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع غبار آلود میدانوں میں چلتی رہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز (عبادت کے لائق) نہیں اور آپ غیب کی ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں اور اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے! آپ اللہ تک پہنچنے کے لئے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہیں اور اے روئے زمین پر چلنے والوں میں سب سے اچھے! آپ ہمیں ان تمام اعمال کا حکم دیں جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آرہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے چاہے ان اعمال کی محنت میں ہمارے بال سفید ہو جائیں اور آپ میرے اس دن سفارشی بن جائیں جس دن آپ کے علاوہ اور کوئی سفارشی سواد بن قارب کے کسی کام نہیں آسکتا۔“ میرے اشعار سن کر حضور ﷺ اور تمام صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے حتیٰ کہ ان سب کے چہروں میں خوشی نمایاں نظر آنے لگی۔ حضرت محمدؐ کعب قرظی راوی کہتے ہیں یہ قصہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر حضرت سواد سے چمٹ گئے اور فرمایا میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ سارا قصہ سنوں۔ کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سواد نے کہا جب سے میں نے

قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ نہیں آیا۔ اور اس جن کی جگہ اللہ کی کتاب نعم البدل ہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم ایک دن قریش کے ایک قبیلہ میں تھے جن کو آل ذریح کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک ٹھنڈا ذبح کیا اور قصاب اس کا گوشت بنا رہا تھا کہ اتنے میں ہم سب نے ٹھنڈے کے پیٹ میں سے آواز سنی اور بولنے والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا اے آل ذریح! یہ کامیابی والا کام ہے۔ ایک پکارنے والا پکار کر صحیح زبان میں کہہ رہا ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت براءؓ کی روایت میں ہے کہ حضرت سواد بن قاربؓ نے فرمایا میں ہندوستان میں ٹھہرا ہوا تھا تو ایک رات میرا تابع جن میرے پاس آیا پھر سارے قصے کے بعد آخری اشعار سننے کے بعد یہ ہے کہ اشعار سن کر حضورؐ اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے اور آپ نے فرمایا اے سواد! تم کامیاب ہو گئے۔

حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سوادؓ فرماتے ہیں کہ جن کی باتوں سے میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی اور اسلام کا شوق پیدا ہو گیا۔ صبح کو میں نے اونٹنی پر کجاوہ کسا اور مکہ کی طرف چل پڑا راستہ میں لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، چنانچہ میں مدینہ چلا گیا اور وہاں جا کر حضورؐ کے بارے میں پوچھا لوگوں نے بتایا کہ حضورؐ مسجد میں ہیں میں مسجد گیا اور اونٹنی کے پاؤں کوری باندھ کر اندر گیا تو حضورؐ شریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری درخواست سن لیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا حضورؐ کے قریب آ جاؤ میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ حضورؐ کے سامنے پہنچ گیا تو حضورؐ نے فرمایا کہو اور تمہارا جن جو تمہارے پاس آتا رہا اس کے بارے میں بتاؤ۔

حضرت عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب میرے والد مرداس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے ضمنا نامی بت کے خیال رکھنے کی وصیت کی۔ میں نے اس بت کو ایک کمرے میں رکھ لیا اور روزانہ اس کے پاس جانے لگا۔ جب نبی کریم ﷺ کا ظہور ہوا تو ایک دفعہ میں نے آدھی رات کو ایک آواز سنی جس سے میں ڈر گیا اور چھلانگ لگا کر اٹھا اور مدد لینے کے لئے ضمنا کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اسی

۱۔ رواہ الحافظ ابو یعلیٰ الموصلی و هذا منقطع من هذا الوجه و ليشهد له رواية البخاری و اخرجه الخرائطي في هواتف الجان عن ابي جعفر محمد بن هلي و ابن عساكر عن سواد بن قارب و البراء رضی اللہ عنہما انتہی مختصراً من البداية (ج ۲ ص ۳۳۲)

۲۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۱۰۸) و اخرجه الطبرانی ايضا عن محمد بن كعب بسياق الحاكم كما في المجموع (ج ۸ ص ۲۲۸) وقد اخرج الحديث ايضا الحسن سفیان و البيهقي عن محمد بن كعب و البخاری في التاريخ البغوي و الطبرانی عن سواد بن قارب و البيهقي عن البراء و ابن ابي خثيمة و الروياني عن ابي جعفر الباقر و ابن شاهين عن انس بن مالك كما بسط طرق هؤلاء في الاصابة (ج ۲ ص ۹۶)

کے پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے اور وہ یہ اشعار کہہ رہا ہے

هلک الانیس وعاش اهل المسجد

قل للقبيلة من سلیم کلها

قل الكتاب الی النبی محمد

اودی ضمیر و کان بعد مدة

بعد ابن مریم من قریش مہند

ان الذی ورث النبوة والهدی

”سارے قبیلہ سلیم سے کہہ دو کہ بت اور ان کے پوجنے والے مردہ باد اور مسجد والے زندہ باد۔ ضمیر بت ہلاک ہو گیا اور نبی کریم حضرت محمد (ﷺ) کے پاس کتاب کے آنے سے پہلے اس کی عبادت کی جاتی تھی اور قبیلہ قریش کی جو ہستی (حضرت عیسیٰ) ابن مریم (علیہ السلام) کے بعد نبوت اور ہدایت کی وارث ہوئی ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔“

حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے یہ ساری بات لوگوں سے چھپا کر رکھی اور کسی کو نہ بتائی جب کفار غزوہ احزاب سے واپس آئے تو ایک مرتبہ میں ذاتِ عرق کے پاس مقام عقیق کے ایک کنارے پر اپنے اونٹوں میں سویا ہوا تھا میں نے ایک دم آواز سنی (جس سے میری آنکھ کھل گئی) اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی شتر مرغ کے پر کے اوپر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے وہ نور حاصل کر لو جو منگل کی رات کو غضباء نامی اونٹنی والے پر بنو عقیق کے بھائیوں کے علاقہ میں یعنی مدینہ میں اترا ہے۔ اس کے جواب میں اس کی بائیں جانب سے ایک نبی آواز دینے والے نے یہ اشعار کہے

ان وضعت المعطی احلامها

بشر الجن و اہلاسها

و کلمات السماء احراسها

”جنات کو خبر دے دو کہ جنات اس وجہ سے حیران و پریشان ہیں کہ اونٹنیوں نے اپنے پالان رکھ دیئے ہیں اور آسمان کے چوکیداروں نے آسمان کی حفاظت شروع کر دی ہے۔“ حضرت عباس کہتے ہیں میں خوفزدہ ہو کر ایک دم اٹھا اور سمجھ گیا کہ حضرت محمد (ﷺ) (اللہ کے بھیجے ہوئے) رسول ہیں چنانچہ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور بہت تیزی سے سفر کیا یہاں تک کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچ کر آپ سے بیعت ہو گیا پھر واپس آ کر میں نے ضمیر کو آگ سے جلادیا۔ میں دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ اشعار آپ کو سنائے

ضمیر لرب العالمین مشار کا

لعمرك انی یوم اجعل جاہلا

اولئک انصار له ما اولائکا

وترکی رسول اللہ والاوس حوله

لسلک فی وعث الامور المسالکا

کنارک سهل الارض والحزن یطی

وخالفت من امسی یرید المہالکا

قامت باللہ الذی انا عبده

ابایع نبی الا کرمین المبارکا

ووجہت وجہی نحو مکة قاصدا

من الحق فیہ الفصل فیہ کذلکا

نبی انا بعد عیسی بناطق

و اول مبعوث یجیب الملائکا  
فاحکمها حتی الام المناسکا  
توسطت فی الفرعین و المجد مالکا  
علی ضمیرها تبقی القرون المبارکا  
و جدنک محضا و النساء العوارکا

امین علی الفرقان اول شافع  
تلافی عری الاسلام بعد انتقاضها  
عنیک یاخیر المیرة کلها  
وانت المصفی من قریش اذا سمت  
اذا انتسب الحیان کعب و مالک

”آپ کی زندگی کی قسم! جب میں جاہل تھا تو میں نے ضاربت کو رب العالمین کا شریک بنا رکھا تھا اور میں نے اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوا تھا اور قبیلہ اوس ہر وقت آپ کے چاروں طرف جاں نثار تھا یہ سب آپ کے مددگار بنے ہوئے تھے اور یہ کیا ہی اچھے لوگ ہیں اور میری مثال اس آدمی جیسی تھی جو زم زمین کو چھوڑ کر سخت زمین کو تلاش کرے تاکہ مشکل کاموں کے راستے پر چلے پھر میں اس اللہ پر ایمان لے آیا جس کا میں بندہ ہوں اور میں نے اس آدمی کی مخالفت کی جو (ایمان چھوڑ کر) ہلاکت کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے اور میں نے کریم لوگوں کے مبارک نبی سے بیعت ہونے کے ارادے سے اپنا رخ مکہ کی طرف کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے پاس ایسے نبی آئے ہیں جو بولتا ہوا قرآن لے کر آئے ہیں اور اس میں ایسی باتیں ہیں جن سے حق اور باطل جدا جدا ہو جاتا ہے اور واقعی اس میں ایسی باتیں ہیں حضور قرآن کے امین ہیں اور (قیامت کے دن) سب سے پہلے سفارش کریں گے اور سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور فرشتوں کو جواب دیں گے۔ اسلام کے دستے ٹوٹ چکے تھے آپ نے ان سب کو جوڑ دیا اور انہیں خوب مضبوط کیا اور سارے احکام الہی زندہ کر دیئے۔ اے ساری مخلوق میں سب سے بہترین شخص! آپ ہی میرے مقصود ہیں آپ اگلوں پچھلوں میں اعلیٰ نسب والے ہیں اور قبیلہ مالک میں بزرگی میں سب سے آگے ہیں جب قریش بھوک اور کمزوری کے باوجود بلندیاں حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے ان میں سے سب سے زیادہ صاف ستمرے اور پاکیزہ ہیں اور آپ تمام زمانوں میں بابرکت رہیں گے جب قبیلہ کعب اور قبیلہ مالک اپنا اپنا نسب بیان کریں گے تو ہم آپ کو خالص نسب والا اور عورتوں کو گند پائیں گے“۔ اور خرائطی کی روایت میں پہلے تین اشعار کے بعد یہ ہے کہ حضرت عباس بن مرداس فرماتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہو کر نکلا اور اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں سارا قصہ سنایا اور اپنی قوم بنو حارثہ کے تین سو آدمی لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں مدینہ گیا اور وہاں جا کر

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۳۳) و اخرجہ الخرائطی عن العباس بن مرداس مختصراً كما فی البداية (ج ۲ ص ۳۳۱) و رواہ ابو نعیم فی الدلائل كما فی البداية (ج ۲ ص ۳۳۲) و اخرجہ الطبرانی ایضاً بهذا الاسناد نحوه قال الهیثمی (ج ۸ ص ۲۳۷) و فیہ عبد اللہ بن عبد العزیز اللہبی ضعه النجمور و وقته سعید بن منصور و قال کان مالک یرضاه و بقية رجاله و قوا. انتهى

مسجد میں داخل ہوئے۔ جب حضورؐ نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے عباس! تمہارے اسلام لانے کی کیا صورت ہوئی؟ میں نے آپؐ کو سارا قصہ سنایا جس سے آپؐ بہت خوش ہوئے اور یوں میں اور میری قوم والے سب مسلمان ہو گئے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے مبعوث ہونے کی خبر مدینہ میں سب سے پہلے اس طرح ملی کہ مدینہ کی ایک عورت کا ایک جن تابع تھا ایک دفعہ وہ سفید پرندے کی شکل میں آیا اور اس کی دھیوار پر بیٹھ گیا اس عورت نے اس سے کہا تم نیچے کیوں نہیں آتے تاکہ ہم آپس میں باتیں کریں اور ایک دوسرے کو حالات بتائیں۔ اس نے کہا مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور ہمارا چین سکون چھین لیا ہے (پہلے ہم آسمان پر جا کر وہاں کی خبریں لے آتے تھے اب وہاں نہیں جاسکتے، اس لئے پریشان ہیں)۔

حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور ﷺ کے بارے میں مدینہ میں سب سے پہلی خبر اس طرح آئی کہ ایک عورت کا نام فاطمہ تھا اس کے پاس ایک جن آیا کرتا تھا، چنانچہ ایک دن وہ جن آیا اور دیوار پر کھڑا ہو گیا اس عورت نے کہا تم نیچے کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا نہیں اب وہ رسول مبعوث ہو گئے ہیں جنہوں نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔

حضرت عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کی بعثت سے پہلے ہم ایک تجارتی قافلہ میں ملک شام گئے۔ جب ہم ملک شام کی حدود میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک نجومی عورت ہمارے سامنے آئی اور اس نے کہا کہ میرا (جن) ساتھی میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا کیا تو اندر نہیں آئے گا؟ اس نے کہا اب اس کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ احمدؓ کا ظہور ہو گیا ہے اور ایسا حکم آ گیا ہے جو میرے بس میں نہیں ہے۔ میں وہاں سے جب مکہ واپس آیا تو دیکھا کہ مکہ میں حضور ﷺ کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک بڑے میاں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا انہیں ابن عیسیٰ کہا جاتا تھا غزوہ رودس میں ہم اور وہ اکٹھے تھے (رودس ملک شام کا ایک جزیرہ ہے) انہوں نے مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ میں اپنے خاندان کی ایک گائے ہانکے جا رہا تھا کہ اتنے میں میں نے اس کے پیٹ سے یہ آواز سنی اے آل ذریح! ایک صاف اور واضح بات ہے کہ ایک آدمی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے وہ بڑے میاں کہتے ہیں پھر ہم مکہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں نبی

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۹) و اخرجہ احمد والطبرانی فی الاوسط و رجالہ و تقوا کما قال

الہیثمی (ج ۸ ص ۲۲۳) و اخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۱۹۰) ایضاً نحوہ

۲۔ اخرجہ الواقدی کذالی البدایة (ج ۲ ص ۳۲۸) ۳۔ اخرجہ الواقدی عن عاصم بن عمر

کذالی البدایة (ج ۲ ص ۳۳۸) و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۹) من طریق الواقدی نحوہ

کریم ﷺ کا ظہور ہو چکا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک کافر جن نے مکہ میں ابوقیس پہاڑ پر آواز دی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے یہ اشعار کہے

فبح اللہ رای کعب بن فہر	مارق العقول والا حلام
دینہا انہا یعنف فیہا	دین ابانہا الحماة الکرام
خالف الجن جن بصری علیکم	ورجال النخیل والاطام
هل کریم لکم له نفس حر	ماجد الوالدین والاعمام
یوشک الخیل ان تررها نہادی	تقتل القوم فی بلاد النہام
ضارب ضربة تکنون نکالا	ورواحا من کربة واغتمام

”کعب بن فہر یعنی قریش کی رائے کو اللہ برا کرے ان کی عقل اور سمجھ کس قدر کمزور ہے (قریش میں جو مسلمان ہو چکے ہیں) ان کا دین یہ ہے کہ وہ اپنے حفاظت کرنے والے بزرگ آباء اجداد کے دین یعنی بت پرستی کو برا بھلا کہتے ہیں بھری کے جنات نے اور کھجور کے درختوں اور قلعوں کے علاقہ یعنی مدینہ کے رہنے والے انصار نے (اسلام لا کر اور اسے پھیلانے کی محنت کر کے) عام جنات کی مخالفت کی ہے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچایا ہے کیا تم میں ایسا بااخلاق آدمی نہیں ہے جو شریف النفس ہو اور جس کے والدین اور سارے چچا بزرگی والے ہوں؟ عنقریب تم گھوڑوں والا لشکر دیکھو گے جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور تہامہ کے علاقہ میں (مسلمانوں کی) اس قوم کو قتل کریں گے اور مسلمانوں پر تلواروں سے ایسی ضربیں لگائیں گے جن میں ان کے لیے عبرتناک سزا ہوگی اور تمہارے لئے بے چینی اور غم سے راحت ہوگی (یہ کافر جن مشرکوں کو جھوٹی خوشخبری دے رہا ہے)۔“ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ بات سارے مکہ میں پھیل گئی اور مشرکین ایک دوسرے کو یہ اشعار سنانے لگے اور ایمان والوں کو مزید ایذا دینے اور مار ڈالنے کے ارادے کرنے لگے اس پر حضور ﷺ نے فرمایا یہ ایک شیطان تھا جس نے لوگوں سے بتوں کے بارے میں بات کی ہے اسے مسخر کہا جاتا ہے اللہ اسے رسوا کریں گے، چنانچہ تین دن گزرنے کے بعد اسی پہاڑ پر ایک نبی آواز دینے والے نے یہ اشعار پڑھے

نحن قتلنا مسعرا	لما ظفی واسنکبرا
ومفہ الحق وسن المنکر	فنعنه سیفا جروفا مبترا

بشتمہ نبینا المطہرا

”جب مسعر نے سرکشی اور تکبر کیا اور حق کو بیوقوفی کی چیز بتایا اور منکر چیز کو چلایا تو ہم نے اسے قتل

کر دیا۔ میں نے ایسی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا جو کام پورا کر دینے والی اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا کہ اس نے ہمارے پاک نبی کی شان میں برے کلمات استعمال کیے تھے۔“

حضور ﷺ نے فرمایا یہ ایک قوی ہیکل جن تھا جسے سچ کہا جاتا تھا میں نے اس کا نام عبد اللہ رکھا تھا یہ مجھ پر ایمان لایا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسعر کو تین دن سے تلاش کر رہا تھا اس پر حضرت علی بن ابی طالبؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے جزائے خیر دے۔

حضرت عبد اللہ بن محمود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ قبیلہ شعم کے چند آدمی کہتے تھے کہ جن باتوں کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دعوت ملی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم بت پرست قوم تھے ایک دن ہم لوگ اپنے ایک بت کے پاس تھے کہ کچھ لوگ اس بت کے پاس اپنا ایک فیصلہ لے کر آئے انہیں امید تھی کہ جس بات میں ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس کا حل ہمیں اس بت سے مل جائے گا کہ اتنے میں ایک نبی آواز دینے والے نے انہیں آواز دے کر کہا

يا ايها الناس ذو الاجسام	من بين اشياخ الی غلام
ما انتم و طائش الاحلام	و مسند الحكم الی الاصنام
اكلکم فی حيرة نيام	ام لاترون ما الذی امام
من ساطع بجلود حی الظلام	قد لاح للناظر من نهام
ذاک نبی سید الانام	قد جاء بعد الکفر بالاسلام
اکرمه الرحمن من امام	ومن رسول صادق الکلام
اعدل ذی حکم من الاحکام	يامر بالصلاة والصيام
والبر والصلاة للارحام	ویزجر الناس عن الاثام
والرجس والاوثان والحرام	من هاشم فی ذروة السنام

مسئلنا فی البلد الحرام

”اے جسم والے انسانو! اے بوڑھے بچے چھوٹے بڑے تمام انسانو! تم بالکل بے عقل ہو اور اپنے فیصلے تم نے بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں کیا تم سب حیرت میں سوئے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو میرے سامنے ہے؟ وہ ایک روشن نور ہے جو اندھیرے کی اندھیری کو بھی دور کر رہا ہے۔ وہ نور دیکھنے والوں کے لئے تہامہ کے پہاڑوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۳۰) و اخرجہ الاموی فی مغازیہ عن ابن عباس نحوه کما فی البدایة (ج ۲ ص ۳۲۸) و اخرجہ الفاکھی فی کتاب مکہ عن ابن عباس عن عامر بن ربیعہ و من طریق حمید بن عبدالرحمن بن عوف عن ابیہ بنحوہ کما فی الاصابة (ج ۲ ص ۷۸)

جو تمام مخلوق کے سردار ہیں اور کفر کے بعد اسلام لے کر آئے ہیں رحمان نے ان کا خاص اکرام فرمایا ہے۔ یہ امام، رسول، سچی گفتگو کرنے والے اور سب سے زیادہ انصاف والا فیصلہ کرنے والے ہیں وہ نماز، روزے، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے، پلیدی سے، بتوں سے اور حرام کاموں سے روکتے ہیں اور وہ قبیلہ بنو ہاشم میں سے ہیں اور سب سے اعلیٰ نسب والے ہیں اور اللہ کے قابل احترام شہر مکہ میں وہ یہ سارے کام علی الاعلان کر رہے ہیں۔“

جب ہم نے یہ سنا تو ہم اس بات کے پاس سے اٹھ کر آگئے اور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ مبعوث ہوئے اس وقت میں شام میں تھا میں اپنی کسی ضرورت سے سفر میں نکلا تو راستہ میں رات آگئی۔ میں نے کہا میں آج رات اس وادی کے بڑے سردار (جن) کی پناہ میں ہوں (زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ ہر جنگل اور ہر وادی پر کسی جن کی حکومت ہوتی ہے) جب میں بستر پر لیٹا تو ایک منادی نے آواز لگائی۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس نے کہا تم اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ جنات اللہ کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم! تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ان پڑھوں میں اللہ کی طرف سے آنے والے رسول ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہم نے (مکہ میں) جنون مقام پر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کا اتباع اختیار کر لیا ہے اور اب جنات کے تمام مکرو فریب ختم ہو گئے ہیں اب (وہ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو) ان کو ستارے مارے جاتے ہیں تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ جو رب العالمین کے رسول ہیں اور مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت تمیم کہتے ہیں میں صبح کو دیر ایوب بستی میں گیا اور وہاں ایک پادری کو سارا قصہ سنا کر اس سے اس کے بارے میں پوچھا اس نے کہا جنات نے تم سے سچ کہا ہے وہ نبی حرم (مکہ) میں ظاہر ہوں گے اور ہجرت کر کے حرم (مدینہ) جائیں گے۔ وہ تمام انبیاء سے بہتر ہیں کوئی اور تم سے پہلے ان تک نہ پہنچ جائے، اس لئے جلدی جاؤ۔ حضرت تمیم کہتے ہیں میں ہمت کر کے چل پڑا اور حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔

حضرت واثلہ بن اسقع فرماتے ہیں حضرت حجاج بن علاط بنہزی سلمیٰ کے مسلمان ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ وہ اپنی قوم کے کچھ سواروں کے ساتھ مکہ کے ارادے سے نکلے رات کو یہ لوگ ایک وحشت ناک اور خوفناک وادی میں پہنچے تو گھبرا گئے ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا اے ابو کلاب! (یہ حضرت حجاج کی کنیت ہے) اٹھو اور اپنے لئے اور اپنے ساتھیوں کے لئے (اس

۱۔ اخرجہ الخرائطی کذا فی البدایة (ج ۲ ص ۳۳۳) واخرجہ ابونعیم فی الدلائل (ص ۳۳) عن رجل

من عشقم لحوہ مختصراً ۲۔ اخرجہ ابونعیم کذا فی البدایة (ج ۲ ص ۳۵۰)



وادئ کے سردار جن سے) امن مانگو حضرت حجاجؓ نے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے:

اعیل نفسی و اعیل صحبی  
من کل جنی بهذا النقب

حتی اور ب سالما و رکبی

”میں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ہر اس جن سے پناہ دیتا ہوں جو اس پہاڑی راستے میں موجود ہے تاکہ میں اور میرے ساتھی صحیح سالم اپنے گھر واپس پہنچ جائیں۔“

اس کے بعد حضرت حجاج نے کسی نظر نہ آنے والے کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا یا معشر  
الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تفلون الا  
بسلطان (سورت رحمان آیت ۳۳) ”اے جن اور انسان کے گروہ! اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ  
آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو (ہم بھی دیکھیں) نکلو مگر بدون زور کے نہیں نکل  
سکتے (اور زور ہے نہیں پس نکلنے کا وقوع بھی محتمل نہیں)“ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو انہوں نے قریش  
کی ایک مجلس میں یہ بات بتائی قریش نے کہا اے ابو کلاب! آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم! یہ  
کلام بھی اسی کلام میں سے ہے جس کے بارے میں محمد ﷺ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پر یہ کلام اللہ کی  
طرف سے نازل ہوا ہے حضرت حجاج نے کہا اللہ کی قسم! خود میں نے بھی سنا ہے اور میرے ساتھ  
ان لوگوں نے بھی سنا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتنے میں عاصی بن وائل آیا لوگوں نے اس  
سے کہا اے ابو ہشام! ابو کلاب جو کہہ رہا ہے کیا آپ نے وہ نہیں سنا؟ اس نے پوچھا ابو کلاب  
کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے اسے ساری بات بتائی اس نے کہا آپ لوگ اس پر تعجب کیوں کر رہے  
ہیں؟ جس جن نے ان کو وہاں یہ کلام سنایا ہے وہی جن یہ کلام محمد (ﷺ) کی زبان پر جاری کرتا  
ہے۔ حضرت حجاج کہتے ہیں عاصی کی اس بات کی وجہ سے میرے ساتھی میری رائے سے یعنی  
اسلام لانے سے رک گئے لیکن اس سب سے میری بصیرت میں اضافہ ہوا (پھر ہم لوگ اپنے  
علاقہ میں واپس آ گئے) ایک عرصہ کے بعد میں نے حضور کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ  
وہ مکہ سے مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا اور مدینہ حضور کی خدمت میں  
پہنچ گیا اور میں نے وادی میں جو سنا تھا وہ حضور کو بتایا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم! تم نے حق بات سنی  
ہے اللہ کی قسم! یہ اسی کلام میں سے ہے جو میرے رب نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ اے ابو کلاب! تم  
نے حق بات سنی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مجھے اسلام سکھا دیں۔ حضور نے مجھ سے  
کلمہ اخلاص کی گواہی طلب فرمائی اور فرمایا اب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں ان تمام باتوں کی  
دعوت دو جن کی میں نے تمہیں دعوت دی ہے کیونکہ یہ حق ہیں۔!

۱۔ آخر جہ ابن ابی الدنیا فی ہوائف الجنان و ابن عساکر و فیہ ایوب بن سوید و محمد بن عبداللہ اللیثی

ضعیفان کذا فی منتخب الكنز (ج ۵ ص ۱۶۳)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ مکہ کے ارادے سے چلے اور راستہ سے بھٹک گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو موت آنے والی ہے تو انہوں نے کفن پہنے اور مرنے کے لئے لیٹ گئے اتنے میں درختوں کے بیچ میں سے ایک جن نکل کر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ان لوگوں میں سے اکیلا باقی رہ گیا ہوں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا میں نے حضور کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ مومن مومن کا بھائی ہے اور سفر میں آگے جا کر حالات معلوم کر کے اسے بتانے والا ہے اور راستہ بھٹک جانے کی صورت میں اسے راستہ بتانے والا ہے اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے پانی اور یہ ہے تمہارا راستہ پھر اس نے انہیں پانی کی جگہ بتائی اور راستہ دکھایا۔

قبیلہ بنو سہم بن مرہ کے سعید شمیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ عیینہ بن حصن جو لشکر خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لئے لے کر گیا تھا میں بھی اس لشکر میں تھا ہم نے عیینہ کے لشکر میں یہ آواز سنی اے لوگو! اپنے گھر والوں کی خبر لو دشمن نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی سارے لشکر والے واپس چلے گئے ایک دوسرے کا انتظار بھی نہیں کیا ہمیں اس آواز کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں سے آئی تھی اس لئے ہمیں یقین ہے کہ یہ آواز آسمان سے آئی تھی۔

### حضور ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے لئے جنات اور شیاطین کا مسخر ہونا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا ایک شیطان میرے سامنے آیا میں نے اس کا گلا پکڑ کر اس زور سے گھونٹا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی اور اپنے انگوٹھے پر مجھے اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر ان کی دعائے ہوتی تو وہ شیطان بندھا ہوا ہوتا اور تم سب اسے دیکھتے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا آج رات ایک سرکش جن چھوٹ کر میرے پاس نماز خراب کرنے آ گیا اللہ نے مجھے اسے پکڑنے کی قدرت دے دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کو آپ سب لوگ اسے دیکھ لیں لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی **يَا دَاؤُدُ اٰمُرُكَ اَنْ تَقُولَ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ** (سورت ص آیت ۳۵) ”اے میرے رب! میرا (پچھلا) قصور معاف کر اور (آئندہ کے لئے) مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا (میرے

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۲۸) ۲۔ اخرجه البغوی کدافی الاصابة (ج ۲ ص ۱۶۲)

۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۳۰)

زمانے میں) کسی کو میسر نہ ہو۔“ آپ نے فرمایا میں نے اسے ذلیل اور رسوا کر کے واپس کر دیا۔ ان حضرت ابوالدرداءؓ کی روایت میں یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمانؓ کی دعائے ہوتی تو وہ صبح کو بندھا ہوا ہوتا اور مدینہ والوں کے بچے اس سے کھیل رہے ہوتے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان کو پکڑا تھا میں حضرت معاذؓ کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے حضورؐ کے زمانے میں شیطان کو پکڑا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے صدقہ کی کھجوریں جمع کر کے مجھے دیں میں نے وہ کھجوریں اپنے ایک کمرے میں رکھ دیں۔ مجھے روزانہ ان کھجوروں میں کمی نظر آتی تھی میں نے حضورؐ سے اس کی شکایت کی حضورؐ نے فرمایا یہ شیطان کا کام ہے تم اس کی گھات لگاؤ، چنانچہ میں رات کو اس کی گھات میں بیٹھا جب کچھ رات گزر گئی تو شیطان ہاتھی کی صورت میں آیا۔ جب دروازے کے پاس پہنچا تو شکل بدل کر دروازے کی درزوں سے اندر داخل ہو گیا اور کھجوروں کے پاس جا کر انہیں لقمہ بنا کر کھانے لگ گیا میں نے اپنے کپڑے اچھی طرح باندھے اور جا کر اسے درمیان سے پکڑ لیا اور میں نے کہا اشہد ان لا اله الا اللہ و ان محمدا عبده و رسوله اے اللہ کے دشمن! تو آ کر صدقہ کی کھجوروں میں سے لے رہا ہے، حالانکہ فقراء صحابہؓ تجھ سے زیادہ ان کھجوروں کے حقدار ہیں۔ میں تجھے حضور ﷺ کے پاس لے جاؤں گا وہ تجھے رسوا کر پس گے۔ اس نے مجھ سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں صبح حضورؐ کی خدمت میں گیا حضورؐ نے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اس نے مجھ سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ حضورؐ نے فرمایا وہ ضرور آئے گا، اس لئے اس کی گھات لگانا، چنانچہ میں نے دوسری رات بھی اس کی گھات لگائی تو اس نے پہلی رات کی طرح پھر کیا میں نے بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا اس نے پھر مجھ سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں صبح بتانے کے لئے حضورؐ کی خدمت میں گیا تو حضورؐ کا اعلانیٰ یہ اعلان کر رہا تھا معاذ کہاں ہے؟ (میں حضورؐ کی خدمت میں گیا) حضورؐ نے مجھ سے فرمایا اے معاذ! تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ اس نے سارا قصہ بتایا۔ حضورؐ نے فرمایا وہ ضرور آئے گا تم اس کی گھات میں رہنا۔ میں تیسری رات پھر اس کی گھات میں بیٹھا تو اس نے اسی طرح کیا میں نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کیا اور پکڑ کر اس سے کہا اے اللہ کے دشمن! تو دو دفعہ مجھ سے عہد کر چکا ہے اب تیسری مرتبہ ہے میں تجھے حضورؐ کی خدمت میں ضرور لے جاؤں گا وہ تجھے رسوا کرے گا اس نے کہا میں عیالدار شیطان ہوں اور نصیبین سے آپ کے پاس آتا ہوں (جو کہ ملک شام کی ایک جگہ ہے) اگر مجھے ان کھجوروں کے علاوہ کچھ اور مل جاتا تو میں آپ کے پاس نہ آتا۔ ہم آپ کے اسی

شہر میں رہا کرتے تھے لیکن جب آپ کے پاس حضرت مبعوث ہوئے اور ان پر دو آیتیں نازل ہوئیں تو ان آیتوں نے ہمیں یہاں سے بھگا دیا اور ہم جا کر نصیبین رہنے لگے۔ اور جس گھر میں یہ دونوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان تین دن تک داخل نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات امن الرسول سے لے کر آخر تک پھر میں نے اسے چھوڑ دیا اور صبح حضور کو بتانے کے لئے گیا تو حضور کا اعلانیٰ اعلان کر رہا تھا کہ معاذ بن جبل کہاں ہے؟ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے کہا اس نے مجھ سے عہد کیا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا اور اس نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی میں نے حضور کو بتایا۔ حضور نے فرمایا خبیث ہے تو جھوٹا لیکن اس دفعہ اس نے تم سے سچی بات کہی ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں بعد میں یہ آیتیں پڑھنے لگ گیا تو پھر کچھوروں کا کم ہونا ختم ہو گیا۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت میرے ذمہ لگائی۔ ایک دن ایک آدمی آ کر اس میں سے لپس بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں حضور ﷺ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں اور مجھ پر بچوں کی ذمہ داری ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ! آج رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! اس نے سخت ضرورت مند ہونے اور اہل و عیال کی شکایت کی مجھے اس پر ترس آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا غور سے سن لو! اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ پھر آئے گا اس لئے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا وہ آ کر لپس بھر کر پھر لینے لگ گیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تمہیں حضور کے پاس ضرور لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں محتاج ہوں بہت سے بچوں کی مجھ پر ذمہ داری ہے اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا صبح کو حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ! تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! اس نے سخت ضرورت مند ہونے کی اور بچوں کی شکایت کی مجھے اس پر ترس آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا غور سے سن! اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے وہ پھر آئے گا چنانچہ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ پھر آئے گا اس لئے میں سمجھ گیا کہ وہ پھر ضرور آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا وہ آ کر پھر لپس بھر کر لینے لگا۔ میں

۱۔ أخرجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۶ ص ۳۲۲) رواه الطبرانی عن شیخہ یحییٰ ابن عثمان بن صالح وهو صدوق انشاء اللہ قال النحی قال ابن ابی حاتم وقد تکلموا بوقبۃ رجالہ و تقوا۔ انتھی  
واخرجه ابولہبم فی الدلائل (ص ۲۱۷) عن ابی الاسود الدغلی عن معاذ لحوہ

نے اسے پکڑ کر کہا میں تمہیں حضورؐ کے پاس ضرور لے جاؤں گا دو دفعہ تم کہہ چکے ہو کہ دوبارہ نہیں آؤں گا لیکن تم پھر آ جاتے ہو۔ اب یہ تیسری مرتبہ ہے اور آخری مرتبہ ہے۔ اس نے کہا مجھے اب چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن سے اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ جب تم بستر پر لیٹا کرو تو آیت الکرسی **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** آ خر تک پڑھا کرو تو صبح تک اللہ کی طرف سے تمہارے لئے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آسکے گا میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ صبح حضورؐ نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے آپ نے فرمایا غور سے سنو! ہے تو وہ جھوٹا لیکن تم سے اس نے بات سچی کہی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم تین راتوں سے کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں میرا ایک طاق تھا جس میں کھجوریں رکھی رہتی تھیں ایک بھوتی آ کر ان میں سے کھجوریں لے جایا کرتی تھی میں نے نبی کریم ﷺ سے اس کی شکایت کی۔ حضورؐ نے فرمایا جاؤ جب تم اسے دیکھو تو کہنا بسم اللہ حضور تمہیں بلا رہے ہیں ان کے پاس چلو! میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ اور اسی تیسری جلد میں صفحہ ۲۶۲ پر حضرت ابی بن کعبؓ کی اسی جیسی حدیث گزر چکی ہے۔

حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور ﷺ کے ایک صحابی کو ایک شیطان ملا تو انہوں نے اس شیطان سے کشتی کی اور اسے گرا کر اس کے انگوٹھے کو دانٹوں سے کاٹا اس شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسی آیت سکھاؤں گا کہ ہم میں سے جو بھی اس آیت کو سنتا ہے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اس مسلمان نے اسے چھوڑ دیا تو شیطان نے وہ آیت سکھانے سے انکار کر دیا۔ اس مسلمان نے اس سے پھر کشتی کی اور اسے گرا کر اس کے انگوٹھے کو کاٹا اور اسے کہا مجھے وہ آیت بتا (اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں بتاؤں گا مسلمان نے اسے چھوڑ دیا لیکن) اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب مسلمان نے تیسری مرتبہ اسے کشتی میں گرا دیا تو اس شیطان نے کہا یہ سورت بقرہ کی آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** آ خر تک ہے۔ حضرت عبداللہؓ سے کسی نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن! وہ مسلمان کون تھا؟ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا حضرت عمرؓ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ ۳

۱۔ اخرجہ البخاری کما فی المشکوٰۃ ص ۱۸۵) ۲۔ اخرجہ ترمذی کما فی الترغیب (ج ۳ ص ۳۳) قال الترمذی حلیث حسن غریب و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۷) عن ابی ایوب بمعناه و اخرجہ الطبرانی عن ابی اسید الساعدی رضی اللہ عنہ بمعنی حلیث ابی ایوب قال الہیثمی (ج ۶ ص ۳۲۳) رجالہ و لقوا کلہم و فی بعضہم ضعف۔ ۳۔ اخرجہ الطبرانی

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا نبی کریم ﷺ کے ایک صحابیؓ کو ایک جن ملا انہوں نے اس جن سے کشتی لڑی اور اسے گرا دیا جن نے ان سے کہا دو بار کشتی لڑو دوبارہ کشتی ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو گرا دیا ان صحابیؓ نے اس جن سے کہا تم مجھے دبلے پتلے نظر آ رہا ہو اور تمہارا رنگ بھی بدلا ہوا ہے اور تمہارے بازو کتے کے بازوؤں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہیں تو کیا تم سب جن ایسے ہی ہوتے ہو یا ان میں سے تم ہی ایسے ہو؟ اس جن نے کہا نہیں اللہ کی قسم! میں تو ان میں بڑے جسم والا اور طاقتور ہوں آپ مجھ سے تیسری مرتبہ کشتی کروا کر اس دفعہ آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ کو ایسی چیز سکھاؤں گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا چنانچہ تیسری مرتبہ کشتی ہوئی تو اس مسلمان نے اس کو پھر گرا دیا اور اس سے کہا لاؤ مجھے سکھاؤ اس جن نے کہا کیا آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں؟ اس مسلمان نے کہا جی ہاں اس جن نے کہا آپ اس آیت کو جس گھر میں پڑھیں گے اس گھر سے شیطان نکل جائے گا اور نکلتے ہوئے گدھے کی طرح اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوگی اور صبح تک پھر اس گھر میں نہیں آئے گا۔ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن! یہ نبی کریم ﷺ کے کون سے صحابی تھے؟ اس سوال پر چیس بہ چیس ہو کر حضرت عبد اللہؓ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ حضرت عمرؓ کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں شیاطین زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے جب وہ شہید ہو گئے تو پھر یہ آزاد ہو کر پھیل گئے۔

حضرت عامر بن عبد اللہ بن الزبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبد اللہ بن زبیر قریش کے سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ عمرہ سے واپس آ رہے تھے جب بنا صب پہاڑ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک درخت کے پاس ایک آدمی نظر آیا۔ حضرت ابن زبیر اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ کر اس آدمی کے پاس پہنچے اور اسے سلام کیا اس آدمی نے ان کی پرواہ نہ کی اور ہلکی آواز سے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابن زبیر سواری سے نیچے اترے اس پر اس آدمی نے کوئی اثر نہ لیا اور اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ حضرت ابن زبیر نے کہا سائے سے پرے ہٹ جاؤ وہ تو ناگواری کے ساتھ ایک طرف ہٹ گیا۔ حضرت ابن زبیر فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ اس کے یہ کہتے ہی (غصہ کی وجہ سے) میرے جسم کا ہر بال کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے زور سے کھینچ کر کہا تم جن ہو کر اس طرح میرے سامنے آتے ہو۔ اب

۱۔ عند الطبرانی قال الهشمی (ج ۹ ص ۷۱) رواهما الطبرانی باسنادین و رجال الروایة الثانية رجال الصحيح الا ان الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولكنه اور کہ ورواة الطريق الاولى فيهم المسعودی وهو ثقة ولكنه اختلط فبان لنا صحة رواية المسعودی برواية الشعبي والله اعلم. انتهى واخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۳۱) من طریق عاصم عن زر عن عبدالله بمعناه.

۲۔ اخرجه ابن عساکر كذا في المنتخب (ج ۳ ص ۳۸۵)

جو میں نے غور سے دیکھا تو اس کے پاؤں جانور جیسے تھے۔ میں نے جو ذرا زور دکھایا تو وہ نرم پڑ گیا میں نے اسے ڈانٹا اور کہا تم ذمی ہو کر میرے سامنے آئے ہو وہ وہاں سے بھاگ گیا اتنے میں میرے ساتھی بھی آگئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپؐ کے پاس جو آدمی تھا وہ کہاں گیا؟ میں نے کہا یہ جن تھا جو بھاگ گیا۔ یہ سنتے ہی ان میں سے ہر ایک اپنی سواری سے نیچے گر گیا پھر میں نے سب کو اٹھا کر ان کی سواری سے باندھ دیا اور میں ان کو لے کر حج پر گیا لیکن اس وقت تک ان کی عقلیں ٹھیک نہیں ہوئی تھیں۔ حضرت احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں میں نے حضرت ابو سلیمان دارانی کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن زبیرؓ چاندنی رات میں اپنی سواری پر نکلے اور جا کر تبوک میں پڑاؤ ڈالا ان کی اچانک نظر پڑی تو انہیں اپنی سواری پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا نظر آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت ابن زبیرؓ نے اس پر حملہ کیا جس سے وہ سواری سے ایک طرف ہو گیا اور حضرت ابن زبیرؓ اپنی سواری پر سوار ہو کر آگے چل دیئے اس بوڑھے نے بلند آواز سے کہا اے ابن زبیرؓ! اللہ کی قسم! اگر آپ کے دل میں میرا ڈر بال کے برابر بھی بیٹھ جاتا تو میں آپ کی عقل خراب کر دیتا۔ حضرت ابن زبیرؓ نے فرمایا او ملعون! کیا تیری وجہ سے میرے دل میں ذرہ برابر ڈر پیدا ہو سکتا ہے؟

## صحابہ کرامؓ کا جمادات یعنی بے جان چیزوں کی آوازیں سننا

حضرت سید بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک دن حضرت ابو ذرؓ کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے حضرت عثمانؓ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا میں تو حضرت عثمانؓ کے بارے میں ہمیشہ خیر کی بات کہتا ہوں کیونکہ میں نے حضور ﷺ کے پاس ان کے بارے میں ایک خاص چیز دیکھی ہے۔ میں حضورؐ کی تنہائی کے مواقع تلاش کرتا رہتا تھا اور اس تنہائی میں حضورؐ سے سیکھا کرتا تھا، چنانچہ ایک دن میں گیا تو حضورؐ باہر تشریف لائے اور ایک طرف چل دیئے میں بھی آپؐ کے پیچھے ہولیا۔ ایک جگہ جا کر آپؐ بیٹھ گئے میں بھی آپؐ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپؐ نے فرمایا اے ابو ذرؓ! کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسولؐ کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضرت ابو بکرؓ آئے اور سلام کر کے حضورؐ کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضورؐ نے ان سے پوچھا اے ابو بکرؓ! کیسے آتا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ اور رسولؐ کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضرت عمرؓ آئے اور حضورؐ کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضورؐ نے فرمایا اے عمرؓ! کیسے آتا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ اور رسولؐ کی محبت کی وجہ سے۔ پھر

حضرت عثمان آئے اور حضرت عمرؓ کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضورؐ نے فرمایا اے عثمان! کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ اور رسولؐ کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضورؐ نے سات یا نو کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں اور وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی کی طرح ان کی بھنھناہٹ سنی پھر حضورؐ نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں پھر حضورؐ نے وہ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ میں رکھ دیں وہ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی جیسی ان کی بھنھناہٹ سنی پھر حضورؐ نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضورؐ نے انہیں لے کر حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں رکھ دیا وہ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی جیسی بھنھناہٹ سنی پھر حضورؐ نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ۱۔ نبیؐ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر حضور ﷺ نے وہ کنکریاں لے کر حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں رکھ دیں وہ تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی جیسی بھنھناہٹ سنی پھر حضورؐ نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے۔ ۲۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر حضورؐ نے وہ کنکریاں حضرت علیؓ کو دیں (تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں) پھر حضورؐ نے وہ کنکریاں رکھ دیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔ ۳۔ طبرانی کی دو سندوں میں سے ایک سند میں یہ بھی ہے کہ حلقہ میں جتنے آدمی تھے ان سب نے ہر ایک کے ہاتھ میں ان کنکریوں کی تسبیح سنی پھر حضورؐ نے وہ کنکریاں ہمیں دے دیں۔ تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی ان کنکریوں نے تسبیح نہ پڑھی۔ ۴۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں ہم قرآنی آیات کو اور حضور ﷺ کے معجزوں کو برکت سمجھا کرتے تھے لیکن آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفار کو ڈرانے کے لئے ہوا کرتے تھے۔ ہم ایک سفر میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔ پانی کم ہو گیا۔ حضورؐ نے فرمایا بچا ہوا پانی لاؤ صحابہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے حضورؐ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا پھر فرمایا آؤ پاک اور برکت والے پانی کی طرف اور برکت اللہ کی طرف سے آرہی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضورؐ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا ہے اور (یہ حضورؐ کا معجزہ تھا اسی طرح دوسرا معجزہ یہ ہے کہ) کبھی کھانا کھایا جا رہا تھا اور

۱۔ اخرجہ البزار قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۹۹) رواہ البزار باسنادین و رجال احدہما نقات و فی بعضہم ضعف۔ انتہی قلت لم یقع فی نقل الہیثمی عن البزار ذکر عمر فی تسبیح الحصى و قد اخرجہ البیہقی کما فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۳۲) عن سويد عن ابی ذر ف ذکر الحدیث نحوہ۔

۲۔ و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۵) عن سويد بن ابی ذر نحوہ الا انه لم یذكر ما زادہ البیہقی و اخرجہ الطبرانی فی الاوسط عن ابی ذر مختصراً: ۳۔ قال الہیثمی (ج ۵ ص ۱۷۹) ولیہ محمد بن

ابی حمید و هو ضعیف۔ ۴۔ و قال الہیثمی ایضاً (ج ۸ ص ۲۹۹) رواہ الطبرانی فی الاوسط عن ابی ذر

۳۔ و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۵۳) من طریق سويد مختصراً من طریق جبیر بن نصیر الحضرمی بطولہ و زاد لیسع تسبیحہن من فی الحلقۃ



ہم اس کی تسبیح سن رہے ہوتے تھے۔! حضرت عباسؓ کے لئے حضور ﷺ کے دعا کرنے کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ اور کمرے کی دیواروں نے تین دفعہ آمین کہا۔۲

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ جمعہ کے دن کھجور کے تنے کے سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے ایک انصاری عورت یا مرد نے کہا یا رسول اللہ! کیا ہم آپ کے لئے منبر بنانا چاہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنا دو، چنانچہ انہوں نے حضور کے لئے منبر بنایا (جو مسجد میں محراب کے پاس رکھ دیا گیا) جب جمعہ کے دن حضور منبر کے پاس پہنچے تو وہ تنے کی طرح چیخنے لگا۔ حضور منبر سے نیچے اتر کر اس کے پاس آئے اور اسے اپنے سے چمٹا لیا تو وہ اس بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کرایا جا رہا ہو۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا وہ تنے اس وجہ سے رو رہا تھا کہ وہ پہلے اپنے پاس اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا (اور اب نہیں سن سکے گا)۔۳ حضرت جابرؓ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب حضور ﷺ کے لئے منبر بن گیا اور اسے مسجد میں لا کر رکھا گیا اور حضور اس پر تشریف فرما ہو گئے تو ہم نے اس تنے میں سے حاملہ اونٹنی جیسی آواز سنی جسے سن کر حضور اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر رکھا جس سے اسے سکون ہوا اور وہ خاموش ہو گیا۔۴ احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور کا منبر بن گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنے جھین ہو گیا اور اونٹنی کی طرح رونے لگا جسے تمام مسجد والوں نے سنا۔ آپ منبر سے اتر کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے گلے لگایا جس سے وہ خاموش ہو گیا۔۵ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں اسے نبی بغل میں نہ لیتا تو قیامت تک روتا رہتا۔ امام احمد نے حضرت انسؓ سے بھی منبر بنانے کی حدیث نقل کی ہے اس میں حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ خطبہ دینے کے لئے اس لکڑی کی بجائے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو میں نے اس لکڑی کو پریشان حال عاشق کی طرح روتے ہوئے سنا اور وہ لکڑی روتی ہی رہی یہاں تک کہ حضور منبر سے نیچے اترے اور چل کر اس کے پاس تشریف لائے اور اسے سینہ سے لگایا تو پھر اس لکڑی کو سکون ہوا۔ علامہ بغوی نے بھی اس حدیث کو حضرت انسؓ سے ذکر کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت حسن اس حدیث کو بیان کیا کرتے تو رویا کرتے اور فرماتے اے اللہ کے بندو! چونکہ حضور ﷺ کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اس وجہ سے یہ لکڑی حضور کے شوق میں روئی تھی تو آپ لوگوں کو حضور کی زیارت کا

۱۔ اخرجہ البخاری ورواہ الترمذی وقال حسن صحیح کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۹۷)

۲۔ اخرجہ الطبرانی من ابی اسید وحسن اسنادہ الہیثمی و اخرجہ ایضا البیہقی و ابو نعیم فی الدلائل و ابن ماجہ ۳۔ اخرجہ البخاری ۴۔ عند البخاری ایضاً من طریق آخر و اخرجہ ایضاً احمد و الزار من طرق عن جابر ۵۔ و هذا اسناد علی شرط مسلم ولم یخرجه کما قال ابن کثیر فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۲۹) و اخرجہ ابن عبد البر فی جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۱۹۷) عن جابر بهذا الاسناد مثله و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۲۲)

شوق اس سے زیادہ ہونا چاہئے۔ ابو یعلیٰ کی روایت میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے! اگر میں اسے اپنے سے نہ چمٹاتا تو یہ اللہ کے رسول کی جدائی کے غم میں یونہی قیامت تک روتارہتا پھر حضورؐ کے فرمانے پر اسے دفن کر دیا گیا۔ ۲

حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابوالدرداءؓ اپنی ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور حضرت سلمانؓ ان کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ حضرت ابوالدرداءؓ نے ہنڈیا میں سے آواز سنی پھر وہ آواز اونچی ہوئی اور وہ بچے کی طرح تسبیح پڑھنے کی آواز تھی پھر وہ ہنڈیا نیچے گر پڑی اور الٹی ہو گئی پھر اپنی جگہ واپس چلی گئی لیکن اس میں سے کوئی چیز نہ گری حضرت ابوالدرداءؓ پکار کر کہنے لگے اے سلمان! عجیب کام دیکھو ایسا عجیب کام تو نہ آپ نے دیکھا ہوگا اور نہ آپ کے ابا جان نے۔ حضرت سلمانؓ نے کہا اگر آپ خاموش رہتے تو اللہ کی اور بڑی بڑی نشانیاں سننے۔ ۳

حضرت قیسؓ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابوالدرداءؓ حضرت سلمانؓ کو خط لکھتے یا حضرت سلمانؓ حضرت ابوالدرداءؓ کو خط لکھتے تو پیالے والی نشانی انہیں ضرور یاد دلاتے۔ حضرت قیسؓ کہتے ہیں ہم یہ بات بیان کرتے تھے کہ یہ دونوں حضرات پیالہ میں سے کھانا کھا رہے تھے تو پیالہ اور پیالے کے اندر کا کھانا دونوں تسبیح پڑھتے رہے۔ ۴

حضرت جعفر بن ابی عمران کہتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ نے ایک مرتبہ آگ کی آواز سنی تو انہوں نے کہا میں بھی۔ کسی نے پوچھا اے ابن عمرو! آپ نے یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! یہ آگ جہنم کی بڑی آگ میں واپس لوٹانے جانے سے پناہ مانگ رہی ہے۔ ۵

## صحابہ کرامؓ کا قبر والوں کی باتیں سننا

حضرت یحییٰ بن ابی ایوب خزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک صاحب کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا اور حضرتؓ کو بہت پسند تھا اس کا ایک بوڑھا باپ تھا وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا اس کے گھر کا راستہ ایک عورت کے دروازے پر پڑتا تھا وہ عورت اس پر

۱۔ رواہ ابونعیم عن انس فذکرہ کمالی البدایۃ (ج ۲ ص ۱۲۷) و اخرجه ابن عبدالبر فی جامع بیان العلم (ج ۲ ص ۱۹۷) بسیاق البغوی و اخرجه ایضا ابویعلیٰ ۲۔ و اخرجه الترمذی وقال صحیح غریب من هذا الوجه کمالی البدایۃ (ج ۲ ص ۱۲۶) وفی الباب عن ابی ابن کعب و سهل بن سعد و عبداللہ بن عباس و ابن عمر و ابی سعید و عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہم کما بسط احادیث ہولاء ابن کثیر فی البدایۃ (ج ۶ ص ۱۲۵) ۳۔ اخرجه ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۲۳)

۴۔ اخرجه ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۲۳) ۵۔ اخرجه ابونعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۸۹)

فریفتہ ہو گئی اور اس نو جوان کی وجہ سے وہ اس کے راستہ پر کھڑی رہتی۔ ایک رات وہ نو جوان اس کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اسے بہلانے پھسلانے لگی۔ آخر نو جوان اس کے پیچھے چل پڑا جب اس عورت کے گھر کا دروازہ آیا تو وہ اندر چلی گئی لیکن جب یہ نو جوان اندر جانے لگا تو اسے ایک دم اللہ کا دھیان آ گیا اور وہ غلط خیال دل سے سب جاتا رہا اور یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہو گئی اِنَّ اللّٰدِيْنَ اَشْقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ (سورت اعراف آیت ۲۰۱) ”یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔“ یہ آیت پڑھتے ہی وہ نو جوان بے ہوش ہو کر گر گیا تو اس عورت نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر جا کر اسے بٹھا دیا اور دروازہ کھٹکھا کر واپس آ گئیں۔ اس کا باپ اس کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ باپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اسے اٹھا کر اندر پہنچایا۔ کافی رات گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا اے بیٹے! تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا خیر ہے باپ نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ضرور بتا۔ اس نے سارا واقعہ بتایا باپ نے کہا تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہی آیت پڑھی۔ پڑھتے ہی بے ہوش کر پھر گر گیا اب اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی اسے غسل دے کر باہر لائے اور رات کو ہی اسے دفن کر دیا۔ صبح کو ان لوگوں نے حضرت عمرؓ کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمرؓ نے اس کے والد کے پاس جا کر تعزیت کی اور فرمایا مجھے کیوں خبر نہ کی؟ باپ نے کہا اے امیر المؤمنین! رات تھی حضرت عمرؓ نے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے جاؤ، چنانچہ حضرت عمرؓ اور ان کے ساتھی قبر پر گئے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اے فلانے! وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (سورت رحمان آیت ۴۶) ”اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے (ہر وقت) ڈرتا رہتا ہے اس کے لئے (جنت میں) دو باغ ہوں گے۔“ تو اس نو جوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اور دو دفعہ کہا اے عمر! میرے رب نے مجھے جنت میں وہ باغ دے دیئے ہیں۔ ان بیہوشی کی روایت میں ہے کہ اس نو جوان نے کہا اے چچا جان! حضرت عمرؓ کو جا کر میرا سلام کہو اور ان سے پوچھو کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کو کیا بدلہ ملے گا؟ اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا تمہارے لئے دو باغ ہیں، تمہارے لئے دو باغ ہیں۔

حضرت محمد بن حمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطابؓ کا بیع الغرقہ قبرستان پر گزر رہا تو انہوں نے فرمایا السلام علیکم! اے قبرستان والو! ہمارے ہاں کی خبریں تو یہ ہیں

۱۔ اخرجہ العاکم کذا فی الكنز (ج ۱ ص ۲۶۷) و اخرجہ ابن عساکر فی ترجمۃ عمرو بن جامع من تاریخہ فذکرہ کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۲ ص ۲۷۹) و اخرجہ البیہقی عن الحسن مختصراً کما فی الكنز (ج ۱ ص ۲۶۷)

کہ تمہاری عورتوں نے اور شادی کر لی تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے لگ گئے۔ تمہارا سارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ جواب میں غیب سے یہ آواز آئی کہ ہمارے ہاں کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال آگے بھیجے تھے ان کا اجر و ثواب ہم نے پالیا اور جو مال ہم نے اللہ کے لئے دوسروں پر خرچ کیا اس کا ہمیں یہاں نفع مل گیا۔ اور جو مال ہم پیچھے چھوڑ آئے اتنا ہمیں نقصان ہوا۔

## صحابہ کرامؓ کا عذاب میں مبتلا لوگوں کے عذاب کو دیکھنا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک دفعہ میں میدان بدر کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی ایک گڑھے سے باہر نکلا اس کی گردن میں زنجیر پڑی ہوئی تھی اس نے مجھے پکار کر کہا اے عبد اللہ! مجھے پانی پلا دے، اے عبد اللہ! مجھے پانی پلا دے، اے عبد اللہ! مجھے پانی پلا دے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اسے میرا نام معلوم تھا یا اس نے ویسے ہی عربوں کے دستور کے مطابق عبد اللہ کہہ کر پکارا اور نام معلوم نہیں تھا پھر اسی گڑھے سے ایک اور آدمی باہر نکلا اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا اس نے مجھے پکار کر کہا اے عبد اللہ! اسے پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے پھر اسے کوڑا مارا جس پر وہ آدمی اپنے گڑھے میں واپس چلا گیا۔ میں جلدی سے حضور ﷺ کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ حضور کو بتایا آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں! حضور نے فرمایا یہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور اسے قیامت کے دن تک یونہی عذاب ہوتا رہے گا۔

## صحابہ کرامؓ کا مرنے کے بعد باتیں کرنا

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبیلہ بنو حارث بن خزرج کے حضرت زید بن خارجہ انصاریؓ کا حضرت عثمان بن عفانؓ کے زمانہ میں انتقال ہوا تو لوگوں نے ان پر کپڑا ڈال دیا پھر لوگوں نے ان کے سینہ میں آواز کی حرکت سنی پھر وہ بول پڑے اور کہنے لگے حضرت احمد، حضرت احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے سچ کہا، سچ کہا وہ اپنی ذات کے بارے میں کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں طاقتور تھے۔ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے سچ کہا، سچ کہا وہ طاقتور اور امانت دار تھے یہ بات بھی لوح محفوظ میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفانؓ نے سچ کہا، سچ کہا وہ ان تینوں حضرات کے طریقہ پر ہیں۔ اس امان کے چار سال گزر گئے دو سال رہ گئے ہیں پھر فتنے آئیں گے اور زور دار آدمی کمزور

۱۔ أخرجه ابن أبي الدنيا وابن السمعاني كلاهما في الكنز ج ۸ ص

۱۲۳) ۲۔ أخرجه الطبرانی قال الهيثمي (ج ۶ ص ۸۱) رواه الطبرانی في الاوسط وله من لم

أخرجه. انتهى.

کو کھا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی اور عنقریب تمہارے لشکر کی طرف زبردست خبر آئے گی۔ اریس کا کنواں ایک زبردست چیز ہے اور یہ کنواں کیا زبردست چیز ہے؟ حضرت سعید کہتے ہیں پھر بنو نضیر کے ایک آدمی کا انتقال ہوا لوگوں نے اس پر کپڑا ڈالا تو اس کے سینہ میں بھی آواز کی حرکت سنی پھر وہ بول پڑا کہنے لگا۔ بنو حارث بن خزرج کے آدمی نے سچ کہا، سچ کہا۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت زید بن خارجه رضی اللہ عنہ ظہر، عصر کے درمیان مدینہ کے ایک راستہ پر چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اٹھا کر انہیں ان کے گھر لایا گیا اور دو کپڑوں اور ایک چادر سے انہیں ڈھانپ دیا گیا۔ شب، عشاء کے درمیان انصار کی عورتیں ان کے پاس جمع ہو کر اونچی آواز سے رونے لگیں اتنے میں انہوں نے چادر کے نیچے سے دو مرتبہ آواز سنی اے لوگو! خاموش ہو جاؤ حضرت زید کے چہرے اور سینے سے کپڑا ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا محمد رسول اللہ جو کہ ان پڑھ نبی ہیں اور تمام نبیوں کے لئے مہر ہیں یہ بات لوح محفوظ میں ہے (اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے) پھر کچھ دیر کے بعد ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے سچ کہا، سچ کہا جو کہ اللہ کے رسول ﷺ کے خلیفہ ہیں قوی اور امین ہیں۔ وہ اپنے بدن کے اعتبار سے تو کمزور تھے لیکن اللہ کے معاملے میں بہت مضبوط اور طاقتور تھے اور یہ بات پہلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے پھر ان کی زبان سے یہ الفاظ تین مرتبہ ادا ہوئے سچ کہا، سچ کہا اور درمیانے جو کہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین ہیں رضی اللہ عنہم جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے اور طاقتور کو کمزور کے کھا جانے سے روکتے تھے یہ بات بھی پہلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے پھر ان کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے سچ کہا، سچ کہا پھر انہوں نے کہا حضرت عثمان امیر المؤمنین جو کہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہیں۔ دو گزر گئے چارہ گئے پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور جو باقی نہ رہ سکے گا اور درخت بھی روئیں گے یعنی کسی کا احترام و اکرام باقی نہ رہے گا اور قیامت قریب آ جائے گی اور لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جب حضرت زید بن خارجه کا انتقال ہوا تو میں حضرت عثمان کا انتظار کر رہا تھا میں نے سوچا کہ دو رکعت نماز ہی پڑھ لوں (اور نماز شروع کر دی) اتنے میں حضرت زید نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا السلام علیکم! السلام علیکم! گھر والے باتیں کر رہے تھے میں نے نماز میں ہی کہا سبحان اللہ! سبحان اللہ! پھر حضرت زید نے کہا سب خاموش ہو جائیں، سب خاموش ہو جائیں باقی حدیث پچھلی

۱۔ اخرجہ البیہقی و اخرجہ البیہقی عن الحاکم فذکرہ باسناده وقال هذا اسناد صحیح وله شواہد کثافی البدایہ (ج ۶ ص ۱۵۶) ورواہ ابن ابی اللیثی و البیہقی ایضا من وجہ آخر بالسط من هذا واطول و صححه البیہقی کثافی البدایہ (ج ۶ ص ۲۹۳) ۲۔ اخرجہ الطبرانی

حدیث جیسی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ تین خلفا میں سب سے زیادہ مضبوط جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور کسی طاقتور کو کسی کمزور کو کھانے نہیں دیتے تھے وہ اللہ کے بندے اور امیر المؤمنین تھے انہوں نے سچ کہا، سچ کہا یہ لوح محفوظ میں ہے پھر حضرت زیدؓ نے کہا حضرت عثمانؓ امیر المؤمنین ہیں اور وہ لوگوں کے بہت زیادہ قصور معاف کر دیتے ہیں۔ دو گزر گئے ہیں چار باقی ہیں۔ پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو کھانے لگ جائیں گے اور کوئی نظم برقرار نہ رہ سکے گا اور بڑے بڑے بہادر روئیں گے پھر مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی اور یہ بھی کہا کہ یہ بات اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور اسے مقدر فرما رکھا ہے اے لوگو! اپنے امیر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اس کی بات سنو اور مانو پھر جسے والی بنایا جائے گا اس کا خون محفوظ رہے گا اور اللہ کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے اور سارے نبی اور صدیق سلام علیکم کہہ رہے ہیں اے عبد اللہ بن رواحہ! کیا آپ کو میرے والد حضرت خارجہؓ اور حضرت سعدؓ کا کچھ پتہ چلا؟ یہ دونوں حضرت جنگ احد میں شہید ہوئے تھے کَلَّا اِنَّهَا لَطٰی ، نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوٰی تَدْعُوْۤا مِّنْ اَدْبُرٍ وَّتَوَلّٰی وَّجَمَعَ فَاوَعٰی (سورت معارج آیت ۱۵-۱۸)

”یہ ہرگز نہ ہوگا (بلکہ) وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال (تک) اتار دے گی (اور) اس شخص کو (خود) بلا دے گی جس نے (دنیا میں حق سے) پیٹھ پھیری ہوگی اور (اطاعت سے) بے رخی کی ہوگی اور جمع کیا ہوگا پھر اس کو اٹھا کر رکھا ہوگا۔“ حضرت زیدؓ کی آواز بند ہوگئی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت زیدؓ نے یہ بھی کہا یہ حضرت احمدؓ اللہ کے رسول ہیں۔ سلام علیک یا رسول اللہ! اور حستہ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک آدمی کا انتقال ہوا جنہیں حضرت زید بن خارجہؓ کہا جاتا تھا ہم نے ایک کپڑے سے انہیں ڈھانک دیا اور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اتنے میں کچھ شور سنائی دیا تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا جسم حرکت کر رہا ہے پھر وہ کہنے لگے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور (تین خلفاء ہیں) درمیان والے اللہ کے بندے امیر المؤمنین حضرت عمرؓ ہیں جو اپنے کام میں بھی خوب طاقتور اور اللہ کے کام میں بھی خوب طاقتور تھے اور امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ بن عفانؓ پاکدامن اور انتہائی پاکباز ہیں جو بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں دورا میں گزر گئی ہیں اور چار باقی ہیں پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا اور ان میں کوئی نظم برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اے لوگو! اپنے امام کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور

۱۔ قال الہیثمی (ج ۵ ص ۱۸۰) رواہ کلبہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط باختصار کثیر باسنادین ورجال احمدہما فی الکبیر ثقات. التھی واخرجه ابضا البیہقی عن ابن ابی الدنیا باسنادہ عن النعمان بن بشیر بطولہ  
 ۲۔ واخرجه البیہقی من غیر طریق ابن ابی الدنیا لہ ذکرہ وقال ہذا اسناد صحیح کما فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۵۷) والحلیث اخرجه ابضا ابن مندہ و ابو نعیم وغیرہما کما فی الاصابہ (ج ۲ ص ۲۳)

سنو اور مانو۔ یہ اللہ کے رسول اور عبد اللہ بن رواحہؓ ہیں پھر (حضرت ابن رواحہؓ سے) کہا میرے والد حضرت خارجہ بن زید کا کیا بیٹا؟ پھر کہا اریس کنواں ظلماً لے لیا گیا اس کے بعد ان کی آواز بند ہو گئی۔

## صحابہ کرامؓ کے مردوں کا زندہ ہونا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک انصاری جوان کی عیادت کے لئے گئے جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کی آنکھیں بند کر کے اس پر کپڑا ڈال دیا۔ ہم میں سے ایک آدمی نے اس کی والدہ سے کہا اپنے بیٹے کے صدمہ پر صبر کرو اور اس پر ثواب کی امید رکھو۔ اس کی والدہ نے کہا کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اس پر اس کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ دعا مانگی اے اللہ! میں تجھ پر ایمان لائی اور میں ہجرت کر کے تیرے پاس آئی اور جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت یا سختی آئی اور میں نے تجھ سے دعا کی تو نے وہ مصیبت اور سختی ضرور ہٹائی۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو مجھ پر یہ مصیبت مت ڈال۔ اس کے یہ دعا مانگتے ہی (اس کا بیٹا زندہ ہو لیا اور) چہرے سے کپڑا ہٹا کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد جب ہم نے کھانا کھایا تو اس نے بھی ہمارے ساتھ کھایا۔ ۲ بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ یہ حضرت ام السائب رضی اللہ عنہا بوڑھی اور نابینا تھیں۔

حضرت عبد اللہ بن عون رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت انسؓ نے فرمایا میں نے اس امت میں ایسی تین باتیں پائی ہیں کہ وہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتیں تو کوئی امت ان کا مقابلہ اور ان کی برابری نہ کر سکتی۔ ہم نے کہا کہ اے ابو حمزہ! وہ تین باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ ہم لوگ صفہ میں حضور ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک مہاجر عورت حضور ﷺ کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ بالغ تھا حضورؐ نے اس عورت کو (مدینہ کی) عورتوں کے سپرد کر دیا اور اس کے بیٹے کو ہمارے ساتھ شامل کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ مدینہ کی وہاں میں مبتلا ہو گیا اور چند دن بیمار رہ کر فوت ہو گیا۔ حضورؐ نے اس کی آنکھیں بند کیں اور ہمیں اس کا جنازہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب ہم نے اسے غسل دینا چاہا تو حضورؐ نے فرمایا جا کر اس کی والدہ کو بتادو، چنانچہ میں نے اسے بتا دیا وہ آئی اور بیٹے کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس نے یہ دعا مانگی اے اللہ! میں اپنی خوشی سے مسلمان ہوئی اور میرے دل کا میلان بتوں سے

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۷ ص ۲۳۰) رجالہ رجال الصحیح. انتھی و اخرجہ هشام بن عمار فی کتاب البعث کما فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۵۷) ۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا و اخرجہ البیہقی من طریق صالح بن بشیر احد زہاد البصرۃ و عبادہا مع لین فی حدیثہ عن انس ف ذکر القصة

بالکل ہٹ گیا، اس لئے میں نے انہیں چھوڑا ہے اور تیری وجہ سے بڑے شوق سے میں نے ہجرت کی اور مجھ پر یہ مصیبت بھیج کر بتوں کے پوجنے والوں کو خوش نہ کر اور جو مصیبت میں اٹھا نہیں سکتی وہ مجھ پر نہ ڈال۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں ابھی اس کی والدہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بیٹے نے اپنے قدموں کو ہلایا اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا (اور زندہ ہو کر بیٹھ گیا) اور بہت عرصہ تک زندہ رہا یہاں تک کہ حضور ﷺ کا انتقال ہو گیا اور اس کے سامنے اس کی ماں کا بھی انتقال ہوا پھر آگے اور حدیث ذکر کی جیسے کہ ہم عنقریب ذکر کریں گے۔

## صحابہ کرامؓ کے شہداء میں زندگی کے آثار

حضرت ابو نصرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر بن عبد اللہؓ نے فرمایا جب جنگ احد کا وقت ہوا تو رات کو میرے والد نے بلا کر کہا میرا خیال یہی ہے کہ میں کل حضورؐ کے صحابہ میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں گا اور اللہ کی قسم! میں کسی کو ایسا نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو حضورؐ کی ذات کے بعد مجھے تم سے زیادہ پیارا ہو اور مجھ پر قرضہ بھی ہے وہ میری طرف سے ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت قبول کرو، چنانچہ صبح کو سب سے پہلے وہی شہید ہوئے اور میں نے انہیں ایک اور صحابیؓ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کر دیا پھر میرا جی نہ مانا کہ میں انہیں ایک قبر میں کسی دوسرے کے ساتھ رہنے دوں تو میں نے انہیں چھ مہینے کے بعد قبر سے نکالا تو وہ بالکل ایسے تھے جیسے کہ اس دن تھے جس دن میں نے انہیں قبر میں رکھا تھا صرف ان کے کان میں کچھ فرق آیا ہوا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ چھ مہینے گزرنے کے بعد میری طبیعت میں شدید تقاضا ہوا کہ میں انہیں الگ دفن کروں، چنانچہ میں نے انہیں قبر سے نکالا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زمین نے ان کے جسم کو بالکل نہیں کھایا تھا صرف کان کی بو پر کچھ اثر تھا اور ابن سعد کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ مجھے ان کے جسم میں کوئی فرق نظر نہ آیا البتہ ان کی داڑھی کے چند بالوں میں کچھ فرق تھا جو زمین سے لگے ہوئے تھے۔ ۳

حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضرت معاویہؓ نے پانی کا چشمہ جاری کیا تو اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے جنگ احد کے شہیدوں کو منتقل کر لیں،

۱۔ اخرجه البيهقي كذا في البداية (ج ۶ ص ۱۵۳، ۲۵۹) وقال في البداية (ج ۶ ص ۲۹۲) وهذا اسناد رجاله ثقات ولكن فيه انقطاع بين عبدالله بن عون و انس والله اعلم انتهى واخرجه ابو نعيم في الدلائل (ص ۲۲۳) من طريق صالح عن ثابت عن انس نحو ما تقدم

۲۔ اخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۲۰۳) قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم و اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۵۶۳) عن ابى نضرة عنه نحوه مختصرا ۳۔ واخرجه البخارى عن عطاء عن جابر بنحو لفظ الحاكم كما في البداية (ج ۳ ص ۲۳)



چنانچہ ہم نے انہیں چالیس سال کے بعد نکالا تو ان کے جسم بالکل نرم تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے۔ ابو نعیم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو الزبیر کہتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا لوگوں نے اپنے شہیدوں کو چالیس سال کے بعد قبروں سے نکالا تو وہ بالکل تروتازہ تھے۔ ۲۔

ابن اسحاق نے مغازی میں اس قصہ کو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں میرے والد نے انصار کے چند مشائخ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت معاویہؓ نے پانی کا وہ چشمہ چلایا جو شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کا پانی ان قبروں میں جانے لگا۔ ہم نے جا کر حضرت عمروؓ اور حضرت عبداللہؓ کو نکالا تو ان پر دو چادریں تھیں جن سے ان کے چہروں کو ڈھانکا ہوا تھا اور دونوں کے پیروں پر کچھ گھاس پڑی ہوئی تھی اور ان کے جسم ادھر ادھر مڑ جاتے تھے اور ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کل ہی یہ دونوں دفن کئے گئے ہوں۔ ۳۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے زمانہ خلافت میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت معاویہؓ کے کارندوں نے آپ کے والد کی قبر کو اکھاڑ پھینکا اور ان کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ میں نے ان کو دفن کیا تھا۔ ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میدان جنگ میں جو زخم ان کو آئے تھے بس وہی تھے اس کے بعد میں نے ان کو پھر دفن کر دیا۔ ۴۔

حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی صعصعہؓ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمرو بن جموح انصاری سلمی اور حضرت عبداللہ بن عمرو انصاری سلمیؓ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے اور دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ دونوں کی قبروں کے پاس سے ایک برساتی نالہ گزرتا تھا ایک مرتبہ برساتی نالہ کے پانی سے ان حضرات کی قبر کھل گئی اس پر جگہ بدلنے کیلئے ان کی قبر کو کھودا گیا تو ان حضرات کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کل ہی دفن کئے گئے ہوں دونوں میں سے ایک صاحب زخمی ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ زخم پر رکھ کر انہیں دفن کر دیا گیا تھا اب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو وہ اپنی جگہ زخم پر واپس آ گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ قبر کھودنے کا یہ واقعہ جنگ احد کے چھیالیس سال بعد پیش آیا تھا۔ ۵۔

۱۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۵۶۳) و اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۷) عن ابی الزبیر عن جابر نحوہ  
 ۲۔ اخرجه ابن ابی شیبہ عن جابر نحوہ كما فی الكنز (ج ۵ ص ۴۷۳)  
 ۳۔ وله شاهد باسناد صحيح عند ابن سعد من طريق ابی الزبیر عن جابر كذا فی فتح الباری (ج ۳ ص ۱۴۲)  
 ۴۔ عند احمد فی حدیث طویل قال الشیخ الشمهودی فی وفاء الوفا (ج ۲ ص ۱۱۶) رواه احمد برجال الصحيح خلا نبیح الغزی وهو قه. انتهى و اخرجه الدارمی عن جابر نحوہ كما فی الاوجز (ج ۳ ص ۱۰۸).  
 ۵۔ اخرجه مالک فی الموطأ قال ابو عمر لم تختلف الرواة فی قطعہ وبتصل معناه من وجوه صحاح فإله الزرقانی كما فی الاوجز (ج ۲ ص ۱۰۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سرخ رنگ کے تھے اور ان کے سر پر بال نہیں تھے اور ان کا قد لمبا نہیں تھا اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لمبے قد والے تھے، اس لئے جنگ احد کے دن صحابہ نے دونوں حضرات کو پہچان لیا تھا اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ ان حضرات کی قبر ایک برساتی نالہ کے قریب تھی ایک مرتبہ اس کا پانی ان کی قبر میں داخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی قبر کھودی گئی تو دونوں حضرات پر دو کالی سفید دھاریوں والی چادریں تھیں حضرت عبداللہ کے چہرے پر زخم تھا ان کا ہاتھ ان کے زخم پر رکھا ہوا تھا۔ جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹایا گیا تو خون پھر بہنے لگا اور جب زخم پر رکھا گیا تو خون رک گیا۔ حضرت جابرؓ نے فرمایا میں نے دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے میرے والد اپنی قبر میں سو رہے ہوں اور ان کی جسمانی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی حضرت جابرؓ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کا کفن بھی دیکھا تھا انہوں نے کہا ہاں انہیں صرف ایک دھاری دار چادر میں کفن دیا گیا تھا جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا تھا اور ان کے پاؤں پر حزل پودے ڈال دیئے گئے تھے ہیں وہ چادر بھی اسی حال میں ٹھیک ملی اور ان کے پیروں پر حزل پودے بھی اپنی اصلی حالت پر تھے، حالانکہ دفنانے کے چھیالیس سال بعد ان کی قبر کھودی گئی تھی۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں جب حضرت معاویہؓ نے جنگ احد کے چالیس سال بعد احد کے شہداء کے پاس سے نہر چلائی تو ان کی طرف سے ہم شہداء کے ورثاء میں اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے شہداء کو سنبھال لیں ہم نے وہاں جا کر انہیں نکالا کدال حضرت حمزہؓ کے پاؤں کو لگا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ حضرت عمرو بن دینار اور حضرت ابو زبیرؓ کہتے ہیں کہ کدال حضرت حمزہؓ کے پاؤں کو لگا تو اس میں سے خون بہنے لگا، حالانکہ ان کو دفن ہوئے چالیس سال ہو چکے تھے۔ شیخ سمودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ واقعہ تین مرتبہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ دفن کے چھ مہینے بعد دوسری مرتبہ چالیس سال بعد جب وہاں نہر چلائی گئی اور تیسری مرتبہ چھیالیس سال بعد جب برسائی نالہ کا پانی قبر میں داخل ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر واقعہ کے بارے میں متعدد روایات منقول ہیں اور یہ صحابہؓ کی کھلی کرامت ہے اور اسی وجہ سے یہ واقعہ بار بار پیش آیا۔

## صحابہ کرامؓ کی قبروں سے مشک کی خوشبو کا آنا

حضرت محمد بن شریک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر سے ایک مٹھی مٹی لی۔ جب اس نے مٹھی کھولی تو وہ مشک تھی اس پر حضور ﷺ نے خوش ہو کر

۱۔ عند ابن سعد (ج ۳ ص ۵۶۲) ۲۔ أخرجه البيهقي كذا في البداية (ج ۴ ص ۴۳) عند أبي نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۷) ۳۔ قد حققه الشيخ السهوي في وفاة الولاء (ج ۲ ص ۱۱۶، ۱۱۷) واستحسنه شيخنا في الأجزاء (ج ۳ ص ۱۱۱)

فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اور خوشی کے آثار حضور کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ ابن سعد میں دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت محمد بن شریحیل کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت سعد بن معاذ کی قبر سے مٹی بھر مٹی لی اور مٹی لے کر چلا گیا پھر کچھ دیر بعد اس نے مٹی کو دیکھا تو وہ مشک تھی۔ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بقیع میں حضرت سعد کی قبر کھودی تھی ہم جب بھی مٹی کھودتے تو اس میں سے ہمیں مشک کی خوشبو آتی اور یہ خوشبو کا سلسلہ یونہی چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لحد تک پہنچ گئے۔ ۲

## مقتول صحابہ کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا

حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب صحابہ غزوہ ہند معونہ میں شہید ہو گئے اور حضرت عمرو بن امیہ ضمری قید ہو گئے تو عامر بن طفیل نے ایک شہید صحابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عمرو بن امیہ نے کہا یہ حضرت عامر بن فہیرہ ہیں۔ عامر بن طفیل کہتا ہے میں نے ان کے شہید ہونے کے بعد دیکھا کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان ان کے اور زمین کے درمیان تھا پھر ان کی نعش کو واپس زمین پر رکھ دیا گیا پھر حضور ﷺ کے پاس ان شہید صحابہ کی خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو ان کی شہادت کی خبر دی اور فرمایا تمہارے ساتھی شہید کر دیئے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے رب! ہمارے بھائیوں کو ہماری خبر کر دے اور یہ بھی بتا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ اس طرح حضور نے صحابہ کو ان کی خبر دی ان شہید ہونے والوں میں حضرت عروہ بن اسماء بن صلت اور منذر بن عمرو بھی تھے تو نیک فال لینے کی نیت سے حضرت زبیر بن عوام نے اپنے ایک بیٹے کا نام عروہ اور دوسرے کا نام منذر رکھا۔ ۳ اور واقدی نے ذکر کیا کہ حضرت عامر بن فہیرہ کے قاتل جبار بن سلمی کلابی تھے وہ کہتے ہیں جب میں نے انہیں نیزہ مارا تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ خود قتل ہو رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا تو اس کامیابی کا کیا مطلب؟ لوگوں نے کہا وہ کامیابی جنت کی ہے۔ میں نے کہا

۱۔ اخرجہ ابونعیم فی المعرفة کذا فی الکنز (ج ۷ ص ۴۱) وقال سننہ صحیح و اخرجہ ابن سعد (ج ۳

ص ۴۳۱) عن محمد بن شریحیل بن حسنہ نحوه الا انه لم يذكر المرلوع

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۴۳۱) ایضا عن ربیع بن عبدالرحمن بن ابی سعد الخدری عن ابیہ عن

جلدہ رضی اللہ عنہ ۳۔ اخرجہ البخاری ہکذا وقع فی رواية البخاری مرسل عن عروہ وقلنا رواہ

الیهقی عن هشام عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ عنہا لمساق من حدیث البحرة و ادرج فی آخرہ ما ذکرہ

البخاری ہهنا وروی الوالیدی عن ابی الاسود و عروہ ف ذکر القصة و شان عامر بن فہیرہ و اخبار عامر بن

طفیل انه رفع الی السماء

انہوں نے سچ کہا پھر اسی بات پر میں مسلمان ہو گیا۔

حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بعد میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا جسم وہاں کہیں نہ ملا صحابہؓ یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا فرشتوں نے ان کے جسم کو دفن کیا اور ان کو علیین میں جگہ دی گئی۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عامر بن طفیل نے شہید ہونے والے صحابہ میں سے ایک کے بارے میں کہا تھا کہ جب وہ قتل ہو گئے تو انہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹھایا گیا یہاں تک کہ آسمان مجھے ان کے نیچے نظر آ رہا تھا لوگوں نے بتایا کہ وہ حضرت عامر بن فہیرہ تھے۔ حضرت زہری کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عامر بن فہیرہ کے جسم کو بہت تلاش کیا لیکن انہیں کہیں نہ ملا، اس لئے لوگوں کو یقین ہے کہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔

## مرنے کے بعد صحابہ کرامؓ کے جسم کی حفاظت

حضرت عمرو بن امیہؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے مجھے اکیلے کو جاسوس بنا کر قریش کی طرف بھیجا۔ میں حضرت خبیثؓ کی (اس) لکڑی کے پاس گیا (جس پر حضرت خبیثؓ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور ان کا جسم ابھی تک اس پر لٹک رہا تھا) اور مجھے جاسوسوں کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کو پتہ نہ لگ جائے، چنانچہ لکڑی پر چڑھ کر میں نے حضرت خبیثؓ کو کھولا جس سے وہ زمین پر گر گئے پھر میں (چھپنے کے لئے) تھوڑی دور ایک طرف کو چلا گیا پھر میں نے آ کر دیکھا تو حضرت خبیثؓ مجھے کہیں نظر نہ آئے اور ایسے لگا کہ جیسے زمین انہیں نگل گئی ہو اور اس وقت تک ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔

حضرت عمرو بن امیہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھے اکیلے کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ میں حضرت خبیثؓ کی لکڑی کے پاس گیا پھر آگے پھیلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔

حضرت ضحاکؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے حضرت مقداد اور حضرت زبیرؓ کو حضرت خبیثؓ کو سولی کی لکڑی سے نیچے اتارنے کے لئے بھیجا۔ وہ دونوں معجم پینچے (جہاں مکہ سے باہر حضرت

۱۔ کذا فی معازی موسیٰ بن عقبہ کذا فی البدایہ (ج ۳ ص ۷۲) وقد اخرج ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۸۶) هذه القصة من طریق الواقدي عن عروة بطولها ۲۔ و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۲۱) عن الواقدي نحوه بطوله ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۱۱۰) و اخرجہ ابیضا عن عائشة نحو رواية البخاری الا انه لم يذكر من قوله لم وضع الي آخره ۴۔ اخرجہ ابو نعیم ابیضا و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۸۶) عن عروة نحوه و ابن سعد (ج ۳ ص ۲۳۱) عن عروة نحوه ۵۔ اخرجہ احمد والطبرانی قال الهیثمی (ج ۵ ص ۳۲۱) وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع وهو ضعيف. انتهى ۶۔ اخرجہ البیهقی من طریق ابراهيم بن اسمعيل عن جعفر بن عمرو بن امیة عن ابيه كما فی البدایہ (ج ۳ ص ۶۷) و اخرجہ ابو نعیم فی اللؤلؤ (ص ۲۲۷) من طریق ابراهيم بن اسمعيل باسنادہ نحو رواية البیهقی و اخرجہ ابن ابی شیبہ عن عمرو بن امیة نحوه كما الاصابة (ج ۱ ص ۳۱۹)

غیب کو سولی دی گئی تھی) تو انہیں وہاں حضرت غیبؑ کے ارد گرد چالیس آدمی نشہ میں بدست ملے۔ ان دونوں نے حضرت غیبؑ کو لکڑی سے اتارا پھر حضرت زبیرؓ نے ان کی نعش کو اپنے گھوڑے پر رکھ لیا۔ ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی پھر مشرکوں کو ان حضرات کا پتہ چل گیا انہوں نے ان حضرات کا پیچھا کیا جب مشرک ان کے پاس پہنچ گئے تو حضرت زبیرؓ نے (مجبور ہو کر) حضرت غیبؑ کی نعش کو نیچے پھینک دیا جسے فوراً زمین نے نگل لیا اسی وجہ سے حضرت غیبؑ کا نام بلع الارض رکھا گیا (اس کا ترجمہ یہ ہے وہ آدمی جسے زمین نے نگل لیا تھا)۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے اس امت میں ایسی تین باتیں پائی ہیں کہ وہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتیں تو کوئی امت ان کا مقابلہ اور ان کی برابری نہ کر سکتی اس کے بعد حدیث کا کچھ حصہ ابھی گزرا ہے اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ حضرت ابنِ عمرؓ کا انتقال ہو گیا اور ہم نے غسل دے کر ان کا جنازہ تیار کر دیا پھر قبر کھود کر انہیں دفن کر دیا۔ دفن کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا یہ کون ہیں؟ ہم نے کہا یہ اس زمانہ کے انسانوں میں سب سے بہترین ہیں یہ حضرت ابنِ عمرؓ ہیں۔ اس نے کہا یہ زمین مردوں کو باہر پھینک دیتی ہے۔ اگر آپ لوگ ان کو ایک دو میل دور لے جا کر دفن کر دو تو اچھا ہے کیونکہ وہاں کی زمین مردوں کو قبول کر لیتی ہے ہم نے کہا ہمارے اس ساتھی کے لئے ان کے احسانات اور نیکی کا یہ بدلہ تو مناسب نہیں ہے کہ ہم انہیں یہاں دفن رہنے دیں۔ اس طرح تو ان کی نعش باہر آ جائے گی اور انہیں درندے کھا جائیں گے چنانچہ ہم سب نے اس پر اتفاق کیا کہ قبر کھود کر انہیں نکالا جائے اور دوسری جگہ دفن کیا جائے۔ ہم نے قبر کھودنی شروع کر دی۔ جب ہم لحد پر پہنچے تو ہم دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ لحد میں ان کی نعش موجود نہیں تھی اور اس میں تاحدِ نگاہ نور چمک رہا تھا ہم نے لحد پر دوبارہ مٹی ڈال دی اور وہاں سے چل دیئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابنِ عمرؓ کو ہم لوگوں نے ریت میں دفن کر دیا۔ وہاں سے کچھ دور ہی ہم گئے تھے تو ہم نے کہا کوئی درندہ آ کر انہیں کھا جائے گا ہم نے واپس آ کر انہیں قبر میں دیکھا تو وہ ہمیں وہاں نظر نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لئے گواروں سے قبر کھودی لیکن لحد نہ بنائی اور انہیں دفن کر کے آگے چل دیئے حضور ﷺ کے ایک صحابی نے کہا ہم نے ان کو دفن تو کر دیا ہے لیکن قبر میں ان کے لئے لحد نہیں بنائی یہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ اس پر ہم لحد بنانے کے لئے

۱۔ ذکرہ ابو یوسف فی کتاب اللطائف کلانی الاصابہ (ج ۱ ص ۳۱۹)

۲۔ اخرجه البيهقي كلالي البداية (ج ۶ ص ۱۵۵) وهذا ۱ سنادر رجاله ثقات ولكن فيه انقطاع كما في البداية (ج ۶ ص ۲۹۲)

۳۔ عند الطبرانی فی الخلافة قال الهيثمي (ج ۹ ص ۳۷۶) وفيه

ابراهيم بن معمر الهروي ولم يعرفه وبقية رجاله ثقات . انتهى

واپس آئے تو ہمیں ان کی قبر کی جگہ ہی نہ ملی۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر حضرت عامر بن ثابت بن ابی الاح کو امیر بنایا پھر آگے حضرت خبیب بن عدی کا لمبا قصہ ذکر کیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عامر نے کہا میں کسی مشرک کے عہد میں آنا نہیں چاہتا (آخر شہید ہو گئے) انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ یہ کسی مشرک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ کوئی مشرک انہیں ہاتھ لگاسکے۔ حضرت عامر نے جب بدر کے دن قریش کے ایک بڑے سردار کو قتل کیا تھا، اس لئے قریش نے ایک جماعت بھیجی جو ان کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر لائے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا یا بھڑوں کا ایک غول بھیج دیا جس نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں کافروں سے بچا لیا اسی وجہ سے انہیں حمی ہلکہ بر کہا جاتا تھا (اس کا ترجمہ ہے وہ آدمی جسے شہد کی مکھیوں یا بھڑوں نے دشمن سے بچایا)۔ حضرت عروہ اسی قصہ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ مشرکوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان کا سر کاٹ کر مشرکین مکہ کے پاس بھیج دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں یا بھڑیں بھیج دیں جنہوں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا وہ مشرکوں کے چہروں پر اڑتی تھیں اور انہیں کاٹی تھیں اس طرح انہوں نے مشرکوں کو حضرت عامر کا سر کاٹنے نہ دیا۔

## درندوں کا صحابہ کرامؓ کے تابع ہونا اور ان سے باتیں کرنا

حضرت حمزہ بن ابی اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ ایک انصاری کے جنازے کے لئے بقیع تشریف لے گئے راستہ میں ایک بھیڑ یا اپنے بازو پھیلانے ہوئے بیٹھا تھا حضور نے فرمایا یہ تمہاری بکریوں میں سے اپنا حصہ مقرر کروانے آیا ہے لہذا اس کا حصہ مقرر کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا جو آپ کی رائے ہو یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہر چہ نے والے ریوڑ میں سے ہر سال ایک بکری (اسے دے دیا کرو) صحابہ نے عرض کیا یہ تو زیادہ ہے۔ حضور نے اشارہ کر کے بھیڑیے سے کہا تم چپکے سے چھٹا مار کر لے جایا کرو۔ پھر وہ بھیڑیا چلا گیا۔ حضرت مطلب بن عبد اللہ بن حطب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ مدینے میں تھے ایک بھیڑیا آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ درندوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے اگر تم چاہو تو اس کے لئے کچھ حصہ مقرر کر دو یہ اسے لے گا اور اس سے زیادہ لینے کی کوشش نہیں کرے گا اور اگر چاہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنے جانور اس سے بچانے کی کوشش کرو اور یہ داؤ لگا کر تمہارے جانور جتنے

۱۔ ذکرہ ابن سعد (ج ۳ ص ۶۳) و أخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۸) عن ابی ہریرۃ نحو روایۃ

۲۔ أخرجه الشیخان کذا فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۲۴۵)

۳۔ عند ابی نعیم فی الدلائل (ص ۱۸۳) ۴۔ أخرجه البیہقی

لے گیا وہ اس کا حصہ۔ صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ! ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ ہم اسے کچھ اپنے ہاتھ سے خود دیں۔ حضورؐ نے تین انگلیوں سے اشارہ کر کے بھڑیے سے کہا تم جھپٹا مار کر لے جایا کرو، چنانچہ وہ بھڑیا آواز نکالتا ہوا واپس چلا گیا۔

قبیلہ جمینہ کے ایک صاحب کہتے ہیں جب حضور ﷺ نماز پڑھ چکے تو سو کے قریب بھڑیے بھڑیوں کے نماز کے بن کر آئے اور آکر بیٹھ گئے حضورؐ نے فرمایا یہ بھڑیوں کا وفد آپ لوگوں کے پاس آیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے جانوروں میں سے ان کا حصہ مقرر کر کے انہیں دے دیا کریں اور باقی جانوروں کے بارے میں آپ لوگ بالکل بے فکر اور بے خوف ہو کر رہا کریں۔ صحابہؓ نے حضورؐ سے فقر و فاقہ اور تنگی کی شکایت کی۔ حضورؐ نے فرمایا انہیں واپس بھیج دو (اور بتادو کہ آپ لوگ ان کی تجویز پر عمل نہیں کر سکتے)۔ چنانچہ وہ بھڑیے آوازیں نکالتے ہوئے مدینہ سے چلے گئے۔

حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہؓ فرماتے ہیں میں سمندر میں سفر کر رہا تھا جس کشتی میں میں تھا وہ ٹوٹ گئی۔ میں اس کے ایک تختہ پر بیٹھ گیا۔ اس تختہ نے مجھے ایسے گھنے جنگل میں لاپھینکا جس میں شیر تھے ایک شیر مجھے کھانے کے لئے آیا۔ میں نے کہا اے ابو الحارث! (یہ شیر کی کنیت ہے) میں حضور ﷺ کا غلام ہوں۔ اس پر اس نے اپنا سر جھکا دیا اور آگے بڑھ کر مجھے کندھا مارا (اور میرے آگے آگے چل پڑا، یہاں تک کہ مجھے جنگل سے باہر لا کر راستہ پر ڈال دیا پھر آہستہ سے آواز نکالی جس سے میں سمجھا کہ یہ مجھے رخصت کر رہا ہے یہ میری اس شیر سے آخری ملاقات تھی۔

حضرت سفینہؓ فرماتے ہیں میں سمندر میں سفر کر رہا تھا ہماری کشتی ٹوٹ گئی (ہم ایک جنگل میں پہنچ گئے) ہمیں آگے راستہ نہیں مل رہا تھا وہاں ایک شیر ایک دم ہمارے سامنے آیا جسے دیکھ کر میرے ساتھی پیچھے ہٹ گئے میں نے شیر کے قریب جا کر کہا میں حضور ﷺ کا صحابی سفینہ ہوں، ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں (ہمیں راستہ بتاؤ) وہ میرے آگے چل پڑا اور چلتے چلتے ہمیں راستے پر لاکھڑا کیا پھر اس نے مجھے ذرا دھکا دیا گویا کہ وہ مجھے راستہ دکھا رہا تھا پھر ایک طرف کو ہٹ گیا میں سمجھ گیا کہ یہ اب ہمیں رخصت کر رہا ہے۔

۱۔ رواہ الواقدی عن رجل سماہ ۲۔ عند ابی نعیم و اخرجہ البیہقی و البزار عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ مختصراً کما فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۴۶) ۳۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۶۰۶) عن محمد بن المنکسر قال الحاکم ہذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ و واقفہ اللہبی و اخرجہ البخاری فی التاریخ الکبیر (ق ۱ ج ۲ ص ۱۷۹) عن ابن المنکسر قال سمعت سفینہ . فلذکر نحوہ و حکنا اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۶۹) والدلائل (ص ۲۱۲) عن ابن المنکسر عن سفینہ و اخرجہ ابن مندہ کما فی البدایہ (ج ۵ ص ۳۱۶) والطبرانی کما فی المجمع (ج ۹ ص ۳۶۶) عن سفینہ نحوہ ۴۔ عند البزار قال الہشیمی (ج ۹ ص ۳۶۷) رجالہما ای البزار و الطبرانی و ہوا

حضرت ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ ملک روم میں اپنے لشکر سے بچھڑ گئے یا ان کو وہاں رومیوں نے قید کر لیا تھا یہ کسی طرح قید سے بھاگ نکلے اور اپنا لشکر تلاش کر رہے تھے تو وہ اچانک ایک شیر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا اے ابو الحارث! میں حضور ﷺ کا غلام ہوں اور میرے ساتھ ایسے اور ایسے ہوا (انہوں نے لشکر سے بچھڑنے اور قید سے بھاگنے کا سارا واقعہ تفصیل سے اسے سنایا) وہ شیر دم ہلاتا ہوا آگے آ کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا (اور اس طرح اس نے اپنے تعلق اور فرمانبرداری کا اظہار کیا پھر آگے آگے چل پڑا) اور راستہ میں جب کسی جانور کی آواز کسی طرف سے سنتا تو دوڑ کر اس کی طرف جاتا اور اسے بھگادتا پھر ان کے پاس ان کے پہلو میں آ جاتا۔ سارے راستہ میں وہ ایسے ہی کرتار ہا یہاں تک کہ اس نے انہیں ان کے لشکر تک پہنچا دیا اور پھر واپس چلا گیا۔

حضرت وہب بن ابان قریشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابن عمرؓ ایک سفر میں گئے۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک جگہ انہیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ملے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے بتایا آگے راستہ پر ایک شیر ہے جس سے یہ خوفزدہ ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ اپنی سواری سے نیچے اترے اور چل کر اس شیر کے پاس گئے اور اس کے کان کو پکڑ کر مروڑا اور اس کی گردن پر تھپڑ مار کر اسے راستہ سے ہٹا دیا پھر (واپس آتے ہوئے آپ سے فرمایا) حضور ﷺ نے تمہیں غلط بات نہیں فرمائی میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ابن آدم پر وہی چیز مسلط ہوتی ہے جس سے ابن آدم ڈرتا ہے اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نہ ڈرے تو اس پر اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز مسلط نہ ہو ابن آدم اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس چیز سے اسے نفع یا نقصان ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے نفع یا نقصان کا یقین نہ رکھے تو اللہ سے کسی اور چیز کے بالکل حوالہ نہ کرے۔

حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میں اریحامقام کے ایک گرجا گھر میں دو پہر کو سو رہا تھا اب تو یہ مسجد بن چکا ہے اور اس میں نماز پڑھی جاتی ہے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرہ میں ایک شیر ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ میں گھبرا کر اپنے ہتھیاروں کی طرف اٹھا شیر نے مجھ سے کہا ٹھہر جاؤ مجھے ایک پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ تم اسے آگے پہنچا دو میں نے کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے تاکہ آپ بہت سفر کرنے والے معاویہؓ کو یہ بتا دیں کہ وہ جنت والوں میں سے ہیں میں نے کہا یہ

۱۔ اخروجه البیہقی کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۳۷)

۲۔ اخروجه ابن عساکر و اخروجه ابن عساکر عن نافع منحصرا نحوہ کما فی الكنز (ج ۷ ص ۵۹)



معاویہ گونے ہیں؟ اس نے کہا حضرت ابوسفیانؓ کے بیٹے (رضی اللہ عنہ)۔  
 حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیا  
 بکری کا چرواہا بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور اس نے زور لگا کر بھیڑیے سے بکری کو چھڑوا لیا تو  
 بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر کہنے لگا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو روزی اللہ نے مجھے پہنچائی وہ تم مجھ سے  
 چھینتے ہو۔ اس چرواہے نے کہا کیا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا  
 ہے۔ بھیڑیے نے کہا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں میرت میں حضرت محمد ﷺ  
 گزشتہ زمانے کی خبریں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ چرواہا اپنی بکریاں ہانک کر مدینہ پہنچ  
 گیا اور بکریوں کو مدینہ کے ایک کونے میں ایک جگہ اکٹھا کر کے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور  
 آپؐ کو سارا قصہ سنایا۔ حضورؐ کے فرمانے پر مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ آج سب (مسجد نبویؐ میں)  
 نماز اکتھے پڑھیں (اپنی مسجدوں میں نہ پڑھیں) جب لوگ جمع ہو گئے تو آپؐ نے باہر آ کر اس  
 چرواہے سے فرمایا انہیں وہ واقعہ سناؤ۔ اس نے تمام لوگوں کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا۔ حضورؐ نے  
 فرمایا اس نے سچ کہا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمدؐ کی جان ہے! اس وقت تک قیامت  
 قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں اور آدمی سے اس کے کوزے کا  
 سرا اور اس کی جوتی کا تسمہ بات نہ کرنے لگے اس کے گھر والوں نے اس کے بعد جو گڑ بڑ کی ہے وہ  
 اسے اس کی ران نہ بتائے۔ قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے کہ بھیڑیے سے حضرت اہبان بن اوسؓ  
 نے بات کی تھی، اس لئے انہیں بھیڑیے سے بات کرنے والا کہہ کر پکارا جاتا تھا اور ابن واہب  
 نے روایت کی ہے کہ بھیڑیے سے بات کرنے کا واقعہ حضرت ابوسفیان بن حرب اور حضرت  
 صفوان بن امیہؓ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کو پکڑنے کی  
 کوشش کر رہا ہے اتنے میں ہرن حرم میں داخل ہو گیا تو وہ بھیڑیا واپس جانے لگا۔ اس سے ان  
 دونوں کو تعجب ہوا اس پر اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت محمد بن  
 عبد اللہ (ﷺ) مدینہ میں تمہیں جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور تم انہیں جہنم کی آگ کی طرف  
 دعوت دے رہے ہو۔ (یہ دونوں حضرات اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لئے

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۵۷) و فیہ ابو بکر بن ابی مریم وقد اخلط۔ انتھی۔

۲۔ اخرجہ احمد (ج ۳ ص ۸۳) و ہذا اسناد صحیح علی شرط الصحیح وقد صححہ البیہقی ولم یروہ  
 الا الترمذی من قولہ والذی نفسی بیدہ الی آخر لم قال ہذا حدیث حسن غریب صحیح کذا فی البدایہ (ج  
 ۶ ص ۱۲۳) وللحدیث طریق اخری عند احمد والبیہقی والحاکم و ابی نعیم و اخرجہ احمد عن ابی  
 ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابو نعیم عن اس رضی اللہ عنہ والبیہقی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کما یسط ابن  
 کثیر فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۲۳ و ۱۲۵) وقد تکلم القاضی عیاض علی حدیث الذنب فذکر عن ابی  
 ہریرہ و ابی سعید و عن اہبان بن اوس رضی اللہ عنہم

حضرت صفوانؓ سے) حضرت ابوسفیانؓ نے کہالات و عزئی کی قسم! اگر تم نے مکہ میں اس بات کا تذکرہ کر دیا تو ہمارے مکہ والے مکہ چھوڑ دیں گے (اور مدینہ چلے جائیں گے)۔

## صحابہ کرامؓ کے لئے دریاؤں اور سمندروں کا مسخر ہونا

حضرت قیس بن حجاج اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن عاصؓ نے جب مصر فتح کر لیا تو بحمی مہینوں میں سے بوند مہینے کے شروع ہونے پر مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا امیر صاحب! ہمارے اس دریا ئے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں۔ حضرت عمروؓ نے ان سے پوچھا وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب اس مہینے کی بارہ راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر دریا ئے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمروؓ نے کہا یہ کام اسلام میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام (غلط) طریقے ختم کر دیتا ہے، چنانچہ مصر والے بوند، ابیب اور مسری تین مہینے ٹھہرے رہے اور آہستہ آہستہ دریا ئے نیل کا پانی ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمروؓ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر بن خطابؓ کو خط لکھا حضرت عمرؓ نے جواب میں لکھا آپ نے بالکل ٹھیک کیا بیشک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے میں آپ کو ایک پرچہ بھیج رہا ہوں جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا وہ پرچہ دریا ئے نیل میں ڈال دیں۔ جب خط حضرت عمروؓ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا اس میں یہ لکھا ہوا تھا ”اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمرؓ کی طرف سے مصر کے دریا ئے نیل کے نام۔ اما بعد! اگر تم اپنے پاس سے چلتے ہو تو مت چلو اور اگر تمہیں اللہ واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ واحد قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔“ چنانچہ حضرت عمروؓ نے صلیب کے دن سے ایک دن پہلے یہ پرچہ دریا ئے نیل میں ڈالا اور مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے کیونکہ ان کی ساری معیشت اور زراعت کا انحصار دریا ئے نیل کے پانی پر تھا۔ صلیب کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریا ئے نیل میں سولہ ہاتھ پانی چل رہا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ (اس دن سے لے کر آج تک دریا ئے نیل مسلسل چل رہا ہے)۔

قبیلہ بنو سعد کے غلام حضرت عروہؓ کہتے ہیں حضرت ابو ریحانہؓ ایک مرتبہ سمندر کا سفر

۱۔ کنافی البداية (ج ۶ ص ۱۲۶) ۲۔ اخرجہ ابن عبدالحکیم فی فتوح مصر و ابو شیخ فی العظمة و ابن عساکر خذافی المنتخب الكنز (ج ۳ ص ۲۸۰) و اخرجہ الحافظ ابو القاسم اللالکانی الطبری فی کتاب السنة عن قیس بن الحجاج نحوه كما فی الضمیر لا بن کثیر (ج ۳ ص ۴۶۴)

کر رہے تھے وہ اپنی کچھ کا پیاں ہی رہے تھے اچانک ان کی سوئی سمندر میں گر گئی انہوں نے اسی وقت یوں دعا مانگی اے میرے رب! میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو میری سوئی ضرور واپس کر دے، چنانچہ اسی وقت وہ سوئی (سطح سمندر پر) ظاہر ہوئی اور حضرت ابو ریحانہ نے وہ سوئی پکڑ لی۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ نے حضرت علاء بن الحضرمیؓ کو بحرین کی طرف بھیجا تو میں بھی ان کے پیچھے ہولیا میں نے ان کی تین باتیں دیکھیں مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ ان میں سب سے زیادہ عجیب بات کونسی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے جب ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں گھس جاؤ۔ چنانچہ ہم بسم اللہ پڑھ کر (بغیر کشتیوں کے) سمندر میں گھس گئے اور ہم نے (اپنے جانوروں پر سوار ہو کر) سمندر پار کر لیا اور ہمارے اونٹوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک وسیع بیابان میں ہمارا گزر ہوا۔ ہمارے پاس پانی بالکل نہیں تھا۔ ہم نے ان سے شکایت کی انہوں نے دو رکعت نماز پڑھ کر دعا مانگی تو ایک دم آسمان پر ڈھال کی طرح کا بادل آیا اور خوب برسا اور اس نے اپنے سارے دہانے کھول دیئے۔ ہم نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا تیسری بات یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان کو ریت میں دفن کر دیا۔ ابھی ہم وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے تھے کہ ہمیں خیال آیا کہ اس علاقہ کی زمین کچی نہیں ہے۔ ریتلا علاقہ ہے۔ کوئی درندہ آ کر ان کی قبر کھود کر انہیں کھا جائے گا اس خیال سے ہم واپس آئے تو قبر تو ان کی صحیح سالم تھی لیکن جب ہم نے ان کی قبر کھودی تو ہمیں ان کی نعش قبر میں نظر نہ آئی۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب (ہم سمندر پار کر کے جزیرہ میں پہنچ گئے اور) ہمیں کسریٰ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر ابن مکعب نے یوں جانوروں پر آتے دیکھا تو اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم! ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر کشتی میں بیٹھ کر ایں چلا گیا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں نے اس امت میں تین باتیں پائی ہیں پھر اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت علاء بن الحضرمیؓ کو ان کا امیر بنایا۔ میں بھی اس غزوہ میں گیا تھا۔ جب ہم غزوہ کی جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دشمن کو ہمارا پتہ چل گیا تھا اور وہ پانی کے تمام نشان مٹا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ گرمی پڑ رہی تھی اور پیاس کے مارے ہمارا اور ہمارے جانوروں کا برا حال ہو گیا تھا اور جمعہ کا دن تھا جب

۱۔ اخرجہ ابراہیم بن الجبید فی کتاب الاولیاء کذا فی الاصابة (ج ۲ ص ۱۵۷)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۸) و اخرجہ ابو نعیم ایضا فی الحلیة (ج ۱ ص ۸) عن ابی ہریرة  
لحوہ مقتصر علی قصہ البحر ۳۔ و اخرجہ الطبرانی فی الثلاثة عن ابی ہریرة لحوہ قال الہبشمی

(ج ۹ ص ۳۷۶) ولیہ ابراہیم بن معمر الہروی ولم اعرفہ وبقیة رجالہ لغات.

سورج غروب ہونے لگا تو حضرت علاء نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہمیں آسمان میں بادل کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا اللہ کی قسم! حضرت علاء نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی اور ایک بادل ظاہر کر دیا اور وہ بادل اتنے زور سے برسا کہ سارے نالے تالاب اور وادیاں پانی سے بھر گئیں اور ہم نے خود پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں اور برتنوں کو بھر لیا پھر ہم اپنے دشمن کے پاس پہنچے وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر خلیج پار کر کے سمندر میں ایک جزیرے میں جا چکے تھے اس خلیج کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت علاء نے ان الفاظ سے اللہ کو پکارا یا علی! یا عظیم! یا حلیم! یا کریم! پھر ہم سے کہا اللہ کا نام لے کر اس سمندر کو پار کرو، چنانچہ ہم وہ سمندر پار کرنے لگے ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں ہو رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دشمن کو جالیا۔ ہم نے انہیں قتل بھی کیا اور گرفتار بھی کیا اور انہیں غلام بھی بنایا اس کے بعد ہم پھر اس خلیج کے کنارے پر آئے اور حضرت علاء نے اللہ کو پھر انہی ناموں سے پکارا اور ہم پھر اس خلیج کو اس طرح پار کرنے لگے کہ ہمارے جانوروں کے کھر گیلے نہیں ہو رہے تھے آگے اور حدیث بھی ذکر کی۔

حضرت سہم بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حضرت علاء بن حضرمی کے ساتھ غزوے میں گئے پھر سارا واقعہ ذکر کیا اور دعائیں یہ الفاظ ذکر کئے یا عظیم! یا حلیم! یا علی! یا عظیم! ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں اور تیرے دشمن سے لڑنے کے ارادے سے نکلے ہیں ہمیں ایسی بارش عطا کر جس سے ہمارے پینے اور وضو کے پانی کا انتظام ہو جائے اور جب ہم اسے چھوڑ کر جائیں تو ہمارے علاوہ اور کسی کا اس میں حصہ نہ ہو اور سمندر کی دعائیں یہ الفاظ ہیں اور ہمارے لئے اپنے دشمن تک پہنچنے کا راستہ بنا دے۔<sup>۲</sup> ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضرت علاء ہمیں لے کر سمندر میں گھس گئے جب ہم اندر گئے تو پانی ہماری سواریوں کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچا اور ہم دشمن تک پہنچ گئے اور ابن جریر نے اپنی تاریخ میں اور ابن کثیر نے البدایۃ میں یہ قصہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت علاء بن حضرمیؓ کو بحرین کے مرتدین سے لڑنے کے لئے بھیجا اور اس میں یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ جن اونٹوں پر لشکر کا زاد سفر اور خیمے اور پینے کا پانی لدا ہوا تھا وہ سارے اونٹ سامان سمیت بھاگ گئے تھے اور پھر خود ہی سامان سمیت آگئے تھے اور یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پڑاؤ کی جگہ کے ساتھ ہی صاف و شفاف خالص پانی کا حوض پیدا فرما دیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ ان حضرات نے مرتدین سے جنگ

۱۔ اخرجہ البیہقی و ذکر البخاری فی تاریخ لہذہ القصة اسناد آخر ۲۔ قد اسندہ ابن ابی الدنيا كذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۵۵) و اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۷) عن سہم بن منجاب نحو رواية ابن ابی الدنيا مقتصرًا علی قصة البحر

کی۔ ابن کثیر نے یہ قصہ یوں ذکر کیا ہے کہ حضرت علاء نے مسلمانوں سے کہا آؤ (بحرین جزیرے کے علاقے) دارین چلتے ہیں تاکہ وہاں جا کر دشمن سے جنگ کریں اس پر سارے مسلمان فوراً تیار ہو گئے وہ ان مسلمانوں کو لے کر چل پڑے یہاں تک کہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے پہلے تو ان کا خیال ہوا کہ کشتیوں کے ذریعے دارین کا سفر کر لیں لیکن پھر یہ سوچا کہ سفر کافی لمبا ہے کشتیوں میں جاتے جاتے دیر لگ جائے گی اتنے میں اللہ کے دشمن وہاں سے آگے چلے جائیں گے اور پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو لے کر سمندر میں گھس گئے یا رحمہم الراحمین! یا حکیم! یا کریم! یا احد! یا صمد! یا حی! یا قیوم! یا ذا الجلال والاكرام! لا اله الا انت یا ربنا! اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سمندر میں گھس جائیں، چنانچہ انہوں نے بھی ایسا کیا اور اس طرح اللہ کے حکم سے ان سب کو لے کر حضرت علاء <sup>رضی اللہ عنہ</sup> کو پار کر گئے وہ سمندر میں نرم ریت جیسی جگہ پر چل رہے تھے جس پر اتنا کم پانی تھا کہ اونٹوں کے پاؤں بھی نہیں ڈوبے تھے اور وہ پانی گھوڑوں کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ سفر کشتی میں ایک رات ایک دن میں طے ہوتا تھا لیکن حضرت علاء نے سمندر پار کیا اور جزیرہ کے ساحل پر پہنچ گئے

وہاں جا کر دشمن سے

جنگ کی اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کا مال غنیمت سمیٹا اور پھر اپنی پہلی جگہ واپس بھی آگئے اور یہ سارے کام صرف ایک دن میں ہو گئے۔

حضرت ابن رقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بہر سیر قریب والا شہر تھا اور دریائے دجلہ کے پار دور والا شہر تھا جب حضرت سعدؓ نے بہر سیر کو فتح کر کے اس میں پڑاؤ ڈال لیا تو انہوں نے کشتیاں تلاش کیں تاکہ لوگ دریائے دجلہ پار کر کے دور والے شہر جا سکیں اور اسے فتح کر سکیں لیکن انہیں کوئی کشتی نہ مل سکی کیونکہ ایرانی لوگ تمام کشتیاں سمیٹ کر وہاں سے لے جا چکے تھے چنانچہ مسلمان صفر مہینے کے کئی دن بہر سیر میں ٹھہرے رہے اور حضرت سعدؓ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ (کشتیوں کے بغیر ہی) دریا پار کر لیا جائے لیکن شفقت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایسا کرنے نہیں دیتے تھے وہاں کے کچھ نجی کافروں نے آ کر انہیں دریا پار کرنے کے لئے وہ گھاٹ بتایا جو وادی کی سخت جگہ پہنچا دیتا تھا لیکن حضرت سعدؓ تڑو میں پڑ گئے اور اس گھاٹ میں سے جانے سے انکار کر دیا اتنے میں دریا کا پانی چڑھ گیا پھر حضرت سعدؓ نے خواب دیکھا کہ دریا میں پانی بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے لیکن مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھسے ہیں اور پار ہو گئے ہیں۔ اس

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۹) و اخرجه ابن جریر فی لاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۲) عن ابی

عثمان وغیرہ نحوه ۲۔ قاله فی البلیة (ج ۶ ص ۲۲۹) وھکذا ذکرہ ابن جریر (ج ۲

ص ۵۲۶) عن السری عن شعب عن سیف باسناده عن منجاب بن راشد فذكر القصة بطولها جدا.

خواب کو دیکھ کر انہوں نے دریا پار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا تمہارا دشمن اس دریا کی وجہ سے تم سے محفوظ ہو گیا ہے تم لوگ تو ان تک نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ لوگ جب چاہیں کشتیوں میں بیٹھ کر تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تمہارے پیچھے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے تم پر حملہ کا خطرہ ہو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ دریا پار کر کے دشمن پر حملہ کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے بیک زبان کہا آپ ضرور ایسا کریں اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت پر پکا رکھے پھر حضرت سعدؓ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا آپ لوگوں میں سے کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ پہل کرے اور دریا پار کر کے گھاٹ کے دوسرے کنارے پر قبضہ کر لے اور اس کنارے کی دشمن سے حفاظت کرے تاکہ دشمن مسلمانوں کو اس کنارے تک پہنچنے سے روک نہ سکے۔ اس پر حضرت عاصم بن عمروؓ فوراً تیار ہو گئے اور ان کے بعد اور چھ سو (۶۰۰) بہادر آدمی تیار ہو گئے حضرت سعدؓ نے حضرت عاصمؓ کو ان کا امیر بنایا حضرت عاصمؓ ان کو لے کر جلے پھر دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا آپ میں سے کون میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تاکہ ہم گھاٹ کے پر لے کنارے کو دشمن سے محفوظ کر لیں اس پر ان میں سے ساٹھ (۶۰) آدمی تیار ہو گئے۔ حضرت عاصمؓ نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھے لوگوں کو گھوڑوں پر اور آدھے لوگوں کو گھوڑیوں پر بٹھایا تاکہ گھوڑوں کے لئے تیرنے میں آسانی رہے پھر وہ جلد دجلہ میں داخل ہو گئے (اور دریا کو اللہ کی مدد سے پار کر لیا) جب حضرت سعدؓ نے دیکھا کہ حضرت عاصمؓ نے گھاٹ کے پر لے کنارے پر قبضہ کر کے محفوظ کر لیا ہے تو انہوں نے تمام لوگوں کو دریا میں گھس جانے کا حکم دے دیا اور فرمایا یہ دعا پڑھو نستعین باللہ ونوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم العظیم اور لشکر کے اکثر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے اور گہرے پانی پر بھی چلتے رہے حالانکہ دریائے دجلہ بہت جوش میں تھا اور بہت جھاگ پھینک رہا تھا اور ریت اور مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا اور لوگوں کی دوہو کی جوڑیاں بنی ہوئی تھیں اور وہ دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ ایران والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا وہ لوگ گھبرا کر ایسے جلدی میں بھاگے کہ اپنا اکثر مال وہاں ہی چھوڑ گئے اور ۱۶ ہجری صفر کے مہینہ میں مسلمان اس شہر میں داخل ہوئے اور کسریٰ کے خزانوں میں جو تین ارب تھے ان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور شہر ویہ اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے جو کچھ جمع کیا تھا اس پر بھی قبضہ ہو گیا۔

۱۔ أخرجه ابن نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۸) و ذکرہ الطبری فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۱۹) عن سیف مع بادعت و ذکرہ فی البدایہ (ج ۷ ص ۶۳) بطولہ

حضرت ابو بکر بن حفص بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گھوڑے مسلمانوں کو لے کر پانی پر تیر رہے تھے حضرت سعدؓ کے ساتھ حضرت سلمانؓ جل رہے تھے اور سعدؓ کہہ رہے تھے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اللہ کی قسم! اگر ہمارے لشکر میں بدکاری اور گناہ اتنے نہیں ہیں جو نیکیوں پر غالب آجائیں تو اللہ ضرور اپنے دوست کی مدد کریں گے اور اپنے دین کو غالب کریں گے اور اپنے دشمن کو شکست دیں گے۔ حضرت سلمانؓ نے ان سے کہا اسلام ابھی نیا ہے اور اللہ کی قسم! مسلمانوں کے لئے آج سمندر اور دریا ایسے مسخر کر دیے گئے ہیں جیسے ان کے لئے خشکی مسخر تھی۔ غور سے سنیں! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے مسلمان جیسے دریا میں فوج در فوج داخل ہوئے ہیں ایسے ہی اس سے فوج در فوج نکل بھی ضرور جائیں گے، چنانچہ مسلمان دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسے چھا گئے کہ پانی کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور خشکی پر چلتے ہوئے وہ جتنی باتیں آپس میں کر رہے تھے اب اس سے زیادہ کر رہے تھے اور جیسے حضرت سلمانؓ نے کہا تھا مسلمان آخردریا سے باہر نکل گئے۔ نہ ان کی کوئی چیز کم ہوئی اور نہ ان میں سے کوئی ڈوبا۔

حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارے مسلمان صحیح سالم پار ہو گئے، البتہ باریق چشمے کا رہنے والا ایک آدمی جسے غرقہ کہا جاتا تھا وہ اپنی سرخ گھوڑی کی پشت سے نیچے گر گیا اور وہ منظر اب تک میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس کی گھوڑی اپنی گردن کے بالوں سے پسینہ جھاڑ رہی تھی گرنے والے صاحب پانی کے اوپر ہی تھے حضرت قعقاع بن عمروؓ نے اپنے گھوڑے کی لگام ان کی طرف موڑی اور اپنے ہاتھ سے انہیں پکڑ کر کھینچتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی دریا کے پار ہو گئے اور لشکر میں سے کسی کی بھی کوئی چیز پانی میں نہیں گری صرف ایک پیالہ گرا تھا جو ایک پرانی رسی سے بندھا ہوا تھا وہ رسی ٹوٹ گئی اس لئے پیالہ گر گیا اور پانی اسے بہا کر لے گیا پیالے والے کے جوڑی دار نے عار دلاتے ہوئے اس سے کہا تمہارے پیالے کو تقدیر کا ایسا تیر لگا کہ وہ پانی میں گر گیا۔ پیالہ والے نے کہا نہیں، اللہ کی قسم! مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے لشکر میں صرف میرا پیالہ ہرگز نہیں لیں گے، چنانچہ دریا کی موجوں نے وہ پیالہ ساحل پر پھینک دیا اور گھاٹ کے پرلے کنارے کے پہرہ دینے والوں میں سے ایک آدمی کی نگاہ اس پیالے پر پڑی اس نے اپنے نیزے سے اسے اٹھالیا اور جب سارا لشکر دریا پار کر گیا تو وہ پیالہ لے کر لشکر میں آ گیا اور پیالے کے مالک کو تلاش کرنے لگا۔ آخروہ مالک مل گیا اور اس نے پیالہ لے لیا۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۹) واخرجه ابن جریر الطبری فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۱) عن ابی بکر بن حفص نحوہ مع زیادۃ فی اولہ  
 ۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۹) واخرجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۲۲) عن ابی عثمان وغیرہ نحوہ

حضرت عمیر صاندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت سعد لوگوں کو لے کر دجلہ میں داخل ہونے لگے تو سب لوگوں نے جوڑیاں بنالیں حضرت سلمانؓ حضرت سعد کے جوڑی دار تھے اور پانی پران کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت سعد نے یہ آیت پڑھی ذَلِك تَسْقِدُ بِرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيِّ (سورت یاسین آیت ۳۸) ”یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس (خدا) کا جوڑ بردست، علم والا ہے۔“ دریا میں پانی بہت چڑھا ہوا تھا اور گھوڑا کچھ دیر سیدھا کھڑا رہتا جب تھک جاتا تو دریا میں ایک ٹیلہ ظاہر ہو جاتا جس پر وہ زمین کی طرح کھڑے ہو کر آرام کر لیتا۔ مدائن شہر میں اس سے زیادہ عجیب منظر کبھی پیش نہیں آیا تھا چونکہ پانی کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود جگہ جگہ ٹیلے ظاہر ہوئے تھے اس وجہ سے اس دن کو ٹیلوں کا دن کہا جاتا تھا۔ ابو نعیم نے بھی حضرت عمیر صاندی سے اسی جیسی روایت نقل کی ہے لیکن اس کی روایت میں مضمون اس طرح سے ہے کہ مدائن میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا اور چونکہ جو بھی تھک جاتا تھا اس کے سامنے فوراً ایک ٹیلہ نمودار ہو جاتا تھا جس پر وہ آرام کر لیتا تھا، اس لئے اس دن کو ٹیلوں والا دن کہا جاتا تھا۔

حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم دجلہ میں داخل ہوئے تو وہ کناروں تک لبالب بھرا ہوا تھا۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں پانی سب سے زیادہ تھا وہاں گھوڑے سوار کچھ دیر کھڑا رہا تو پانی اس کی پیٹی تک بھی نہ پہنچا۔

حضرت حبیب بن صہبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے ایک آدمی جن کا نام حجر بن عدی تھا، انہوں نے کہا کیا تمہیں پار کر کے دشمن تک جانے سے صرف پانی کا یہ قطرہ ہی روک رہا ہے۔ پانی کے قطرے سے مراد وہ دریائے دجلہ لے رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا (سورت آل عمران آیت ۱۴۵) ”اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا تعالیٰ کے اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔“ پھر انہوں نے اپنا گھوڑا دریا کے دجلہ میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے ڈالا تو تمام لوگوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیئے۔ جب دشمن نے انہیں یوں دریا پار کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو دیو ہیں دیو اور پھر وہ سارے بھاگ گئے۔ حضرت حبیب بن صہبان ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مسلمان مدائن والے دن دریائے دجلہ پار کر رہے تھے تو دشمن انہیں دریا پار کرتا ہوا دیکھ کر فارسی میں کہنے لگا یہ تو دیو ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم! تمہیں اب انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے لڑنا ہوگا اس سے وہ مرعوب

۱۔ اخروجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۲) ۲۔ اخروجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۹)

۳۔ اخروجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۳) و اخروجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۰) عن قیس نحوه

۴۔ اخروجه ابن حاتم کنز الدلیلی التفسیر لابن کثیر (ج ۱ ص ۲۱۰)



ہو گئے اور انہیں شکست ہو گئی۔

حضرت امّش رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم دجلہ کے پاس پہنچے تو وہ بہت چڑھا ہوا تھا اور عجمی لوگ دریا کے اس پار تھے ایک مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور وہ ڈوبا نہیں بلکہ اس کا گھوڑا پانی کے اوپر چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی تمام لوگوں نے بھی بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیئے اور وہ سب پانی کے اوپر چلنے لگے۔ جب عجمی لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے یہ تو دیو ہیں، دیو ہیں۔ پھر ان کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ گئے۔

## آگ کا صحابہ کرام کی اطاعت کرنا

حضرت معاویہ بن حمرل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ گیا تو حضرت تمیم داریؓ مجھے اپنے ساتھ کھانے کے لئے لے گئے میں نے کھانا تو خوب کھایا لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ تھی اس وجہ سے میرا پیٹ پوری طرح نہیں بھرا کیونکہ میں تین دن سے مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا اور کچھ نہیں کھایا تھا ایک دن اچانک مدینہ کے پتھر لے میدان میں آگ ظاہر ہوئی حضرت عمرؓ نے آ کر حضرت تمیمؓ سے کہا اٹھو اور اس آگ کے بجھانے کا انتظام کرو۔ حضرت تمیمؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! میں کون ہوتا ہوں؟ اور میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن حضرت عمرؓ اصرار فرماتے رہے جس پر وہ حضرت عمرؓ کے ساتھ چل دیئے۔ میں بھی ان دونوں حضرات کے پیچھے چل دیا اور وہ دونوں حضرات آگ کے پاس گئے وہاں جا کر حضرت تمیمؓ اپنے ہاتھ سے آگ کو اس طرح دھکے دینے لگے یہاں تک کہ آگ گھٹائی میں اسی جگہ واپس داخل ہو گئی جہاں سے نکلی تھی۔ آگ کے پیچھے حضرت تمیمؓ بھی اندر داخل ہو گئے اور حضرت عمرؓ فرما رہے تھے (یہ ایمانی منظر) نہ دیکھنے والا دیکھنے والے جیسا نہیں ہو سکتا۔

حضرت معاویہ بن حمرل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ کے لشکر کے قابو پانے سے پہلے ہی میں نے توبہ کر لی۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں مسلمہ کذاب کا داماد معاویہ بن حمرل ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جاؤ اور جو مدینہ والوں میں سب سے بہترین آدمی ہے اس کے مہمان بن جاؤ میں حضرت تمیم داریؓ کا مہمان بن گیا ایک دفعہ مدینہ کے پتھر لے میدان میں آگ نکل آئی اس وقت ہم لوگ

۱۔ عند ابن نعیم فی الدلائل ص ۲۱) و اخرجہ ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۳) عن حبيب نحوه

۲۔ اخرجہ البيهقي كذا في البداية (ج ۶ ص ۱۵۵) ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۲) و اخرجہ

البيهقي عن معاوية بن حمرل قال خرجت نار بالحرة فذكر نحوه كذا في البداية (ج ۶ ص ۱۵۴)

باتیں کر رہے تھے حضرت عمرؓ نے آ کر حضرت تمیمؓ سے کہا (چلو اور اس آگ کا انتظام کرو) حضرت تمیمؓ نے کہا میری کیا حیثیت ہے؟ اور کیا آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ میرے پوشیدہ عیوب آپ پر ظاہر ہوں؟ اس طرح حضرت تمیمؓ کسر نفسی کر رہے تھے۔ (لیکن حضرت عمرؓ نے اصرار فرمایا تو) حضرت تمیمؓ گھڑے ہوئے اور آگ کو دھکے دیتے رہے یہاں تک کہ جس دروازے سے نکلی تھی اسی میں اسے واپس کر دیا اور پھر خود بھی آگ کے پیچھے اس دروازے کے اندر چلے گئے پھر باہر آ گئے اور اس سب کے باوجود آگ انہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکی۔ اور ابو نعیم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت تمیمؓ سے فرمایا ان ہی جیسے کاموں کے لئے ہم نے تمہیں چھپا رکھا ہے اے ابورقیہ (یہ حضرت تمیمؓ کی کنیت ہے)۔

## صحابہ کرامؓ کے لئے روشنی کا چمکنا

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے حضورؐ جب سجدے میں جاتے تو حضرت حسین اور حسنؓ کو دکرا آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو زمی سے پکڑ کر ان دونوں کو پیٹھ سے اتار دیتے آپ جب دوبارہ سجدے میں جاتے تو یہ دونوں پھر چڑھ جاتے۔ حضورؐ نے جب نماز پوری کر لی تو دونوں کو اپنی ران پر بٹھالیا میں کھڑے ہو کر حضورؐ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! ان دونوں کو گھر چھوڑ آؤں۔ اتنے میں بجلی چمکی تو حضور ﷺ نے ان دونوں سے فرمایا اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ بجلی کی روشنی اتنی دیر رہی کہ یہ دونوں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کو حضرت حسنؓ سے بہت زیادہ محبت تھی ایک دفعہ اندھیری رات میں حضرت حسنؓ حضورؐ کے پاس تھے حضرت حسنؓ نے کہا میں اپنی امی کے پاس چلا جاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اس کے ساتھ چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اتنے میں آسمان میں بجلی چمکی اور اس کی روشنی اتنی دیر رہی کہ اس میں چل کر حضرت حسنؓ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔

امام احمد نے جمعہ کی خاص گھڑی کے قصہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ پھر اس رات کو آسمان پر بہت زیادہ بادل آئے حضور ﷺ جب

۱۔ أخرجه البغوي كذالكي الاصابة (ج ۳ ص ۴۹۷)

۲۔ أخرجه ابونعيم في الدلائل (ص ۲۱۲) عن ضمرة بن مرزوق مختصر.

۳۔ أخرجه احمد قال الهيثمي (ج ۹ ص ۱۸۱) رواه احمد و البزار باختصار وقال في ليلة مظلمة و رجال احمد لقات. انتهى و أخرجه البيهقي عن ابى هريرة نحوه كما في البداية (ج ۶ ص ۱۵۲)

۴۔ أخرجه ابونعيم في الدلائل (ص ۲۰۵)

عشاء کی نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو ایک دم بجلی چمکی جس میں حضور کو حضرت قتادہ بن نعمان نظر آئے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ اے قتادہ! رات کے اندھیرے میں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! مجھے خیال آیا کہ بارش کی وجہ سے آج لوگ نماز میں کم آئیں گے، اس لئے میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو میرے آنے تک ٹھہرے رہنا۔ جب حضور نماز پڑھ کر واپس آئے تو انہیں کھجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا یہ لے لو یہ راستہ میں تمہارے آگے دس ہاتھ اور پیچھے دس ہاتھ روشنی کرے گی۔ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تمہیں ایک کونے میں کالی چیز نظر آئے تو بات کرنے سے پہلے اسے اس ٹہنی سے مارنا کیونکہ وہ شیطان ہے۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ نماز کے بعد حضور ﷺ نے مجھے کھجور کی ایک ٹہنی دی اور فرمایا تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کے پاس شیطان آیا ہے۔ تم یہ ٹہنی لے جاؤ اور گھر پہنچنے تک مضبوطی سے اسے پکڑے رہنا اور گھر کے کونے میں شیطان کو پکڑ کر اس ٹہنی سے خوب مارنا، چنانچہ میں مسجد سے نکلا تو اس ٹہنی سے موم جی کی طرح روشنی نکلنے لگی اور میں اس کی روشنی میں چلنے لگا۔ میں گھر پہنچا تو گھر والے سو رہے تھے۔ میں نے کونے میں دیکھا تو اس میں ایک سیہ بیٹھا ہوا تھا میں اسے اس ٹہنی سے مارنے لگا یہاں تک کہ گھر سے نکل گیا۔

حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے دو صحابی ایک اندھیری رات میں حضور کے پاس سے نکلے تو ان دونوں کے ساتھ دو چراغ سے تھے جو ان دونوں کے سامنے روشنی کر رہے تھے۔ جب دونوں الگ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ ہو گیا یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت اسید بن حضیر انصاری اور ایک انصاری صحابی حضور ﷺ سے اپنی کسی ضرورت کے بارے میں بات کر رہے تھے اس میں رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ اس رات اندھیرا بھی بہت تھا۔ جب یہ دونوں واپس جانے کے لئے حضور کے پاس سے نکلے تو دونوں کے پاس ایک ایک چھوٹی لاشمی تھی۔ ان میں سے ایک کی لاشمی میں سے روشنی نکلنے لگی وہ دونوں اس کی روشنی میں چلنے لگے۔ جب دونوں کے راستے الگ ہو گئے تو پھر دوسرے کی لاشمی میں سے بھی روشنی نکلنے لگی اور وہ اس کی روشنی میں چلنے لگے۔ پونہی روشنی میں چلتے چلتے دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عباد بن بشر اور حضرت اسید بن حضیر حضور ﷺ کے پاس سے باہر نکلے اور پھر پچھلی حدیث جیسی ذکر کی۔

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۲ ص ۱۶۷) رواہ احمد و البزار نحوه و رجالہما رجال الصحیح. انتہی.

۲۔ اخرجہ الطبرانی فی الکبیر عن قتادہ کما فی المجمع (ج ۲ ص ۳۰) قال

الہیثمی رجالہ موثقون ۳۔ اخرجہ البخاری

۴۔ عند ابن اسحق و قد علقہ البخاری عن معمر عن ثابت عن انس

حضرت حمزہ عمرو اسلمی فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے سخت اندھیری رات تھی اس میں ہم لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تو میری انگلیوں میں سے روشنی نکلنے لگی یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی سواریاں بھی جمع کیں اور ان کا جو سامان گر گیا تھا اسے بھی جمع کیا اور اتنی دیر میری انگلیوں میں سے روشنی نکلتی رہی۔ حضرت حمزہ بن عمرو فرماتے ہیں جب ہم تبوک میں تھے تو وہاں گھائی میں منافقوں نے حضور ﷺ کی اونٹنی کو چھیڑا جس سے وہ بدکی اور حضور کا کچھ سامان نیچے گر گیا پھر میری پانچوں انگلیاں روشن ہو گئیں اور ان کی روشنی میں میں نے گرا ہوا سامان کوڑا، رسی وغیرہ اٹھایا۔

حضرت میمون بن زید بن عبس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بتایا کہ حضرت ابو عبس تمام نمازیں حضور ﷺ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پھر قبیلہ بنو حارثہ کے محلہ میں واپس چلے جاتے ایک رات سخت اندھیرا تھا اور بارش ہو چکی تھی وہ مسجد سے نکلے تو ان کی لائھی میں سے روشنی نکلنے لگی اور وہ اس روشنی میں چل کر بنو حارثہ کے محلہ میں پہنچ گئے۔ حضرت بیہقی کہتے ہیں حضرت ابو عبس بدری صحابہ میں سے تھے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں حضرت ابو عبس بن جبرگی بینائی کمزور ہو گئی تو حضور ﷺ نے ان کو ایک لائھی دی اور فرمایا اس سے روشنی حاصل کرو، چنانچہ اس لائھی سے ان کے لئے یہاں سے وہاں تک کی ساری جگہ روشن ہو جاتی تھی۔

حضرت عمرو بن طفیل دو ہی تور والے حضور ﷺ کے صحابہ ہیں۔ سے تھے حضور نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی تو ان کے کوڑے میں سے روشنی نکلنے لگی تھی جس میں وہ چلتے رہے۔ جلد اول صفحہ ۲۶۲ پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے باب میں، حضرت طفیل بن عمرو دو ہی کے دعوت دینے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے حضور سے نشانی مانگی جس سے اپنی قوم کو

۱۔ علقہ البخاری ایضاً عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس وقترواہ النسائی والبیہقی من طریق حماد بن سلمة بہ کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۵۲) و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۶۰۶) من طریق حماد عن ثابت عن انس قال کان اسید بن الحضیر و عباد بن بشر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلة ظلما حندس فذکر نحوه و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۵) نحوه

۲۔ اخرجہ البخاری فی التاريخ و رواہ البیہقی والطبرانی کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۵۲) ولیمنا نقل الہیثمی عن الطبرانی وما سقط عن متاعہم بدل و ما ملک قال الہیثمی (ج ۹ ص ۴۱۱) رجال الطبرانی لقات و فی کثیر بن زید خلاف۔ انتہی وقال ابن کثیر فی البدایة (ج ۸ ص ۲۱۳) روی البخاری فی التاريخ باسناد جید فذکرہ مختصراً و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۶) عن حمزة بن خور و اية البخاری بہ ذکرہ ابن

۳۔ اخرجہ البیہقی کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۵۲) و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۵) ہذا الاسناد نحوه الا ان فی روايته ان ابا عیسیٰ و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۳۵۰) عن عبد الحمید بن ابی عبس ان ابا عبس فذکر نحوه مرسلًا ۴۔ قال فی الاصابة (ج ۳ ص ۱۳۰) قال الزبیر بن بکار فی الموفقیات حدثنی محمد بن الضحاک عن ابيه ۵۔ اخرجہ ابن مندہ وابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۷۸)

دعوت دینے میں مدد ملے آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اس کو کوئی نشانی عطا فرما۔ حضرت طفیلؓ کہتے ہیں، چنانچہ میں اپنی قوم کی طرف چل پڑا۔ جب میں اس گھاٹی پر پہنچا جہاں سے میں اپنی آبادی والوں کو نظر آنے لگا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوا۔ میں نے دعا مانگی اے اللہ! اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ ظاہر کر دے کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری قوم والے آنکھوں کے درمیان نور دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا ہے، چنانچہ وہ نور بدل کر میرے کوزے کے سرے پر آ گیا جب میں گھاٹی سے آبادی کی طرف اتر رہا تھا تو آبادی والوں کو میرے کوزے کا یہ نور لٹکے ہوئے قدیل کی طرح نظر آ رہا تھا جسے وہ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچ گیا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضرت عباس بن مطلبؓ اکثر فرمایا کرتے تھے میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو میرے اور اسکے درمیان روشنی پیدا ہوگئی اور جب بھی میں نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو میرے اور اس کے درمیان اندھیرا پیدا ہو گیا، اس لئے تم حسن سلوک اور نیکی کرنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ بری موت سے بچاتا ہے۔

### بادلوں کا صحابہ کرامؓ پر سایہ کرنا

حضرت کعبؓ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں ہم حضرت مقداد بن اسودؓ حضرت عمرو بن عبسہؓ اور حضرت شافع بن حبیب ہذلیؓ کے ساتھ ایک سفر میں گئے۔ حضرت عمرو بن عبسہؓ اپنی باری پر ایک جانور چرانے گئے۔ میں دوپہر کے وقت انہیں دیکھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل ان پر سایہ کیے ہوئے ہے جو ان سے جدا ہی نہیں ہوتا (وہ جدھر جاتے ہیں بادل بھی ادھر جاتا ہے) میں نے یہ بات انہیں بتائی تو انہوں نے فرمایا یہ میرا خاص راز ہے کسی کو مت بتانا اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے کسی کو بتایا ہے تو پھر تمہاری خیر نہیں وہ غلام کہتے ہیں چنانچہ ان کے انتقال تک میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔

### صحابہ کرامؓ کی دعاؤں سے بارش ہونا

بخاری میں ہے کہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں ایک دفعہ جمعہ کے دن حضور ﷺ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے منبر کے سامنے ایک دروازہ تھا اس سے ایک آدمی داخل ہوا اور آ کر حضورؐ کے

۱۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی الکنز (ج ۳ ص ۳۱۲)

۲۔ اخرجه ابو نعیم عن عبدالموہمن بن عمران بن الحارث کذا فی الاصابة (ج ۳ ص ۶)

سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ! سارے جانور ہلاک ہو گئے (کیونکہ بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی) اور خشک سالی اور پانی کی کمی کی وجہ سے سارے راستے بند ہو گئے لوگوں نے سفر کرنا چھوڑ دیا اس لئے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش دے دے آپ نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی اے اللہ! ہمیں بارش دے دے، اللہ ہمیں بارش دے دے، اللہ ہمیں بارش دے دے، اللہ ہمیں بارش دے دے، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم! ہمیں آسمان میں بادل وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور ہمارے اور سلع پہاڑ کے درمیان کوئی مکان یا گھر وغیرہ بھی نہیں تھا یعنی مطلع نظر آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں سلع پہاڑ کے پیچھے سے ڈھال جتنا ایک بادل نمودار ہوا جو آسمان کے بیچ میں پہنچ کر پھیل گیا اور برسنے لگا اور پھر مسلسل بارش ہوتی رہی اللہ کی قسم! ہم نے چھ دن تک سورج ہی نہیں دیکھا یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا اور حضور کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ! بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سارے جانور ہلاک ہو گئے سارے راستے بند ہو گئے آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ بارش روک لے۔ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ! ارد گرد بارش ہو ہم پر بارش نہ ہو اے اللہ! ٹیلوں، پہاڑیوں، پہاڑوں، درخت اور گھاس کے اگنے کی جگہ پر بارش ہو، چنانچہ اسی وقت بارش رک گئی اور مسجد سے باہر نکلے تو ہم دھوپ میں چل رہے تھے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ بادل پھٹ کر دائیں بائیں چلا گیا اور سب جگہ تو بارش ہوتی تھی مدینہ میں نہیں ہوتی تھی۔ بخاری کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضور نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہمیں آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ابھی حضور نے ہاتھ نیچے نہیں کئے تھے کہ ایک دم آسمان پر پہاڑوں جیسے بادل چھا گئے اور آپ منبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ میں نے بارش کا پانی حضور کی داڑھی سے ٹپکتے ہوئے دیکھا۔

حضرت ابولبابہ بن عبدالمذہب فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور ﷺ جمعہ کے دن لوگوں میں خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ! ہمیں بارش دے دے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کھجوریں کھلیانوں میں پڑی ہوئی ہیں حضور نے فرمایا اے اللہ! جب تک ابولبابہ کپڑے اتار کر اپنے کھلیان کا نالہ اپنی لنگی سے بند نہ کرے اس وقت تک تو ہم پر بارش برساتا رہے۔ اس وقت ہمیں آسمان میں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا لیکن تھوڑی ہی دیر میں زبردست بارش ہوئی تو حضرات انصار نے مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے اس وقت تک بارش نہیں رکنے کی جب تک کہ آپ وہ کام نہ

کر لیں جو حضورؐ نے فرمایا تھا چنانچہ میں اٹھا اور کپڑے اتار کر اپنی لنگی سے اپنے کھلیان کا نالہ بند کیا تو بارش رکی۔ جلد اول صفحہ ۲۵۱ پر مشقتیں برداشت کرنے کے باب میں حضرت عمرؓ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ ہے کہ حضورؐ نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے (اور اللہ سے دعا مانگی) اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کئے تھے کہ آسمان میں بادل آگئے پہلے بوند باندی ہوئی پھر موسلا دھار بارش شروع ہوگئی۔ صحابہ کرامؓ نے جتنے برتن ساتھ تھے وہ سارے بھرنے پھر بارش (بند ہونے کے بعد) ہم دیکھنے گئے (کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے) تو دیکھا کہ جہاں تک لشکر تھا صرف وہاں تک بارش ہوئی ہے لشکر کے باہر بارش نہیں ہوئی۔ ۲

حضرت عباس بن سہلؓ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو لوگوں کے پاس پانی بالکل نہیں تھا لوگوں نے حضورؐ سے شکایت کی آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک بادل بھیجا جو خوب زور سے برسایا یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انہیں جتنے پانی کی ضرورت تھی وہ بھی انہوں نے برتنوں میں ساتھ لے لیا۔ ۳

حضرت خوات بن جبریرؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ کے زمانے میں بڑا سخت قحط پڑا تو حضرت عمرؓ لوگوں کو لے کر شہر سے باہر گئے اور انہیں دو رکعت نماز استسقاء پڑھائی اور اپنی چادر کے دونوں کناروں کو بدلا دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں طرف کیا پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کی اے اللہ! ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے بارش مانگتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کے اس جگہ سے بٹنے سے پہلے ہی بارش شروع ہوگئی اور خوب بارش ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد دیہاتی لوگوں نے آ کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المؤمنین! فلاں دن فلاں وقت ہم اپنے کھیت اور جنگلوں میں تھے کہ اچانک بادل ہمارے سروں پر آ گئے۔ ہم نے ان میں سے یہ آواز سنی اے ابو حفص! (یہ حضرت عمرؓ کی کنیت ہے) آپ کے پاس مدد آگئی اے ابو حفص! آپ کے پاس مدد آگئی۔ ۴

حضرت مالک الدار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ میں زبردست قحط پڑا ایک آدمی نے حضورؐ کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! اپنی امت کو خواب میں حضورؐ کی زیارت ہوئی۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا جا کر عمرؓ کو میرا سلام کہو اور اسے بتادو کہ بارش ہوگی اور اسے کہہ دو کہ بھجھداری سے کام لے اور عظیمندی اختیار کرے۔ اس آدمی نے آ کر حضرت

۱۔ اخرجہ ابونعیم فی الدلائل (ص ۱۶۰) واخرجه البيهقي عن ابى لبابة نحوه كما فى البداية (ج ۶ ص

۹۲) وقال و هلا اسناد حسن ولم يروه احمد ولا اهل الكتب. انتهى ۲۔ عند ابن جرير و البزار و

الطبراني و اخرجه ابونعيم فى الدلائل (ص ۱۹۰) عن عمر نحوه

۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الدلائل (ص ۱۹۰) ۴۔ اخرجہ ابن ابى الدنيا و ابن عساکر کذا فى الكنز

عمرؓ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمرؓ رونے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب! محنت کرنے اور سمجھداری سے کام لینے میں کسی طرح کمی نہیں کرتا ہوں، البتہ کوئی کام ہی میرے بس سے باہر ہو تو اور بات ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں ایک عرصہ تک بارش بند رہی جس سے کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں اور سارے علاقہ میں زبردست قحط پھیل گیا۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اس قحط کا نام قحط الرمادہ پڑ گیا۔ (رمادہ کے معنی راکھ کے ہیں اس قحط سے لوگوں کے رنگ راکھ جیسے ہو گئے تھے) یہاں تک کہ جنگلی جانور بھوک کے مارے بستیوں کا رخ کرنے لگے تھے اور پالتو جانوروں کو بھی گھاس اور پانی نہیں ملتا تھا جس کی وجہ سے ان کے جسم میں گوشت ختم ہو گیا تھا بالکل سوکھے اور دبلے پتلے ہو گئے تھے یہاں تک کہ آدمی کو سخت بھوک لگی ہوتی تھی اور وہ بکری ذبح کرنا چاہتا لیکن بکری کی بری حالت دیکھ کر اس کا ذبح کرنے کو دل نہ کرتا اور اسے چھوڑ دیتا لوگ اسی حال میں تھے اور مصر، شام اور عراق جیسے ملکوں کے مسلمانوں سے غذائی امداد منگوانے کی طرف حضرت عمرؓ کی توجہ نہیں تھی ایک دن حضرت بلال بن حارث مزنی آئے اور ان الفاظ سے حضرت عمرؓ سے اندر آنے کی اجازت مانگی کہ میں آپ کے پاس اللہ کے رسول ﷺ کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسولؐ آپ سے فرما رہے ہیں میں تو تم کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا اور اب تک تم بالکل ٹھیک چلتے رہے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمرؓ نے پوچھا تم نے یہ خواب کب دیکھا؟ حضرت بلالؓ نے کہا آج رات حضرت عمرؓ نے باہر جا کر لوگوں میں اعلان کیا الصلوٰۃ جامعة آج سب مسجد نبویؐ میں اکٹھے نماز پڑھیں اپنی مسجدوں میں نہ پڑھیں لوگ جمع ہو گئے تو انہیں دو رکعت نماز پڑھانی پھر کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگو! میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ میں تو اپنی سمجھ کے مطابق ہر کام کی سب سے بہتر صورت اختیار کرتا ہوں تو کیا آپ لوگوں کے خیال میں میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو بہتر نہ ہو بلکہ دوسرا کام اس سے بہتر ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا لیکن بلالؓ بن حارث تو یہ اور یہ کہہ رہے ہیں (حضرت عمرؓ حضورؐ کے فرمان کا مطلب نہ سمجھ سکے لیکن لوگ سمجھ گئے) لوگوں نے کہا حضرت بلالؓ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے بھی مدد مانگیں اور (مصر شام عراق کے) مسلمانوں سے بھی مدد مانگیں، چنانچہ مسلمانوں سے غلہ منگوانے کی طرف حضرت عمرؓ کی توجہ نہ تھی اب ہو گئی اور انہیں اس سلسلہ میں خط بھیجے بہر حال لوگوں کی بات سن کر حضرت عمرؓ نے خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر قحط کی آزمائش اپنے خاتمہ پر پہنچ گئی۔ حضرت عمرؓ پر یہ حقیقت کھلی کہ جس قوم

۱۔ اخرجہ البیہقی فی الدلائل کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۲۸۹) قال ابن کثیر فی البدایہ (ج ۷ ص ۹۲)



کو اللہ سے مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے اس کی آزمائش ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے تمام شہروں کے گورنروں کو یہ خط لکھا کہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے لوگ سخت قحطی و مصیبت میں ہیں، لہذا ان کی مدد کرو اور لوگوں کو نماز استسقاء کے لئے شہر سے باہر لے گئے اور حضرت عباسؓ کو بھی ساتھ لے گئے اور پیدل تشریف لے گئے پہلے مختصر بیان کیا پھر نماز پڑھائی پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یہ دعا مانگی اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اے اللہ! ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہم سے راضی ہو جا پھر وہاں سے واپس آئے تو زوردار بارش شروع ہو گئی اور راستے کے تمام گڑھے اور چھوٹے تالاب بارش کے پانی سے بھر گئے اور ان سب میں سے گزر کر یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ سکے۔ تاریخ طبری میں ہی حضرت عامر بن عمر بن خطابؓ سے بھی یہ قصہ منقول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ قبیلہ مزینہ کا ایک گھرانہ دیہات میں رہتا تھا انہوں نے اپنے گھروالے سے کہا فاقہ کی انتہا ہو گئی ہے ہمارے لئے ایک بکری ذبح کر دو۔ اس نے کہا ان بکریوں میں کچھ نہیں ہے لیکن گھروالے اصرار کرتے رہے آخر اس نے ایک بکری ذبح کی اور اس کی کھال اتاری تو صرف سرخ ہڈی تھی گوشت کا نام و نشان نہیں تھا تو اس کی ایک دم چیخ نکلی ہائے محمد علیہ السلام! (اگر وہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا) پھر اس نے خواب دیکھا کہ حضور ﷺ اس کے پاس تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں تمہیں بارش کی خوشخبری ہو، جا کر عمر گو میرا سلام کہو اور ان سے کہو اے عمر! میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ تم عہد کے پورا کرنے والے اور بات کے پکے تھے اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لہذا عظیمندی اختیار کرو۔ وہ صاحب دیہات سے چلے اور حضرت عمرؓ کے دروازے پر پہنچے اور حضرت عمرؓ کے غلام سے کہا اللہ کے رسول ﷺ کے قاصد کو اندر جانے کی اجازت دو پھر آگے بچھلی جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت سلیم بن عامر خبازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ بارشیں بند ہو گئیں تو حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ اور دمشق والے نماز استسقاء کے لئے شہر سے باہر گئے۔ جب حضرت معاویہؓ منبر پر بیٹھ گئے تو فرمایا حضرت یزید بن اسود جرشى کہاں ہیں؟ اس پر لوگوں نے انہیں زور سے پکارا تو وہ پھلانگتے ہوئے آئے اور حضرت معاویہؓ کے فرمانے پر ان کے قدموں کے پاس منبر پر بیٹھ گئے۔ حضرت معاویہؓ نے یوں دعا فرمائی اے اللہ! آج ہم تیرے سامنے اپنے سب سے بہترین اور سب سے افضل آدمی کو سفارشی بنا کر لائے ہیں۔ اے اللہ! ہم یزید بن اسود جرشى کو سفارشی بنا کر لائے ہیں اے یزید! اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاؤ، چنانچہ حضرت یزید نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی اٹھائے تو تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی طرف زور سے بادل آگئے اور ہوا انہیں جلدی سے ہمارے اوپر لے آئی اور بارش شروع ہو گئی اور اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگوں کو اپنے گھر

پہنچنا مشکل ہو گیا۔

حضرت ثمامہ بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ گرمی کے زمانے میں حضرت انسؓ کے باغ کے مالی نے آ کر ان سے بارش کے نہ ہونے اور زمین کے پیاسی ہونے کی شکایت کی۔ حضرت انسؓ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور نماز پڑھی پھر اس سے کہا کیا آسمان میں تمہیں کچھ بادل نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت انسؓ اندر گئے اور پھر نماز پڑھی پھر تیسری یا چوتھی دفعہ میں فرمایا اب جا کر دیکھو۔ اس نے کہا پرند۔ کے پر کے برابر بادل نظر آ رہا ہے۔ حضرت انسؓ پھر نماز پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ باغ کے منتظم نے اندر آ کر کہا سارے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں اور خوب بارش ہو چکی ہے۔ حضرت انسؓ نے اس سے کہا جو گھوڑا بشر بن شغاف نے بھیجا ہے اس پر سوار ہو کر جاؤ اور دیکھو کہاں تک بارش ہوئی ہے؟ وہ اس پر سوار ہو کر گیا اور دیکھ کر آیا اور بتایا کہ بارش مسیرین کے محلات سے آگے اور غضبان کے محلات سے آگے نہیں ہوئی۔ ۲۔ (یہاں حضرت انسؓ کی زمین ختم ہو جاتی ہے) طبقات ابن سعد میں یہی روایت حضرت ثابت بنائی سے ذرا مختصراً منقول ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت انسؓ بن مالکؓ کی زمین کے منتظم نے حضرت انسؓ سے بارش نہ ہونے اور زمین کے پیاسا ہونے کی شکایت کی۔ اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اس منتظم نے جا کر دیکھا تو بارش صرف ان کی زمین پر ہی ہوئی تھی آگے نہیں ہوئی تھی۔

حضرت حجر بن عدیؓ کو ایک مرتبہ (حضرت معاویہؓ کی قید میں) نہانے کی حاجت ہو گئی جو آدمی ان کی نگرانی کے لئے مقرر تھا اس سے انہوں نے کہا پینے والا پانی مجھے دے دو تا کہ میں اس سے غسل کر لوں اور کل مجھے پینے کے لئے کچھ نہ دینا اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ آپ پیاس سے مرجائیں گے تو حضرت معاویہؓ مجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے اللہ سے پانی کے لئے دعا مانگی فوراً ایک بادل آیا جس سے بارش برسنے لگی۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے پانی لیا پھر اس کے ساتھیوں نے ان سے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قید سے خلاصی دے۔ انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ! جو ہمارے لئے خیر ہو اسے مقدر فرما (قید سے خلاصی یا شہادت) چنانچہ انہیں اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو شہید کر دیا گیا۔ ۳۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انصار کے ایک قبیلہ کو حضور ﷺ کی یہ دعا حاصل تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی مرے گا تو اس کی قبر پر بادل آ کر ضرور برے گا۔ ایک دفعہ اس قبیلہ کے ایک آزاد کردہ غلام کا انتقال ہوا تو مسلمانوں نے کہا آج ہم حضورؐ کے اس فرمان کو بھی دیکھ لیں

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۷ ص ۴۴۴)

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۷ ص ۴۱)

۳۔ اخرجہ ابراہیم بن الجنید فی کتاب الاولیاء بسند منقطع کذا فی الاصابة (ج ۱ ص ۳۱۵)

گئے کہ قوم کا آزاد کردہ غلام قوم والوں میں سے ہی شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اس غلام کو دفن کر دیا گیا تو ایک بادل آ کر اس کی قبر پر برسایا۔

## آسمان سے آنے والے ڈول کے ذریعے پانی پلایا جانا

حضرت عثمان بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی تو روحا سے پہلے ہی منصرف مقام پر انہیں شام ہو گئی یہ روزے سے تھیں اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور پیاس کے مارے ان کا برا حال تھا تو آسمان سے سفید رسی سے بندھا ہوا پانی کا ایک ڈول آیا۔ حضرت ام ایمنؓ نے وہ ڈول لے کر اس میں سے خوب پانی پیا یہاں تک کہ اچھی طرح سیراب ہو گئیں۔ وہ فرمایا کرتی تھیں اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، حالانکہ میں سخت گرمیوں میں روزہ رکھا کرتی تھی تاکہ مجھے پیاس لگے لیکن پھر بھی پیاس نہیں لگتی تھی۔

## پانی میں برکت

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے وضو کے لئے پانی تلاش کیا لیکن پانی بالکل نہ ملا۔ میں نے دیکھا حضور ﷺ کے پاس وضو کا تھوڑا سا پانی لایا گیا حضور نے اس پانی میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں سے فرمایا کہ وہ اس برتن سے پانی لے کر وضو کریں میں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا تھا اور اس تھوڑے سے پانی سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں نماز کے لئے اذان ہوئی تو جن کے گھر مسجد سے قریب تھے وہ اٹھ کر اپنے گھر وضو کرنے چلے گئے اور جن کے گھر مسجد سے دور تھے وہ مسجد میں باقی رہ گئے۔ حضور ﷺ کے پاس پتھر کا ایک پیالہ لایا گیا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں حضور کا ہاتھ پھیل کر نہیں آ سکتا تھا آخر حضور نے انگلیاں سمیٹ کر اس میں ہاتھ ڈالا (تو ان میں سے پانی نکلنے لگا اور) جتنے آدمی باقی رہ گئے تھے ان سب نے اس پانی سے وضو کر لیا۔ حضرت حمید راوی کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ یہ وضو کرنے والے کتنے تھے؟ فرمایا اتنی یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ بخاری میں اس جیسی ایک اور روایت بھی ہے ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا حضور ﷺ مدینہ میں زوراء نامی جگہ میں تھے وہاں آپ کے پاس ایک برتن

۱۔ اخرجہ ابن عساکر کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۱۳۶) ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۲۲۳) ۳۔ اخرجہ ابن السکن عن القاسم نحوه کما فی الاصابة (ج ۳ ص ۳۴۲)

۳۔ اخرجہ البخاری وقد رواہ مسلم و الترمذی و النسائی من طریق عن مالک بہ وقال الترمذی حسن صحیح و اخرجہ احمد عن الطول منه.

ایا گیا آپ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے پھوٹنے لگا جس سے سب نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انسؓ سے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا تین سو یا تین سو کے قریب۔

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم لوگ چودہ سو تھے۔ حدیبیہ ایک کنواں ہے ہم نے اس میں سے پانی نکالا اور اتنا نکالا کہ اس میں ایک قطرہ پانی نہ بچا حضورؐ کو پتہ چلا کہ کنویں میں پانی بالکل ختم ہو گیا ہے تو آپؐ اس کنویں کے ایک کنارے پر بیٹھ گئے اور پانی منگوا کر اس سے کلی کی اور کلی کا پانی کنویں میں پھینک دیا تو تھوڑی ہی دیر میں کنواں پانی سے بھر گیا۔ ہم نے خود بھی پیا اور اپنی سواریوں کو بھی پلایا یہاں تک کہ ہم بھی سیراب ہو گئے اور ہماری سواریاں بھی۔ جلد اول صفحہ ۱۱۴ پر بخاری کے حوالہ سے صلح حدیبیہ کا یہ قصہ حضرت مسور اور حضرت مروان کی روایت سے گزر چکا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور حضورؐ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے آپؐ وضو فرما رہے تھے لوگ رونی صورت بنا کر حضورؐ کے پاس آئے حضورؐ نے پوچھا آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا نہ وضو کے لئے پانی ہے اور نہ پینے کے لئے۔ صرف یہی پانی ہے جو آپؐ کے سامنے ہے۔ حضورؐ نے اس پیالہ میں اپنا ہاتھ رکھا تو چشمہ کی طرح حضورؐ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی اٹھنے لگا۔ چنانچہ ہم نے وہ پانی پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے؟ حضرت جابرؓ نے فرمایا ہم تھے تو پندرہ سو لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہو جاتا۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں ہم حضورؐ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ اجنبی میں نماز کا وقت ہوا اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی تھا۔ حضورؐ نے پانی منگوا کر ایک پیالہ میں ڈالا پھر حضورؐ نے اس پیالہ میں اپنا ہاتھ ڈالا تو حضورؐ کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی پھوٹنے لگا پھر حضورؐ نے اعلان فرمایا غور سے سنو! آؤ وضو کر لو اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی برکت حاصل کر لو۔ لوگ آ کر وضو کرنے لگے اور میں لوگوں سے آگے بڑھ کر وہ پانی پینے لگا کیونکہ حضورؐ نے فرمایا تھا اللہ کی

۱۔ وَاخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ نَحْوَهُ كَذَا فِي الْبَدَائِيَةِ (ج ۶ ص ۹۳) وَ أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الدَّلَائِلِ (ص ۱۴۵) عَنِ انسِ نَحْوَهُ وَ أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ (ج ۱ ص ۱۷۸) مِنْ طَرَفِ عَنِ انسِ بِالْفَاظِ مُخْتَلَفَةً

۲۔ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَفْرِيحًا نَحْوَهُ الْبُخَارِيُّ اسْتَدَارَ مَا كَذَا فِي الْبَدَائِيَةِ (ج ۶ ص ۹۳) وَ أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الدَّلَائِلِ (ص ۱۴۵) عَنِ الْبَرَاءِ نَحْوَهُ ۳۔ وَ أَخْرَجَهُ عَنِ سَلْمَةَ بِنِ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْبَدَائِيَةِ (ج ۶ ص ۹۷) وَ أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ (ج ۱ ص ۱۷۹) عَنِ سَلْمَةَ

۴۔ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَذَا فِي الْبَدَائِيَةِ (ج ۶ ص ۹۶) وَ أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الدَّلَائِلِ (ص ۱۴۳) وَ ابْنُ سَعْدٍ (ج ۲ ص ۹۸) عَنْ نَحْوِهِ.

طرف سے آئی ہوئی برکت حاصل کر لو۔

حضرت ابوقنادہؓ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ حضور نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میرے پاس وضو کا برتن ہے جس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ حضور نے فرمایا اسے لاؤ۔ میں وہ برتن حضور کی خدمت میں لے گیا حضور نے فرمایا اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے لو پھر حضور نے وضو فرمایا پھر اس برتن میں ایک گھونٹ پانی بیچ گیا۔ حضور نے فرمایا اے ابوقنادہ! اسے سنبھال کر رکھو عنقریب اس پانی کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آئے گا۔ جب دو پہر کو گرمی سخت ہوئی تو حضور اٹھے اور حضور پر لوگوں کی نظر پڑی لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تو پیاس کے مارے ہلاک ہو گئے ہماری گردنیں ٹوٹ گئیں حضور نے فرمایا نہیں تم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا اے ابوقنادہ! وہ وضو کا برتن لے آؤ۔ میں برتن حضور کی خدمت میں لے آیا۔ حضور نے فرمایا میرا پیالہ کھول کر لے آؤ میں کھول کر لے آیا۔ حضور برتن میں سے اس پیالے میں ڈال کر لوگوں کو پلانے لگے اور حضور کے ارد گرد لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو! اچھے اخلاق اختیار کرو (ایک دوسرے کو دھکے مت مارو) تم میں سے ہر ایک سیراب ہو کر ہی واپس جائے گا، چنانچہ سب نے پانی پی لیا میرے اور حضور کے علاوہ اور کوئی نہ بچا۔ آپ نے میرے لئے پانی ڈال کر فرمایا اے ابوقنادہ! تم بھی پی لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نوش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لوگوں کو جو پلاتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، چنانچہ پہلے میں نے پیا پھر میرے بعد حضور نے پیا اور وضو کے برتن میں اتنا پانی بچا ہوا تھا جتنا پہلے تھا اور ان پینے والوں کی تعداد تین سو تھی۔ ابراہیم بن حجاج راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ پینے والے سات سو تھے۔<sup>۱</sup>

مسلم میں غزوہ تبوک کے بارے میں حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث منقول ہے جس میں پہلے تو دو نماز کو جمع کرنے کا ذکر ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پھر حضور ﷺ نے فرمایا انشاء اللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے چاشت کا وقت ہو ہی جائے گا۔ تم میں سے جو بھی اس چشمے پر پہنچ جائے وہ میرے آنے تک اس کے پانی کو ہاتھ بالکل نہ لگائے، چنانچہ جب ہم چشمے پر پہنچے تو ہم سے پہلے دو آدمی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور چشمے سے جوتے کے تسمہ کی طرح تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا تھا۔ حضور نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم دونوں نے اس چشمے کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں لگایا ہے۔ اس پر آپ نے ان دونوں کو کچھ برا بھلا کہا

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۳۳) و اخرجہ البخاری عنہ بخوہ کما فی البدایہ (ج ۶ ص ۹۷)

۲۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۳۳) و اخرجہ احمد و مسلم عن ابی قتادہ اطول منه کما فی البدایہ

پھر (حضور ﷺ کے فرمانے پر) لوگوں نے چلوؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا پھر حضور ﷺ نے اس برتن میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی اس چشمہ میں سے زور و شور سے بہت زیادہ پانی بہنے لگا جسے پی کر سب لوگ سیراب ہو گئے پھر حضور نے فرمایا اے معاذ! اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہ ساری جگہ باغوں سے بھری ہوئی ہوگی۔!

حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں صحابہ کرام حضور ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پھر آگے اور حدیث ذکر کی اس کے بعد حضرت عمرانؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے کہ اتنے میں ہمیں ایک عورت ملی جو دو بڑی مشکوں کے درمیان پاؤں لٹکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی ہم نے اس سے پوچھا پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں تو کہیں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس نے کہا ایک دن ایک رات کی مسافت پر ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ﷺ کے پاس چلو اس نے کہا اللہ کے رسول کون ہوتے ہیں؟ ہم نے اسے نہ کچھ کرنے دیا نہ بولنے دیا اور نہ بھاگنے دیا بلکہ اس پر قابو پا کر حضور کی خدمت میں لے آئے۔ اس نے حضور کے سامنے بھی ویسی باتیں کیں جیسی ہمارے سامنے کی تھیں، البتہ اس نے یہ بھی حضور کو بتایا کہ اس کے بچے یتیم ہیں حضور کے فرمانے پر اس کی دونوں بڑی مشکیں ہم حضور کی خدمت میں لے آئے۔ حضور نے ان مشکوں کے منہ پر دست مبارک پھیرا ہم چالیس آدمی تھے اور سخت پیاس تھے پہلے تو ان مشکوں سے ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا پھر ہمارے ساتھ جتنے مشکینزے اور برتن تھے وہ سب بھرنے اور اتنے زیادہ بھرے کہ بالکل پھٹنے والے ہو گئے تھے پھر حضور نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے وہ لے آؤ، چنانچہ ہم نے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں جمع کر کے اس عورت کو دے دیں پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ میں یا تو سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں یا پھر وہ سچ مچ نبی ہیں جیسے کہ ان کے ساتھی کہہ رہے تھے، چنانچہ اس عورت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیرے والوں کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی اور ڈیرے والے بھی مسلمان ہو گئے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے اس عورت سے فرمایا یہ کھانے کا سامان اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لئے لے جاؤ اور تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا ہمیں تو یہ سارا پانی اللہ نے اپنے نبی خزانے سے پلایا ہے۔!

۱۔ کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۰۰)

۲۔ کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۹۸) و اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۲۶) مطولا

حضرت زیاد بن حارث صدائی فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہے، لیکن تھوڑا ہے آپ کو کافی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کسی برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ کی خدمت میں لے آیا آپ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی ہر دو انگلیوں کے درمیان میں سے پانی پھوٹ رہا ہے حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ آتی تو ہم یوں ہی پانی پیتے پلاتے رہتے (کیونکہ یوں جسم سے پانی نکلنے میں شانِ ربوبیت کا شائبہ ہے، اس لئے اس معجزہ کا تھوڑی دیر کے لئے ہونا ہی مناسب ہے) جاؤ اور جا کر میرے صحابہ میں اعلان کر دو کہ جو بھی پانی لینا چاہتا ہے وہ جتنا چاہے آ کر چلو بھر بھر کر لے لے۔ حضرت زیاد کہتے ہیں میری قوم کا ایک وفد مسلمان ہو کر فرمانبردار بن کر حضور کی خدمت میں آیا۔ وفد کے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارا ایک کنواں ہے۔ سردیوں میں تو وہ ہمیں کافی ہو جاتا ہے، اس لئے سردیوں میں تو ہم اس کنویں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں اس کا پانی کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے ارد گرد کے چشموں پر بٹھہر جاتے ہیں لیکن اب ہم بٹھہر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ارد گرد کے تمام لوگ (اسلام لانے کی وجہ سے) ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کا پانی ہمیں گرمیوں میں بھی کافی ہو جایا کرے۔ حضور نے سات کنکریاں منگوائیں اور ان کو اپنے ہاتھ پر الگ الگ رکھ کر دعا کی پھر فرمایا۔ جب تم لوگ کنویں کے پاس پہنچو تو کنکریاں ایک ایک کر کے اس میں ڈال دو اور ان پر اللہ کا نام لیتے رہو، چنانچہ واپس جا کر انہوں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اس کنویں کا پانی اتنا زیادہ کر دیا کہ پھر انہیں اس کنویں کی گہرائی کبھی نظر نہیں آئی۔

حضرت ابو عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت حسین بن علیؑ مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تو وہ ابن مطیع کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہے تھے آگے اور حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ ابن مطیع نے ان سے کہا میں نے اپنے اس کنویں کو اس لئے ٹھیک کیا ہے تاکہ اس میں دوبارہ پانی آجائے لیکن ابھی تک ڈول خالی ہی نکلا ہے اس میں کچھ پانی نہیں آیا اگر آپ ہمارے لئے اس کنویں میں اللہ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت حسینؑ نے فرمایا کنویں کا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ ابن مطیع ڈول میں اس کنویں کا تھوڑا سا پانی لائے۔ حضرت حسینؑ نے اس میں سے کچھ پانی پیا پھر کلی کی پھر وہ پانی اسی کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا اور زیادہ بھی ہو گیا۔

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۴۷) و اخرجہ البیہقی عن زیاد مطولا و اصل هذا الحدیث فی

المسند و سنن ابی داؤد و الترمذی و ابن ماجہ کما فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۰۱)

۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۵ ص ۱۲۲)



## سفر غزوات کے دوران کھانے میں برکت

حضرت ابو عمرہ انصاریؓ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے لوگوں کو سخت بھوک لگی تو لوگوں نے حضورؐ سے کچھ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت لی اور عرض کیا یہ گوشت کھانے سے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیں گے جس سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے دیکھا کہ حضورؐ نے کچھ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ! کل جب ہم بھوکے اور پیدل دشمن کا مقابلہ کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اس لئے میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو لوگوں کے پاس جو توٹے بچے ہوئے ہیں وہ منگوا کر جمع کر لیں اور پھر اللہ سے اس میں برکت کی دعا کریں اللہ آپ کی دعا کی برکت سے کھانے میں برکت بھی دے دیں گے اور منزل تک بھی پہنچادیں گے، چنانچہ حضورؐ نے لوگوں سے ان کے بچے ہوئے توٹے منگوائے تو لوگ لانے لگے کوئی مٹھی بھر کھانے کی چیز لایا کوئی اس سے زیادہ۔ سب سے زیادہ ایک آدمی ساڑھے تین سیر کھجور لایا۔ حضورؐ نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا پھر کھڑے ہو کر کچھ دیر دعا کی پھر لشکروں سے فرمایا اپنے اپنے برتن لے آؤ اور اس میں سے لیں بھر کر برتنوں میں ڈال لو، چنانچہ لشکر والوں نے اپنے تمام برتن بھر لئے اور کھانے کا جتنا سامان پہلے تھا اتنا پھینچ گیا اسے دیکھ کر حضورؐ اتنا ہی سے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپؐ نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دنوں گواہیوں پر ایمان رکھتا ہو گا وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ جہنم کے اس سے دور رہنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو حمیس غفاریؓ فرماتے ہیں میں غزوہ تہامہ میں حضور ﷺ کے ساتھ تھا۔ جب ہم عسفان پہنچے تو صحابہ حضورؐ کے پاس آئے آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا لیکن حضورؐ کے ہنسنے سے لے کر آخر تک کا مضمون ذکر نہیں کیا بلکہ ذکر کیا ہے کہ پھر حضورؐ نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ جب عسفان سے آگے چلے گئے تو پھر بارش ہوئی اور حضورؐ اور صحابہؓ نیچے اترے اور سب نے بارش کا پانی پیا۔

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے سفر میں لوگوں کو سخت بھوک

۱۔ اخرجہ احمد بن حنبلہ و رواہ النسائی نحوه كذا في البداية (ج ۶ ص ۱۱۳) و اخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۱۸۰) عن ابی عمرہ نحوه و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۲۸) عن ابی ہریرہ و جابر رضی اللہ عنہما و مسلم عنہما و احمد و مسلم و النسائی عن ابی ہریرہ نحوه كما في البداية (ج ۶ ص ۱۱۳)  
 ۲۔ اخرجہ البزار و اخرجہ ايضا البيهقي عن ابی خیس نحوه كما في البداية (ج ۶ ص ۱۱۳) والطبرانی وفي الاوسط كما في المجموع (ج ۸ ص ۳۰۳) و الحاكم كما في الاصابة (ج ۳ ص ۵۳) وقال سند الحديث حسن



لگی تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھالیں اور ان کی چربی کا تیل استعمال کر لیں۔ حضورؐ نے فرمایا کر لو اس پر حضرت عمرؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر آگے حضرت ابو عمرہؓ جیسی حدیث ذکر کی۔

حضرت سلمہؓ فرماتے ہیں ہم لوگ غزوہ خیبر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے۔ ہمارے توشوں میں جتنی کھجوریں تھیں حضورؐ نے ہمیں انہیں جمع کرنے کا حکم دیا اور چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا۔ ہم نے اپنے توشوں کی کھجوریں لا کر اس پر پھیلا دیں پھر میں نے انگڑائی لی اور (جمع کی زیادتی کی وجہ سے) لمبے ہو کر دیکھا اور اندازہ لگایا تو بیٹھی ہوئی بکری جتنا ڈھیر تھا ہم چودہ سو آدمی تھے ہم نے وہ کھجوریں کھائیں پھر میں نے لمبے ہو کر دیکھا تو اب بھی بیٹھی ہوئی بکری جتنا ڈھیر تھا۔ اس کے بعد پانی میں برکت کا قصہ ذکر کیا۔ ۲۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اتنی کھجوریں کھائیں کہ ہم سیر ہو گئے اور پھر اپنے چمڑے کے تمام تھیلے کھجوروں سے بھر لئے۔ ۳۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے خندق کھودی اور آپ کے صحابہؓ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب حضورؐ نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا کیا تمہیں ایسا آدمی معلوم ہے جو ہمیں ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ ایک آدمی نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا اگر اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے تو پھر تم آگے بڑھو اور اس آدمی کے گھر چلو، چنانچہ یہ حضرات اس آدمی کے گھر تشریف لے گئے تو گھر والا وہاں گھر میں نہیں تھا بلکہ وہ اپنے حصے کی خندق کھود رہا تھا۔ اس کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ جلدی سے آؤ کیونکہ حضورؐ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اس آدمی کی ایک بکری تھی جس کا ایک بچہ بھی تھا وہ آدمی (ذبح کرنے کے لئے) بکری کی طرف جلدی سے بڑھا۔ حضورؐ نے فرمایا بکری کے بعد اس کے بچے کا کیا ہوگا؟ اس لئے بکری ذبح نہ کرو، چنانچہ اس نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کی بیوی نے تھوڑا سا آٹا لے کر گوندھا اور اس کی روٹی پکائی اتنے میں ہنڈیا بھی تیار ہو گئی اس کی بیوی نے پیالہ میں شرید بنا کر حضورؐ اور حضورؐ کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا۔ حضورؐ نے اپنی انگلی اس شرید میں رکھ کر فرمایا بسم اللہ، اے اللہ! اس میں برکت عطا فرما (پھر ساتھیوں سے فرمایا) کھاؤ، چنانچہ صحابہؓ نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا لیکن صرف ایک حصہ کھا سکے اور دو حصے پھر بھی بچ گئے۔ آپ کے ساتھ جو دس صحابی تھے آپ نے ان سے فرمایا اب آپ لوگ جاؤ اور اپنے جتنے اور آدمی بھیج دو، چنانچہ وہ دس صحابی چلے گئے اور دوسرے دس آ گئے

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۳۹) واخرجہ مسلم وغيرہ عنہما نحوه كما فی البداية

(ج ۶ ص ۱۱۴) ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ عن ایاس بن سلمة عن ابیہ رضی اللہ عنہ

۳۔ اخرجہ مسلم عن ایاس عن ابیہ کذا فی البداية (ج ۶ ص ۱۱۵)

اور انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا پھر آپ کھڑے ہوئے اور اس گھر والی عورت اور باقی تمام افراد کے لئے برکت کی دعا فرمائی پھر یہ حضرات خندق کی طرف چل پڑے آپ نے فرمایا ہمیں سلمانؓ کے پاس لے چلو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت سلمانؓ کے سامنے ایک سخت چٹان ہے جو ان سے ٹوٹ نہیں رہی حضورؐ نے فرمایا چھوڑو میں اسے سب سے پہلے توڑتا ہوں اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اس چٹان پر زور سے کدال ماری جس سے اس کا ایک تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا حضورؐ نے فرمایا اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! شام کے محلات فتح ہوں گے۔ آپ نے پھر زور سے کدال ماری تو ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا آپ نے فرمایا اللہ اکبر! رب کعبہ کی قسم! فارس کے محلات فتح ہوں گے۔ اس پر منافقوں نے کہا ہمیں تو اپنی حفاظت کے لئے خندق کھودنی پڑ رہی ہے اور یہ ہم سے فارس اور روم کے محلات کے وعدے کر رہے ہیں۔! اور خرچ کرنے کے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت جابرؓ نے ساڑھے تین سیر جو کے آٹے کی روٹی پکائی اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے اس کا سالن بنایا اور حضورؐ کو کھانے کی دعوت دی۔ حضورؐ نے تمام خندق والوں کو کھانے پر بلایا جو کہ ہزار کے قریب تھے سب نے پیٹ بھر کر کھالیا اور کھانا پھر بھی سارے کا سارا ویسے ہی بچ گیا۔

## مقام پر رہتے ہوئے صحابہ کرامؓ کے کھانے میں برکت

حضرت سمرہ بن جندبؓ فرماتے ہیں ہم لوگ حضورؐ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضورؐ کی خدمت میں شرید کا ایک پیالہ پیش کیا گیا حضورؐ نے بھی وہ شرید کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا اور تقریباً ظہر تک لوگ آ کر باری باری کھاتے رہے کچھ لوگ کھا کر چلے جاتے پھر کچھ لوگ اور آتے اور کھا کر چلے جاتے۔ ایک آدمی نے پوچھا کیا اس میں اور شرید لاکر ڈالا جاتا تھا؟ حضرت سمرہؓ نے فرمایا زمین سے لاکر تو نہیں ڈالا جا رہا تھا، البتہ آسمان سے ضرور ڈالا جا رہا تھا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کیا اس میں اور شرید لاکر ڈالا جا رہا تھا؟ حضرت سمرہؓ نے فرمایا پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہوتی پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا صرف وہاں سے لاکر ڈالا جا رہا تھا۔<sup>۱</sup>

حضرت واثلہ بن اسقعؓ فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے تھا ایک دن حضورؐ نے مجھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا منگوایا اور اس کے ٹکڑے کر کے ایک پیالے میں ڈالے اور اس میں گرم پانی

۱۔ اخرجہ الطبرانی کذا فی البدایة (ج ۳ ص ۱۰۰) قال الهیثمی (ج ۶ ص ۱۳۲) رواہ الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح غیر عبد اللہ بن احمد بن حنبل و نعیم العنبری و ہماقتان۔ انتھی

۲۔ اخرجہ احمد و قنرواہ الترمذی و النسائی ایضا کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۱۲) و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۵۳) عن سمرہ نحوہ

ڈالا پھر چربی ڈالی پھر ان کو اچھی طرح ملایا پھر ان کی ڈھیری بنا کر بیچ میں سے اونچا کر دیا پھر فرمایا جاؤ اور اپنے سمیت دس آدمی میرے پاس بلا لاؤ۔ میں دس آدمی بلا لایا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ لیکن نیچے سے کھانا اوپر سے نہ کھانا کیونکہ برکت اوپر یعنی درمیان میں اترتی ہے، چنانچہ ان سب نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔

حضرت واثلہ بن اسقع فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ میں سے تھا میرے ساتھیوں نے بھوک کی شکایت کی اور مجھ سے کہا اے واثلہ! حضور ﷺ کی خدمت میں جاؤ اور ہمارے لئے کچھ کھانا مانگ لاؤ۔ میں نے حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ساتھی بھوک کی شکایت کر رہے ہیں۔ حضور نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت عائشہؓ نے کہا یا رسول اللہ! اور تو کچھ نہیں البتہ روٹی کے کچھ ریزے ہیں آپ نے فرمایا وہی میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عائشہؓ چمڑے کا برتن لے آئیں (جس میں روٹی کے ریزے تھے) حضور نے ایک پیالہ منگوا کر اس میں وہ ریزے ڈالے اور اپنے ہاتھ سے ٹرید بنانی شروع کر دی تو وہ روٹی بڑھنے لگی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا پھر حضور نے فرمایا اے واثلہ! جاؤ اور اپنے ساتھیوں میں سے اپنے سمیت دس آدمی بلا لاؤ میں گیا اور اپنے ساتھیوں میں سے اپنے سمیت دس آدمی بلا لایا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو لیکن پیالے کے کناروں سے کھانا اوپر سے یعنی درمیان میں سے نہ کھانا کیونکہ درمیان میں برکت اترتی ہے، چنانچہ ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور جب وہ اٹھے تو پیالہ میں ٹرید اتنا ہی باقی تھا جتنا پہلے تھا حضور پھر اپنے ہاتھ سے ٹرید بنانے لگے اور ٹرید بڑھنے لگا یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا پھر آپ نے فرمایا اے واثلہ! جاؤ اور اپنے ساتھیوں میں سے دس آدمی لے آؤ میں دس ساتھیوں کو لے آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ لوگ بیٹھ گئے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا پھر اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے دس ساتھی اور لے آؤ میں جا کر دس ساتھی لے آیا انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور چلے گئے۔ آپ نے پوچھا کیا کوئی اور باقی رہ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں دس ساتھی رہ گئے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ اور انہیں بھی لے آؤ۔ میں جا کر انہیں لے آیا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا پھر اٹھ کر چلے گئے اور پیالہ میں اتنا ٹرید بچ گیا جتنا پہلے تھا پھر آپ نے فرمایا اے واثلہ! یہ عائشہ کے پاس لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ میں صفہ میں تھا ہم صفہ میں تقریباً بیس (۲۰) آدمی تھے پھر پھٹی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، البتہ اس حدیث میں روٹی کے ٹکڑے اور کچھ دودھ کا ذکر ہے۔

۱۔ اخرجہ احمد قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۰۵) رجالہ موقون و عند ابن ماجہ طرف من آخرہ۔ انتہی

۲۔ عند الطبرانی قال الہیثمی (ج ۵ ص ۳۰۵) رواہ کله الطبرانی باسنادین و اسنادہ حسن۔ انتہی و

اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۵۰) عن واثلہ لحوہ

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کئی دن تک حضور ﷺ کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضورؐ کو بہت زیادہ ستایا تو آپؐ اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے لیکن آپؐ کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپؐ حضرت فاطمہؓ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اے بیٹیا! کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہؓ نے کہا میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم! کچھ نہیں ہے۔ جب آپؐ حضرت فاطمہؓ کے ہاں تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہؓ کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں دو روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہؓ نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم! میں یہ کھانا حضور ﷺ کو کھلاؤں گی۔ نہ خود کھاؤں گی اور میرے پاس جو بچے ہیں نہ ان کو کھلاؤں گی، حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسینؓ میں سے ایک کو حضورؐ کی خدمت میں بلانے بھیجا حضورؐ حضرت فاطمہؓ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپؐ پر قربان ہوں اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپؐ کے لئے چھپا کر رکھا ہے۔ آپؐ نے فرمایا بیٹیا! لے آؤ۔ حضرت فاطمہؓ غرماتی ہیں میں وہ پیالہ لے آئی۔ اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے نبیؐ پر درود بھیجا اور کھانا حضورؐ کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضورؐ نے کھانا دیکھا تو فرمایا الحمد للہ! اے بیٹیا یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا اے ابا جان! یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپؐ نے اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا اے بیٹیا! تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تجھے بنو اسرائیل کی عورتوں کی سردار (حضرت مریم رضی اللہ عنہا) کے مشابہ بنایا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتے اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ پھر حضورؐ نے آدمی بھیج کر حضرت علیؓ کو بلایا پھر حضورؐ نے حضرت علیؓ، حضرت فاطمہؓ، حضرت حسنؓ، حضرت حسینؓ، حضرت امی ازواج مطہرات نے اور آپؐ کے تمام گھروالوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہؓ غرماتی ہیں سب کے کھا لینے کے بعد کھانا جوں کا توں باقی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آگیا۔ اس کھانے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت ڈالی۔ جلد اول صفحہ ۱۱۹ پر اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے دعوت دینے کے باب میں حضرت علیؓ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضور ﷺ نے بنو ہاشم کو بلایا وہ تقریباً چالیس آدمی تھے حضورؐ نے ایک منہ (۱۴ چھٹانک) کا کھانا پکا کر ان کے

سامنے رکھا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا لیکن جب وہ کھا کر اٹھے تو کھانا اسی طرح بچا ہوا تھا جیسے پہلے تھا۔ حضورؐ نے ایک پیالہ مشروب انہیں پلایا جسے انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب وہ پی چکے تو وہ مشروب بھی اسی طرح بچا ہوا تھا جیسے پہلے تھا آپؐ تین دن انہیں ایسے ہی کھلاتے پلاتے رہے پھر انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اس طرح جلد اول صفحہ ۳۲۱ پر سختیاں برداشت کرنے کے باب میں اہل صفہ کے کھانے میں برکت کے قصے گزر چکے ہیں جنہیں حضرت ابو ہریرہؓ اور دیگر صحابہؓ نے روایت کیا ہے اور جلد دوم صفحہ ۲۲۱ اور صفحہ ۲۲۱ پر خرچ کرنے کے باب میں مہمانوں کی مہمانی کے بعض قصے گزر چکے ہیں ان میں حضرت ابو طلحہؓ اور حضرت ابو بکرؓ کی مہمانی میں برکت اور رحمت ظاہر ہونے کے قصے بھی گزر چکے ہیں اور حضرت زینبؓ کے نکاح کے قصے میں ولیمہ میں برکت کا ظاہر ہونا بھی گزر چکا ہے۔

## صحابہ کرامؓ کے غلوں اور پھلوں میں برکت

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں قبیلہ دوس کی ایک عورت تھیں جنہیں ام شریک کہا جاتا تھا۔ وہ رمضان میں مسلمان ہوئیں پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی سفر میں ایک یہودی بھی ساتھ تھا انہیں سخت پیاس لگی یہودی کے پاس پانی تھا انہوں نے اس سے پانی مانگا اس نے کہا جب تک تم یہودی نہیں ہو جاؤ گی تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا یہ سو گئیں تو خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں پانی پلا رہا ہے جب یہ اٹھیں تو یہ بالکل سیراب ہو چکی تھیں اور پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی۔ جب یہ حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچیں تو سارا قصہ حضورؐ کو سنایا۔ حضورؐ نے ان کو شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھا اور عرض کیا آپؐ اپنے علاوہ سے چاہیں میری شادی کر دیں حضورؐ نے ان کی حضرت زیدؓ سے شادی کر دی اور حضورؐ نے حکم دیا کہ انہیں تیس صاع (تقریباً اڑھائی من) جو دیا جائے اور فرمایا اسے کھاتے رہو لیکن اسے کسی پیمانے سے مت ناپنا اور ان کے ساتھ گھی کی ایک کچی تھی جسے وہ حضورؐ کے لئے ہدیہ کے طور پر لائی تھیں۔ حضرت ام شریکؓ نے اپنی باندی سے کہا کہ یہ حضورؐ کی خدمت میں لے جاؤ۔ اس باندی نے جا کر حضورؐ کے گھر میں وہ کچی خالی کر دی اور گھی حضورؐ کے برتن میں ڈال دیا۔ حضورؐ نے باندی سے کہا اس کچی کو گھر جا کر لٹکا دینا اور اس کا منہ ڈوری سے بند نہ کرنا۔ اس باندی نے ایسے ہی کیا۔ حضرت ام شریکؓ نے اندر آ کر دیکھا تو کچی گھی سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے باندی سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جا کر یہ کچی حضورؐ کی خدمت میں دے آؤ۔ باندی نے کہا میں تو دے آئی ہوں۔ انہوں نے حضورؐ کو یہ بات بتائی۔ حضورؐ نے فرمایا اس کچی کا منہ کبھی بند نہ کرنا، چنانچہ بہت عرصہ تک یہ لوگ اس میں سے گھی نکال کر کھاتے رہے آخر ایک دفعہ حضرت ام شریکؓ نے اس کچی کا منہ بند کر دیا پھر یہ سلسلہ بند ہوا



پھر ان لوگوں نے جو کو پیانہ سے ناپا تو وہ بھی تیس صاع ہی تھے کچھ کم نہ ہوئے تھے۔  
حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ام شریک دوسرے نے ہجرت کی۔ راستہ  
میں ایک یہودی کا ساتھ ہو گیا۔ یہ روزے سے تھیں اور شام ہو چکی تھی یہودی نے اپنی بیوی سے کہا  
اگر تو نے اس عورت کو پانی پلایا تو میں تیری اچھی طرح خبر لوں گا آخر یہ پیاسی ہی سو گئیں۔ رات  
کے آخری حصہ میں ان کے سینے پر ایک ڈول اور ایک تھیلا (اللہ کی طرف سے) لا کر رکھا گیا۔  
انہوں نے اس ڈول میں سے خوب پانی پیا پھر انہوں نے اس یہودی کو اور اس کی بیوی کو اٹھایا  
تا کہ رات کے آخری حصے میں سفر شروع کر سکیں۔ یہودی نے کہا مجھے اس عورت کی آواز سے ایسا  
لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے پانی پی لیا ہو۔ حضرم شریک نے کہا پانی تو میں نے ضرور پیا ہے لیکن  
اللہ کی قسم! تمہاری بیوی نے مجھے پانی نہیں پلایا ہے۔ راوی کہتے ہیں حضرت ام شریک کی ایک گھی  
کی کچی تھی اس کے بعد گھی میں برکت کا قصہ ذکر کیا۔ ۲

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں ایک آدمی نے آ کر حضور ﷺ سے غلہ مانگا حضور نے اسے آدھا  
دسق جو دیئے (ایک دسق ۵ من ۱۰ سیر کا ہوتا ہے لہذا آدھا دسق ۲ من ۲۵ سیر کا ہوا) وہ آدمی، اس کی  
بیوی اور اس کا خادم بہت عرصے تک یہ جو کھاتے رہے پھر ایک دن اسے پیانہ سے ناپ لیا حضور کو  
پتہ لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اسے نہ ناپتے تو اسے ہمیشہ کھاتے رہتے اور یہ جو ختم نہ ہوتے  
اور ہمیشہ باقی رہتے۔ ۳

حضرت نوفل بن حارث بن عبدالمطلبؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ سے اپنی شادی  
کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ نے ایک عورت سے میری شادی کر دی اور مجھے دینے کے لئے  
آپ نے تلاش کیا تو آپ کو کچھ نہ ملا آپ نے اپنی زرہ دے کر حضرت ابورافع اور حضرت  
ابوایوبؓ کو بھیجا انہوں نے ایک یہودی کے پاس وہ زرہ رہن رکھی اور اس سے تیس صاع (۲ من ۲۵  
سیر) جو ادھار لے کر حضورؐ کی خدمت میں آئے۔ حضور نے وہ جو مجھے دے دیئے۔ ہم یہ جو چھ  
مہینے تک کھاتے رہے پھر ہم نے وہ جو پیانہ سے ناپ لیا تو وہ اتنے ہی نکلے جتنے ہم لے کر آئے تھے  
کچھ کم نہ ہوئے۔ میں نے اس بات کا حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے نہ ناپتے تو  
جب تک زندہ رہتے اس میں سے کھاتے رہتے۔ ۴

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضور ﷺ کا انتقال ہوا تو اس وقت میرے پاس انسان کے  
کھانے کے قابل کوئی چیز نہیں تھی بس صرف کچھ جو تھے جو میرے طاق میں رکھے ہوئے تھے

۱۔ اخرجہ البیہقی کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۰۲) ۲۔ عند ابن سعد (ج ۸ ص ۱۵۷)

۳۔ اخرجہ احمد و اخرجہ مسلم عن جابر کما فی البدایة (ج ۶ ص ۱۰۲) ۴۔ اخرجہ الحاکم

(جلد ۳ ص ۲۲۶) و اخرجہ البیہقی عن نوفل بن الحارث نحوه کما فی البدایة (ج ۶ ص ۱۱۹)

جنہیں میں بہت عرصے تک کھاتی رہی پھر ایک دن میں نے انہیں تولا تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان پر قرضہ تھا میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے والد اپنے ذمہ قرض چھوڑ کر گئے ہیں۔ قرض ادا کرنے کے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے والد صاحب کا کھجوروں کا ایک باغ ہے بس اس کی آمدن ہے اور اس کی آمدن اتنی کم ہے کہ کئی سالوں میں قرض ادا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرضخواہ مجھے برا بھلا نہ کہہ سکیں چنانچہ آپ میرے ساتھ تشریف لے گئے اور کھجور کے ایک ڈھیر کے گرد چکر لگایا اور دعا فرمائی پھر دوسرے ڈھیر کے گرد چکر لگایا پھر اس کے پاس بیٹھ گئے اور قرضخواہوں سے فرمایا اس میں سے لینا شروع کرو (حضور نے ان کو دینا شروع کیا) اور ان سب کو ان کے قرض کے مطابق پورا پورا دے دیا اور جتنا انہیں دیا اتنا بچ بھی گیا۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضور اس ڈھیر کے پاس گئے پھر فرمایا جاؤ اور اپنے قرض مانگنے والے ساتھیوں کو بلا لاؤ، میں انہیں بلا لایا اور حضور انہیں تول تول کر دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کا سارا قرضہ ادا کر دیا، حالانکہ اللہ کی قسم! میں تو اس بات پر بھی راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کا سارا قرضہ اتروادیتے اور میں ایک بھی کھجور اپنی بہنوں کے پاس واپس لے کر نہ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کھجور کے سارے ڈھیر بچا دیئے بلکہ مجھے تو وہ ڈھیر جس پر حضور ﷺ بیٹھے تھے وہ بھی صحیح سالم نظر آ رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔

حضرت سعد بن میناء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت بشیر بن سعد کی بیٹی جو کہ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن ہیں وہ فرماتی ہیں مجھے میری والدہ حضرت عمرہ بنت رواحہ نے بلایا اور مٹھی بھر کھجوریں میری جھولی میں ڈال کر فرمایا اے بیٹی! اپنے والد اور اپنے ماموں حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس ان کا دوپہر کا کھانا لے جاؤ۔ میں وہ کھجوریں لے کر چل پڑی اور اپنے والد اور ماموں کو ڈھونڈتی ہوئی حضور ﷺ کے پاس سے گزری۔ حضور نے فرمایا اے بیٹی! یہاں آؤ یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کھجوریں ہیں جنہیں دے کر میری والدہ نے میرے والد اور ماموں کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ یہ کھالیں۔ حضور نے فرمایا مجھے دے دو۔ میں نے وہ کھجوریں حضور کے دونوں ہاتھوں میں ڈال دیں۔ وہ کھجوریں اتنی تھوڑی تھیں کہ ان سے حضور کے دونوں ہاتھ بھر نہ سکے پھر آپ کے حکم پر ایک کپڑا بچھایا گیا جس پر آپ نے وہ کھجوریں ڈال دیں وہ

۱۔ اخرجہ الشیخان و الترمذی کذا فی الترغیب (ج ۵ ص ۱۶۵)

۲۔ اخرجہ البخاری فی دلائل النبوة کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۱۶) و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۵۶۳)

عن جابر نحوه و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۵۶) عن اطول منه

کھجوریں کپڑے پر بکھر گئیں۔ ایک آدمی حضور کے پاس تھا آپ نے اس سے فرمایا خندق والوں میں یہ اعلان کر دو کہ کھانے کے لئے آجائیں، چنانچہ خندق والے سب جمع ہو گئے اور کھجوریں کھانی شروع کر دیں تو کھجوریں بڑھتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ سب خندق والے کھا کر واپس چلے گئے اور کھجوریں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ کپڑے سے نیچے گر رہی تھیں۔!

حضرت عرابض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سفر میں، حضر میں ہمیشہ حضور ﷺ کے دروازے پر پڑا رہتا تھا ایک مرتبہ ہم تبوک میں تھے ہم رات کو کسی کام سے کہیں گئے جب ہم حضور کی خدمت میں واپس آئے تو آپ بھی اور آپ کے پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب بھی رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ حضور نے مجھ سے پوچھا آج رات تم کہاں تھے؟ میں نے آپ کو بتایا اتنے میں حضرت جمال بن سراقہ اور حضرت عبداللہ بن معقل مزینی بھی آگئے اور یوں ہم تین ہو گئے اور تینوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور حضرت ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے ہمارے کھانے کے لئے کوئی چیز طلب فرمائی لیکن آپ کو کچھ نہ ملا پھر پکار کر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کچھ ہے؟ حضرت بلال چمڑے کے تھیلے پکڑ کر جھاڑنے لگے تو ان میں سے سات کھجوریں نکل آئیں۔ حضور نے وہ کھجوریں ایک بڑے پیالے میں ڈالیں اور پھر ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور اللہ کا نام لیا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے وہ کھجوریں کھائیں۔ میں کھجوریں گنتا جا رہا تھا اور ان کی گٹھیاں دوسرے ہاتھ میں پکڑتا جا رہا تھا۔ میں نے گنا تو میں نے ۵۴ کھجوریں کھائی تھیں میرے دونوں ساتھی بھی میری طرح ہی کر رہے تھے اور کھجوریں گن رہے تھے انہوں نے پچاس پچاس کھجوریں کھائی تھیں۔ جب ہم نے کھانے سے ہاتھ ہٹائے تو ساتوں کھجوریں ویسی کی ویسی تھیں۔ حضور نے فرمایا اے بلال! ان کو اپنے تھیلے میں رکھ لو۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضور نے وہ کھجوریں پیالہ میں ڈالیں اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم دس آدمی تھے ہم نے پیٹ بھر کر وہ کھجوریں کھائیں پھر جب ہم نے کھانے سے ہاتھ ہٹائے تو وہ کھجوریں اسی طرح سات تھیں پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ آئی تو ہم سب مدینہ پہنچنے تک یہی کھجوریں کھاتے رہتے۔ حضور جب مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ کا ایک چھوٹا سا لڑکا آپ کے سامنے آیا آپ نے یہ کھجوریں اسے دے دیں وہ کھجوریں کھاتا ہوا چلا گیا۔!

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسلام میں مجھ پر تین ایسی بڑی مصیبتیں آئی ہیں کہ ویسی کبھی بھی مجھ پر نہیں آئیں۔ ایک تو حضور ﷺ کے انتقال کا حادثہ کیونکہ میں آپ کا ہمیشہ ساتھ رہنے والا

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۸۰) و ذکرہ فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۱۶) عن ابن اسحاق عن سعید نحوه الا ان فيه لم امر بعب لبسط له ثم دعا بالنمر لبذ فوق الثوب

۲۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۱۸)



معمولی سا ساتھی تھا دوسرے حضرت عثمانؓ کی شہادت کا حادثہ تیسرے تو شہ دان کا حادثہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ! تو شہ دان کے حادثے کا کیا مطلب؟ فرمایا ہم ایک سفر میں حضورؐ کے ساتھ تھے۔ آپؐ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا تو شہ دان میں کچھ کھجوریں ہیں۔ آپؐ نے فرمایا لے آؤ۔ میں نے کھجوریں نکال کر آپؐ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپؐ نے ان پر ہاتھ پھیرا اور برکت کے لئے دعا فرمائی پھر فرمایا دس آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔ میں دس آدمیوں کو بلا لایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں پھر اسی طرح دس دس آدمی آ کر کھاتے رہے یہاں تک کہ سارے لشکر نے کھا لیا اور تو شہ دان میں پھر بھی کھجوریں بچی رہیں۔ آپؐ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! جب تم اس تو شہ دان میں کھجوریں نکالنا چاہو تو اس میں ہاتھ ڈال کر نکالنا اور اسے الٹانا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں میں حضورؐ کی ساری زندگی میں اس سے نکال کر کھاتا رہا پھر حضرت ابو بکرؓ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھاتا رہا۔ پھر حضرت عمرؓ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھاتا رہا پھر حضرت عثمانؓ کی ساری زندگی میں اس میں سے کھاتا رہا پھر جب حضرت عثمانؓ شہید ہو گئے تو میرا سامان بھی لٹ گیا اور وہ تو شہ دان بھی لٹ گیا۔ کیا میں آپؐ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے اس میں سے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ میں نے اس میں سے دو سو سو یعنی ایک ہزار پچاس من سے بھی زیادہ کھجوریں کھائی ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں میری والدہ مجھے حضورؐ کے پاس لے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ آپؐ کا چھوٹا سا خادم ہے اس کے لئے دعا فرمادیں تو حضورؐ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اس کے مال اور اولاد کو زیادہ فرما اور اس کی عمر لمبی فرما اور اس کے تمام گناہ معاف فرما۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں میں اپنے دو کم سو یعنی ۹۸ بچے دفن کر چکا ہوں یا فرمایا دو اور سو یعنی ۱۰۲ بچے دفن کر چکا ہوں اور میرے باغ کا پھل سال میں دو مرتبہ آتا ہے اور میری زندگی اتنی لمبی ہو چکی ہے کہ اب زندگی سے دل بھر چکا ہے (۹۳ ہجری میں ان کا بصرہ میں ۱۰۳ سال کی عمر میں انتقال ہوا) اور حضورؐ کی چوتھی دعا کے پورا ہونے کا مجھے یقین ہے یعنی گناہوں کی مغفرت کی دعا۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں میری والدہ حضرت ام سلیمؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! انسؓ کے لئے دعا فرمائیں حضورؐ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! اس کے مال اور اولاد کو زیادہ فرما اور ان میں برکت عطا فرماتو میں پوتوں کے علاوہ اپنے ایک سو پچیس (۱۲۵) دفن کر چکا ہوں اور میری زمین سال میں دو مرتبہ پھل دیتی ہے اور سارے علاقہ میں اور کوئی زمین سال میں دو دفعہ پھل نہیں دیتی۔ ۳

۱۔ اخرجہ البیہقی فی البدایة (ج ۶ ص ۱۱۷) و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۵۵) عن ابی ہریرة  
نحوہ و احمد و الترمذی عنہ بمعناہ مختصرا ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۷ ص ۱۹)  
۳۔ عند ابی نعیم کذا فی الكنز (ج ۷ ص ۹)

## صحابہ کرامؓ کے دودھ اور گھی میں برکت

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں حضرت ام مالک بہزیرہ اپنی کچی میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھیں، ایک مرتبہ ان کے بیٹوں نے ان سے سالن مانگا اس وقت ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی وہ اپنی اس کچی کے پاس گئیں جس میں وہ حضورؐ کو گھی ہدیہ بھیجا کرتی تھیں اس میں سے انہیں گھی مل گیا (حالانکہ اسے خالی کر کے مانگا تھا) وہ بہت عرصہ تک اپنے بیٹوں کو یہ گھی بلور سالن کے دیتی رہیں۔ آخر ایک مرتبہ انہوں نے اس کچی کو نچوڑ لیا (جس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا) انہوں نے حضورؐ کی خدمت میں جا کر سارا واقعہ عرض کیا حضورؐ نے فرمایا کیا تم نے اسے نچوڑا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضورؐ نے فرمایا اگر تو اسے اسی طرح رہنے دیتی اور نہ نچوڑتی تو تجھے اس کچی سے ہمیشہ گھی ملتا رہتا۔

حضرت ام مالک انصاریہؓ کی ایک کچی لے کر حضورؐ کی خدمت میں گئیں آپؐ نے حضرت بلالؓ کو ان سے گھی لینے کا حکم دیا۔ حضرت بلالؓ نے نچوڑ کر اس کچی میں سے سارا گھی نکال لیا اور خالی کچی حضرت ام مالکؓ کو واپس کر دی۔ جب وہ واپس گھر پہنچیں تو دیکھا کہ کچی تو گھی سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے جا کر حضورؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میرے بارے میں آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ حضورؐ نے فرمایا اے ام مالک! کیوں؟ کیا بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا آپؐ نے میرا ہدیہ کیوں واپس کر دیا؟ آپؐ نے حضرت بلالؓ کو بلا کر ان سے اس بارے میں پوچھا۔ حضرت بلالؓ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپؐ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے تو کچی میں سے سارا گھی نکال لیا تھا بلکہ اسے اتنا نچوڑا تھا کہ مجھے شرم آنے لگی تھی۔ حضورؐ نے فرمایا اے ام مالک! تمہیں مبارک ہو اللہ نے تمہیں ہدیہ کا بدلہ جلدی دے دیا پھر حضورؐ نے انہیں سکھایا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہا کریں۔ حضرت ام اوس بہزیرہؓ نے گھی پکا کر ایک کچی میں ڈالا پھر حضورؐ کو ہدیہ میں پیش کیا۔ حضورؐ نے اسے قبول فرمایا اور کچی میں جتنا گھی تھا وہ لے لیا اور ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی اور وہ کچی انہیں واپس فرمادی۔ انہوں نے گھر جا کر دیکھا تو وہ کچی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سمجھیں کہ شاید حضورؐ نے ان کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا وہ چیختی پکارتیں حضورؐ کی خدمت میں آئیں

۱۔ اخرجہ احمد کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۰۴)

۲۔ عند الطبرانی الہیسمی (ج ۸ ص ۳۰۹) وفيه راو لم بسم و عطا بن السائب اختلط و بقية رجاله رجال الصحيح. انتهى و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۳) عن ام مالک الانصارية نحوه و اخرجہ ابن ابی عمير فی الوحidan عن ام مالک الانصارية نحوه كما فی الاصابة (ج ۲ ص ۴۹۳) و اخرجہ مسلم عن جابر ان ام مالک الانصارية فلذکر بمعنی مارواہ احمد كما فی الاصابة (ج ۳ ص ۴۹۳)

(اور عرض کیا آپ نے میرا ہدیہ قبول نہیں فرمایا؟) حضورؐ نے فرمایا انہیں واقعہ تفصیل سے بتاؤ کہ ہم نے تو قبول کر لیا تھا (اب یہ اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے) چنانچہ وہ حضورؐ کی زندگی میں وہ گھی کھاتی رہیں پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں وہ گھی کھاتی رہیں۔ پھر جب حضرت علی اور حضرت معاویہؓ میں اختلافات پیدا ہوئے تو اس وقت تک وہ کھاتی رہیں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں میری والدہ کی ایک بکری تھی وہ اس کا گھی ایک کچی میں جمع کرتی رہیں۔ جب وہ کچی بھر گئی تو اپنی لے پالک لڑکی کے ہاتھ وہ کچی بھیجی اور اس سے کہا اے بیٹی! یہ کچی حضورؐ کی خدمت میں پہنچا دو آپ اسے سالن بنا لیا کریں گے۔ وہ لڑکی کچی لے کر حضورؐ کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ گھی کچی ام سلیمؓ نے آپ کی خدمت میں بھیجی ہے۔ حضورؐ نے گھر والوں سے فرمایا اس کی کچی خالی کر کے دے دو گھر والوں نے خالی کر کے کچی اسے دے دی وہ لے کر چلی گئی اور گھر آ کر اسے ایک کھونٹی پر لٹکا دیا اس وقت حضرت ام سلیمؓ گھر میں نہیں تھیں۔ جب وہ گھر واپس آئیں تو دیکھا کہ کچی بھری ہوئی ہے اور اس میں سے گھی ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے لڑکی! کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ یہ کچی جا کر حضورؐ کو دے آؤ۔ اس نے کہا میں تو دے آئی ہوں اگر آپ کو میری بات پر اطمینان نہیں ہے تو آپ خود جا کر حضورؐ سے پوچھ لیں۔ حضرت ام سلیمؓ اس لڑکی کو لے کر حضورؐ کی خدمت میں گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اس لڑکی کے ہاتھ ایک کچی آپ کی خدمت میں بھیجی تھی جس میں گھی تھا حضورؐ نے فرمایا ہاں یہ کچی لے کر آئی تھی۔ حضرت ام سلیمؓ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچا دین دے کر بھیجا ہے! وہ کچی تو بھری ہوئی ہے اور اس میں سے گھی ٹپک رہا ہے۔ حضورؐ نے فرمایا اے ام سلیم! کیا تم اس بات پر تعجب کر رہی ہو کہ جس طرح تم نے اللہ کے نبی کو کھلایا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں کھلا رہے ہیں اس سے تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت ام سلیمؓ فرماتی ہیں میں گھر واپس آئی اور ایک بڑے پیالہ میں اور دوسرے برتنوں میں ڈال ڈال کر میں نے وہ گھی تقسیم کیا اور کچھ اس میں چھوڑ دیا جسے ہم ایک یا دو مہینے تک سالن بنا کر استعمال کرتے رہے۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی و ابن مندہ و ابن السکن کذا فی الاصابة (ج ۳ ص ۳۳۱) قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۱۰) رواہ الطبرانی و فیہ عصمة بن سلیمان و لم اعرلہ و بقیة رجالہ و تقوا. انتہی و اخرجہ البیہقی عنہا باسناد آخر بمعناہ اطول منہ کما فی البدایة (ج ۶ ص ۱۰۳)

۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۰۳) و قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۰۹) رواہ ابو یعلیٰ و الطبرانی الا انہ قال زینب بدل ربیة و فی اسنادہما محمد بن زیاد البرجمی و هو البشکری و هو کذاب انتہی اخرجہ ابو نعیم فی اللاتل (ص ۲۰۳) عن انس بن مالک عن امہ ام سلیم لذکرت نحوہ فی روایة ایضا زینب بدل ربیة قال الحافظ فی الاصابة (ج ۳ ص ۳۲۰) و قد عزاه الی الطبرانی و فی حفظی ان قولہ زینب تصحیف و انما ہی ربیة فلیحررہا. انتہی

حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے پاس ایک کچی تھی جس میں حضور ﷺ کو گھی ہدیہ دیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے بچوں نے مجھ سے گھی مانگا اور گھی تھا نہیں۔ میں دیکھنے کے لیے اٹھ کر کچی کی طرف گئی (کہ شاید اس میں سے کچھ بچا ہوا گھی مل جائے) میں نے جا کر دیکھا تو کچی گھی سے بھری ہوئی تھی اور اس میں سے گھی بہہ رہا تھا۔ میں نے بچوں کے لیے انڈیل کر اس میں سے کچھ گھی نکالا جسے بچے کچھ دیکھتے رہے پھر میں دیکھنے گئی کہ کچی میں کتنا گھی باقی رہ گیا ہے۔ میں نے اسے انڈیل کر سارا گھی نکالا جس سے وہ ختم ہو گیا پھر میں حضور کی خدمت میں گئی۔ حضور نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اسے بالکل الٹا دیا تھا؟ غور سے سنو! اگر تم اسے الٹا نہ کرتیں تو ایک عرصہ تک یہ گھی باقی رہتا۔

حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ام شریک کی ایک کچی تھی جو ان کے پاس آتا تھا اسے وہ کچی عاریہ دے دیتیں۔ ایک آدمی نے ان سے اس کچی کا سودا کرنا چاہا تو انہوں نے کہا اس میں کچھ نہیں ہے پھر اس میں پھونک بھر کر اسے دھوپ میں لٹکا دیا (تا کہ گھی پکھل کر ایک جگہ جمع ہو جائے) تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ گھی سے بھری ہوئی ہے اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ حضرت ام شریک کی کچی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس حدیث کا کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت حمزہ بن عمرو فرماتے ہیں حضور ﷺ کے صحابہ کا کھانا مختلف صحابہ باری باری پکا کر لاتے۔ ایک رات یہ لاتے دوسرے رات دوسرے صحابی لاتے، چنانچہ ایک رات میری باری آئی۔ میں نے حضور کے صحابہ کا کھانا تیار کیا اور گھی کی مشک کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کے منہ کو ڈوری سے باندھا نہیں۔ جب میں کھانا حضور کی خدمت میں لے جانے لگا تو مشک ہل گئی اور اس میں سے گھی گرنے لگا تو میں نے کہا کیا حضور ﷺ کے کھانے نے میرے ہی ہاتھوں سے گرنا تھا؟ جب میں کھانا لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور نے فرمایا قریب آ جاؤ تم بھی کھاؤ میں نے کہا یا رسول اللہ! گنجائش نہیں (کھانا کم ہے) کھانا کھلا کر میں اپنی جگہ واپس آیا تو دیکھا کہ مشک سے غٹ غٹ گھی کے گرنے کی آواز آرہی تھی۔ میں نے کہا یہ آواز کیسی؟ جو گھی اس میں بیچ گیا تھا وہ گر رہا ہوگا میں اسے دیکھنے گیا تو مشک سینے تک بھری ہوئی تھی۔ میں وہ مشک لے کر حضور کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ آپ کو بتایا آپ نے فرمایا اگر تم اس کو ہاتھ نہ لگاتے اور ویسے ہی رہنے دیتے تو یہ منہ تک بھر جاتی پھر اس کے منہ پر ڈوری باندھی جاتی۔ اسے ایک روایت میں ہے کہ

۱۔ اخروجه ابن سعد (ج ۸ ص ۱۵۷) ۲۔ عند ابن سعد ایضا.

۳۔ اخروجه الطبرانی قال الهیثمی (ج ۸ ص ۳۱۰) رواه الطبرانی وقد نقلت له طریق فی غزوة بؤک ورجال الطریق الی هنا وبقوا. انہی

اگر تم اسے ایسے ہی رہنے دیتے تو ساری وادی میں گھی بہنے لگتا۔  
حضرت حمزہ بن عمروؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے اور اس سفر میں گھی کی مشک سنبھالنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے اس مشک کو دیکھا تو اس میں تھوڑا سا گھی تھا میں نے حضور ﷺ کے لیے کھانا تیار کیا اور اس مشک کو دھوپ میں رکھ دیا اور خود سو گیا پھر (اللہ تعالیٰ نے اس مشک کو گھی سے بھر دیا اور) مشک سے گھی بہنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑا حضور مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کا سر نہ پکڑتے ایسے ہی رہنے دیتے تو ساری وادی میں یہ گھی بہنے لگتا۔

حضرت خباب بن ارت کی صاحبزادی فرماتی ہیں میرے والد ایک غزوے میں تشریف لے گئے اور ہمارے لئے صرف ایک بکری چھوڑ کر گئے اور ہم سے کہہ کر گئے کہ جب اس کا دودھ نکالنے لگو تو اسے صفہ والوں کے پاس لے جانا وہ دودھ نکال دیں گے، چنانچہ ہم وہ بکری صفہ لے گئے تو وہاں حضور تشریف فرما تھے حضور نے اس بکری کو لیا اور اس کی ٹانگ باندھ کر اس کا دودھ نکالنے لگے اور ہم سے فرمایا تمہارے ہاں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے آؤ میں گئی اور تو مجھے کوئی برتن نہیں ملا صرف ایک بڑا پیالہ ملا جس میں ہم آٹا گوند ہتے تھے میں وہ لے آئی۔ حضور نے اس میں دودھ نکالا تو وہ بھر گیا پھر فرمایا جاؤ خود بھی پیو اور پڑوسیوں کو بھی پلاؤ اور جب اس بکری کا دودھ نکالنا ہو تو اسے میرے پاس لے آیا کرو میں اس کا دودھ نکال دیا کروں گا۔ ہم وہ بکری حضور کے پاس لے جاتے رہے اور ہمارے خوب مزے ہو گئے پھر میرے والد آ گئے اور انہوں نے اس بکری کی ٹانگ باندھ کر اس کا دودھ نکالا تو وہ اپنے پہلے دودھ پر آ گئی۔ میری والدہ نے کہا آپ نے تو ہماری بکری خراب کر دی۔ میرے والد نے کہا کیوں؟ والدہ نے کہا یہ تو آپ کے پیچھے اتنا دودھ دیا کرتی تھی جس سے یہ بڑا پیالہ بھر جاتا تھا۔ والد نے کہا اس کا دودھ کون نکالتا تھا؟ والدہ نے کہا حضور ﷺ والد نے کہا تم تو مجھے حضور کے برابر کر رہی ہو، اللہ کی قسم! ان کے ہاتھ میں تو میرے ہاتھ سے بہت زیادہ برکت ہے۔ ۲۔ جلد اول صفحہ ۳۲۱ پر سختیاں برداشت کرنے کے باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث اور جلد اول صفحہ ۳۲۸ پر اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے باب میں حضرت علیؓ کی حدیث گزر چکی ہے۔

## گوشت میں برکت

حضرت مسعود بن خالد فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں ایک بکری بھیجی اور

۱۔ اخرجہ ابولعبید فی الدلائل (ص ۱۵۵) عن ابی بکر بن محمد بن حمزہ بن عمر والا سلمی عن ابیہ

عن جلدہ۔ ۲۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۸ ص ۲۹۱)

میں خود کسی کام سے کہیں چلا گیا۔ حضورؐ نے میرے گھر بکرنی کا کچھ گوشت بھیجا۔ میں اپنی بیوی حضرت ام خنساس کے پاس واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس گوشت رکھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا اے ام خنساس! یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ میری بیوی نے کہا آپ نے اسے غلیل سے لیا ہے۔ کو جو بکری بھیجی تھی اس میں سے انہوں نے یہ گوشت ہمیں بھیجا ہے میں نے کہا کیا بات ہے تم نے بچوں کو یہ گوشت اب تک کھلایا نہیں؟ میری بیوی نے کہا میں تو سب کو کھلا چکی ہوں یہ تو ان کا بچا ہوا ہے۔ حضرت مسعودؓ فرماتے ہیں تھوڑے سے گوشت سے سب گھر والوں نے کھا لیا اور پھر بھی گوشت بچ گیا، حالانکہ یہ لوگ دو تیس بکریاں ذبح کرتے تھے اور پھر بھی کافی نہیں ہوتی تھی۔

حضرت خالد بن عبدالعزیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضورؐ کی خدمت میں ذبح کرنے کے قابل ایک بکری پیش کی جسے حضورؐ نے بھی نوش فرمایا اور آپ کے بعض صحابہؓ نے بھی کھایا لیکن پھر بھی گوشت بچ گیا جو حضورؐ نے مجھے عطا فرما دیا جسے میں نے اور میرے تمام بال بچوں نے کھایا اور پھر بھی بچ گیا، حالانکہ میرے بچے بہت سارے تھے۔

## جہاں سے روزی ملنے کا گمان نہ ہو وہاں سے روزی ملنا

حضرت سلمہ بن ثعلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضورؐ سے پوچھا کیا کبھی آپ کے لئے آسمان سے بھی کھانا اتارا گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے پوچھا کیا اس میں سے کچھ بچا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا اس کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اسے آسمان کی طرف اٹھالیا گیا۔ حضرت سلمہ بن نفیل سکونی نبی کریمؐ کے صحابہؓ میں سے تھے وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ حضورؐ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! کیا کبھی آپ کے پاس آسمان سے کھانا آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھی میں گرم گرم آیا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا کیا آپ کے کھانے کے بعد کچھ کھانا بچا تھا؟ حضورؐ نے فرمایا ہاں! اس نے کہا پھر اس بچے ہوئے کھانے کا کیا ہوا تھا؟ حضورؐ نے فرمایا اسے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ اور وہ چپکے چپکے مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں میں تھوڑا عرصہ ہی رہوں گا اور آپ لوگ بھی میرے بعد تھوڑا عرصہ ہی رہو گے بلکہ زندگی لمبی معلوم ہونے لگے گی اور تم لوگ کہو گے ہم یہاں دنیا میں کب تک پڑے رہیں گے؟ پھر آپ لوگ مختلف جماعتیں بن کر آؤ گے اور ایک

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۳۱۰) ولیہ من لم اعرفہم. ۲۔ عند یعقوب بن سفیان فی نسخة و اخرجہ الحسن بن سفیان فی مسندہ و النسائی فی الکنی لہ عن یعقوب بہ مطولا کذلالی الاصابہ (ج ۱ ص ۴۰۹) ۳۔ ذکرہ ابن سعد (ج ۷ ص ۴۲۸) فقال روی عن سلمة بن نفیل ایضا من حدیث اشعث بن شعبة عن اوطاة بن المنذر عن ضمرة بن حبيب عن بحالد بن اسد بن حبيب عن سلمة بن نفیل

دوسرے کو فنا کرو گے اور قیامت سے پہلے بہت زیادہ اموات واقع ہوں گی اور اس کے بعد زلزلے کے سال ہوں گے۔

ایک لمبی حدیث میں حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے حضور ﷺ سے بھوک کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائیں گے، چنانچہ ہم لوگ سمندر کے کنارے پہنچے تو سمندر میں ایک زبردست موج آئی جس سے ایک بہت بڑی مچھلی باہر آگئی ہم نے اس کا ایک ٹکڑا کاٹا اور آگ جلا کر کچھ گوشت بھونا اور باقی پکالیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ میں اس کی آنکھ کے حلقہ کے اندر داخل ہو گیا اور میرے علاوہ فلاں اور فلاں پانچ آدمی داخل ہو گئے اور وہ حلقہ اتنا بڑا تھا کہ ہم باہر کے کسی آدمی کو نظر نہیں آ رہے تھے پھر ہم اس میں سے باہر آئے۔ اس کے جسم میں بڑے بڑے کانٹے تھے۔ ہم نے ایک کانٹا لے کر کمان کی طرح کھڑا کیا اور قافلہ کے سب سے لمبے آدمی کو اور سب سے لمبے اونٹ کو اور سب سے اونچی کانٹھی کو منگوا لیا اس کانٹھی کو اس اونٹ پر رکھ کر اس آدمی کو اس پر بٹھایا وہ آدمی اس کانٹے کے نیچے سے گزر گیا لیکن اس کا سر اس کانٹے کو نہ لگا۔

حضرت جابر فرماتے ہیں حضور ﷺ نے تین سو صحابہ کا ایک لشکر ساحل سمندر کی طرف بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو انکا امیر بنایا چنانچہ ہم مدینہ سے چلے راستہ میں توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ لشکر کے تمام توشے جمع کیے جائیں، چنانچہ تمام توشے جمع کیے گئے تو کھجور کے دو توشے دان بن گئے حضرت ابو عبیدہ ہمیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا روز دیتے پھر یہ توشے دان بھی ختم ہو گئے اور ہمیں روزانہ صرف ایک کھجور ملنے لگی۔ راوی نے حضرت جابر سے کہا ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ حضرت جابر نے فرمایا اس ایک کھجور کا فائدہ ہمیں تب معلوم ہوا جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی پھر ہم جب ساحل سمندر پہنچے تو وہاں چھوٹے پہاڑ جتنی اونچی ایک مچھلی ملی جس کے گوشت کو سارا لشکر ۱۸ دن تک کھاتا رہا (دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ ایک ماہ تک کھاتے رہے) پھر حضرت ابو عبیدہ کے فرمانے پر اس مچھلی کے دو کانٹے کھڑے کیے گئے اور ایک اونٹنی پر کجاوہ رکھا گیا پھر وہ اونٹنی ان کانٹوں کے نیچے سے گزری اور اس کا سر یا کوہان کانٹوں کو نہ لگا۔

حضرت جابر فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں تین سو سواروں کے لشکر میں بھیجا۔ ہمارے

۱۔ أخرجه الحاكم (ج ۳ ص ۴۴۷) قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه وقال اللهبى و الخبر من غرائب الصحاح و قال الحافظ فى الاصابة (ج ۲ ص ۶۸) فى ترجمة سلمه بن نفيل و له فى النسائى حديث يقال ماله غيره و هو من رواية حمرة بن حبيب سمعت سلمة بن نفيل اسكونى يقول كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله و قناتيت بطعام من الجنة . الحديث انتهى (۳) أخرجه مسلم (ج ۲ ص ۴۱۸) ۲۔ أخرجه مسلم (ج ۲ ص ۴۱۸)

۳۔ أخرجه مالك (ص ۳۷۱) و أخرجه الشيخان من حديث مالك بن عمرو كما فى الهدية (ج ۳ ص ۲۷۶)

امیر حضرت ابو عبیدہ بن حراحؓ تھے۔ ہم قریش کے ایک تجارتی قافلہ کی گھات میں گئے تھے۔ اس سفر میں ہمیں سخت بھوک لگی اور کھانے کے تمام سامان ختم ہو گئے اور ہمیں درختوں کے گرے ہوئے پتے کھانے پڑے اور اس وجہ سے اس لشکر کا نام چٹوں والا لشکر پڑ گیا۔ ایک آدمی نے لشکر کے لیے تین اونٹ ذبح کئے اور پھر تین اونٹ ذبح کئے پھر تین اونٹ ذبح کئے پھر حضرت ابو عبیدہؓ نے اس آدمی کو اور اونٹ ذبح کرنے سے منع کیا۔ یہ پھر سمندر کی تیز موج نے ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر لا ڈالی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ آدھے مہینہ تک ہم اس کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی کو جسم پر لگاتے رہے جس سے ہمارے جسموں کی کمزوری اور دبلا پن وغیرہ سب جاتا رہا اور جسم پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک ہو گئے اس کے بعد کانٹے کا قصہ ذکر کیا۔

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہؓ کو ہمارا امیر بنایا اور حضورؐ نے کھجوروں کا ایک تھیلہ ہمیں زاد سفر کے لئے دیا۔ دینے کے لئے آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ نہ ملا۔ حضرت ابو عبیدہؓ ہمیں روزانہ ایک کھجور دیا کرتے۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت جابرؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ لوگ ایک کھجور کا کیا کرتے ہوں گے؟ حضرت جابرؓ نے کہا ہم بچے کی طرح اسے چوستے تھے پھر اس کے بعد پانی پی لیتے اور ایک دن، ایک رات اسی پر گزار لیتے پھر ہم لاشی مار کر درختوں کے پتے جھاڑ لیتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ ہم چلتے چلتے سمندر کے کنارے پر پہنچے تو ہمیں دور سے ایک بہت بڑے ٹیلے جیسی کوئی چیز نظر آئی ہم نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہ عنبر نامی بہت بڑی مچھلی تھی۔ پہلے تو حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا یہ مردار ہے اسے مت کھاؤ پھر فرمایا اچھا نہیں ہم تو اللہ کے رسول ﷺ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہیں اور تم لوگ حالتِ اضطراب کو پہنچ چکے ہو (جس میں مردار حلال ہو جاتا ہے) اس لئے اسے کھا لو ہم تین سو آدمی تھے ایک مہینہ تک اس کا گوشت کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے اور اس کی آنکھ کے حلقہ میں سے بڑے بڑے مٹکے بھر کر چربی نکالتے تھے اور تیل جتنے بڑے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے اور حضرت ابو عبیدہؓ نے اس کی آنکھ کے حلقے میں چربی نکالنے کے لیے تیرہ آدمی داخل کئے تھے اور اس کا ایک کانٹا لے کر اسے کھڑا کیا اور سب سے لمبے اونٹ پر کجاوہ کس کر اس پر آدمی بٹھا کر اسے اس کانٹے کے نیچے سے گزارا تو وہ گزر گیا اور اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہم نے واپسی کے سفر میں اپنے ساتھ رکھ لئے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم لوگوں نے مچھلی کا سارا واقعہ ذکر کیا۔ حضورؐ نے فرمایا یہ وہ روزی ہے جو اللہ نے اپنے نبی خزانے سے تمہیں عطا فرمائی



ہے ہمیں کھلانے کے لئے اس مچھلی کا گوشت تم لوگوں کے پاس ہے؟ اس پر ہم نے حضور کی خدمت میں کچھ گوشت بھیجا جسے آپ نے نوش فرمایا (آپ نے یہ گوشت اس لئے کھایا کہ یہ گوشت برکت والا تھا اور تاکہ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ مچھلی مردار نہیں تھی بلکہ حلال تھی مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب اس نے گھر میں فقر و فاقہ کی حالت دیکھی تو وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو وہ اٹھی اور چکی کا اوپر والا پاٹ نیچے والے پر رکھا اور پھر تندور میں آگ جلائی پھر دعا مانگی اے اللہ! ہمیں روزی عطا فرما۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ بڑا پیالہ آٹے سے بھرا ہوا ہے اور پھر جا کر تندور کو دیکھا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا اتنے میں اس کا خاوند بھی واپس آ گیا اس نے پوچھا کیا میرے بعد تمہیں کچھ ملا؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں۔ ہمارے رب کی طرف سے کچھ آیا ہے۔ وہ مرد اٹھا اور اس نے چکی کا اوپر والا پاٹ اٹھالیا (پھر چکی کا چلنا بند ہو گیا) کسی نے جا کر اس بات کا حضور ﷺ سے ذکر کیا حضور نے فرمایا غور سے سنو! اگر یہ چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی۔ ۲۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس عورت نے یہ دعا مانگی اے اللہ! ہمیں وہ چیز عطا فرما جسے ہم پیسے اور گوندھیں اور اس کی روٹی پکائیں پھر اس نے دیکھا کہ بڑا پیالہ روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور چکی آٹا پیس رہی ہے اور تندور بھنی ہوئی چانیوں سے بھرا ہوا ہے پھر اس کے خاوند نے آ کر پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس کی بیوی نے کہا اللہ نے روزی عطا فرمائی ہے خاوند نے چکی کا پاٹ اٹھالیا چکی کے ارد گرد کی جگہ کو اچھی طرح صاف کیا۔ حضور کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اگر یہ چکی کو اپنے حال پر رہنے دیتے تو چکی قیامت تک پیستی رہتی۔ ۳۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک انصاری بہت ہی ضرورت مند اور غریب تھا۔ اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گھر سے باہر چلا گیا اس کی بیوی نے اپنے دل میں کہا اگر میں چکی چلاؤں اور تندور میں کھجور کی ٹہنیاں ڈال کر آگ جلاؤں تو میرے بڑوسی چکی کی آواز سنیں گے اور دھواں دیکھیں گے اس سے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہے اور ہمارے ہاں فقر و فاقہ نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر تندور میں آگ جلائی اور بیٹھ کر چکی چلانے لگی اتنے میں اس کا خاوند آ گیا اور اس نے باہر سے چکی کی آواز سنی پھر دروازہ کھٹکھٹایا بیوی نے کھڑے ہو کر دروازہ کھولا

۱۔ عند البیہقی من طریق ابی الزبیر و رواہ مسلم و ابو داؤد عن ابی الزبیر عن جابر بہ کما فی البدایۃ (ج ۳ ص ۲۷۶) و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۳۱۱) عن ابی الزبیر عنہ بمعناہ اخصر منه و اخرجہ الطبرانی

۲۔ اخرجہ احمد

عن جابر مختصراً کما فی الكنز (ج ۸ ص ۵۴)

۳۔ قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۲۵۶) رواہ احمد و البزار و رواہ الطبرانی فی الارسط مشوہ و رجالہم رجال الصحیح غیر شیخ البزار و شیخ الطبرانی و ہما ثقتان۔ انتہی و اخرجہ البیہقی عن ابی ہریرۃ بسباق

خاوند نے پوچھا تم کیا پیس رہی ہو؟ بیوی نے ساری کارگزاری سنائی وہ دونوں اندر گئے تو دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور اس کے اندر سے آٹا نکل رہا ہے۔ بیوی برتنوں میں آٹا بھرنے لگی تو گھر کے سارے برتن آٹے سے بھر گئے پھر اس نے باہر جا کر تندور کو دیکھا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا خاوند نے جا کر حضور ﷺ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضور نے پوچھا پھر چکی کا کیا ہوا؟ خاوند نے کہا میں نے اسے اٹھا کر جھاڑ دیا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تم چکی کو اس کے حال پر رہنے دیتے تو وہ میری زندگی تک یونہی چلتی رہتی یا فرمایا تمہاری زندگی تک یونہی چلتی رہتی۔!

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کے ساتھ مکہ سے چلا۔ چلتے چلتے ہم عرب کے ایک قبیلہ کے پاس پہنچے۔ قبیلہ کے کنارے کے ایک گھر پر حضور کی نگاہ پڑی حضور وہاں تشریف لے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچ کر سوار یوں سے نیچے اترے تو وہاں صرف ایک عورت تھی اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے! میں عورت ذات ہوں میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے اکیلی ہوں آپ لوگ مہمان بننا چاہتے ہیں تو قبیلہ کے سردار کے پاس چلے جائیں۔ حضور نے اس کی یہ بات قبول نہ فرمائی بلکہ وہیں ٹھہر گئے۔ شام کا وقت تھا تھوڑی دیر میں اس عورت کا بیٹا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آیا اس عورت نے بیٹے سے کہا اے بیٹے! یہ بکری اور چھری ان دو آدمیوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو میری والدہ کہہ رہی ہیں یہ بکری ذبح کر کے آپ دونوں خود بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں۔ جب وہ لڑکا آیا تو حضور نے اس سے فرمایا چھری لے جاؤ اور (دودھ نکالنے کے لئے) پیالہ لے آؤ۔ اس لڑکے نے کہا یہ بکری تو چراگاہ سے دور رہی تھی اور اس کا دودھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں تم جاؤ وہ جا کر پیالہ لے آیا حضور نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دودھ نکالنا شروع کیا تو اتنا دودھ نکلا کہ سارا پیالہ بھر گیا حضور ﷺ نے فرمایا جا کر اپنی والدہ کو دے آج چنانچہ اس کی ماں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیالہ لے آیا حضور ﷺ نے فرمایا یہ بکری لے جاؤ اور دوسری بکری لے آؤ وہ دوسری بکری لے آیا حضور نے اس کا دودھ نکال کر مجھے چلایا پھر وہ لڑکا تیسری بکری لے آیا اس کا دودھ نکال کر حضور نے خود پیا پھر وہ رات ہم نے وہاں گزار لی اور صبح وہاں سے آگے چلے۔ اس عورت نے آپ کا نام مبارک رکھ دیا تھا۔ پھر اللہ نے اس کی بکریوں میں خوب برکت ڈالی اور وہ بیٹے کے لئے بکریوں کا ریوڑ لے کر مدینہ آئی۔ میرا وہاں سے گزر ہوا تو اس عورت کے بیٹے نے دیکھ کر مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا اے اماں جان! یہ آدمی وہی ہے جو اس مبارک ہستی کے ساتھ تھا وہ عورت کھڑی ہو کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے! وہ مبارک آدمی جو تمہارے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا اچھا! تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں میں نے کہا وہ تو نبی کریم ﷺ ہیں اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، چنانچہ اسے حضور کی خدمت میں لے گیا۔ حضور نے انہیں کھانا کھلایا، درہم و دینار دیئے اور ہدیہ میں اسے پیر اور دیہاتیوں والا

سامان دیا، پہننے کے کپڑے بھی دیئے اور وہ مسلمان بھی ہو گئی۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا۔ حضور ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ میرے پاس سے گزرے۔ حضورؐ نے فرمایا اے لڑکے! کیا دودھ ہے؟ میں نے کہا ہے لیکن یہ بکریاں اور ان کا دودھ میرے پاس بطور امانت ہے اور میں امانتدار ہوں (مالک کی اجازت کے بغیر دودھ نہیں دے سکتا) حضورؐ نے فرمایا کیا ایسی کوئی بکری ہے جو اب تک یا ہی نہ گئی ہو؟ (وہ لے آؤ) میں ایسی بکری حضورؐ کی خدمت میں لے آیا۔ حضورؐ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ حضورؐ نے ایک برتن میں اس کا دودھ نکالا، خود پیا اور حضرت ابو بکرؓ کو پلایا پھر آپؓ نے تھن کو فرمایا سکر جاؤ تو وہ سکر گیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں اس کے بعد حضورؐ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بھی یہ کام سکھا دیں۔ آپؐ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو تو سیکھا سکھایا ہے۔ بیہوشی میں اس جیسی روایت میں یہ ہے کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں بکری کا ایک بچہ لایا جس کی عمر ایک سال سے کم تھی آپؐ نے اس کی ٹانگ کو اپنی ٹانگ سے دبایا پھر آپؐ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی حضرت ابو بکرؓ آپؐ کے پاس ایک پیالہ لائے آپؐ نے اس میں دودھ نکالا پھر حضرت ابو بکرؓ کو وہ دودھ پلایا اس کے بعد آپؐ نے خود پیا۔

حضرت خبابؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اس سفر میں ہمیں بہت سخت پیاس لگی اور ہمارے پاس پانی بالکل نہیں تھا۔ اتنے میں ہمارے ایک ساتھی کی اونٹنی بیٹھ گئی اور اس کے تھن دودھ سے اتنے بھر گئے کہ مشکیزہ کی طرح نظر آنے لگے پھر ہم نے اس کا دودھ خوب پیا۔

حجیر بن ابی اہاب کی باندی حضرت مادیہؓ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں وہ فرماتی ہیں حضرت ضیبؓ کو میرے گھر میں قید کیا گیا تھا ایک دفعہ میں نے دروازے کی درز سے جھانکا تو ان کے ہاتھ میں انسان کے سر کے برابر انگور کا ایک خوشہ تھا جس میں سے وہ کھا رہے تھے میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی کھانے کے لئے انگور نہیں تھے۔

حضرت سالم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے اپنے کسی کام کے لئے دو آدمی بھیجے۔ ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے پاس زادِ راہ بالکل نہیں ہے۔ حضورؐ نے

۱۔ اخرجہ البیہقی فی الدلائل و ابن عساکر قال ابن کثیر سنہ حسن کذا فی الكنز (ج ۸ ص ۲۳۰)

۲۔ اخرجہ احمد ۳۔ کذا فی البدایہ (ج ۶ ص ۱۰۲) ۴۔ اخرجہ الطبرانی قال

الہیثمی (ج ۶ ص ۲۱۰) وفيه ابراهيم بن بشار الرمادي وفيه ضعف وقد وثق. انتهى

۵۔ اخرجہ ابن اسحاق و اخرج البخاری قصة الغيب من غير هذا الوجه كذا في الاصابة (ج ۱ ص ۳۱۹)

فرمایا ایہ، مشک ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حضور کی خدمت میں ایک مشک لے آئے۔ حضور نے ہمیں حکم دیا کہ اسے (پانی سے) بھر دو۔ ہم نے اسے پانی سے بھر دیا پھر حضور نے اس کے منہ کو رسی سے باندھ دیا اور فرمایا اسے لے جاؤ۔ جب تم چلتے چلتے فلاں جگہ پہنچو گے تو وہاں تمہیں اللہ غیب سے روزی دیں گے چنانچہ وہ دونوں چل پڑے اور جب چلتے چلتے دونوں حضور کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو مشک کا منہ خود بخود کھل گیا انہوں نے دیکھا تو مشک (پانی کی بجائے) بکری کے دودھ اور مکھن سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے پیٹ بھر کر مکھن کھایا اور دودھ پیا۔

## صحابہ کرام کا خواب میں پانی پی کر سیراب ہو جانا

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں حضرت عثمانؓ اپنے گھر میں محصور تھے میں سلام کرنے کے لئے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں اندر گیا تو آپؓ نے فرمایا خوش آمدید ہو میرے بھائی کو، میں نے آج رات اس کھڑکی میں حضور ﷺ کو دیکھا تھا۔ آپؓ نے فرمایا اے عثمان! ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پھر فرمایا انہوں نے تمہیں پیسا سا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پھر حضور نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا جس میں سے میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور اب بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں پھر آپؓ نے مجھ سے فرمایا اگر تم چاہو (تو اللہ کی طرف سے) تمہاری مدد کی جائے اور اگر تم چاہو تو ہر رے پاس افطار کر لو۔ میں نے ان دونوں باتوں میں سے افطار کو اختیار کر لیا، چنانچہ اسی دن آپؓ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام شریک کا قصہ گزر چکا ہے کہ وہ سوئیں تو خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں پانی پلا رہا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھیں تو سیراب تھیں۔

## ایسی جگہ سے مال کا مل جانا جہاں سے ملنے کا گمان نہ ہو

حضرت مقدادؓ کی بیوی حضرت ضباء بنت زبیرؓ ماتی ہیں لوگ دو یا تین دن کے بعد قضاے حاجت کے لئے جاتے تھے (کیونکہ کھانے کو ملتا نہیں تھا اور جو کھانے کو ملتا تھا وہ ایسا خشک ہوتا تھا کہ) اونٹ کی طرح بیٹنی کیا کرتے تھے ایک دن حضرت مقدادؓ قضاے حاجت کے لئے گئے بقیع الغرقد میں جبہ مقام میں ایک بے آباد جگہ قضاے حاجت کے لئے بیٹھ گئے اتنے میں ایک بڑا سا چوہا ایک دینار اپنے بل میں سے باہر لایا اور ان کے سامنے رکھ کر اپنے بل میں چلا گیا اور ایک ایک دینار لاتا رہا یہاں تک کہ سترہ (۱۷) دینار ہو گئے۔ حضرت مقدادؓ وہ سترہ دینار لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے پوچھا کیا تم نے اپنا ہاتھ

بل میں داخل کیا تھا؟ حضرت مقداؤ نے کہا نہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا! حضورؐ نے فرمایا (چونکہ یہ دینار تم نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کئے ہیں بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے غیبی خزانے سے دیئے ہیں، اس لئے) ان دیناروں میں خمس دینار تم پر لازم نہیں آتا اللہ تمہیں ان دیناروں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ضباعہؓ کہتی ہیں اللہ نے ان دیناروں میں بہت برکت عطا فرمائی اور وہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے حضرت مقداؤ کے گھر میں چاندی کے درہموں کی بوریاں دیکھیں۔

حضرت سائب بن اقرعؓ کو حضرت عمرؓ نے مدائن کا گورنر بنایا ایک مرتبہ وہ کسریٰ کے ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی نظر دیوار پر بنی ہوئی ایک تصویر پر پڑی جو اپنی انگلی سے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ حضرت سائبؓ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی خزانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، چنانچہ میں نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ وہاں سے نکل آیا میں نے خد لکھ کر حضرت عمرؓ کو خزانہ ملنے کی خبر دی اور یہ بھی لکھا کہ یہ خزانہ اللہ نے میری محنت سے مجھے دیا۔ اس میں کسی مسلمان نے میری مدد نہیں کی ہے (لہذا یہ خزانہ میرا ہونا چاہئے) حضرت عمرؓ نے جواب میں لکھا بے شک یہ خزانہ ہے تو تمہارا لیکن تم ہو مسلمانوں کے امیر، اس لئے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مہرجان کی فتح میں حضرت سائبؓ شریک ہوئے تھے اور ہرمزان کے محل میں داخل ہوئے تو انہیں پتھر اور چونے کی ہرنی نظر آئی جس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا وہ کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کسی قیمتی خزانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو دیکھا تو انہیں وہاں ہرمزان کا خزانہ مل گیا جس میں بہت قیمتی جواہرات والی تھیلی بھی تھی۔

حضرت عبدالرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابوامامہؓ کی ایک باندی (جو کہ پہلے عیسائی تھیں انہوں نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابوامامہؓ کو دوسروں پر خرچ کرنا بہت پسند تھا اور وہ اس کے لئے مال جمع کیا کرتے تھے اور کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے اور کچھ نہ ہوتا تو ایک پیاز یا ایک کھجور یا کھانے کی کوئی چیز ہی دے دیتے ایک دن ایک سائل ان کے پاس آیا اس وقت ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی صرف تین دینار تھے اس سائل نے مانگا تو ایک دینار اسے دے دیا پھر دوسرا آیا تو ایک دینار اسے دے دیا پھر تیسرا آیا تو

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۶۵) ۲۔ اخرجہ الخطیب کذالی الكنز (ج ۳ ص ۳۰۵)

۳۔ قال فی الاصابة (ج ۲ ص ۸) حکاہ الہیثم بن عذی وری ابن ابی شیبہ من طریق الشیبانی عن السائب بن الاقرع نحوه. انتهى.

ایک اسے دبے دیا۔ جب تینوں دے دیئے تو مجھے غصہ آ گیا میں نے کہا آپ نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا پھر وہ دوپہر کو آرام کرنے لیٹ گئے جب ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے انہیں اٹھایا وہ وضو کر کے اپنی مسجد چلے گئے چونکہ ان کا روزہ تھا، اس لئے مجھے ان پر ترس آ گیا اور میرا غصہ اتر گیا پھر میں نے قرض لے کر ان کے لئے رات کا کھانا تیار کیا اور شام کو ان کے لئے چراغ بھی جلایا پھر میں چراغ ٹھیک کرنے کے لئے ان کے بستر کے پاس گئی اور بستر اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے میں نے انہیں گنا تو وہ پورے تین سو تھے میں نے کہا چونکہ اتنے دینار رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے تین دینار کی سخاوت کی ہے پھر وہ عشاء کے بعد گھر واپس آئے تو دسترخوان اور چراغ دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کے ہاں سے آیا ہے (کیونکہ ان کا خیال تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لئے نہ کھانا ہوگا نہ چراغ) میں نے کھڑے ہو کر انہیں کھانا کھلایا پھر میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ اتنے سارے دیناریوں ہی چھوڑ گئے جہاں سے ان کے گم ہونے کا خطرہ تھا مجھے بتایا بھی نہیں کہ اٹھا کر رکھ لیتی۔ کہنے لگے کون سے دینار؟ میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا پھر میں نے بستر اٹھا کر انہیں وہ دینار دکھائے۔ دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئے (کہ اللہ نے اپنے نبی خزانے سے عطا فرمائے ہیں) یہ دیکھ کر میں بھی بہت متاثر ہوئی اور میں نے کھڑے ہو کر زنا رکاٹ ڈالا (زنا اس دھاگے یا زنجیر کو کہتے ہیں جسے عیسائی کمر میں باندھتے تھے) اور مسلمان ہو گئی حضرت ابن جابر کہتے ہیں میں نے اس باندی کو تمہیں کی مسجد میں دیکھا کہ وہ عورتوں کو قرآن، فرائض اور سنتیں سکھا رہی تھی اور دین کی باتیں سمجھا رہی تھی۔

## صحابہ کرامؓ کے مال میں برکت

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام تھے انہیں ان کے مالک نے مکاتب بنا دیا یعنی یہ کہہ دیا کہ اتنا مال کما کر یا کسی اور طرح لا کر دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ بدل کتابت یعنی اتنا مال نہ ادا کر سکے اور اسی دوران وہ مسلمان ہو گئے وہ لمبی حدیث میں اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مال کتابت میرے ذمہ رہ گیا پھر ایک کان سے حضور ﷺ کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا۔ حضور نے فرمایا اس فارسی مکاتب کا کیا ہوا؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا اے سلمان! یہ لے لو اور جتنا مال تمہارے ذمہ ہے اس سے ادا کر دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو تھوڑا سا ہے میرے ذمہ جتنا مال ہے وہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ لے لو اللہ تعالیٰ اس سے سارا ادا کر دیں گے

میں نے وہ سونا لیا اور اپنے مالک کو تول تول کر دینے لگا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے! چالیس اوقیہ میرے ذمہ تھے وہ سارے کے سارے اس سے ادا ہو گئے اور میں آزاد ہو گیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلمانؓ نے فرمایا جب میں نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو تھوڑا سا ہے میرے ذمہ جتنا مال ہے وہ اس سے کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ حضورؐ نے وہ سونا لے کر اپنی مبارک زبان پر الٹا پلٹا پھر فرمایا یہ لے لو اور اس سے ان کا حق چالیس اوقیہ سارا ادا کر دو۔

حضرت عروہ باریؓ فرماتے ہیں حضور ﷺ کو ایک قافلہ ملا جو باہر سے سامان تجارت لے کر آیا تھا حضورؐ نے مجھے ایک دینار دے کر فرمایا اس کی ہمارے لئے ایک بکری خرید لاؤ۔ میں نے جا کر ایک دینار کی دو بکریاں خریدیں پھر مجھے ایک آدمی ملا میں نے اس کے ہاتھ ایک بکری ایک دینار میں بیچ دی پھر ایک دینار اور ایک بکری لا کر حضورؐ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضورؐ نے خوش ہو کر مجھے یہ دعا دی کہ اللہ تیرے ہاتھ کے سودے میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عروہؓ فرماتے ہیں (کوفہ کے مشہور) بازار کناسہ سے میں کاروبار کے لئے اٹھتا ہوں اور گھر جانے سے پہلے چالیس ہزار نفع کما لیتا ہوں (یہ حضورؐ کی دعا کی برکت ہے)۔ حضرت سعید بن زید کی روایت میں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ کوفہ کے کناسہ بازار میں کھڑا ہوا اور گھر جانے سے پہلے چالیس دینار نفع کما لیا۔ حضرت عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عروہؓ کے لئے کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی چنانچہ وہ اگر مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں نفع ہو جاتا۔

حضرت ابو عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے میرا دادا حضرت عبد اللہ بن ہشامؓ بازار لے کر جاتے اور غلہ خریدتے حضرت ابن زبیر اور حضرت عمرؓ کی میرے دادا سے ملاقات ہوتی وہ دونوں میرے دادا سے فرماتے اپنے کاروبار میں ہمیں بھی شریک کر لیں کیونکہ حضور ﷺ نے آپ کے لئے برکت کی دعا فرمائی ہے میرے دادا انہیں شریک کر لیتے چنانچہ انہیں اونٹنی جوں کی توں ساری نفع میں مل جاتی جسے وہ گھر بھیج دیتے۔

۱۔ أخرجه أحمد قال الهيثمي (ج ۹ ص ۳۳۶) رواه أحمد كله والطبراني في الكبير بنحوه بأسانيد وأسناده الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة ورواه البزار. انتهى. وأخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۷۵) أيضاً في الحديث الطويل عن سلمان نحو الرواية الأولى ثم قال قال ابن إسحاق فآخرني يزيد بن أبي حبيب أنه كان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعها يومئذ على لسانه ثم قلبها ثم قال لي اذهب فادها عنك

۲۔ أخرجه أبو نعيم في الدلائل (ص ۱۶۵) ۳۔ قال أبو نعيم رواه عفان قال في الإصابة (ج ۲ ص ۴۷۶) والحديث مشهور في البخاري وغيره. انتهى وأخرجه عبد الرزاق ابن أبي شيبة عن عروة بنحوه كمال في الكنز (ج ۷ ص ۶۳) ۴۔ أخرجه البخاري كذا في البداية (ج ۶ ص ۱۶۶)

## تکلیفوں اور بیماریوں کا (علاج کے بغیر) دور ہو جانا

حضرت عبداللہ بن انیسؓ فرماتے ہیں مستنیر بن رزام یہودی نے شوط درخت کی ٹیڑھی لائھی میرے چہرے پر ماری جس سے میرے سر کی ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور زخم کا اثر دماغ تک پہنچ گیا میں اسی حالت میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے کپڑا ہٹا کر اس پر دم فرمایا تو زخم اور ہڈی وغیرہ سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو گیا میں نے دیکھا تو وہاں مجھے کچھ بھی زخم وغیرہ نظر نہ آیا۔

حضرت شرحبیلؓ فرماتے ہیں میری ہتھیلی میں ایک غدود نکل آیا میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں جا کر عرض کیا اے اللہ کے نبی! اس غدود کی وجہ سے میرے سارے ہاتھ میں ورم ہو گیا ہے اور میں نہ تلوار کا دستہ پکڑ سکتا ہوں اور نہ سواری کی لگام۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے میری ہتھیلی کھول کر اس پر دم فرمایا پھر آپ اپنا ہاتھ اس غدود پر رکھ کر کچھ دیر ملتے رہے جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو مجھے غدود کا ذرہ بھی نشان نظر نہ آیا۔

حضرت ابیض بن حمال مآربیؓ فرماتے ہیں میرے چہرے پر داد کی بیماری تھی جس نے ناک کو گھیر کر رکھا تھا۔ حضور ﷺ نے مجھے بلایا اور میرے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا تو شام تک اس بیماری کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہا۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گیا وہاں ایک ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا چربی کا ایک ٹکڑا مجھے بہت اچھا لگا میں نے اسے لیا اور کھا کر نکل گیا اور اس کی وجہ سے میں سال بھر بیمار رہا پھر میں نے اس کا حضور سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس چربی کو سات انسانوں کی نظر لگی ہوئی تھی پھر آپ نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے چربی کا وہ ٹکڑا میرے پیٹ سے نکال دیا اور اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق دے کر بھیجا اس کے بعد آج تک میرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیمار ہوا نبی کریم ﷺ کا میرے پاس سے گزر ہوا اس وقت میں یہ دعا مانگ رہا تھا اے اللہ! اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے موت دے کر راحت عطا فرما اور اگر اس میں دیر ہے تو پھر مجھے شفاء عطا فرما اور اگر آزمائش ہی مقصود ہے تو پھر مجھے صبر کی

۱۔ ماخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۹۸) ولیہ عبدالعزیز بن عمران وهو ضعیف

۲۔ ماخرجه الطبرانی عن مخلد بن عقبہ بن عبدالرحمن بن شرحبیل عن جده عبدالرحمن عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۹۸) ومخلد ومن فوقہ لم اعرہم وبقیۃ رجالہ رجال الصحیح۔ انتہی

۳۔ ماخرجه ابونعیم فی الدلائل (۲۲۳) و ماخرجه ابن سعد (ج ۵ ص ۵۲۳)

۴۔ ماخرجه ابونعیم فی الدلائل (ص ۲۲۳)



توفیق عطا فرما۔ حضورؐ نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی دعا دہرا دی آپؐ نے مجھے اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے اللہ! اسے شفاء عطا فرما! اس دعا کے بعد یہ بیماری مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ جلد اول میں صفحہ ۷۳ پر دعوت کے بارے میں حضرت ہبل رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن حضرت علیؑ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ حضورؐ نے ان کی آنکھوں پر دم فرمایا تو اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کے بعد کبھی دکھنے نہ آئیں اور نصرت کے باب میں ابورافع کے نقل کے قصہ میں جلد اول میں صفحہ ۳۹ پر حضرت براء رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیکؓ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جب میں نبی کریمؐ کی خدمت میں پہنچا تو میں نے آپؐ کو بتایا آپؐ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلائی۔ آپؐ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ایک دم ایسے ٹھیک ہو گئی کہ گویا اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔

حضرت حنظلہ بن حدیم بن حنیفہؓ فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت حدیمؓ کے ساتھ ایک وفد کے ہمراہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے والد نے کہا یا رسول اللہ! میرے چند بیٹے ہیں جن میں سے بعض کی داڑھی ہے اور بعض کی نہیں ہے یہ ان میں سب سے چھوٹا ہے۔ حضورؐ نے مجھے اپنے قریب کیا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ذیال راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہؓ کے پاس وہ آدمی لایا جاتا جس کے چہرے پر ورم ہوتا یا وہ بکری لائی جاتی جس کا تھن سوجا ہوا ہوتا تو وہ فرماتے بسم اللہ علیٰ موضع کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نام سے اور حضورؐ نے میرے سر پر جس جگہ ہاتھ پھیرا تھا اس جگہ کی برکت سے۔ پھر اس ورم پر ہاتھ پھیرتے اور وہ ورم اسی وقت ختم ہو جاتا۔ احمد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ذیال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت حنظلہؓ کے پاس وہ آدمی لایا جاتا جس کے چہرے پر ورم ہوتا حضرت حنظلہؓ کہتے: بسم اللہ پھر اپنے سر پر اس جگہ ہاتھ پھیرتے جہاں حضورؐ نے ہاتھ رکھا تھا پھر اپنے ہاتھ پر دم فرماتے پھر ورم والی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو ورم اسی وقت چلا جاتا۔

حضرت عبداللہ بن قرظؓ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا ایک اونٹ چلتے چلتے تھک کر کھڑا ہو گیا۔ میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ تھا۔ پہلے تو میرا ارادہ ہوا کہ اونٹ کو وہیں چھوڑ دوں

۱۔ أخرجه أبو نعیم فی الدلائل (ص ۱۶۱) ۲۔ أخرجه الطبرانی فی المعجم (ج ۹ ص ۳۰۸)

رواه الطبرانی فی الاوسط والکبیر بنحوہ واحمد فی حدیث طویل ورجال احمد لغات. انتھی

۳۔ قد ذکرہ الحافظ فی الاصابہ (ج ۱ ص ۳۵۹) عن احمد بطولہ قال الحافظ ورواه الحسن بن سفیان

من وجہ آخر عن الذہب ورواه الطبرانی بطولہ منقطعاً ورواه ابو یعلیٰ من ہذا الوجہ ولیس بتمامہ وکذا رواہ

یعقوب بن سفیان والمنجینی و أخرجه ابن سعد (ج ۷ ص ۷۲) ایضاً بطولہ بسباق احمد

لیکن پھر میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اونٹ کو اسی وقت ٹھیک کر دیا اور میں اس پر سوار ہو کر چل پڑا۔

## زہر کے اثر کا چلے جانا

حضرت ابو سہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولیدؓ فارس کے ایک گورنر کے ہاں مہمان بنے لوگوں نے ان سے کہا ان محمی لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں یہ آپ کو زہر نہ پلا دیں۔ انہوں نے فرمایا ذرا وہ زہر میرے پاس لاؤ۔ لوگ زہر لے آئے۔ انہوں نے وہ زہر ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر سارا نگل گئے ان پر زہر کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ ۲۔ اصابہ کی روایت میں یہ ہے کہ زہر حضرت خالدؓ کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر اسے پی گئے ان پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ ۳۔

حضرت ذی الجوش ضبائیؓ وغیرہ حضرات فرماتے ہیں (عمرو) ابن بقیلہ کے ساتھ اس کا ایک خادم تھا جس کی پیٹی میں ایک تھیلی لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت خالدؓ نے وہ تھیلی لی اور اس میں جو کچھ تھا وہ اپنی تھیلی پر ڈالا اور عمرو سے کہا اے عمرو! یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم! یہ ایسا زہر ہے جو انسان کو فوراً مار دیتا ہے۔ حضرت خالدؓ نے کہا تم نے زہر اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ خطرہ تھا کہ آپ لوگوں کو میری رائے کے خلاف فتح مل جائے گی تو میں اس سے پہلے ہی زہر کھا کر مر جاؤں گا کیونکہ یوں خودکشی کر لینا مجھے اپنی قوم اور اپنے شہر والوں کی ذلت آمیز شکست کا ذریعہ بننے سے زیادہ محبوب ہے حضرت خالدؓ نے فرمایا کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا پھر حضرت خالدؓ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض ورب السماء الذی لیس بضر مع اسمه داء الرحمن الرحیم (اللہ کا نام لے کر میں یہ زہر پیتا ہوں لفظ اللہ اس کے ناموں میں سب سے بہترین نام ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور اس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے) اس پر لوگ حضرت خالدؓ کو روکنے کے لئے آگے بڑھے لیکن حضرت خالدؓ لوگوں کے آنے سے پہلے ہی جلدی سے وہ زہر پی گئے اور انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر عمرو نے کہا اے جماعت عرب! جب تک تم صحابہؓ میں سے ایک آدمی بھی باقی رہے گا اس وقت تک تم جو چاہو گے حاصل کر لو گے پھر عمرو نے حیرہ والوں کی

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۱۰ ص ۱۸۵) واسنادہ جید ۲۔ اخرجہ ابو یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۵۰) ورواہ ابو یعلیٰ والطبرانی بنحوہ واحد اسنادی الطبرانی بنحوہ رجالہ رجال الصحیح وهو مرسل ورجالہ ماتقات الا ان ابال سفر و ابابردہ بن ابی موسیٰ لم یسمعا من خالد۔ انتہی و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۵۹) عن ابی السفر بنحوہ و ذکرہ فی الاصابة (ج ۱ ص ۳۱۳) عن ابی یعلیٰ۔  
۳۔ لم قال فی الاصابة ورواہ ابن سعد عن وجہین آخرین۔ انتہی

طرف متوجہ ہو کر کہا میں نے آج جیسا واضح اقبال والادن نہیں دیکھا۔

## گرمی اور سردی کا اثر نہ کرنا

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؑ سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے اور گرمیوں میں مونے کپڑے اور ایسا جبہ پہن کر نکلا کرتے تھے جس میں روئی بھری ہوئی ہوتی تھی لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کے ابا جان رات کو حضرت علیؑ سے باتیں کرتے ہیں آپ اپنے ابا جان سے کہیں کہ وہ حضرت علیؑ سے اس بارے میں پوچھیں میں نے اپنے والد سے کہا لوگوں نے امیر المومنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہیں میرے والد نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ سخت گرمی میں روئی والے جبہ میں اور مونے کپڑوں میں باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ نے ان سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جب رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی ان سے پوچھ لیں۔ چنانچہ جب رات کو میرے والد حضرت علیؑ کے پاس گئے تو ان سے کہا اے امیر المومنین! لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں حضرت علیؑ نے کہا وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا آپ سخت گرمی میں روئی والا جبہ اور مونے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت علیؑ نے فرمایا اے ابولیلیٰ! کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ میرے والد نے کہا اللہ کی قسم! میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا حضور ﷺ نے پہلے حضرت ابو بکرؓ کو بھیجا وہ لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا وہ واپس آ گئے۔ حضورؐ نے پھر حضرت عمرؓ کو بھیجا وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا وہ بھی واپس آ گئے اس پر حضورؐ نے فرمایا اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا اور وہ بھگوڑا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضورؐ نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میری آنکھیں دکھ رہی تھیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضورؐ نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا اور یہ دعا کی اے اللہ! گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ ۲۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ

۱۔ اخرجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۲ ص ۵۶۷) عن محمد بن ابی السفر

۲۔ اخرجه ابن ابی شیبہ و احمد و ابن ماجہ و البزار و ابن جریر و صحیحہ و الطبرانی فی الاوسط و الحاکم و البیہقی فی الدلائل کدافی المنتخب (ج ۵ ص ۴۴) و اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۶۶) عن عبدالرحمن مختصراً.

ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر لعاب لگایا اور پھر دونوں ہتھیلیاں میری آنکھوں پر مل دیں اور یہ دعا فرمائی اے اللہ! اس سے گرمی اور سردی دور کر دے اس ذات کی قسم جس نے حضور کو حق دے کر بھیجا ہے! اس کے بعد سے آج تک گرمی اور سردی نے مجھے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی۔ الطبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سوید بن غفلہ فرماتے ہیں ہماری حضرت علیؑ سے سردیوں میں ملاقات ہوئی انہوں نے صرف دو کپڑے پہنے ہوئے تھے ہم نے ان سے کہا آپ ہمارے علاقہ سے دھوکہ نہ کھائیں ہمارا علاقہ آپ کے علاقہ جیسا نہیں ہے یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے حضرت علیؑ نے فرمایا مجھے سردی بہت لگا کرتی تھی جب حضور ﷺ مجھے خیبر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں آپ نے میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی اور نہ کبھی میری آنکھیں دکھنے آئیں۔ ۲

حضرت بلالؓ فرماتے ہیں میں نے سردی کی ایک رات میں صبح کی اذان دی لیکن کوئی آدمی نہ آیا۔ میں نے پھر اذان دی لیکن پھر بھی کوئی نہ آیا اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اے بلال! لوگوں کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سردی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے لوگ ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر حضور نے یہ دعا فرمائی اے اللہ! لوگوں سے سردی دور کر دے۔ حضرت بلالؓ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ لوگ صبح کی نماز میں اور اشراق کی نماز میں بڑے آرام سے آرہے ہیں انہیں سردی محسوس نہیں ہو رہی بلکہ کچھ لوگ تو پچکھا کرتے ہوئے آرہے تھے۔ ۳

## بھوک کے اثر کا چلے جانا

حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت فاطمہؓ آئیں اور آ کر حضور کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ! قریب آ جاؤ وہ قریب آ گئیں۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ! اور قریب آ جاؤ وہ اور قریب آ گئیں۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ! اور قریب آ جاؤ وہ بالکل قریب ہو کر سامنے کھڑی ہو گئیں۔ میں نے

۱۔ وقال الهیثمی (ج ۹ ص ۱۲۲) رواہ الطبرانی فی الاوسط و اسناد حسن.

۲۔ وقال الهیثمی فی موضع آخر (ج ۹ ص ۱۲۲) بعد ما ذکر الحدیث عن ابی یعلیٰ رواہ البزار وفیہ محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ و ہوسینی الحفظ و بقیة رجالہ رجال الصحیح

۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۶۶) عن جابر و اخرجه البیهقی عن جابر عن ابی بکر عن بلال رضی اللہ عنہم فدکر بمعناه مختصرا کما فی البدایة (ج ۶ ص ۱۶۶) وفی رواية اللہم اذهب عنہم البرد ثم قال البیهقی تفرد بہ ایوب بن سيار قال ابن کثیر ونظیرہ قدمضی فی الحدیث المشہور عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ فی قصة الخندق. انتہی

دیکھا کہ ان کے چہرے پر بھوک اور کمزوری کی وجہ سے زردی چھائی ہوئی ہے اور خون کا نام و نشان نہیں ہے (اس وقت تک عورتوں کے لئے پردہ کا حکم نہیں آیا تھا) حضورؐ نے اپنی انگلیاں پھیلا کر ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور سر اٹھا کر یہ دعا کی اے اللہ! اے بھوکوں کا پیٹ بھرنے والے اے حاجتوں کو پورا کرنے والے! اور اے گرے پڑے لوگوں کو اونچا کرنے والے! محمد کی بیٹی فاطمہؑ کو بھوکا مت کہ میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہؑ کے چہرے سے وہ زردی چلی گئی اور خون کی سرخی آگئی پھر میں نے اس کی بعد حضرت فاطمہؑ سے پوچھا انہوں نے کہا اے عمران! اس کے بعد مجھے کبھی بھوک نہیں لگی۔!

### بڑھاپے کے اثر کا چلے جانا

حضرت ابوزید انصاریؒ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور یہ دعا فرمائی اے اللہ! اسے خوبصورت بنا دے اور پھر اس کی خوبصورتی ہمیشہ باقی رکھ۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوزیدؒ کی عمر سو سال سے زیادہ ہو گئی تھی اور ان کی داڑھی میں تھوڑے سے سفید بال تھے اور ان کا چہرہ کھلا رہتا تھا اور موت تک ان کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑی تھیں۔ ۲۔ امام احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابونہیک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ابوزیدؒ نے بیان کیا کہ مجھ سے حضور ﷺ نے پانی طلب فرمایا میں ایک پیالے میں پانی لے کر حضورؐ کی خدمت میں گیا اس میں ایک بال تھا وہ میں نے پکڑ کر نکال دیا اس پر حضورؐ نے دعا دی اے اللہ! اسے خوبصورت بنا دے۔ حضرت ابونہیک کہتے ہیں میں نے حضرت ابوزیدؒ کو دیکھا کہ ان کی عمر چورانوے ۹۴ سال ہو چکی تھی اور ان کی داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ ۳۔ ابونعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابونہیک کہتے ہیں میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی عمر ترانوے ۹۳ سال ہو چکی تھی اور ان کے سر اور داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔

حضرت ابو العلاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت قتادہ بن ملحانؓ کا جس جگہ انتقال ہوا میں اس جگہ ان کے پاس تھا گھر کے پچھلے حصے میں ایک آدمی گزرا اس کا عکس مجھے حضرت قتادہ کے چہرے میں نظر آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا (اس کی برکت سے ہر وقت ایسے لگتا تھا کہ ان کے چہرے پر تیل لگا ہوا ہے) اس سے پہلے جب بھی

۱۔ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط قال الہیثمی (ج ۹ ص ۴۰۴) ولیہ عبۃ بن حمید ولفہ ابن حبان وغیرہ

وضعہ جماعۃ وبقیۃ رجالہ ولفوا۔ انتہی و اخرجہ ابونعیم فی الدلائل (ص ۱۶۶) عن عمران بنحوہ

۲۔ اخرجہ احمد قال السہیلی اسناد صحیح موصول کذا فی البدایۃ (ج ۶ ص ۱۶۶)

۳۔ قال فی الاصابۃ (ج ۲ ص ۷۸) رواہ احمد من وجہ آخر وصححہ ابن حبان و الحاکم۔ انتہی

واخرجہ ابونعیم فی الدلائل (ص ۱۶۳) عن طریق ابی نہیک بنحوہ

میں نے حضرت قتادہؓ کو دیکھا تو ایسے لگتا تھا کہ ان کے چہرے پر تیل لگا ہوا ہے۔  
حضرت حیان بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے حضرت قتادہ بن  
ملحانؓ کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا اس کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے  
جسم کے ہر حصے پر بڑھاپے کے آثار ہو گئے تھے تو چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا، چنانچہ میں وفات کے  
وقت ان کے پاس تھا ان کے پاس سے ایک عورت گزری تو مجھے اس عورت کا عکس ان کے چہرے  
میں اس طرح نظر آیا جیسے شیشے میں نظر آتا ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت نابذہ جعدیؓ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو یہ شعر سنایا جو حضورؐ کو بہت پسند آیا۔

بلعنا السماء مجدنا وثرانا

وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا

ہماری بزرگی اور بلندی آسمان تک پہنچ گئی ہے اور ہمیں اس سے بھی اوپر چڑھنے کا یقین ہے۔ حضورؐ  
نے فرمایا اے ابولیلی! اور اوپر کہاں چڑھنا ہے؟ میں نے کہا جنت میں۔ آپؐ نے فرمایا ٹھیک ہے  
انشاء اللہ اور شعر پڑھو پھر میں نے یہ شعر پڑھے

ولا خیر فی حلم اذا لم یکن له

بواذر تحمی صفوہ ان یکدرا

ولا خیر فی جہل اذا لم یکن له

حلیم اذا ما اوردا الامر اصدرا

بردباری میں اس وقت تک خیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ جلدی جلدی کئے جانے والے کچھ کام ایسے  
نہ ہوں جو بردباری کو گدلا ہونے سے بچائیں اور سخت کلامی میں اس وقت تک خیر نہیں ہو سکتی جب  
تک کہ انسان بردبار نہ ہو کہ وہ جب کوئی کام شروع کرے تو اسے پورا کر کے چھوڑ دے۔

حضورؐ نے فرمایا تم نے بہت عمدہ شعر کہے ہیں اللہ تمہارے دانتوں کو گرنے نہ دے۔ یعلیٰ  
راوی کہتے ہیں میں نے حضرت نابذہ کو دیکھا کہ ان کی عمر سو سال سے زیادہ ہو چکی تھی لیکن ان کا  
ایک بھی دانت نہیں گرا تھا۔<sup>۳</sup> حضرت عبداللہ بن جراد کہتے ہیں بنو جعدہ قبیلہ کے حضرت نابذہ کو  
میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اپنا یہ شعر علونا السماء سنایا حضورؐ کو غصہ

۱۔ اخرجہ احمد کذا فی البدایة (ج ۶ ص ۱۶۶) ۲۔ عند ابن شاہین کذا فی الاصابة (ج ۳ ص ۲۲۵)

۳۔ اخرجہ ابونعیم فی الدلائل (ص ۱۶۳) و اخرجہ البيهقي عن النابغة نحوه الا ان فی رواية ثرانا بدل  
ثرانا و اخرجہ البزار عنه نحوه الا ان فی رواية عفة و تکرما بدل قوله مجدنا و ثرانا ولم يذكر قول یعلیٰ  
کما فی البدایة (ج ۶ ص ۱۶۸) و اخرجہ ایضا الحسن بن سفیان فی مسنده و ابونعیم فی تاریخ اصبهان  
والشیرازی فی الالقاب کلهم من رواية یعلیٰ بن الاشدق وهو ساقط الحديث لكنه توبع فقد وقعت لنا قصة  
فی غریب الحديث للخطابی و فی کتاب العلم للمرجی و غیرهما من طریق مهاجر بن سلیم و ردینا ہافی  
الموتلف و المختلف للدارقطنی و فی الصحابة لابن السکن و فی غیرهما من طریق الرجال بن المنذر  
حدثنی ابی عن ابیہ کریر بن سامة و كانت له وفادة مع النابغة الجعدی ف ذکرها بنحوه

آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو لیلیٰ! چڑھ کر اوپر کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جنت میں۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے انشاء اللہ۔ مجھے اپنے اور اشعار سناؤ اس پر میں نے ولا خیر فی حلم والے دونوں شعر سنائے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم نے بہت اچھے شعر کہے ہیں اللہ تمہارے دانتوں کو گرنے نہ دے حضرت عبد اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو مجھے حضرت نابغہ کے دانت مسلسل گرنے والے اور اولوں کی طرح چمکدار نظر آئے اور نہ کوئی دانت ٹوٹا ہوا تھا اور نہ کوئی مڑا ہوا۔ عاصم لیشی کی روایت میں ہے کہ حضرت نابغہ کے دانت عمر بھر بڑے خوبصورت رہے جب بھی ان کا کوئی دانت گر جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نکل آتا اور ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی تھی۔

## صدمہ کے اثر کا چلے جانا

حضرت ام اسحاقؓ فرماتی ہیں میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ حضور ﷺ کی خدمت میں ہجرت کے لئے چلی راستہ میں ایک جگہ پہنچ کر میرے بھائی نے مجھ سے کہا اے ام اسحاق! تم ذرا یہاں بیٹھو میں اپنا خرچہ مکہ میں بھول آیا ہوں جا کر لے آتا ہوں۔ میں نے اپنے خاوند کے بارے میں کہا مجھے تم پر اس غم سے خطرہ ہے تمہیں وہ کہیں قتل نہ کر دے اس نے کہا نہیں انشاء اللہ ایسے نہیں ہوگا میں چند دن وہاں ٹھہری رہی پھر ایک آدمی میرے پاس سے گزرا جسے میں نے پہچان لیا اب میں اس کا نام نہیں لیتی اس نے کہا اے ام اسحاق! تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے کہا آج کے بعد سے تمہارا کوئی بھائی نہیں۔ اسے تمہارے خاوند نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے صبر سے کام لیا اور وہاں سے چل دی اور مدینہ پہنچ گئی۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچی تو آپ وضو کر رہے تھے میں جا کر آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا بھائی اسحاق قتل ہو گیا ہے جب بھی میں حضور کو دیکھتی آپ وضو کے پانی کی طرف سر جھکا لیتے پھر آپ نے پانی لے کر میرے چہرے پر چھڑکا بشارت راوی کہتے ہیں میری دادی نے بتایا کہ (حضور کے پانی چھڑکنے کی برکت یہ ہوئی کہ) حضرت ام اسحاق پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو ان کی آنکھوں میں تو آنسو نظر آتے لیکن رخساروں پر نہ گرے۔<sup>۱</sup> ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام اسحاق فرماتی ہیں میں نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! (میرا بھائی) اسحاق قتل ہو گیا ہے تو حضور نے ایک چلو پانی لے کر میرے چہرے پر چھڑکا حضرت ام حکیم کہتی ہیں حضرت ام اسحاق پر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آتی تو

۱۔ اخرجه السلفی فی الاربعین من طریق نصر بن عاصم اللیثی عن ابیہ عن النابغہ فذکر الحدیث کذا فی

الاصابة (ج ۳ ص ۵۳۹) مختصراً ۲۔ اخرجه ابونعیم فی الدلائل (ص ۱۶۸) و اخرجه

البخاری فی تاریخہ وسمویہ و ابو یعلیٰ و غیرہم من طریق بشار بن عبد الملک المزنی عن جدتہ ام حکیم

بنت دینار المزینة عن مولا لها ام اسحق الغزوية بمعناه كما فی الاصابة (ج ۱ ص ۳۲)

آنسو ان کی آنکھوں میں نظر آتے لیکن رخسار پر نہ گرتے۔

## دعا کے ذریعے بارش سے حفاظت

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک مرتبہ فرمایا آؤ اپنی قوم کی زمین پر چلتے ہیں یعنی ذرا اپنے دیہات دیکھ لیتے ہیں، چنانچہ ہم لوگ چل پڑے۔ میں اور حضرت ابی بن کعبؓ جماعت سے کچھ پیچھے رہ گئے تھے اتنے میں ایک بادل تیزی سے آیا اور برسنے لگا۔ حضرت ابیؓ نے دعا مانگی اے اللہ! اس بارش کی تکلیف ہم سے دور فرما دے (چنانچہ ہم بارش میں چلتے رہے لیکن ہماری کوئی چیز بارش سے نہ بھگی) جب ہم حضرت عمرؓ اور باقی ساتھیوں کے پاس پہنچے تو ان کے جانور، کجادے اور سامان وغیرہ سب بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہمیں تو راستہ میں بہت بارش ملی تو کیا آپ لوگوں کو نہیں ملی؟ میں نے کہا ابوالمنذر یعنی حضرت ابیؓ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اس بارش کی تکلیف ہم سے دور فرما دے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا تم لوگوں نے اپنے ساتھ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کی؟ ۲

## شہنی کا تلوار بن جانا

حضرت زید بن اسلم وغیرہ حضرات فرماتے ہیں جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن مھسنؓ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ حضور ﷺ نے ان کو درخت کی ایک شہنی دی جو ان کے ہاتھ میں جاتے ہی کاٹنے والی تلوار بن گئی جس کا لوہا بڑا صاف اور مضبوط تھا۔ ۳

## دعا سے شراب کا سرکہ بن جانا

حضرت خیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولیدؓ کے پاس ایک آدمی آیا اس کے پاس شراب کی ایک مشک تھی حضرت خالدؓ نے دعا کی اے اللہ! اسے شہد بنا دے، چنانچہ وہ شراب اسی وقت شہد بن گئی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالدؓ کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کے پاس شراب کی ایک مشک تھی۔ حضرت خالدؓ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا سرکہ ہے حضرت خالدؓ نے کہا اللہ اسے سرکہ ہی بنا دے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ واقعی سرکہ ہی تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ شراب تھی۔ ۴ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالدؓ کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس کے پاس

۱۔ کما فی الاصابة (ج ۳ ص ۳۳۰) و بشار ضعفہ ابن معین کما فی الاصابة (ج ۱ ص ۳۲)

۲۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا فی کتاب مجاہدی الدعوة و ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۱۲۲)

۳۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۱ ص ۱۸۸) ۴۔ اخرجہ ابن ابی الدنيا باسناد صحیح کذا فی

الاصابة (ج ۱ ص ۳۱۳) قال ابن کثیر فی البداية (ج ۷ ص ۱۱۳) وله طرق



شراب کی مشک تھی۔ حضرت خالدؓ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا شہد ہے حضرت خالدؓ نے دعا کی اے اللہ! اسے سرکہ بنا دے وہ آدمی جب اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا تو اس نے کہا میں آپ لوگوں کے پاس ایسی شراب لے کر آیا ہوں کہ اس جیسی شراب عربوں نے کبھی نہیں لی ہوگی پھر اس آدمی نے مشک کھولی تو اس میں سرکہ تھا تو اس نے کہا اللہ کی قسم! اس کو حضرت خالدؓ کی دعا لگی ہے۔

## قیدی کا قید سے رہا ہو جانا

حضرت محمد بن اسحاق کہتے ہیں حضرت مالک اشجعیؓ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا بیٹا عوف قید ہو گیا ہے حضورؐ نے فرمایا اس کے پاس یہ پیغام بھیج دو کہ حضورؐ اسے فرما رہے ہیں کہ وہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھے، چنانچہ قاصد نے جا کر حضرت عوفؓ کو حضورؐ کا پیغام پہنچا دیا حضرت عوفؓ نے لاحول ولا قوۃ الا باللہ خوب کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا کافروں نے حضرت عوفؓ کو تانت سے باندھا ہوا تھا ایک دن وہ تانت ٹوٹ کر گر گئی تو حضرت عوفؓ قید سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی اونٹنی وہاں موجود ہے حضرت عوفؓ اس پر سوار ہو گئے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ان کافروں کے سارے جانور ایک جگہ جمع ہیں انہوں نے ان جانوروں کو ایک آواز لگائی تو سارے جانور ان کے پیچھے چل پڑے اور انہوں نے اچانک اپنے ماں باپ کے گھر کے دروازے پر جا کر آواز لگائی تو ان کے والد نے کہا رب کعبہ کی قسم! یہ تو عوفؓ ہے۔ ان کی والدہ نے کہا ہائے یہ عوفؓ کیسے ہو سکتا ہے؟ عوفؓ تو تانت کی تکلیف میں گرفتار ہے بہر حال والد اور خادم دوڑ کر دروازے پر گئے تو دیکھا کہ واقعی حضرت عوفؓ موجود ہیں اور سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عوفؓ نے اپنے والد کو اپنا اور اونٹوں کا سارا قصہ سنایا ان کے والد نے جا کر حضورؐ کو یہ سب کچھ بتایا۔ حضورؐ نے ان سے فرمایا ان اونٹوں کے ساتھ تم جو چاہے کرو (یہ اونٹ تمہارے ہیں اس لئے) اپنے اونٹوں کے ساتھ جو کچھ تم کرتے ہو وہی ان کے ساتھ کرو پھر یہ آیت نازل ہوئی **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** (سورت طلاق آیت ۳) ”جو محض اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مضرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس (کی اصلاح مہمات) کے لئے کافی ہے۔“ ابن جریر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عوف کے والد

۱۔ اخرجہ آدم بن ابی ایاس فی تفسیرہ کذا فی الترغیب (ج ۳ ص ۱۰۵) وقال و محمد بن اسحاق لم یلرک مالکا. ۱۰ و اخرجہ ابن ابی حاتم عن محمد بن اسحاق نحوه کما فی التفسیر لابن کثیر (ج ۳ ص ۳۸۰) و اخرجہ ابن جریر فی تفسیرہ (ج ۲۸ ص ۸۹) عن السدی بعناہ مختصرا ولم یذکر امر الحوالة و اخرجہ ابن جریر ایضا عن سالم بن ابی الجعد حذیثہ ۱.

حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے بیٹے کے قید میں ہونے اور اس کی پریشانی کی شکایت کرتے حضور انہیں صبر کی تلقین فرماتے اور ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ عنقریب اس کے لئے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔

صحابہ کرامؓ کو تکلیفیں پہنچانے کی وجہ سے نافرمانوں پر کیا کیا مصیبتیں آئیں

حضرت عباس بن سہیل بن سعد ساعدیؓ یا حضرت عباس بن سعدؓ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ (حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کے علاقے) حجر کے پاس سے گزرے اور وہاں پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے وہاں کے کنویں سے پانی نکال کر برتنوں میں بھر لیا۔ جب وہاں سے آگے روانہ ہوئے تو حضور نے لوگوں سے فرمایا اس کنویں کا پانی بالکل نہ پیو اور نہ اس سے نماز کے لئے وضو کرے اور اس کے پانی سے جو آٹا گوندھا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دو خود اسے بالکل نہ کھاؤ۔ آج رات جو بھی باہر نکلے وہ اپنے ساتھ اپنے کسی ساتھی کو ضرور لے کر جائے اکیلے نہ نکلے۔ تمام لوگوں نے حضور کی تمام باتوں پر عمل کیا، البتہ قبیلہ بنو ساعدہ کے دو آدمی اکیلے باہر نکل گئے، ایک قضائے حاجت کے لئے گیا تھا دوسرا اپنا اونٹ ڈھونڈنے گیا تھا۔ جو قضائے حاجت کے لئے گیا تھا راستہ میں اس کا کسی (جن) نے گلا گھونٹ دیا اور جو اپنا اونٹ ڈھونڈنے گیا تھا اسے آندھی نے اٹھا کر قبیلہ طے کے دو پہاڑوں کے درمیان (بین میں) جا پھینکا۔ جب حضور گوان دونوں کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ساتھی کے بغیر اکیلے باہر نکلنے سے کیا تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا؟ پھر آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی جس کا راستہ میں کسی نے گلا گھونٹا وہ ٹھیک ہو گیا دوسرا آدمی تبوک سے حضور کے پاس پہنچا۔ ابن اسحاق سے زیاد نے جو روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب حضور ﷺ مدینہ منورہ واپس پہنچے تو قبیلہ طے والوں نے اس آدمی کو حضور کے پاس بھیجا۔ ۲

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں حضرت عثمانؓ غنبر پر بیان فرما رہے تھے حضرت جبجہ غفاریؓ نے کھڑے ہو کر حضرت عثمانؓ کے ہاتھ سے لائٹھی لی اور اس زور سے ان کے گھٹنے پر ماری کہ گھٹنا پھٹ گیا اور لائٹھی بھی ٹوٹ گئی۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبجہ کے ہاتھ پر جسم کو کھا جانے والی بیماری لگا دی جس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ۳ ابن سکین کی روایت میں ہے کہ

۱۔ اخرجہ ابن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم ۲۔ کذا فی البدایہ (ج ۵ ص ۱۱) و اخرج ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۹۰) من طریق ابراہیم بن سعد عن ابن اسحاق عن الزہری و یزید بن رومان و عبد اللہ ابن ابی بکر و عاصم بن عمر بن قتادہ نحوہ

۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۱) و اخرجہ الباوردی و ابن السکن عنہ بمعناہ کما فی الاصابہ (ج ۱ ص ۲۵۳) و قال و رویناہ فی المحاملیات من طریق سلیمان بن یسار نحوہ و رواہ ابن السکن من طریق فلیح بن سلمان عن عمہ و ابیہا عمہا انہما حضرا عثمان۔

حضرت ججاہ بن سعید غفاریؓ اٹھ کر حضرت عثمانؓ کی طرف گئے اور ان کے ہاتھ سے چھڑی لے لی اور حضرت عثمانؓ کے گھٹنے پر اس زور سے ماری کہ وہ ٹوٹ گئی اس پر لوگوں نے شور مچا دیا۔ حضرت عثمانؓ صبر سے اتر کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت غفاریؓ کے گھٹنے میں بیماری پیدا کر دی اور سال گزرنے سے پہلے ہی اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔

حضرت عبدالملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے ایک آدمی حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے پاس آیا اور اس نے یہ شعر پڑھے (حضرت سعدؓ بیماری کی وجہ سے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے جس پر اس نے یہ اشعار طنزاً پڑھے)

وسعد بیاب القادسیة معصم

نقاتل حتی یبذل اللہ نصرہ

ونسوة سعد لیس فیہن اہم

فابنا وقد امت نساء کثیرة

”ہم تو اس لئے جنگ کر رہے تھے تاکہ اللہ اپنی مدد نازل کر دے اور (حضرت) سعد قادیسیہ کے دروازے سے چمٹے کھڑے رہے جب ہم واپس آئے تو بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں لیکن (حضرت) سعد کی بیویوں میں سے کوئی بھی بیوہ نہیں ہوئی۔“

جب حضرت سعدؓ گوان شعروں کا پتہ چلا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ! اس کی زبان اور ہاتھ کو مجھ سے تو جس طرح چاہے روک دے، چنانچہ جنگ قادیسیہ کے دن اسے ایک تیر لگا جس سے اس کی زبان بھی کٹ گئی اور ہاتھ بھی کٹ گیا اور وہ قتل بھی ہو گیا۔ حضرت قبیسہ بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے ایک چچا زاد بھائی نے جنگ قادیسیہ کے موقع پر (حضرت سعدؓ پر طنز کرنے کے لئے) یہ دو شعر کہے جو گزر گئے، البتہ پہلے شعر میں الفاظ دوسرے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اپنی مدد کو کیسے اتارا؟ جب حضرت سعدؓ گوان اشعار کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا خدا کرے اس کی زبان اور ہاتھ بیکار ہو جائیں، چنانچہ ایک تیر اس کے منہ پر لگا جس سے وہ گونگا ہو گیا پھر جنگ میں اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اپنا عذر لوگوں کو بتانے کے لئے حضرت سعدؓ نے فرمایا مجھے اٹھا کر دروازے کے پاس لے چلو، چنانچہ لوگ انہیں اٹھا کر باہر لائے پھر انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو اس پر بہت سے زخم تھے جنہیں دیکھ کر تمام لوگوں کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی معذور تھے اور کوئی بھی انہیں بزدل نہیں سمجھتا تھا۔ اپنے بڑوں کی وجہ سے ناراض ہونے کے باب میں (طبرانی والی) حضرت عامر بن سعدؓ کی روایت میں حضرت سعدؓ کا حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ کو برا بھلا کہنے والے کو بددعا دینا گزر چکا ہے جس میں یہ بھی ہے کہ ایک سختی اونٹنی تیزی سے آئی لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے اس اونٹنی نے اس

۱۔ أخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۷) ۲۔ فی رواية یقاتل حتی یبذل اللہ نصرہ وقال وقلعت

بده وقتل قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۵۳) رواہ الطبرانی باسنادین رجال احدہما ثقات. انتہی

آدمی کو روند ڈالا اور حضرت قیس بن ابی حازم کی روایت میں حضرت سعد کا حضرت علیؓ کو برا بھلا کہنے والے کے لئے بددعا کرنا بھی گزر چکا ہے جس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے بکھرنے سے پہلے ہی اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اور اس کی سواری کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے جس سے وہ سر کے بل ان پتھروں پر زور سے گرا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ وہیں مر گیا۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بھڑکا ہوا اونٹ آیا اور لوگوں کے درمیان میں سے گزرتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچ گیا اور اسے مار کر نیچے گرایا اور پھر اس پر بیٹھ کر اپنے سینے سے اسے زمین پر رگڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے حضرت سعد کے پاس جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ کو دعا کا قبول ہونا مبارک ہو۔

حضرت ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عمرؓ کو یہ خبر ملی کہ زیاد حجاز مقدس کا بھی والی بنا چاہتا ہے انہیں اس کی بادشاہت میں رہنا پسند نہ آیا تو انہوں نے یہ دعا کی اے اللہ! تو اپنی مخلوق میں سے جس کے بارے میں چاہتا ہے اسے قتل کروا کر اس کے گناہوں کے کفارے کی صورت بنا دیتا ہے (زیاد) ابن سمیہ اپنی موت مرے، قتل نہ ہو، چنانچہ زیاد کے انگوٹھے میں اسی وقت طاعون کی گلٹی نکل آئی اور جمعہ آنے سے پہلے ہی مر گیا۔

حضرت (عبدالجبار) بن وائل یا حضرت علقمہ بن وائل کہتے ہیں جو کچھ وہاں (کربلا میں) ہوا تھا میں اس موقع پر وہاں موجود تھا چنانچہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا کیا آپ لوگوں میں حسین (رضی اللہ عنہ) ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہیں اس آدمی نے حضرت حسینؓ کو گستاخی کے انداز میں کہا آپ کو جہنم کی بشارت ہو۔ حضرت حسینؓ نے فرمایا مجھے دو بشارتیں حاصل ہیں ایک تو نہایت مہربان رب وہاں ہوں گے دوسرے وہ نبی وہاں ہوں گے جو سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابن جویرہ یا ابن جویرہ ہوں۔ حضرت حسینؓ نے یہ دعا کی اے اللہ! اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جہنم میں ڈال دے، چنانچہ اس کی سواری زور سے بدکی جس سے وہ سواری سے اس طرح نیچے گرا کہ اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہ گیا اور سواری تیز بھاگتی رہی اور اس کا جسم اور سر زمین پر گھسٹتا رہا جس سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے رہے۔ اللہ کی قسم! آخر میں صرف اس کی ٹانگ رکاب میں لٹکی رہ گئی۔

حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حسینؓ پانی پی رہے تھے ایک آدمی نے ان کو تیر مارا جس سے ان کے دونوں جڑے ٹل ہو گئے تو حضرت حسینؓ نے کہا اللہ تجھے کبھی سیراب نہ

۱۔ عند ابی نعیم فی الدلائل (ص ۲۰۶) ۲۔ اخرجه ابن عساکر کذا فی المنتخب (ج ۵ ص ۲۳۱)

۳۔ اخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۳) وفيه عطاء بن السائب وهو لقة ولكنه اخطط

کرے، چنانچہ اس نے پانی پیا لیکن پیاس نہ بجھی آخر اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔  
 عبید اللہ بن زیاد کا دربان بیان کرتا ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد حضرت حسینؑ کو شہید کر کے  
 آیا تو میں اس کے پیچھے محل میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ محل میں ایک دم آگ بھڑک اٹھی جو اس  
 کے چہرے کی طرف بڑھی اس نے فوراً اپنی آستین چہرے کے سامنے کر دی اور مجھ سے پوچھا تم  
 نے بھی یہ آگ دیکھی ہے میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اسے چھپا کر رکھنا کسی کو مت بتانا۔

حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری دادی نے مجھے بتایا کہ قبیلہ جہمی کے دو آدمی  
 حضرت حسین بن علیؑ کی شہادت کے وقت وہاں موجود تھے ان میں سے ایک کی شرمگاہ اتنی لمبی  
 ہو گئی تھی کہ وہ اسے لپیٹا کرتا تھا اور دوسرے کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ مشک کو منہ لگا کر ساری پی  
 جایا کرتا تھا حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے ان دونوں میں سے ایک کا بیٹا دیکھا وہ بالکل پاگل نظر  
 آ رہا تھا۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے حضرت حسینؑ کی قبر پر پاخانہ  
 کرنے کی گستاخی کی تو اس سے اس کے گھر والوں میں پاگل پن، کوڑھ اور خارش کی وجہ سے کھال  
 سفید ہو جانے کی بیماریاں پیدا ہو گئیں اور سارے گھر والے فقیر ہو گئے۔

## صحابہ کرامؓ کے قتل ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے نظام میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں

حضرت ربیعہ بن لقیط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس سال حضرت علی اور حضرت معاویہؓ کی  
 جماعتوں میں جنگ ہوئی اس سال میں حضرت عمرو بن عاصؓ کے ساتھ تھا ان کی جماعت واپس  
 جا رہی تھی راستہ میں تازہ خون کی بارش ہوئی۔ میں برتن بارش میں رکھتا تھا تو وہ تازہ خون سے بھر  
 جاتا تھا لوگ سمجھ گئے کہ لوگوں نے جو ایک دوسرے کا خون بہایا ہے اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی  
 ہے حضرت عمرو بن عاصؓ بیان کے لئے کھڑے ہوئے پہلے اللہ کی شایان شان حمد و ثناء بیان کی پھر  
 فرمایا اگر تم اپنے اور اللہ کے درمیان کا تعلق ٹھیک کر لو گے (ہر حال میں اس کا حکم پورا کرو گے) تو  
 اگر یہ دو پہاڑ بھی آپس میں ٹکرا جائیں گے تو بھی تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔  
 حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبد الملک نے مجھ سے کہا اگر آپ مجھے یہ بتادیں کہ

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۳) رجالہ الی قائلہ ثقات

۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۶) وحاجب عبد اللہ لم اعرفہ وبقیۃ رجالہ ثقات

۳۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۷) رجالہ الی جدۃ سفیان ثقات

۴۔ عند الطبرانی ایضاً ورجالہ رجال الصحیح کما قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۷)

۵۔ اخرجہ ابن عساکر کذافی الكنز (ج ۳ ص ۲۹۱) وقال منہ صحیح

حضرت حسینؑ کی شہادت کے دن کونسی نشانی پائی گئی تھی تو پھر آپ واقعی بہت بڑے عالم ہیں میں نے کہا اس دن بیت المقدس میں جو بھی کنکری اٹھائی جاتی اس کے نیچے تازہ خون ملتا عبد الملک نے کہا اس بات کو روایت کرنے میں اور آپ دونوں برابر ہیں (مجھے بھی یہ بات معلوم ہے)۔

حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دن حضرت حسین بن علیؑ کو شہید کیا گیا اس دن شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔  
حضرت ام حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دن حضرت حسینؑ کو شہید کیا گیا اس دن میں کم عمر لڑکی تھی تو کئی دن تک آسمان خون کی طرح سرخ رہا۔  
حضرت ابو قبیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت حسین بن علیؑ کو شہید کیا گیا تو اسی وقت سورج کو اتنا زیادہ گرہن لگا کہ عین دوپہر کے وقت ستارے نظر آنے لگے اور ہم لوگ سمجھے کہ قیامت آگئی۔

## صحابہ کرامؓ کے قتل ہونے پر جنات کا نوحہ

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابؓ کو شہید کیا گیا تو یمن کے تالہ پہاڑ پر ایک آواز سنی گئی کہ کسی نے یہ دو شعر پڑھے

لیک علی الاسلام من کان باکبا      فقد اوشکوا ہلکی وما قدم العهد

وادبرت الدنيا وادبر خیرھا      وقد ملھا من کان یوقن بالوعد

”اسلام پر جس نے رونا ہے وہ رولے کیونکہ سب لوگ ہلاک ہو گئے، حالانکہ ابھی اسلام کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور دنیا اور دنیا کی خیر نے پیٹھ پھیر لی ہے اور جو آخرت کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے اس کا دل دنیا سے اکتا گیا ہے۔“

لوگوں نے ادھر ادھر بہت دیکھا لیکن انہیں پہاڑ پر کوئی بولنے والا نظر نہ آیا (کیونکہ یہ اشعار جن نے پڑھے تھے)۔

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۶) رجالہ ثقات ۲۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۶) رجالہ رجال الصحیح ۳۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۶) رجالہ الی ام حکیم رجال الصحیح ۴۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۶) اسنادہ حسن وقد ضعف ابن کثیر فی البدایہ (ج ۸ ص ۲۰۱) تلک الاحادیث کلھا سوی الحدیث الاول وجعلھا من وضع الشیعة. فالله اعلم ۵۔ اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۹۴) و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۰) عن معروف الموصلی قال لما اصاب عمر رضی اللہ عنہ سمعت صوتا لذكر البیتن وهکذا اخرجہ الطبرانی عن معروف کما فی المجمع (ج ۹ ص ۷۹)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کے وقت کسی کو ان اشعار کے ذریعے حضرت عمرؓ کی وفات کی خبر دیتے ہوئے سنا اور مجھے یقین ہے کہ وہ خبر دینے والا انسان نہیں تھا (بلکہ جن تھا)

جزی اللہ خیر امن امیر و بارکت  
بد اللہ فی ذاک الادیم الممزق  
فمن یمش او یرکب جناحی نعامة  
لیدرک ما قدمت بالامس بسبق  
قضیت امورا ثم غادرت بعدها  
بوانق فی اکمامها لم تفتق

”اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ اپنی قدرت سے اس کھال میں برکت عطا فرمائے جس کو ٹکڑے کر دیا گیا (اے امیر المؤمنین!) آپ جو کارنامہ سرانجام دے گئے ہیں ان تک پہنچنے کے لئے کوئی تھوڑی محنت کرے یا زیادہ وہ کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ پیچھے رہ جائے گا بہت بڑے کام تو آپ پورے کر گئے لیکن ان کے بعد ایسی مصیبتیں چھوڑ گئے جو ایسی کلیوں میں ہیں جو ابھی پھوٹی نہیں۔“

حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جن نے حضرت عمرؓ پر نوحہ کرتے ہوئے

یہ اشعار پڑھے

علیک سلام من امیر و بارکت

بد اللہ فی ذاک الادیم المخرق

”اے امیر المؤمنین! آپ پر سلامتی ہو اور اللہ اپنی قدرت سے اس کھال میں برکت عطا فرمائے جس کو پھاڑ دیا گیا۔“

قضیت امورا ثم غادرت بعدها  
فمن یمش او یرکب جناحی نعامة  
بوانق فی اکمامها لم تفتق  
لیدرک ما قدمت بالامس بسبق  
ان دونوں شعروں کا ترجمہ گزر چکا ہے۔

ابعد قیل بالمدينة اظلمت

له الارض نهتز العضاء باسوق

”وہ شخصیت جن کے قتل ہونے کی وجہ سے ساری زمین تاریک ہو گئی ہے کیا ان کے قتل ہونے کے بعد نیکر کے درخت اپنے تنوں پر لہلہا رہے ہیں؟“ یعنی نہیں بلکہ یہ درخت بھی ان کی شہادت پر افسردہ ہیں اور انہوں نے لہلہانا چھوڑ دیا ہے۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں حضرت عمر بن خطابؓ کے انتقال کے تین دن بعد جنات نے یہ اشعار پڑھ کر ان کی شہادت پر نوحہ کیا اور پھر یہی پچھلے چار شعر دوسری ترتیب سے ذکر کئے اور پھر پانچواں شعر یہ ذکر کیا

فلقاک ربی فی الجنان نحبہ  
ومن کسوة الفردوس عالم یمزق  
”میرا رب آپ کو جنتوں میں سلام پہنچائے اور آپ کو جنت الفردوس کے ایسے کپڑے پہنائے جو  
کبھی نہیں پھٹیں گے۔“

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں میں نے جنات کو حضرت حسین بن علیؓ پر نوادہ کرتے ہوئے سنا

ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا جب سے حضور ﷺ کا انتقال ہوا ہے میں نے کبھی بھی  
جن کو کسی کے مرنے پر نوادہ کرتے ہوئے نہیں سنا لیکن آج رات میں نے سنا ہے اور میرا خیال یہ  
ہے کہ میرا بیٹا (حضرت حسینؓ) فوت ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی باندی سے کہا باہر جا اور پتہ  
کر کے آچنانچہ باندی نے آ کر بتایا کہ واقعی حضرت حسینؓ شہید ہو گئے ہیں پھر حضرت ام سلمہؓ نے  
بتایا کہ ایک جھنڈی پہ شعر پڑھ کر نوادہ کر رہی تھی۔

ومن یبکی علی الشهداء بعدی

الایا عین فاحتفلی بجهدی

الی متعبر فی ملک عبد

علی رمط نفودهم المنايا

”اے آنکھ! غور سے سن اور جو رونے کی کوشش اور محنت کر رہی ہوں اس کا اہتمام کر میں اگر نہیں  
روؤں گی تو میرے بعد شہداء پر کون روئے گا؟ شہداء کی وہ جماعت جن کو موت کھینچ کر ایسے ظالم اور  
جاہر انسان کے پاس لے گئی (یعنی عبید اللہ بن زیاد) جو کہ ایک غلام یعنی یزید کی بادشاہت میں  
فوج کا سپہ سالار ہے۔“

حضرت میمونہؓ فرماتی ہیں میں نے جنات کو حضرت حسین بن علیؓ پر نوادہ کرتے ہوئے سنا۔

## صحابہ کرامؓ کا حضور ﷺ کو خواب میں دیکھنا

(حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا میں نے خواب  
میں دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ ہوں جہاں بہت سے راستے ہیں پھر سارے راستے ختم ہو گئے اور  
صرف ایک راستہ رہ گیا میں نے اس پر چلنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے ایک پہاڑ پر پہنچ گیا جس کے  
اوپر حضور ﷺ تشریف فرما تھے اور ان کے پاس حضرت ابو بکرؓ بیٹھے ہوئے تھے اور حضورؐ حضرت عمرؓ کو  
اشارہ فرما رہے تھے کہ یہاں آ جاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر میں نے کہا انا لله وانا الیه راجعون اللہ کی قسم!  
امیر المؤمنین (حضرت عمرؓ) کے انتقال کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت انسؓ کہتے ہیں میں نے کہا آپ

۱۔ أخرجه ابو نعیم فی الدلائل (ص ۲۱۰) ۲۔ أخرجه الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۹) رجالہ  
رجال الصحیح ۳۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۹) ولیہ عمرو بن ثابت بن ہرمز وهو  
ضعیف. انتهى ۴۔ عند الطبرانی ایضا قال الہیثمی (ج ۹ ص ۱۹۹) رجالہ رجال الصحیح. انتهى.



یہ خواب حضرت عمرؓ کو نہیں لکھ دیتے؟ انہوں نے فرمایا میں خود ان کو ان کی موت کی خبر کیوں دوں؟  
حضرت کثیر بن صلت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس دن حضرت عثمان بن عفانؓ شہید ہوئے  
اس دن وہ سوئے اور اٹھنے کے بعد فرمایا اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عثمانؓ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو میں  
آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں ہم نے کہا آپ ہمیں بتادیں ہم وہ بات نہیں کہیں گے جس  
کا دوسرے لوگوں سے خطرہ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں حضور ﷺ کو دیکھا  
آپ نے مجھ سے فرمایا تم اس جمعہ میں ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے ابن سعد کی روایت میں یہ بھی ہے  
کہ یہی جمعہ کا دن تھا۔ ۲

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں صبح کے وقت حضرت عثمانؓ نے فرمایا آج رات میں نے نبی  
کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے حضورؐ نے فرمایا اے عثمان! ہمارے پاس افطاری کرنا، چنانچہ اس  
دن حضرت عثمانؓ نے روزہ رکھا اور اسی دن ان کو شہید کر دیا گیا۔ ۳

حضرت عثمان بن عفانؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت مسلم ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں  
حضرت عثمانؓ نے بیس ۲۰ غلام آزاد کیے اور شلوار منگوا کر اسے پہنا اور اسے اچھی طرح باندھ لیا،  
حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے نہ جاہلیت میں شلوار پہنتی تھی اور نہ اسلام میں اور فرمایا گزشتہ رات  
میں نے حضور ﷺ کو اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کو خواب میں دیکھا۔ ان حضرات نے مجھ سے  
فرمایا صبر کرو کیونکہ تم کل رات ہمارے پاس آ کر افطار کرو گے پھر قرآن شریف منگوا لیا اور کھول کر  
اپنے سامنے رکھ لیا، چنانچہ جب وہ شہید ہوئے تو قرآن اسی طرح ان کے سامنے تھا۔ ۴

حضرت حسن یا حضرت حسینؓ فرماتے ہیں حضرت علیؓ نے فرمایا خواب میں مجھے میرے  
محبوب نبی یعنی نبی کریم ﷺ ملے۔ میں نے حضورؐ سے ان کے بعد عراق والوں کی طرف سے پیش  
آنے والی تکلیفوں کی شکایت کی تو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ عنقریب تمہیں ان سے راحت  
مل جائے گی، چنانچہ اس کے بعد حضرت علیؓ صرف تین دن ہی زندہ رہے۔ ۵

حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے خواب میں نبی کریم

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۲۳۲) اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۹۹) قال الحاکم هذا حديث صحيح  
الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح و اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۷۵) عن كثير بن الصلت نحوه و  
هكذا اخرجہ ابو يعلى قال الهيثمي (ج ۷ ص ۲۳۲) وفيه ابو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف ولم اعرفه  
وبقية رجاله ثقات. انتهى ۳۔ عند الحاکم (ج ۳ ص ۱۰۳) قال الحاکم هذا حديث صحيح الاسناد ولم  
يخرجاه وقال الذهبي صحيح و اخرجہ ابو يعلى والبخاري نحوه كما في المجمع (ج ۷ ص ۲۳۲)

واخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۷۴) عن نافع نحوه ۴۔ عند عبد الله و ابى يعلى قال الهيثمي

(ج ۷ ص ۲۳۲) و رجاله ثقات وللحديث طرق اخرى ذكرها في المجمع والبدایة وغيرهما

۵۔ اخرجہ العيني

ﷺ کو دیکھا تو میں نے آپ سے آپ کی امت کی شکایت کی کہ وہ مجھے جھٹلاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں پھر میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا امت روؤ اور ادھر دیکھو میں نے ادھر دیکھا تو مجھے دو آدمی نظر آئے جو بیڑیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ (بظاہر یہ حضرت علیؓ کا قاتل ابن نجم اور اس کا ساتھی ہوگا) اور بڑے بڑے پتھر ان دونوں کے سر پر مارے جا رہے تھے جس سے ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے پھر سر ٹھیک ہو جاتے۔ (یوں ہی ان دونوں کو مسلسل عذاب دیا جا رہا تھا) حضرت ابو صالح کہتے ہیں میں اگلے دن اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق صبح کے وقت گھر سے حضرت علیؓ کی طرف چلا جب میں قصائیوں کے محلے میں پہنچا تو مجھے کچھ لوگ ملے جنہوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا ہے۔

حضرت قلفہ جعفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن بن علیؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم ﷺ عرش سے چمٹے ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکرؓ حضور کی کمر کو پکڑے ہوئے اور حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عثمانؓ حضرت عمرؓ کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین پر خون گر رہا ہے۔ جب حضرت حسنؓ نے یہ خواب سنایا تو وہاں کچھ شیعہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کیا آپ نے حضرت علیؓ کو خواب میں نہیں دیکھا؟ حضرت حسنؓ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ تو یہی پسند ہے کہ میں حضرت علیؓ کو حضور کی کمر پکڑے ہوئے دیکھتا لیکن کیا کروں میں نے خواب میں دیکھا ہی وہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے آگے اور بھی حدیث ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! میں نے آج رات عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں اتنے میں حضور ﷺ تشریف لائے اور آ کر عرش کے ایک پائے کے پاس کھڑے ہو گئے پھر حضرت ابو بکرؓ آئے اور آ کر حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے پھر حضرت عمرؓ آئے اور حضرت ابو بکرؓ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے پھر حضرت عثمانؓ آئے اور انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے عرض کیا اے میرے رب! اپنے بندوں سے پوچھیں انہوں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا؟ اس کے بعد آسمان سے زمین کی طرف خون کے دو پر نالے بہنے لگے۔ جب حضرت حسنؓ خواب بیان کر چکے تو کسی نے حضرت علیؓ سے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت حسنؓ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضرت علیؓ نے فرمایا جو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے وہی بیان کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسنؓ نے فرمایا اس خواب کو دیکھنے کے بعد اب میں کسی جنگ میں شرکت نہیں کروں گا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت

۱۔ عند ابی یعلیٰ کلمافی المنتخب (ج ۵ ص ۶۱) ۲۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۹۶)  
رواہ الطبرانی فی الاوسط و الکبیر باختصار و اسنادہ حسن.

حسن نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے ان حضرات کے پیچھے بہت سا خون دیکھا میں نے پوچھا یہ خون کیا ہے؟ کسی نے جواب میں کہا یہ حضرت عثمانؓ کا خون ہے جس کا وہ اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں نے دوپہر کے وقت حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے میں نے پوچھا یہ شیشی کیسی؟ آپ نے فرمایا اس میں حسینؑ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے جمع کر رہا ہوں پھر ہم نے دیکھا تو واقعی حضرت حسینؑ اسی دن شہید ہوئے تھے۔ ابن عبد البر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔

### صحابہ کرام کا ایک دوسرے کو خواب میں دیکھنا

حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ فرماتے ہیں میں حضرت عمر بن خطابؓ کا پڑوسی تھا۔ میں نے ان سے بہتر کبھی کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ رات بھر نماز پڑھتے اور دن بھر روزہ رکھتے اور لوگوں کے کاموں میں لگے رہتے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے خواب میں حضرت عمرؓ کی زیارت کرا دے، چنانچہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ کندھے پر چادر ڈالے ہوئے مدینہ کے بازار سے آرہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا خیریت ہے پھر میں نے پوچھا آپ نے کیا پایا؟ فرمایا اب حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میں رحم کرنے والے رب کو نہ پاتا تو میرا وقار گر جاتا۔

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں حضرت عمرؓ میرے بڑے گہرے دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں سال بھر اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں حضرت عمرؓ کی زیارت کرا دے۔ آخر سال گزرنے کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اب میں (حساب سے) فارغ ہوا ہوں اگر میرا رب شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہ کرتا تو میری عزت اور وقار سب گر جاتا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں نے ایک سال سے دعا کی کہ مجھے خواب میں حضرت عمر بن خطابؓ کی زیارت کرا دے، چنانچہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا آپ

۱۔ عند ابی یعلیٰ قال الہیثمی (ج ۹ ص ۹۶) رواہ کلہ ابو یعلیٰ باسنادین فی احدہما من لم اعرفہ ولی الآخر سفیان بن وکیع وهو ضعیف۔ النہی ۲۔ اخرجه المصطیب فی تاریخہ (ج ۱ ص ۱۴۲)

واخرجه ابن عبد البر فی الاستیعاب (ج ۱ ص ۳۸۱) عن ابن عباس نحوہ

۳۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۵۴) ۴۔ اخرجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۷۵)

کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا بڑے شفیق اور نہایت مہربان رب سے واسطہ پڑا۔ اگر میرے رب کی رحمت نہ ہوتی تو میری عزت خاک میں مل جاتی۔

حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا بہت شوق تھا کہ مجھے کسی طرح یہ پہنچل جائے کہ مرنے کے بعد حضرت عمرؓ کے ساتھ کیا ہوا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور میں نے خواب میں ایک محل دیکھا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمر بن خطابؓ کا ہے۔ اتنے میں حضرت عمرؓ محل سے باہر تشریف لائے۔ انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ فرمایا اچھا معاملہ ہوا اگر میرا رب بخشنے والا نہ ہوتا تو میری عزت خاک میں مل جاتی پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا آپ لوگوں سے جدا ہوئے مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ میں نے کہا بارہ سال۔ فرمایا اب میں حساب سے چھوٹا ہوں۔

حضرت سالم بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک انصاری صحابی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے خواب میں حضرت عمرؓ کی زیارت کرا دے میں نے دس سال کے بعد انہیں خواب میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ کا کیا بنا؟ فرمایا اب میں حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں حج سے واپسی پر میں (مکہ اور مدینہ کے درمیان) سقیا مقام پر سو رہا تھا۔ میں نے خواب میں حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور (میری بیوی) حضرت ام کلثوم بنت عقبہؓ میرے پہلو میں سو رہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے آکر اسے پاؤں سے ہلا کر جگایا پھر وہ پیٹھ پھیر کر چل دیئے۔ لوگ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ میں نے اپنے کپڑے منگوا کر پہنے اور میں بھی لوگوں کے ساتھ انہیں ڈھونڈنے لگا اور سب سے پہلے میں ان تک پہنچا لیکن اللہ کی قسم! انہیں ڈھونڈنے میں میں بے حد تھک گیا میں نے کہا اللہ کی قسم! اے امیر المؤمنین! آپ نے تو لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا۔ جب تک تھک نہ جائے اس وقت تک وہ آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم! جب میں اچھی طرح تھک گیا تب آپ مجھے ملے۔ انہوں نے فرمایا میرے خیال میں میں تو کوئی خاص خیم نہیں چلا (یہاں تک تو خواب ہے اس کے بعد حضرت عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں) اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عبدالرحمنؓ کی جان ہے! یہ حضرت عمرؓ کا سب سے آگے نکل جانا ان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔

۲۔ اخروجه ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۵۴)

۱۔ اخروجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۷۵)

۴۔ اخروجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۷۶)

۳۔ اخروجه ابن سعد (ج ۳ ص ۳۷۶)

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں حضرت سلمانؓ نے مجھ سے کہا اے میرے بھائی! ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے وہ اس بات کی کوشش کرے کہ جو ساکھی دنیا میں رہ گیا ہے وہ جانے والا اسے خواب میں نظر آئے۔ میں نے کہا کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سلمانؓ نے کہا ہاں کیونکہ مومن کی روح آزاد رہتی ہے زمین پر جہاں چاہے چلی جاتی ہے۔ اور کافر کی روح قید میں ہوتی ہے، چنانچہ حضرت سلمانؓ کا پہلے انتقال ہو گیا۔ ایک دن دوپہر کو میں اپنی چار پائی پر سونے کے لیے لیٹا۔ ابھی مجھے ہلکی سی نیند آئی تھی کہ ایک دم خواب میں حضرت سلمانؓ آ گئے۔ انہوں نے کہا السلام علیک ورحمة اللہ میں نے کہا اے ابو عبداللہ! السلام علیک ورحمة اللہ آپ کو کیسا ٹھکانہ ملا؟ فرمایا بہت عمدہ۔ اور توکل کو لازم پکڑے رہنا کیونکہ توکل بہت عمدہ چیز ہے۔ توکل کو لازم پکڑے رہنا کیونکہ توکل بہت عمدہ چیز ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر حضرت سلمانؓ کا پہلے انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے انہیں خواب میں دیکھا ان سے پوچھا اے ابو عبداللہ! آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت سلمانؓ نے کہا خیریت ہے۔ حضرت عبداللہؓ نے پوچھا آپ نے کون سے عمل کو سب سے افضل پایا؟ حضرت سلمانؓ نے فرمایا میں نے توکل کو عجیب چیز پایا۔ ۱۔

حضرت عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں میں نے خواب میں کھال کا خیمہ اور سبز چراگاہ دیکھی اور خیمے کے ارد گرد بکریاں بیٹھی ہوئی تھیں جو جگالی کر رہی تھیں اور میٹنی کی جگہ بچوہ کھجوریں نکل رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ کسی نے بتایا حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کا ہے، چنانچہ ہم لوگوں نے کچھ دیر انتظار کیا پھر حضرت عبدالرحمنؓ خیمہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ سب کچھ ہم کو اللہ نے قرآن کی وجہ سے دیا ہے لیکن اگر تم اس گھائی سے پرلی طرف جھانکو تو تمہیں ایسی نعمتیں نظر آئیں گی جنہیں تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں اور تمہارے کان نے کبھی سنا نہیں اور جن کا خیال بھی تمہارے دل میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ نعمتیں اللہ نے حضرت ابوالدرداءؓ کے لیے تیار کی ہیں کیونکہ وہ دونوں ہاتھوں اور سینے سے دنیا کو دھکے دیا کرتے تھے (بڑے زاہد تھے)۔ ۲۔

امام واقدی کے اساتذہ حضرات فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرامؓ نے فرمایا میں نے جنگ احد سے پہلے خواب میں حضرت مبشر بن عبدالمزیدؓ کو دیکھا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں تم چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہو۔ میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ فرمایا ہم جنت میں ہیں اور جہاں چاہتے ہیں جا کر چر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ جنگ بدر کے دن قتل نہیں ہوئے

۱۔ اخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۹۳) واخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۰۵) عن المغيرة بن عبد الرحمن مختصراً ۲۔ واخرجہ ابن سعد (ج ۳ ص ۹۳) عن المغيرة نحوه ۳۔ اخرجہ ابو نعیم فی الحلیة (ج ۱ ص ۲۱۰)

تھے؟ فرمایا ہاں قتل تو ہوا تھا لیکن پھر زندہ ہو گیا۔ میں نے جا کر یہ خواب حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا تو فرمایا اے ابو جابر! اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں (جنگ احد میں) شہادت کا درجہ ملے گا۔

کن اسباب کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غیبی مدد ہوا کرتی تھی اور وہ کس طرح ان اسباب کے ساتھ چمٹے رہتے تھے اور ان حضرات نے کس طرح اپنی نگاہ مادی اسباب اور فانی سامان سے ہٹا رکھی تھی

### ناگواریوں اور سختیوں کو برداشت کرنا

حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں اسلام ناگواریوں اور سختیوں کو لے کر اتر آیا یعنی ناگواریاں اور سختیاں برداشت کرنے سے اسلام کو ترقی ملتی ہے ہم نے سب سے زیادہ بھلائی ناگواری میں پائی، چنانچہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ مکہ سے (ہجرت کر کے بڑی ناگواری کے ساتھ) نکلے لیکن اللہ نے اسی ہجرت کی وجہ سے ہمیں بلندی اور کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح ہم حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ بدر میں گئے تھے اس وقت ہمارا حال وہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ **وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ۝ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَانَمَا يُسَافِرُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونَنَّ لَكُمْ (سورت انفال آیت ۵-۷)** ترجمہ ”اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی (اور) وہ اس مصلحت (کے کام) میں، بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا (اپنے بچاؤ کے لیے) آپ سے (بطور مشورہ) اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت (یعنی قافلہ) تمہارے ہاتھ آ جاوے۔“ اور مسلح جماعت قریش کی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں بھی ہمارے لئے بلندی اور کامیابی رکھ دی (حالانکہ یہ غزوہ ہماری مرضی کے بالکل خلاف ہوا تھا) خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بھلائی کی بھلائی ناگواری میں پائی۔ ۲

حضرت محمد اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جب

۱۔ الخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۰۱)

۲۔ الخرجہ البزار قال انہیسمی (ج ۷ ص ۲۷) ولیہ عبدالعزیز بن عمران وهو ضعیف

حضرت خالدؓ یمامہ سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے انہیں یمامہ یہ خط لکھا حضور ﷺ کے خلیفہ اور اللہ کے بندے ابو بکرؓ کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کے نام اور ان مہاجرین انصار اور اخلاص کے ساتھ ان کا اتباع کرنے والوں کے نام جو حضرت خالد کے ساتھ ہیں، سلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد! تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دوست کو عزت دی اور اپنے دشمن کو ذلیل کیا اور تمام گروہوں پر اکیلا ہی غالب آ گیا وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے یہ فرمایا ہے وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ (سورت نور آیت ۵۵) ترجمہ ”(اے جموعہ امت) تم میں جو لوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو (اس اتباع کی برکت سے) زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس دین کو (اللہ تعالیٰ نے) ان کے لئے پسند فرمایا ہے (یعنی اسلام) اس کو ان کے (نفع آخرت کے) لئے قوت دے گا۔“ حضرت ابو بکرؓ نے یہ پوری آیت لکھی اس کے بعد لکھا یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا اور اللہ کا فرمان ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے اور قرآن میں فرمایا ہے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ (سورت بقرہ آیت ۲۱۶) ترجمہ ”جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو (طبعاً) گراں (معلوم ہوتا) ہے۔“ آیات لکھنے کے بعد لکھا اللہ نے تم سے جو وعدے کئے ہیں وہ سارے اللہ سے پورے کراؤ (جس کی صورت یہ ہے کہ اللہ نے ان وعدوں کے لئے جو شرطیں لگائی ہیں تم وہ شرطیں پوری کرو) اور اللہ نے جو کام تم پر فرض کئے ہیں ان میں اللہ کی اطاعت کرو چاہے اس میں کتنی مشقت اٹھانی پڑے اور کتنی زیادہ مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں اور کتنے دور دور کے سفر کرنے پڑیں اور کتنے مالی اور جانی نقصانات اٹھانے پڑیں کیونکہ اللہ کے اجر عظیم کے مقابلے میں یہ سب کچھ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تم پر رحم کرے تم ملکہ ہو یا ہماری ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو اور مال و جان لے کر خوب جہاد کرو پھر اس کے متعلق آیات لکھیں پھر لکھا غور سے سنو! میں نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو عراق جانے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں جا کر میرے دوسرے حکم کا انتظار کرے، لہذا آپ لوگ سب ان کے ساتھ جاؤ اور ان کا ساتھ چھوڑ کر زمین سے مت چٹو کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں جس کی نیت اچھی ہو اور جسے خیر کے کاموں کا بہت زیادہ شوق ہو۔ جب آپ لوگ عراق پہنچ جاؤ تو میرے حکم کے آنے تک وہیں رہو اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری دنیا اور آخرت کے تمام ضروری کاموں کی کفایت فرمائے والسلام علیکم ورحمة اللہ

وسر کاتھ لے اور سختیاں تکلیفیں برداشت کرنے کے باب میں، ہجرت کے باب میں، نصرت کے باب میں اور جہاد کے باب وغیرہ میں صحابہ کے سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے قصے تفصیل سے گزر چکے ہیں۔

## ظاہر کے خلاف اللہ کے حکم کو پورا کرنا

حضرت عقبہ بن عبد سلیمی فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور (ان کافروں سے) جنگ کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ضرور۔ ہم بالکل تیار ہیں اور ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ دونوں جنگ کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ اے محمد! آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم بھی آپ کے ساتھ رہ کر جنگ کریں گے۔ جہاد کے باب میں حضرت مقداد کا اسی جیسا قول گزر چکا ہے جسے ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور حضرت سعد بن عبادہ کا یہ قول بھی جلد اول صفحہ نمبر ۴۴ پر گزر چکا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندروں میں ڈالنے کا حکم دیں تو ہم ڈال دیں گے اور اگر آپ ہمیں اس بات کا حکم دیں کہ ہم ہرک الغماد تک اپنی سواریوں پر سفر کریں تو ہم ایسا ضرور کریں گے اور اسی طرح حضرت انس کی روایت سے مسند احمد میں اور حضرت علقمہ بن وقاص لہثی کی روایت سے ابن مردودہ کی کتاب میں حضرت سعد بن معاذ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ شرف بخشا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی نہ تو میں کبھی اس راستہ پر چلا ہوں اور نہ مجھے اس کا کچھ علم ہے لیکن آپ اگر یمن کے برک الغماد تک جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہاں تک ضرور جائیں گے اور ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَالَا اِنَّا مُتَّبِعُونَ فَاعْلُوْنَ ترجمہ ”آپ جائیں اور آپ کا رب بھی جائے آپ دونوں لڑائی کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَالَا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَّبِعُونَ ترجمہ ”آپ بھی جائیں اور آپ کا رب بھی جائے آپ دونوں لڑائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔“ ہو سکتا ہے کہ آپ تو کسی اور کام کے ارادے سے چلے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کچھ اور کام کروانا چاہتے ہوں یعنی آپ تو قافلہ ابوسفیان کے مقابلے کے ارادے سے چلے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کے اس لشکر سے لڑا جائے تو جو اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں آپ اسے دیکھیں اور اسے

۱۔ اخرجه البيهقي لمي سنه (ج ۹ ص ۱۷۹)

۲۔ اخرجه احمد قال البيهقي (ج ۶ ص ۷۵) رجاله ثقات



کریں اس لئے اب (ہماری طرف سے آپ کو ہر طرح کا پورا اختیار ہے) آپ جس سے چاہیں تعلقات بنائیں اور جس سے چاہیں تعلقات ختم کر دیں اور جس سے چاہیں دشمنی رکھیں اور جس سے چاہیں صلح کر لیں اور ہمارا مال جتنا چاہیں لے لیں، چنانچہ حضرت سعدؓ کے اس جواب پر یہ قرآن نازل ہوا کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (سورت انفال آیت ۵) ترجمہ ”جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر (اور بستی) سے مصلحت کے ساتھ آپ کو (بدر کی طرف) روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔“ اموی نے اپنی مغازی میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس میں یہ مضمون مزید ہے کہ آپ ہمارا جتنا مال چاہیں لے لیں اور جتنا مال چاہیں ہمیں دے دیں اور جو مال آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے اور آپ جو حکم دیں گے ہمارا معاملہ اس حکم کے تابع ہوگا۔

## اللہ پر توکل کرنا اور باطل والوں کو جھوٹا سمجھنا

حضرت عبداللہ بن عوف بن احمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت علی بن ابی طالبؓ انبار شہر سے نہروان والوں کی طرف جانے لگے تو مسافر بن عوف بن احمر نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین! آپ اس گھڑی میں نہ چلیں بلکہ جب دن چڑھے کو تین گھڑیاں گزر جائیں پھر یہاں سے چلیں۔ حضرت علیؓ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اگر آپ اس گھڑی میں چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں آئیں گی اور سخت نقصان ہوگا اور اگر آپ اس گھڑی میں سفر شروع کریں جو میں نے بتائی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے اور دشمن پر غلبہ پائیں گے اور آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا نہ تو حضرت محمدؐ کا کوئی نجومی تھا اور نہ ان کے بعد ہمارے ہاں اب تک کوئی تھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری اس گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں حساب لگاؤں تو پتہ چلا سکتا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا جو تمہاری اس بات کو سچا مانے گا وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ (سورت لقمان آیت ۳۳) ”بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔“ جس چیز کے جاننے کا تم نے دعویٰ کیا ہے اس کے جاننے کا تو حضرت محمدؐ نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا اور کیا تم یہ بھی کہتے ہو کہ تم اس گھڑی کو بھی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والے کو نقصان ہوگا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا جو تمہاری اس بات کو سچا مان لے گا اسے تو ناگوار یوں اور پریشانیوں کے دور کرنے میں اللہ کی ضرورت نہیں رہے گی اور جو تمہاری اس بات کو مان لے گا وہ تو اپنے رب

اللہ کو چھوڑ کر اپنا ہر کام تمہارے سپرد کر دے گا کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم وہ گھڑی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والا ہر شر اور تکلیف سے محفوظ رہے گا لہذا اس بات پر جو ایمان لے آئے گا مجھے تو اس کے بارے میں یہی خطرہ ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا مقابل اور ہمسر بنا لے۔ اے اللہ! اچھا اور برا شگون وہی ہے جو تو نے مقدر فرمایا ہے اور خیر وہی ہے جو تو عطا فرمائے اور تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں (اے مسافر! ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، لہذا ہم تیری مخالفت کریں گے اور ہم اسی گھڑی میں سفر شروع کریں گے جس میں سفر کرنے سے تو منع کر رہا ہے۔ پھر حضرت علیؑ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لوگو! ان ستاروں کا علم سیکھنے سے بچو، البتہ ستاروں کا صرف اتنا علم سیکھو جس سے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ معلوم ہو سکے۔ نجومی تو کافر کی طرح ہے اور کافر جہنم میں جائے گا۔ (پھر مسافر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا) اللہ کی قسم! اگر مجھے یہ خبر ملی کہ تو ستاروں کو دیکھ کر ان کے مطابق عمل کرتا ہے تو جب تک تو زندہ رہا اور میں زندہ رہا اس وقت تک میں تجھے قید میں رکھوں گا اور جب تک میری خلافت رہے گی تجھے وظیفہ نہیں دوں گا پھر حضرت علیؑ نے اسی گھڑی میں سفر شروع کیا جس سے مسافر نے منع کیا تھا اور جا کر نہروان والوں پر غلبہ پا کر انہیں قتل کیا پھر فرمایا اگر ہم اس گھڑی میں سفر شروع کرتے جس کا مسافر کہہ رہا تھا اور پھر ہم کامیاب ہوتے اور دشمن پر غالب آتے تو لوگ یہی کہتے کہ نجومی نے جس گھڑی میں سفر شروع کرنے کو کہا تھا اس گھڑی میں حضرت علیؑ نے سفر شروع کیا تھا اس وجہ سے دشمن پر غالب آ گئے۔ حضرت محمد ﷺ کے ہاں کوئی نجومی نہیں تھا اور ان کے بعد ہمارے ہاں بھی کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کسریٰ اور قیصر کے ملکوں پر اور دوسرے ملکوں پر ہمیں فتح فرمائی۔ اے لوگو! اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اعتماد کرو کیونکہ اللہ جس کے کام بنائے گا اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی۔!

اللہ نے جن اعمال سے عزت دی ہے ان اعمال سے عزت تلاش کرنا

حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہمارے ساتھ ملک شام میں تھے حضرت عمر بن خطابؓ وہاں تشریف لائے تھے حضرت عمرؓ کے ساتھ اور صحابہ بھی چل رہے تھے۔ چلتے چلتے راستہ میں پانی کا ایک گھاٹ آ گیا۔ حضرت عمرؓ اپنی اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی سے نیچے اترے اور موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لئے اور اپنی اونٹنی کی نیکیل پکڑ کر اس گھاٹ میں سے گزرنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ موزے اتار کر کندھے پر رکھ لئے ہیں اور اونٹنی کی نیکیل پکڑ کر اس گھاٹ میں سے

گزر نے لگے ہیں؟ مجھے اس بات سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ اس شہر والے آپ کو (اس حال میں) دیکھیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اوہو، اے ابو عبیدہ! اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے ایسی سخت سزا دیتا جس سے حضرت محمد ﷺ کی ساری امت کو عبرت ہوتی۔ ہم تو سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی عزت عطا فرمائی اب جس اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے ہم جب بھی اس کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔

حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ شام پہنچے تو (شام کے) لشکر حضرت عمرؓ کو ملنے کے لئے آئے اس وقت حضرت عمرؓ نے چادر باندھی ہوئی تھی اور موزے پہنے ہوئے تھے اور پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اپنے اونٹ کی ٹیکل پکڑ کر پانی میں سے گزر رہے تھے تو حضرت عمرؓ سے ایک آدمی نے کہا اے امیر المومنین! (شام کے) لشکر اور شام کے جرنیل آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، لہذا ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش نہیں کر سکتے۔

حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں عرض کیا اے امیر المومنین! آپ نے تو ایسا کام کر دیا ہے جو اس علاقہ والوں کے نزدیک بہت بڑا (یعنی بڑے عیب والا) کام ہے۔ آپ نے اپنے موزے اتار دیئے ہیں اور اپنی سواری (سے نیچے اتر کر) اس کی ٹیکل پکڑ رکھی ہے اور بے تکلف گھاٹ میں گھس گئے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو عبیدہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اوہو۔ اے ابو عبیدہ! کاش یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں سب سے کم تھی اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں عزت عطا فرمائی تو اب جب بھی تم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل کر دیں گے۔

حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ شام تشریف لائے تو وہ اونٹ پر سوار تھے۔ تمام لوگ ان کے استقبال کے لئے باہر آئے لوگوں نے کہا یہاں کے بڑے اور ممتاز لوگ آپ سے ملنے آئیں گے، اس لئے اچھا یہ ہے کہ آپ ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائیں حضرت عمرؓ نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم لوگ عزت یہاں سے یعنی زمین

۱۔ أخرجه الحاكم (ج ۱ ص ۶۱) قال الحاكم هنا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه و

وافقه الذهبي فقال على شرطهما ۲۔ عند الحاكم ايضا (ج ۱ ص ۶۲)

۳۔ عند الحاكم ايضا (ج ۳ ص ۸۲) وخرجه ابو يميم في الحلية (ج ۱ ص ۴۷) عن طارق نحوه و ابن

المبارك و هنادو البهقي في شعب الايمان عنه نحوه كما في منتخب الكنز (ج ۳ ص ۴۰۰)

کے سامان سے سمجھتے ہو، حالانکہ عزت تو وہاں سے (یعنی اللہ کے دینے سے) ملتی ہے میرے اونٹ کا راستہ چھوڑ دو۔

حضرت ابوالغالیہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابؓ بیت المقدس کے راستہ میں جابیہ شہر میں پہنچے تو وہ ایک خاکی اونٹ پر سوار تھے اور ان کے سر کا وہ حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا جہاں سے بال اتر گئے تھے۔ ان کے سر پر نہ ٹوپی تھی اور نہ پگڑی۔ اور رکاب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دونوں پاؤں کجاوے کے دونوں طرف مل رہے تھے انجان شہر کی اونٹنی چادر اونٹ پر ڈالی ہوئی تھی جب اونٹ پر سوار ہوتے تو اسے اونٹ پر ڈال لیتے اور جب نیچے اترتے تو اسے بچھونا بنا لیتے اور ان کا تھیلہ ایک دھاری دار چادر تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی جب سوار ہوتے تو اسے تھیلہ بنا لیتے اور جب سواری سے اترتے تو اسے تکیہ بنا لیتے اور انہوں نے دھاری دار کھدر کا کرتہ پہنا ہوا تھا جس کا ایک پہلو پھٹا ہوا تھا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے پاس قوم کے سردار کو بلا کر لاؤ۔ لوگ وہاں کے پادریوں کے سردار کو بلا کر لائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا میرے اس کرتے کو سی کر دھو دو اور اتنی دیر کے لئے کوئی کپڑا یا کرتہ عاریتہ دے دو وہ پادری کتان کپڑے کا کرتہ لے آیا حضرت عمرؓ نے پوچھا یہ کونسا کپڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ کتان ہے۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کتان کپڑا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے اس کپڑے کی تفصیل بتائی۔ حضرت عمرؓ نے اپنا کرتہ اتار کر اسے دیا اس نے اس میں پیوند لگایا اور دھو کر لے آیا حضرت عمرؓ نے ان کا جو کرتہ پہن رکھا تھا وہ اتار کر انہیں دے دیا اور اپنا کرتہ پہن لیا۔ اس پادری نے حضرت عمرؓ سے کہا آپ عربوں کے بادشاہ ہیں ہمارے اس علاقے میں اونٹ کی سواری ٹھیک نہیں (اور نہ آپ کا یہ کرتہ ٹھیک ہے) اس لئے اگر آپ کسی اور اچھے کپڑے کا کرتہ پہن لیں اور ترکی گھوڑے کی سواری کریں اس سے رویوں کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم لوگوں کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، لہذا اللہ کے (دین کے) علاوہ کسی اور کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد ان کی خدمت میں ایک ترکی گھوڑا لایا گیا اس پر کاشمی اور کجاوے کے بغیر ہی ایک موٹی چادر ڈال دی گئی وہ اس پر سوار ہوئے (وہ گھوڑا کڑ کر چلنے لگا تو) حضرت عمرؓ نے فرمایا اسے روکو، اسے روکو (کیونکہ یہ شیطان کی طرح چل رہا ہے) اس سے پہلے میں نے لوگوں کو شیطان پر سوار ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا پھر ان کا اونٹ لایا گیا اور وہ گھوڑے سے اتر کر اسی پر سوار ہو گئے۔

۱۔ عند ابی نعیم ایضاً فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۳۷)

۲۔ انخرجه ابن ابی الدنیا کللی الہدیۃ (ج ۷ ص ۶۰)

## غلبہ و عزت کی حالت میں بھی ذمیوں کی رعایت کرنا

حضرت ابو نہیک اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں ہم ایک لشکر میں حضرت سلمانؓ کے ساتھ تھے ایک آدمی نے سورت مریم پڑھی تو دوسرے آدمی نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے (حضرت عیسیٰ) علیہما السلام کو برا بھلا کہا (بظاہر یہ آدمی یہودی ہوگا) ہم نے اسے مار مار کر لہولہان کر دیا۔ جس انسان پر ظلم ہوتا تھا وہ جا کر حضرت سلمانؓ سے شکایت کرتا تھا، چنانچہ اس آدمی نے بھی جا کر حضرت سلمانؓ سے شکایت کر دی اس سے پہلے اس نے کبھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ حضرت سلمانؓ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم نے اس آدمی کو کیوں مارا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے سورت مریم پڑھی تھی اس نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے انہیں سورت مریم کیوں سنائی؟ کیا آپ لوگوں نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورت انعام آیت ۱۰۸) ترجمہ ”اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ براہِ جہل حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔“ اے جماعت عرب! کیا آپ لوگوں کا مذہب سب سے زیادہ برا نہیں تھا؟ آپ لوگوں کا علاقہ سب سے برا نہیں تھا؟ کیا آپ لوگوں کی زندگی سب سے زیادہ بری نہیں تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عزت دی اور آپ لوگوں کو سب کچھ دیا کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی دی ہوئی عزت کی وجہ سے لوگوں کی پکڑ کرتے رہو؟ اللہ کی قسم! یا تو آپ لوگ اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ جو کچھ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ اسے تم سے لے کر دوسروں کو دے دیں گے پھر حضرت سلمانؓ ہمیں سکھانے لگے اور فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھا کرو کیونکہ ان نوافل میں بہت سا قرآن پڑھ لینے کی وجہ سے تمہارے روز کے قرآن پڑھنے کی مقررہ مقدار میں کمی ہو جائے گی اور اس طرح رات کا شروع کا حصہ بے کار ہونے سے بچ جائے گا کیونکہ جس کا رات کا شروع کا حصہ بے کار گزر جائے گا تو اس کا رات کا آخری حصہ یعنی تہجد کا وقت بھی بیکار گزرے گا۔

## جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم چھوڑ دیں ان کی بری حالت سے عبرت حاصل کرنا

حضرت جبیر بن نفیرؓ فرماتے ہیں جب قبرص جزیرہ فتح ہوا تو وہاں کے رہنے والے سارے غلام بنائے گئے اور انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا وہ ایک دوسرے کی جدائی پر رورہے تھے میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالدرداءؓ اکیلے بیٹھے ہوئے رورہے ہیں میں نے پوچھا اے ابوالدرداء! آج

تو اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے تو آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا اے جبر! تیرا بھلا ہوا اس مخلوق نے جب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے ہاں کتنی بے قیمت ہوگی۔ پہلے تو یہ زبردست اور غالب قوم تھی اور انہیں بادشاہت حاصل تھی لیکن انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا تو اب ان کا وہ برا حال ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ ابن جریر کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اب تو ان کا وہ برا حال ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو کہ ان پر اللہ نے غلامی مسلط کر دی اور جب کسی قوم پر اللہ غلامی مسلط کر دیں تو سمجھ لو کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں (کیونکہ ان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رہی) ۲

## نیت کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرنا اور آخرت کو مقصود بنانا

حضرت ابن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطابؓ حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس سے گزرے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا وہ اعمال کونسے ہیں جن سے اس امت کے سارے ذمہ ٹھیک رہتے ہیں؟ حضرت معاذؓ نے کہا تین اعمال ہیں اور تینوں نجات دلانے والے ہیں ایک اخلاص اور اخلاص وہ عمل فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور دوسرا عمل نماز ہے اور وہ مذہب کا اہم شعبہ ہے اور تیسرا عمل (امیر کی) اطاعت ہے اور اطاعت ہی بجاؤ کا سامان ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا آپ نے ٹھیک کہا۔ جب حضرت عمرؓ وہاں سے آگے چلے گئے تو حضرت معاذؓ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا غور سے سنو! (اے عمرؓ!) آپ کا زمانہ بعد والوں کے زمانے سے بہتر ہے کیونکہ آپ کے بعد امت میں اختلاف ہو جائے گا (اور سنو) اب یہ حضرت عمرؓ بھی دنیا میں تھوڑا عرصہ ہی رہیں گے۔ ۳

حضرت ابو عبیدہ العنبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مسلمان مدائن فتح کر کے اس میں داخل ہوئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے تو ایک آدمی اپنے ساتھ ایک ڈبہ لایا اور لا کر مال غنیمت جمع کرنے والے ذمہ دار کو دے دیا۔ اس ذمہ دار کے ساتھیوں نے کہا اس ڈبہ جیسا قیمتی سامان تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں (کیونکہ اس میں بادشاہ نے سب سے زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے) اور ہمارے پاس جتنا مال غنیمت آچکا ہے اس سب کی قیمت اس کے برابر تو کیا اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر ان لوگوں نے لانے والے سے پوچھا کیا آپ نے اس میں سے کچھ لیا ہے؟ اس نے کہا غور سے سنو اللہ کی قسم! اگر اللہ کا ڈرنہ ہوتا تو میں اسے آپ لوگوں کے پاس کبھی نہ لاتا اس جواب سے وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی بڑی شان والا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ

۱۔ اخرجه ابو نعیم فی الحلیۃ (ج ۱ ص ۲۱۶) ۲۔ اخرجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۲ ص ۳۱۸)

۳۔ اخرجه ابن جریر کمالی الكنز (ج ۸ ص ۲۲۶)

عن جبر لحوہ.

کون ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کی قسم! نہیں۔ اپنے بارے میں میں نہ تو آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ آپ لوگ میری تعریف کرنے لگ جائیں گے اور نہ کسی اور کو بتاؤں گا کیونکہ پھر لوگ میری سچی جھوٹی تعریف کرنے لگ جائیں گے بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اس کے ثواب پر راضی ہوں (پھر وہ آدمی چلا گیا) تو ان لوگوں نے ایک آدمی اس کے پیچھے بھیجا۔ وہ آدمی (اس کے پیچھے چلتے چلتے) اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا پھر اس نے اس کے ساتھیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ حضرت عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ نکلے۔<sup>۱</sup>

حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت مہلب وغیرہ حضرات کہتے ہیں (قادسیہ کی جنگ کے موقع پر) حضرت سعد نے فرمایا اللہ کی قسم! یہ لشکر بڑا امانت دار ہے۔ اگر بدر والوں کو پہلے فضیلت نہ ملی ہوتی تو اللہ کی قسم! میں کہتا اس لشکر کی بھی بدر والوں جیسی فضیلت ہے۔ بہت سی قوموں کو میں نے غور سے دیکھا۔ ان میں مالِ غنیمت جمع کرنے کے بارے میں بہت سی کمزوریاں نظر آئیں لیکن میرے خیال میں اس لشکر والوں میں ایسی کوئی کمزوری نہیں اور نہ میں نے ان کی کسی کمزوری کے بارے میں کسی سے کچھ سنا ہے۔<sup>۲</sup>

حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! قادسیہ والوں میں سے کسی کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہتا ہو، البتہ ہمیں (ہزاروں کے لشکر میں) صرف تین آدمیوں کے بارے میں شبہ ہوا (کہ شاید یہ دنیا بھی چاہتے ہوں) لیکن تحقیق کرنے پر وہ بھی امانت دار اور بڑے زاہد نکلے۔ وہ تین حضرات یہ ہیں حضرت طلحہ بن خویلد، حضرت عمرو بن معدیکرب اور حضرت قیس بن کثوح رضی اللہ عنہم۔<sup>۳</sup>

حضرت قیس عجل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ کے پاس کسریٰ کی تلوار، کسریٰ کی پٹی اور زیب و زینت کا سامان لایا گیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا جن لوگوں نے یہ سارا کا سارا مالِ غنیمت یہاں پہنچا دیا ہے وہ واقعی بڑے امانت دار ہیں۔ اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا چونکہ آپ خود پاکدامن ہیں، اس لئے رعایا بھی پاک دامن ہو گئی۔<sup>۴</sup>

## اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید اور اذکار کے ذریعہ مدد چاہنا

حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطابؓ نے دیکھا کہ مصر فتح ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو انہوں نے حضرت عمرو بن عامر کو یہ خط لکھا:

۱۔ اخرجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۸) ۲۔ اخرجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۸)  
 ۳۔ اخرجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۸) ۴۔ اخرجه ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۱۲۸)

”اما بعد! مجھے اس بات پر بہت تعجب ہے کہ مصر کی فتح میں آپ لوگوں کو دیر لگ رہی ہے۔ آپ ان سے کئی سالوں سے لڑ رہے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نئے نئے کام شروع کر دیئے ہیں اور جیسے آپ لوگوں کے دشمن کو دنیا سے محبت ہے ایسے ہی آپ لوگوں کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت آگئی ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد صرف ان کی سچی نیت کی وجہ ہی سے کرتے ہیں اور میں نے آپ کے پاس چار آدمی بھیجے ہیں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق ان میں سے ہر آدمی ہزار آدمیوں کے برابر ہے ہاں دنیا کی محبت جس نے دوسروں کو بدلا ہے وہ ان کو بھی بدل دے تو اور بات ہے۔ جب میرا یہ خط آپ کو ملے تو آپ لوگوں میں بیان کریں اور ان کو دشمن سے لڑنے کے لئے ابھاریں اور ان کو صبر کی اور نیت خالص کرنے کی ترغیب دیں اور ان چاروں کو سب لوگوں سے آگے رکھیں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ سب اکٹھے مل کر ایک دم دشمن پر حملہ کریں اور یہ حملہ جمعہ کے دن زوال کے وقت کریں کیونکہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں رحمت نازل ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اور سب اللہ کے سامنے خوب گڑگڑائیں اور اس سے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگیں۔“

جب یہ خط حضرت عمرو کے پاس پہنچا تو حضرت عمرو نے لوگوں کو جمع کر کے یہ خط سنایا پھر ان چار آدمیوں کو بلا کر لوگوں کے آگے کیا اور پھر لوگوں سے کہا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھیں پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مدد مانگیں، چنانچہ ایسا کرنے سے اللہ نے ان کے لئے مصر فتح کر دیا۔

حضرت عبد اللہ بن جعفر اور عیاش بن عباس وغیرہ حضرات کچھ کمی بیشی کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاص کو مصر فتح کرنے میں دیر لگی تو انہوں نے مدد طلب کرنے کے لئے حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا حضرت عمر نے ان کی مدد کے لئے چار ہزار آدمی بھیجے اور ہر ہزار پر ایک آدمی کو امیر بنایا اور ان کو حضرت عمر بن خطاب نے یہ خط لکھا کہ میں آپ کی مدد کے لئے چار ہزار آدمی بھیج رہا ہوں۔ ہر ہزار پر ایک ایسا آدمی مقرر کیا ہے جو ہزار کے برابر ہے وہ چار حضرات یہ ہیں حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود بن عمرو، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت مسلمہ بن مخلد اور آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپ کے ساتھ بارہ ہزار آدمی ہیں اور بارہ ہزار کا لشکر تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتا (کسی گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے)۔

حضرت عیاض اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جنگ یرموک میں شریک تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کے پانچ امیر تھے، حضرت ابو عبیدہ، حضرت یزید بن ابی سفیان حضرت شریک بن حبیل بن حسنہ، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عیاضؓ۔ یہ حضرت عیاض دوسرے صاحب ہیں



اس حدیث کے راوی نہیں ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب جنگ ہو تو آپ لوگوں کے امیر حضرت ابو عبیدہؓ ہوا کریں گے پھر ہم نے حضرت عمرؓ کو مدد طلب کرنے کے لئے خط میں یہ لکھا کہ موت بڑے جوش و خروش سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے ہمیں جواب میں یہ لکھا کہ مدد طلب کرنے کے لئے آپ لوگوں کا خط میرے پاس آیا۔ میں آپ لوگوں کو ایسی ذات بتاتا ہوں جس کی مدد بڑی زوردار ہے اور جس کا لشکر ہر جگہ موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا اسی سے مدد مانگو کیونکہ حضرت محمد ﷺ کی جنگ بدر میں مدد ہوئی حالانکہ ان کی تعداد کم تھی۔ احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو میرا یہ خط ملے تو آپ لوگ ان سے جنگ کریں اور مجھ سے دوبارہ مدد طلب نہ کریں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے ان سے جنگ کی اور انہیں خوب قتل کیا اور انہیں چار فرسخ یعنی بارہ میل تک شکست دی اور ہمیں بہت سامان غنیمت ملا پھر ہم نے مشورہ کیا تو حضرت عیاضؓ نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ہر مسلمان کے چھڑوانے کے بدلے دس کافر دے دیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا گھوڑا دوڑانے میں کون مجھ سے بازی لگاتا ہے؟ اس پر ایک نوجوان نے کہا اگر آپ خفا نہ ہوں تو میں۔ چنانچہ یہ نوجوان دوڑ میں حضرت ابو عبیدہؓ سے آگے نکل گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہؓ بغیر زین کے گھوڑے پر سوار ہیں اور اس نوجوان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ان کے بالوں کی دونوں مینڈھیاں زور زور سے ال رہی ہیں۔

حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد رحمۃ اللہ علیہم اپنی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک نوجوان حضرت سعدؓ کے ساتھ مستقل لگا رکھا تھا جو کہ قاریوں میں سے تھا۔ جب حضرت سعدؓ نماز ظہر پڑھا چکے تو اس نوجوان کو حکم دیا کہ وہ سورت جہاد یعنی سورت انفال پڑھے اور تمام مسلمان یہ سورت سیکھے ہوئے تھے، چنانچہ لشکر کا جو حصہ قریب تھا اس نوجوان نے اس کے سامنے وہ سورت جہاد پڑھی پھر وہ سورت لشکر کے ہر دستے میں پڑھی گئی جس سے تمام لوگوں کے دلوں میں ذوق شوق بڑھ گیا اور سب نے اس کے پڑھتے ہی سکون محسوس کیا۔ حضرت مسعود بن خراش کی روایت میں یہ ہے کہ لوگ سورت جہاد سیکھے ہوئے تھے اس لئے حضرت سعدؓ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اسے پڑھیں۔ حضرت ابراہیم بن حارثؓ بھی فرماتے ہیں حضور ﷺ نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صبح اور شام اَفْحَبِیْتُمْ اَنَّمَا

۱۔ ذکرہ فی الکشف (ج ۳ ص ۱۲۵) فی خلافة ابی بکر رضی اللہ عنہ و مقطوع عنہ ذکر مخرجہ قلت

اخرجه احمد عن عیاض الاشعری فذكر نحوه الا انه قال وقال عمر اذا كان عليكم القتال

۲۔ قال الہیثمی (ج ۶ ص ۲۱۳) رجالہ رجال الصحیح النہی وقال ابن کثیر فی تفسیرہ (ج ۱ ص

۳۰۰) وھذا اسناد صحیح وقد اخرجہ ابن حبان فی صحیحہ و اختارہ الحافظ الضیاء المقدمی فی کتابہ.

۳۔ اخرجہ ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۴۷) من طریق سیف

۴۔ حضرت ابن جریر ایضا من طریق سیف عن حلام.

خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا (سورت مومنین آیت ۱۱۵) پڑھا کریں، چنانچہ ہم یہ آیت پڑھتے رہے جس سے ہم خود صحیح سالم رہے اور ہمیں مال غنیمت بھی ملا۔

حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد رحمۃ اللہ علیہم اپنی اپنی سند سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ سب لوگ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں اور ظہر کی نماز پڑھنے تک کچھ حرکت نہ کریں آپ لوگ جب ظہر پڑھ لیں گے تو میں زور سے اللہ اکبر کہوں گا اس وقت آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہیں اور تیاری شروع کر دیں اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ زور سے اللہ اکبر کہنا آپ لوگوں سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا اور یہ آپ لوگوں کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لئے دیا گیا ہے پھر جب آپ لوگ دوسری مرتبہ اللہ اکبر سنیں تو آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہیں اور اپنی تیاری مکمل کر لیں پھر جب میں تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہیں اور آپ لوگوں میں جو گھوڑے سوار ہیں وہ میدان جنگ میں اترنے اور دشمن پر حملہ کرنے کے لئے پیدل ساتھیوں کا حوصلہ بڑھائیں پھر جب میں چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو آپ سب لوگ اکٹھے چل پڑیں اور دشمن میں گھس جائیں اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے رہیں۔“ ۲

حضرت محمد، حضرت طلحہ اور حضرت زیاد اپنی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جب قاری حضرات آیات جہاد کی تلاوت سے فارغ ہو گئے تو حضرت سعد نے زور سے اللہ اکبر کہا اسے سن کر ان کے قریب والوں نے اللہ اکبر کہا اس طرح ایک دوسرے سے سن کر سارے لوگوں نے اللہ اکبر کہا اس سے لوگوں میں حملہ کی تیاری کے لئے حرکت شروع ہو گئی پھر حضرت سعد نے دوبارہ اللہ اکبر کہا تو لوگوں نے تیاری مکمل کر لی پھر انہوں نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا تو بہادران لشکر آگے بڑھے اور انہوں نے گھسان کی لڑائی شروع کر دی۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔ ۳

## نبی کریم ﷺ کے بال مبارک کے ذریعہ مدد و طلب کرنا

حضرت جعفر بن عبد اللہ بن حکم رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے جنگ یرموک کے دن اپنی ٹوپی نہ پائی تو ساتھیوں سے فرمایا اسے تلاش کرو۔ انہوں نے تلاش کیا تو انہیں نہ ملی فرمایا اور تلاش کرو اور تلاش کیا گیا تو مل گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ بالکل پرانی ٹوپی تھی حضرت خالد نے فرمایا ایک دفعہ حضور ﷺ نے عمرہ کیا پھر بال منڈوائے لوگ آپ کے بالوں پر جھپٹ پڑے۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کے بال اٹھائے اور اس ٹوپی میں رکھ لئے۔ جب میں

۱۔ اخرجہ ابو نعیم فی المعرفۃ و ابن مندہ کذا فی الكنز (ج ۲ ص ۳۲۷) قال فی الاصابۃ (ج ۱ ص ۱۵) لطریق ابن مندہ لا باس بها  
 ۲۔ اخرجہ ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۴۷) من طریق سیف و  
 ۳۔ عند ابن جریر ایضا من طریق سیف

کسی لڑائی میں شریک ہوتا ہوں اور یہ ٹوپی میرے پاس ہوتی ہے تو مجھے اللہ کی غیبی نصرت ضرور نصیب ہوتی ہے۔

حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولیدؓ کی ٹوپی میں حضور ﷺ کے چند بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ حضرت خالدؓ نے فرمایا جب بھی میرا کسی لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے اور یہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے تو مجھے فتح ضرور حاصل ہوتی ہے۔

**فضیلت والے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق**  
حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے دن کے شروع میں جب قادیسیہ میں لڑائی شروع کی۔ جب ہم واپس آئے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا اور مؤذن صاحب زخمی ہو چکے تھے، اس لئے ہر مسلمان یہ چاہنے لگا کہ اذان کی سعادت اسے ہی نصیب ہو اور اتنا تقاضا بڑھا کہ قریب تھا کہ آپس میں تلواروں سے لڑ پڑیں آخر حضرت سعدؓ نے ان میں اذان کے لئے قرعہ اندازی کی اور ایک آدمی کا نام قرعہ میں نکلا اور اس نے اذان دی۔

## دنیا کی زیب و زینت کو بے قیمت سمجھنا

حضرت معقل بن یسارؓ حضرت نعمان بن مقرنؓ کی امارت میں اصفہان کے فتح ہونے کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کرتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت نعمانؓ لشکر لے کر اصفہان کے قریب پہنچے تو ان کے اور اصفہان کے درمیان دریا تھا۔ حضرت نعمانؓ نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو قاصد بنا کر اصفہان بھیجنا چاہا۔ ان دنوں اصفہان میں ذوالحاجین بادشاہ تھا اس نے آنے والے صحابی کو مرعوب کرنے کے لئے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا میں اپنا دربار فوجی انداز سے سجا کر بیٹھوں یا شاہانہ شان و شوکت سے سجاؤں۔ اس کے ساتھیوں نے شاہانہ شان و شوکت کا مشورہ دیا، چنانچہ اس نے شاہی طریقہ سے اپنا دربار سجا دیا۔ خود شاہی تخت پر بیٹھا اور سر پر شاہی تاج رکھا اور درباری اس کے گرد دو صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے دیباچہ کے رنگی کپڑے پہن رکھے تھے ان کے کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں کنگن تھے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ دربار میں آئے وہ سر جھکائے تیزی سے چل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال تھی اور لوگ دو صفیں

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۹ ص ۳۳۹) رواہ الطبرانی و ابوعلی بنحوہ و رجالہما رجال الصحیح و جعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا ادری سمع من خالد ام لا انتهى و اخرجہ الحاکم (ج ۳ ص ۲۹۹) عن عبد الحمید بن جعفر عن ابیہ مثله قال الذهبی منقطع و اخرجہ ابو نعیم فی الدلائل (ص ۱۵۹) عن عبد الحمید بن جعفر عن ابیہ مثله - ۲۔ ذکرہ فی الکنز (ج ۷ ص ۳۱) عن عبد الحمید بن جعفر رواہ ابو نعیم ۳۔ اخرجہ ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۷۰) من طریق سیف عن عبد اللہ بن شبرقہ.

بنائے بادشاہ کے گرد قالین پر کھڑے تھے حضرت مغیرہ نیزے پر ٹیک لے کر چل رہے تھے جس سے وہ قالین پھٹ گیا۔ ایسا انہوں نے قصداً کیا تاکہ یہ ان لوگوں کے لئے بدفالی ہو۔ ذوالحاجین نے ان سے کہا اے جماعت عرب! تم لوگ سخت فاقہ اور مشقت میں مبتلا ہو، اس لئے اپنے ملک سے نکل کر ہمارے ہاں آ گئے ہو۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں غلہ دے دیتے ہیں، اسے لے کر تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ پھر حضرت مغیرہ نے گفتگو شروع فرمائی۔ پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا ہم عرب لوگ واقعی بہت برے تھے مردار جانور کھایا کرتے تھے اور بڑے کمزور تھے تمام لوگوں کا ہم پر زور چلتا تھا۔ ہمارا کسی پر نہیں چلتا تھا پھر اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جو ہمارے شریف خاندان کا تھا جس کا حسب ہم میں سب سے اعلیٰ تھا جس کی بات سب سے زیادہ سچی تھی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جگہ فتح ہو کر ہمیں ملے گی اور اب تک ہم ان کے تمام وعدوں کو سچا پا چکے ہیں اور میں یہاں بڑے شاندار کپڑے اور قیمتی سامان دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے انہیں لئے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔

حضرت محمد، حضرت طلحہ، حضرت عمر اور حضرت زیاد رحمۃ اللہ علیہم اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد نے آدی بھیج کر حضرت مغیرہ بن شعبہ اور صحابہ کی ایک جماعت کو بلایا اور فرمایا میں آپ لوگوں کو ان لوگوں (رستم وغیرہ) کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ان سب حضرات نے کہا آپ جو حکم فرمائیں گے ہم تابعدار ہیں اور اس پر پکے رہیں گے (یعنی ہم جانے کے لئے تیار ہیں) اور وہاں جا کر جب کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوگا جس میں آپ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا تو ہم اس چیز کے بارے میں غور کریں گے جو زیادہ مناسب اور لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے اور جو سمجھ میں آئے گا وہ ہم ان لوگوں کو بتائیں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا عظمت تجربہ کار لوگ ایسے ہی کیا کرتے ہیں اب آپ لوگ جائیں اور جانے کی تیاری کریں۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا سبھی لوگوں کے اپنے طور طریقے اور آداب ہیں۔ جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کا بڑا اہتمام کیا ہے لہذا آپ ان کے پاس ایک سے زیادہ آدی نہ بھیجیں۔ باقی تمام حضرات نے بھی اس بات میں حضرت ربیع کی تائید کی۔ اس کے بعد حضرت ربیع نے کہا آپ سب مجھے بھیج دیں اس پر حضرت سعد نے انہیں بھیجنے کا فیصلہ کر دیا، چنانچہ حضرت ربیع رستم کے لشکر گاہ میں اس سے ملنے کے لئے روانہ ہوئے۔ پل پر جو سپاہی مقرر تھے انہوں نے حضرت ربیع کو روک لیا اور ان کے آنے کی اطلاع دینے کے لئے آدی رستم کے پاس بھیجا۔ رستم نے فارس کے بڑے سرداروں سے مشورہ کیا اور یہ سوال کیا کہ

۱۔ اخرجہ المحاکم (ج ۳ ص ۲۹۳) و اخرجہ الطبرانی عن معقل بن عمرو بطولہ قال الہیثمی (ج ۶ ص

۲۱۷) و رجال الصحیح غیر علقمہ بن عبداللہ المزلی و هو ثقہ.

ہم کیا صرف اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر فخر کریں یا شاہی اور قیمتی سامان دکھا کر عربوں کا بے حیثیت ہونا ظاہر کریں اور اس طرح انہیں مرعوب کریں۔ سب کا اسی پر اتفاق ہوا کہ شاہی اور قیمتی سامان کا مظاہرہ کیا جائے چنانچہ خزانے سے نکال کر انہوں نے زیب و زینت کا سارا سامان سجا ڈالا اور ہر طرف قیمتی گدے، بچھونے اور قالین بچھادیئے اور خزانے میں کوئی چیز نہ رہنے دی۔ رستم کے لئے سونے کا تخت رکھا گیا اسے بیش قیمت شاندار کپڑے پہنائے گئے اور قیمتی قالین بچھائے گئے اور ایسے تکیے رکھے گئے جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تھے (حضرت ربیعؓ کو پل کے سپاہیوں نے آگے جانے کی اجازت دے دی تو) حضرت ربیعؓ اپنے گھوڑے پر چل پڑے گھوڑے کے بال زیادہ اور قد چھوٹا تھا۔ ان کے پاس ایک چمکدار تلوار تھی اور اسے پرانے کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا اور ان کے نیزے پر چمڑے کے نئے بندھے ہوئے تھے اور ان کے پاس گائے کی کھال کی بنی ہوئی ڈھال تھی جس پر رونی کے مانند گول سرخ چمڑا لگا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ان کی کمان اور تیر بھی تھے۔ جب اس شاہی دربار کے قریب پہنچے اور سب سے پہلا بچھا ہوا قالین آ گیا تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ نیچے اتر جائیں لیکن یہ اپنے گھوڑے کو اس قالین پر لے گئے۔ جب وہ پوری طرح قالین پر چڑھ گیا تب یہ اس سے نیچے اترے اور پھر دو تکیوں کو لے کر انہیں پھاڑا اور گھوڑے کی لگام کی رسی اس میں سے گزار کر گھوڑے کو اس سے باندھ دیا وہ لوگ انہیں ایسا کرنے سے نہ روک سکے حضرت ربیعؓ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ لوگ اپنا شاہی ٹھاٹھ ہاتھ دکھا کر ہمیں مرعوب کرنا چاہتے ہیں، اس لئے انہوں نے یہ کام قصداً کیا تا کہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے اس سب کچھ سے کوئی اثر نہیں لیا اور انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی جو حوض کی طرح لمبی چوڑی تھی اور اونٹ کے گدے کو بیچ میں سے کاٹ کر بطور قبا کے اسے پہن رکھا تھا اور سن کی رسی سے اسے درمیان سے باندھ رکھا تھا اور یہ عربوں میں سب سے زیادہ بالوں والے تھے انہوں نے اونٹ کے چمڑے والی لگام سے اپنے بالوں کو باندھا ہوا تھا اور ان کے سر کے بالوں کی چار مینڈھیاں تھیں جو پہاڑی بکرے کے سینگوں کی طرح کھڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے کہا آپ اپنے ہتھیار اتار کر یہاں رکھ دیں۔ انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کے پاس خود نہیں آیا ہوں جو میں آپ کے کہنے پر اپنے ہتھیار اتار دوں آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے مجھے آنے دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے ورنہ، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ان لوگوں نے رستم کو بتایا رستم نے کہا اسے ایسے ہی آنے دو وہ ایک ہی تو آدمی ہے ان کے نیزے کے آگے نوکدار تیز پھل لگا ہوا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر اس نیز پر ٹیک لگا کر چلنے لگے اور وہ یوں قالینوں اور بچھونوں میں سوراخ کرتے جا رہے تھے اور اس طرح انہوں نے ان کے تمام قالین پھاڑ دیئے اور خراب کر دیئے جب یہ رستم کے قریب پہنچے تو پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور یہ بچھونے

میں نیزہ گاڑ کر خود زمین پر بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا ہم تمہاری زینت کے اس سامان پر بیٹھنا نہیں چاہتے۔ پھر رستم نے ان سے بات شروع کی اور کہا آپ لوگ ملک عرب سے کیوں آئے ہیں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور وہی ہمیں یہاں اس لئے لے کر آیا ہے تاکہ ہم جسے وہ چاہے اسے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف اور ظلم والے ادیان سے نکال کر عدل والے دین اسلام کی طرف لے آئیں۔ اس کے بعد آگے ویسی حدیث ذکر کی ہے جیسے حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں صحابہؓ کے دعوت دینے کے باب میں گزر چکی ہے۔ آگے حدیث میں یہ ہے کہ رستم نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا تمہارا ناس ہو کپڑوں کو مت دیکھو سمجھداری، گفتگو اور سیرت کو دیکھو۔ عرب کے لوگ کپڑے اور کھانے کا خاص اہتمام نہیں کرتے ہاں خاندانی صفات کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ لوگ حضرت ربیعؓ کے ہتھیاروں پر اعتراض کرنے لگے اور ان کے ہتھیاروں کو معمولی اور گھنیا بتانے لگے اس پر انہوں نے ان سے کہا تم اپنی جنگی مہارت مجھے دکھاؤ میں اپنی تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر چھتھرے میں سے اپنی تلوار باہر نکالی تو وہ آگ کے شعلے کی طرح چمک رہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا بس کریں اور اسے نیام میں رکھ لیں، چنانچہ انہوں نے اسے نیام میں رکھ لیا پھر حضرت ربیعؓ نے ان کی ڈھال پر تیر مارا تو وہ پھٹ گئی اور ان لوگوں نے حضرت ربیعؓ کی ڈھال پر تیر مارا تو وہ نہ پھٹی بلکہ صحیح سالم رہی پھر فرمایا اے فارس والو! تم لوگوں نے کھانے پینے اور لباس کو بڑا کام بنا رکھا ہے ہم انہیں چھوٹے کام سمجھتے ہیں۔ پھر حضرت ربیعؓ انہیں غور کرنے کے لئے (تین دن کی) مہلت دے کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن رستم نے پیغام بھیجا کہ اسی آدمی کو پھر بھیج دیں اس پر حضرت سعدؓ نے حضرت حذیفہ بن محسنؓ کو بھیجا وہ بھی حضرت ربیعؓ کی طرح معمولی کپڑوں میں اور سیدھی سادی حالت میں چلے۔ جب پہلے قالین کے پاس پہنچے تو وہاں والوں نے کہا اب آپ سواری سے نیچے اتر جائیں۔ انہوں نے فرمایا میں تب اترتا اگر میں اپنی ضرورت کے لئے آتا۔ تم جا کر اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ میں اس کی ضرورت کی وجہ سے آیا ہوں یا اپنی ضرورت کی وجہ سے۔ اگر وہ کہے میں اپنی ضرورت کی وجہ سے آیا ہوں تو بالکل غلط کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا اور اگر وہ کہے میں اس کی ضرورت کی وجہ سے آیا ہوں تو پھر تم لوگوں کے پاس ویسے آؤں گا جیسے چاہوں گا اس پر رستم نے کہا اسے اپنے حال پر چھوڑ دو جیسے آتا ہے آنے دو، چنانچہ حضرت حذیفہؓ وہاں سے آگے چلے اور رستم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ رستم اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا نیچے اتر جائیں۔ حضرت حذیفہؓ نے کہا میں نہیں اتروں گا۔ جب انہوں نے اترنے سے انکار کر دیا تو رستم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے آج آپ آئے ہیں ہمارے کل والے ساتھی نہیں آئے؟ حضرت حذیفہؓ نے

کہا ہمارے امیر سختی نرمی ہر حال میں ہمارے درمیان برابری کرنا چاہتے ہیں۔ کل وہ آئے تھے، آج میری باری ہے۔ رستم نے کہا آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا کہ ہم پہ بڑا احسان فرمایا، ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں یہاں تک کہ ہم نے اسے پہچان لیا حالانکہ ہم اس سے پہلے اسے بالکل نہیں جانتے تھے پھر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمام لوگوں کو تین باتوں میں سے ایک بات کی دعوت دیں۔ ان باتوں میں سے جسے بھی وہ مان لیں گے اسے ہم قبول کر لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام لے آؤ اگر اسلام لے آؤ گے تو ہم تمہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام نہیں لاتے تو پھر جزیہ ادا کرو اگر جزیہ ادا کرو گے اور تمہیں ضرورت پڑی تو ہم تمہاری دشمنی سے حفاظت کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں منظور نہ ہوں تو پھر لڑائی اور مقابلہ۔ رستم نے کہا کیا چند دن تک کے لئے صلح ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں تین دن تک کے لئے ہو سکتی ہے لیکن وہ تین دن کل گزشتہ سے شمار ہوں گے۔ جب رستم نے حضرت حدیفہؓ سے بھی وہی جواب پایا جو حضرت ربیعؓ سے سنا تھا تو اس نے حضرت حدیفہؓ کو واپس کر دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا تمہیں میری رائے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کل ہمارے پاس پہلا آدمی آیا وہ ہم پر غالب آ گیا اور ہمارے قالین پر نہ بیٹھا (بلکہ ہمارے انتظامات چھوڑ کر) ہماری زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا گھوڑا ہماری زینت کے سامان کے اوپر کھڑا کیا اور ہم نے زینت کے لئے جو تکیے رکھے تھے ان کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھ دیا اسے اچھی قال لینے کا موقع مل گیا کیونکہ وہ ہماری زمین کو بھی اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا اور زمین میں جو کچھ تھا اسے بھی لے گیا ان تمام باتوں کے باوجود وہ عقلمند بھی بہت تھا۔ آج یہ دوسرا آدمی ہمارے پاس آیا تو یہ آ کر ہمارے سر پر کھڑا ہو گیا یہ بھی اچھی قال لے کر گیا ہے یہ تو ہمیں نکال کر ہماری زمین پر قبضہ کر لے گا (رستم کے ساتھیوں نے رستم کی باتوں کا سخت جواب دیا) اور ان میں بات چیت اتنی بڑھی کہ رستم کو بھی غصہ آ گیا اور اس کے ساتھیوں کو بھی۔ اگلے دن رستم نے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ایک آدمی بھیجو، چنانچہ مسلمانوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو بھیجا۔ حضرت ابو عثمان نہدیؓ کہتے ہیں جب حضرت مغیرہؓ پل پر پہنچے اور پل پار کر کے فارس والوں کے پاس جانا چاہا تو انہیں پہرے داروں نے روکا اور رستم سے ان کے بارے میں اجازت طلب کی اور انہوں نے صحابہ کرامؓ کو مرعوب کرنے کے لئے جو شاہی انتظامات کر رکھے تھے وہ سارے اسی طرح سے تھے۔ انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے تاج اور قیمتی کپڑے جو کہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھے اور تیر پھینکنے سے تیر جتنی دور جاتا ہے اتنی دور تک قالین بچھائے ہوئے تھے ان پر چل کر ہی آدمی ان کے بادشاہ تک پہنچ سکتا تھا۔ بہر حال رستم کے اجازت

دینے پر حضرت مغیرہ وہاں سے آگے چلے ان کے سر کے بالوں کی چار مینڈھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ چلتے چلتے جا کر رستم کے ساتھ اس کے تخت اور گدے پر بیٹھ گئے اور اس پر وہ سب لوگ حضرت مغیرہ پر جھپٹے اور بڑبڑائے اور جھنجھوڑ کر انہیں تخت سے نیچے اتار دیا۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا ہمیں تو یہ خبر پہنچی تھی کہ آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں سے زیادہ بے وقوف قوم کوئی نہیں دیکھی۔ ہم تمام عرب لوگ آپس میں برابر ہیں۔ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں بناتا ہاں کسی سے جنگ ہو تو پھر اور بات ہے۔ میرا خیال تھا کہ آپ لوگ بھی آپس میں ہماری طرح رہتے ہوں گے اور آپ لوگوں نے جو کچھ کیا اس سے اچھا تو یہ تھا کہ مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ لوگ آپس میں برابر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے رب ہیں اگر رستم کے ساتھ بیٹھنا آپ لوگوں کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے تو آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کے پاس میں خود نہیں آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے بلایا تو میں آیا ہوں۔ آج مجھے پتہ چلا کہ تمہارا نظام ڈھیلا پڑ چکا ہے اور تم لوگ مغلوب ہونے والے ہو اور اس طور طریقہ پر اور اس سمجھ پر ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ باتیں سن کر عام لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم! یہ عربی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ان کے چودھری کہنے لگے اللہ کی قسم! اس نے تو ایسی بات کہی ہے کہ ہمارے غلام ہمیں ہمیشہ اس کی طرف کھینچتے رہیں گے۔ اللہ ہمارے پہلوں کو غارت کرے کس قدر احمق تھے کہ ان عربوں کی بات کو معمولی سمجھتے رہے (آج یہ اتنے زوروں پر آگئے ہیں انہیں چاہئے تھا کہ ان عربوں کو شروع میں ہی کچل دیتے) اس کے بعد راوی نے باقی حدیث ذکر کی ہے جس میں رستم کے سوالات اور حضرت مغیرہ کے جوابات کا ذکر ہے۔

## دشمن کی تعداد اور ان کے سامان کے

### زیادہ ہونے کی طرف توجہ نہ کرنا

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں غزوہ موتہ میں شریک ہوا۔ جب مشرکین ہمارے قریب پہنچے تو ہمیں بہت زیادہ سامان، ہتھیار، گھوڑے، ریشمی کپڑے اور سونا نظر آیا اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ تھا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا اسے دیکھ کر میری تو آنکھیں چندھیا گئیں مجھے یوں متاثر ہوتا ہوا دیکھ کر حضرت ثابت بن اقرم نے فرمایا اے ابو ہریرہ! ایسے نظر آ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ لشکر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں! انہوں نے فرمایا تم ہمارے ساتھ غزوہ بدر میں نہیں تھے تعداد یا سامان کی کثرت کی وجہ سے ہماری مدد نہیں ہوئی تھی۔

۱۔ اخرجہ ابن جریر (ج ۳ ص ۳۶) من طریق سیف

۲۔ اخرجہ البیہقی من طریق الواقدی کلماتی البدایة (ج ۳ ص ۲۳۳) و ذکرہ فی الاصابہ (ج ۱ ص

۱۹۰) عن الواقدی مفصراً علی قول ثابت



حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں حضرت ابوبکرؓ نے حضرت عمرو بن عاصؓ کو یہ خط لکھا:

”سلام علیک! اما بعد! آپ کا خط میرے پاس آیا جس میں آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رومیوں نے بہت زیادہ لشکر جمع کر لئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ ہماری مدد سامان یا لشکر کی کثرت کی وجہ سے نہیں کی تھی ہم حضورؐ کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے اور ہمارے پاس صرف دو گھوڑے ہوتے تھے اور اونٹ بھی ضرورت سے کم ہوتے تھے، اس لئے ان پر باری باری سوار ہوتے تھے اور جنگِ احد کے دن ہم حضورؐ کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا جس پر حضورؐ سوار تھے۔ اس بے سرو سامانی میں اللہ تعالیٰ مخالفوں کے خلاف ہماری مدد کرتے تھے۔ اے عمرو! آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کی سب سے زیادہ ماننے والا ہے جو گناہوں اور معاصی سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والا ہے، لہذا آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے ساتھیوں کو اس کی اطاعت کا حکم کرو۔“

حضرت عبادہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت خالدؓ سے کہا رومی کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کتنے کم ہیں حضرت خالدؓ نے فرمایا نہیں رومی کتنے کم ہیں اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں۔ لشکر کا کم زیادہ ہونا آدمیوں کی تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ جس لشکر کو اللہ کی مدد حاصل ہو وہ زیادہ ہے اور جو اللہ کی مدد سے محروم ہو وہ کم ہے (میں عراق سے شام تک کا سفر بڑی تیزی سے کر کے آیا ہوں، اس لئے) زیادہ چلنے کی وجہ سے میرے گھوڑے اشقر کے کھر گھس گئے ہیں اور اس کے کھروں میں درد ہو رہا ہے۔ کاش کہ میرا گھوڑا ٹھیک ہوتا اور ان رومیوں کی تعداد دگنی ہوتی تو پھر مزہ آتا۔“

## صحابہ کرامؓ کے غالب آنے کے بارے میں دشمنوں نے کیا کہا

حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ بنا دیا اور عرب کے بہت سے لوگ مرتد ہو کر اسلام سے خارج ہو گئے تو حضرت ابوبکرؓ مقابلہ کے لئے مدینہ سے چلے۔ جب یثرب کی طرف ایک پانی پر پہنچے تو انہیں مدینہ کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا، اس لئے حضرت ابوبکرؓ مدینہ واپس آ گئے (اور دوسروں کو بھیجنے کا ارادہ کیا) اور حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ سیف اللہؓ کو امیر مقرر فرما کر لوگوں کو ان کے ساتھ جانے کی دعوت دی اور حضرت خالدؓ کو حکم دیا کہ وہ قبیلہ مضر کے علاقہ میں جائیں اور وہاں جتنے لوگ مرتد ہو چکے ہیں ان سے جنگ کریں پھر وہاں

۱۔ اخرجہ الطیالسی من طریق الواقدی کذا فی الكنز (ج ۳ ص ۱۳۵) و اخرجہ الطبرانی فی الاوسط عن عبداللہ بن عمرو بن العاص نحوه قال الہیثمی (ج ۶ ص ۱۱۷) وفيه الشاذ کولی والواقدی و کلاهما ضعیف. انتھی

۲۔ اخرجہ ابن جریر فی تاریخہ (ج ۲ ص ۵۹۳)

سے یمامہ جا کر مسلمہ کذاب سے جنگ کریں، چنانچہ حضرت خالد بن ولید وہاں سے لشکر لے کر چلے اور پہلے طلحہ کذاب اسدی سے جنگ کی اللہ نے طلحہ کو شکست دی عیینہ بن حصن بن حذیفہ فزاری بھی طلحہ کذاب کے پیچھے لگ گیا تھا۔ جب طلحہ نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کو بہت زیادہ شکست ہو رہی ہے تو اس نے کہا تمہارا ناس ہو کہ ہمیں شکست کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی اس سے پہلے مر جائے اور ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جن میں سے ہر آدمی اپنے ساتھی سے پہلے مرنا چاہتا ہے طلحہ لڑنے میں سخت حملہ آور تھا، چنانچہ اس نے حضرت عکاشہ بن خصن اور حضرت ابن آقرم رضی اللہ عنہما کو شہید کیا جب طلحہ نے حق کو غالب آتے دیکھا تو پہلے تو پیدل بھاگا پھر بعد میں اسلام لے آیا اور عمرہ کا احرام باندھا اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی۔

حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوا میں ان کا امیر تھا چلتے چلتے ہم اسکندر یہ پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ اپنا ایک آدمی میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس سے بات کروں اور وہ مجھ سے بات کرے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا میں خود ہی اس کے پاس جاؤں گا، چنانچہ میں ترجمان لے کر گیا اس کے پاس آدمی بھی ترجمان تھا۔ ہمارے لئے دو منبر رکھے گئے اس نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا ہم عرب ہیں۔ ہمارے ہاں کانٹے دار درخت اور کیکر ہوتے ہیں (کھیتیاں اور باغات نہیں ہوتے) البتہ ہمارے ہاں بیت اللہ ہے۔ ہمارا علاقہ سب سے زیادہ تنگ تھا اور ہمارے معاشی حالات سب سے زیادہ سخت تھے۔ ہم مردار کھا لیتے تھے اور ایک دوسرے کا مال لوٹ لیتے تھے غرضیکہ ہماری زندگی سب سے زیادہ بری تھی پھر ایک آدمی ہمارے اندر ظاہر ہوا جو ہمارا سب سے بڑا سردار نہیں تھا اور ہم میں سب سے زیادہ مالدار نہیں تھا اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں وہ ہمیں ان کاموں کا حکم کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں تھے اور جن کاموں پر ہم اور ہمارے آباء و اجداد پڑے ہوئے تھے ان سے ہمیں روکتے تھے ہم نے ان کی مخالفت کی اور انہیں جھٹلایا اور ان کی بات کو رد کر دیا یہاں تک کہ ان کے پاس دوسری قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کا اتباع کرتے ہیں اور جو آپ سے جنگ کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے وہ ہمیں چھوڑ کر ان کے پاس چلے گئے ہم نے وہاں جا کر ان سے کئی مرتبہ جنگ کی۔ انہوں نے ہمارے بہت سے آدمی قتل کر دیئے اور ہم پر غالب آ گئے پھر وہ آس پاس کے عربوں کی طرف متوجہ ہوئے اور جنگ کر کے ان پر بھی غالب آ گئے اب جو لوگ میرے پیچھے ہیں اگر ان کو آپ لوگوں کی عیش و عشرت کا پتہ چل جائے تو وہ سب آ کر اس عیش و عشرت میں آپ کے شریک

ہو جائیں۔ یہ بات سن کر وہ بادشاہ ہنسا اور اس نے کہا آپ کے رسول نے سچ کہا ہے اور ہمارے پاس ہمارے رسول بھی وہی چیزیں لاتے رہے ہیں جو آپ کے رسول آپ کے پاس لائے ہیں۔ ہم ان رسولوں کی باتوں پر عمل کرتے رہے پھر ہم میں کچھ بادشاہ ظاہر ہوئے جو ان نبیوں کی باتوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنی خواہشات پر چلاتے رہے۔ اگر آپ لوگ اپنے نبی کی بات کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو جو بھی آپ لوگوں سے لڑے گا آپ لوگ اس پر ضرور غالب آجائیں گے اور جو بھی آپ لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا آپ لوگ اس پر ضرور حاوی ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ لوگ اس طرح کریں گے جس طرح ہم نے کیا اور نبیوں کی بات چھوڑ کر ہمارے بادشاہوں کی طرح خواہشات پر عمل کریں گے تو پھر آپ اور ہم برابر ہو جائیں گے یعنی آپ لوگ بھی ہماری طرح اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے پھر نہ آپ کی تعداد ہم سے زیادہ ہوگی اور نہ طاقت (لہذا ہم آپ پر غالب آئیں گے) حضرت عمرو بن عاصؓ فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی ایسے آدمی سے بات نہیں کی جو اس سے زیادہ نصیحت کرنے والا ہو۔

حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور ﷺ کے صحابہؓ کے سامنے دشمن مقابلہ کے وقت اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر پاتا تھا جتنا وقفہ اونٹنی کے دو مرتبہ دودھ نکالنے کے درمیان ہوتا ہے۔ (اونٹنی کے دودھ نکالنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دودھ اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے تھنوں میں کم ہوتا ہے۔ پہلے اونٹنی کے بچے کو دودھ پینے کے لئے لایا جاتا ہے وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ نیچے اتر آتا ہے بچے کو ہٹا کر آدمی دودھ نکالنے لگتا ہے تو اونٹنی اپنا دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے، اس لئے دوبارہ بچہ لایا جاتا ہے وہ پینے لگتا ہے تو دودھ پھر نیچے اتر آتا ہے تو بچے کو ہٹا کر دوبارہ نکالا جاتا ہے۔ اس طرح ایک وقت میں اونٹنی کا سارا دودھ دو دفعہ نکالنے سے حاصل ہوتا ہے تو ان دو دفعہ دودھ نکالنے کا درمیانی وقفہ چند منٹ کا ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب اونٹنی کا دودھ نکالتے ہیں اس وقت وہ کھڑی ہوتی ہے تو نکالنے والا ایک ٹانگ پر کھڑا ہوتا ہے اور دوسری ٹانگ اٹھا کر اپنا پاؤں پہلی ٹانگ کے گھٹنے پر رکھ لیتا ہے اور اس دوسری ٹانگ کے گھٹنے اور ران پر برتن رکھ کر اس میں دودھ نکالتا ہے اس طرح نکالنے والا تھک جاتا ہے اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی وجہ سے گرنے والا ہو جاتا ہے تو وہ برتن نیچے رکھ کر اور دونوں ٹانگیں سیدھی زمین پر ٹکا کر کچھ دیر آرام کرتا ہے پھر اس طرح ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر دوبارہ دودھ نکالتا ہے تو یہ آرام کا درمیانی وقفہ یہاں مراد ہے (یہ وقفہ بھی چند منٹ کا ہوتا ہے) روم کا بادشاہ ہرقلؓ اپنے لیے قیام پذیر تھا

۱۔ اخرجہ الطبرانی قال الہیثمی (ج ۶ ص ۲۱۸) ولیہ عمرو بن علقمہ وهو حسن الحدیث وبقیۃ رجالہ لغات انتھی و اخرجہ ابو یعلیٰ عن علقمہ بن وقاص قال قال عمرو بن العاص فذکر نحوه قال الہیثمی (ج ۸ ص ۲۳۸) رجالہ رجال الصحیح غیر عمرو بن علقمہ وهو ثقة. انتھی

جب رومی فوج مسلمانوں سے شکست کھا کر وہاں پہنچی تو اس نے فوج سے کہا تمہارا نامس ہو! تم مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں کیا یہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہیں؟ ان سب جرنیلوں نے کہا ہیں۔ ہر قتل نے کہا تمہاری تعداد زیادہ ہے یا ان کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ہر معرکہ میں ہماری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی ہر قتل نے کہا پھر کیا بات ہے تمہیں شکست کیوں ہو جاتی ہے؟ اس پر ایک بوڑھے جرنیل نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں اور معاہدہ کو پورا کرتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں اور اس کے برعکس ہم لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہر حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کا مال چھین لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور ان کاموں کا حکم کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان سے ہم روکتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ہر قتل نے کہا تم نے مجھ سے سچی بات کہی ہے۔

یحییٰ بن عسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے دو آدمیوں سے نقل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اردن کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا تو ہم نے آپس میں کہا دمشق کا عنقریب محاصرہ ہونے والا ہے، اس لئے ہم دمشق گئے تاکہ محاصرہ شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں سے خرید و فروخت کر لیں، ہم ابھی دمشق میں تھے کہ دمشق کے کمانڈر نے ہمارے پاس بلانے کے لئے قاصد بھیج دیا ہم اس کے پاس گئے اس نے کہا کیا تم دونوں عرب ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں! اس نے کہا کیا تمہارا مذہب نصرانیت ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں اس نے کہا ہم دونوں میں سے ایک جا کر ان مسلمانوں کے حالات معلوم کر کے آئے دوسرا اس کے سامان کے پاس ٹھہر جائے چنانچہ ہم دونوں میں سے ایک گیا اور مسلمانوں میں کچھ دیر ٹھہر کر واپس آیا اور اس نے کہا میں ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں جو دبلے پتلے ہیں، عمدہ اور اصیل گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار ہیں، تیر میں پر لگاتے ہیں، اسے تراشتے ہیں، نیزے کو بالکل سیدھا کرتے ہیں، وہ اتنی اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ ان میں بیٹھ کر اپنے ہم نشین سے کوئی بات کریں تو شور کی وجہ سے آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکے گا اس پر دمشق کے کمانڈر نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا مسلمانوں کے ان حالات کے معلوم ہو جانے کے بعد اب تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

۱۔ اخرجه احمد بن مروان المالکی فی المجالستہ کذافی البدایہ (ج ۷ ص ۱۵) و اخرجه ابن عساکر (ج ۱ ص ۱۲۳) عن ابن اسحق بن عوفہ.  
 ۲۔ قال الولید بن مسلم اخباری من سمع یحییٰ بن عسائی یحدث عن رجلین من قومہ کذافی البدایہ (ج ۷ ص ۱۵) و اخرجه ابن عساکر (ج ۱ ص ۱۲۳) عن یحییٰ بن عسائی بن عوفہ و فی روایۃ مشاق بلبل و یقومون القنا بلبل یشفقون

حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں (جب جنگ یرموک کے دن) دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو) (رومی جرنیل) قبقلار نے جاسوسی کے لئے ایک عربی آدمی بھیجا اور اس سے کہا ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ اور ان میں ایک دن اور ایک رات رہو اور پھر آ کر مجھے ان کے حالات بتاؤ۔ حضرت عروہ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ عربی آدمی قبیلہ قضاہ کی شاخ تزید بن حیدان میں سے تھا جسے ابن ہزارف کہا جاتا تھا، چنانچہ وہ مسلمانوں میں داخل ہو گیا اور عربی ہونے کی وجہ سے اجنبی معلوم نہیں ہو رہا تھا اور ایک دن ایک رات ان میں رہا پھر قبقلار کے پاس واپس آیا تو قبقلار نے اس سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہ لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن گھوڑوں کی پشتوں پر گزارتے ہیں۔ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور اگر زنا کرے تو اسے بھی سنگسار کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے معاشرے میں حق کو قائم کرتے ہیں۔ اس پر قبقلار نے اس سے کہا اگر تم نے مجھ سے سچ کہا ہے تو پھر زمین کے اندر ہو جانا روئے زمین پر رہ کر ان کا مقابلہ کرنے سے بہتر ہے اور میں دل سے چاہتا ہوں کہ اللہ میری اتنی بات مان لے کہ میدان میں مجھے اور ان مسلمانوں کو رہنے دے، خود میدان میں نہ آئے نہ میری مدد کرے اور نہ ان کی (کیونکہ اس طرح میں جیت جاؤں گا اس لئے کہ اس طرح فتح اور شکست کا فیصلہ تعداد اور سامان جنگ پر ہوگا اور وہ میرے پاس ان سے بہت زیادہ ہے)۔

حضرت ابن ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب رستم نے نجف میں پڑاؤ ڈالا تو اس نے نجف سے ایک جاسوس مسلمانوں میں بھیجا جو قادیسیہ جا کر مسلمانوں میں ایسے گھس گیا جیسے کہ ان ہی میں سے گیا تھا اور اب واپس آیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان ہر نماز کے وقت مسواک کرتے ہیں پھر سب مل کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد سب اپنی قیام گاہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اس جاسوس نے واپس آ کر سارے حالات رستم اور اس کے ساتھیوں کو بتائے اور رستم نے بھی اس سے بہت سوالات کئے یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا کہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ اس جاسوس نے کہا میں نے مسلمانوں میں صرف ایک رات گزاری ہے اللہ کی قسم! میں نے تو ان میں سے کسی کو کچھ کھاتے نہیں دیکھا، البتہ میں نے انہیں شام کو سوتے وقت اور صبح سے کچھ دیر پہلے کچھ لکڑیاں چوستے ہوئے دیکھا ہے رستم وہاں سے چل کر جب مقام حصن اور مقام عتیق کے درمیان پہنچا تو وہ صبح کی نماز کا وقت تھا حضرت سعدؓ کے مؤذن نے صبح کی اذان دی۔ رستم نے دیکھا کہ اذان سنتے ہی سارے مسلمان حرکت میں آ گئے۔ رستم نے حکم دیا کہ اہل فارس میں اعلان کر دیا جائے کہ سب سوار ہو جائیں۔ ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہے کہ اعلان ہوتے ہی تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے کے لئے حرکت میں آ گیا ہے؟ اس کے اس جاسوس نے کہا یہ لوگ تو اس

وقت نماز کے لئے حرکت میں آئے ہیں۔ اس پر رستم نے فارسی زبان میں کہا جس کا ترجمہ یہ ہے آج صبح میں نے ایک غیبی آواز سنی اور وہ عمرؓ ہی کی آواز تھی جو کہ کتوں سے یعنی عربوں سے باتیں کرتا ہے اور انہیں دانائی اور سمجھ سکھاتا ہے۔ جب رستم کے لشکر نے دریا پار کر لیا تو وہ آ کر وہاں ٹھہر گیا اتنے میں حضرت سعدؓ کے مؤذن نے نماز کے لئے اذان دی پھر حضرت سعدؓ نے نماز پڑھا لی اور رستم نے کہا عمرؓ نے میرا جگر کھا لیا۔

قبیلہ بنو قشیر کے ایک صاحب بیان کرتے ہیں جب (شاہ روم) ہرقل قسطنطنیہ (جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے) کی طرف روانہ ہوا تو ایک رومی آدمی پیچھے سے آ کر اسے ملا جو کہ مسلمانوں کے ہاں قید تھا اور وہاں سے چھوٹ کر آیا تھا۔ ہرقل نے اس سے کہا مجھے ان مسلمان لوگوں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا میں ان کے حالات اس طرح تفصیل سے بتاتا ہوں کہ گویا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ دن کے شہسوار اور رات کے عبادت گزار ہیں اور اپنے ماتحت ذمیوں سے کھانے کی چیز قیمت دے کر ہی لیتے ہیں۔ جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو سلام ضرور کرتے ہیں اور جوان سے جنگ کرے تو جب تک اس کا کام تمام نہ کر لیں مقابلہ پر ڈٹے رہتے ہیں۔ ہرقل نے کہا اگر تم نے مجھ سے سچ کہا ہے تو وہ لوگ میرے ان قدموں کے نیچے کی زمین کے ضرور مالک بنیں گے۔ (ایران کے بادشاہ) یزدجرد نے مدد حاصل کرنے کے لئے چین کے بادشاہ کو خط لکھا۔ شاہ چین نے خط لانے والے قاصد سے کہا مجھے معلوم ہے کہ جب کسی بادشاہ پر دشمن غالب آ جائے اور وہ دوسرے بادشاہ سے مدد طلب کرے تو اس کا حق ہے کہ وہ دوسرا بادشاہ اس کی مدد کرے لیکن پہلے تم مجھے ان لوگوں کی صفات اور حالات بتاؤ جنہوں نے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ان کی تعداد کی کمی اور اپنی تعداد کی کثرت کا ذکر کیا ہے اور میں نے بھی سنا ہے کہ تم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس کے باوجود یہ تھوڑی تعداد والے لوگ تم پر غالب آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم میں کچھ خرابیاں ہیں اور ان میں کچھ اچھائیاں ہیں۔ قاصد کہتا ہے میں نے شاہ چین سے کہا آپ ان کے بارے میں مجھ سے جو چاہیں پوچھیں۔ اس نے کہا کیا وہ عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا وہ لوگ جنگ کرنے سے پہلے تمہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہمیں تین باتوں میں سے ایک بات کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اپنے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں تو وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ کرتے ہیں پھر وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم جزیہ ادا کریں، ہماری حفاظت کریں گے، ہم اگر ان دو باتوں کو نہ مانیں تو پھر وہ ہم

۱۔ اخراجہ ابن جریر فی تاریخہ (ج ۳ ص ۳۵)

۲۔ قال ابن جریر ایضا (ج ۳ ص ۹۹) ذکرہ سیف عن ابی الزہراء القشیری

سے جنگ کریں گے پھر اس نے پوچھا وہ اپنے امیروں کی اطاعت کرنے میں کیسے ہیں؟ میں نے کہا وہ اپنے امیر کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے لوگ ہیں پھر اس نے پوچھا وہ کن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں اور کن چیزوں کو حرام؟ میں نے اسے مسلمانوں کے حلال و حرام کی تفصیل بتائی اس نے پوچھا کیا وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا جب تک یہ لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ مجھے ان کے لباس کے بارے میں بتاؤ؟ میں نے ان کے لباس کی تفصیل بتائی پھر اس نے کہا ان کی سواریوں کے بارے میں بتاؤ؟ میں نے کہا ان کی سواریاں عربی گھوڑے ہیں پھر میں نے عربی گھوڑوں کی صفات ذکر کیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھے قلعے ہیں پھر میں نے کہا ان کی سواریاں اونٹ بھی ہیں اور اونٹ کے بیٹھنے اور بوجھاٹھا کرکھڑے ہونے کا سارا انداز بتایا اس نے کہا یہ تمام باتیں لمبی گردن والے جانور میں ہوا کرتی ہیں (غالباً شاہ چین نے اونٹ دیکھا نہ ہوگا) پھر اس نے یزدجرد کو جواب میں یہ لکھا کہ میرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر میں اسے آپ کی مدد کے لئے بھیجوں تو اس کا پہلا حصہ ایران کے شہر مرو میں ہوگا اور آخری چین میں، لیکن میں اسے نہیں بھیجوں گا اور اسے نہ بھیجنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو مجھ پر حق ہے میں اسے نہیں جانتا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جن لوگوں سے مقابلہ ہے آپ کے قاصد نے ان کے تمام حالات مجھے تفصیل سے بتائے ہیں۔ یہ ایسے زبردست لوگ ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں سے نکل جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر یہ اپنی ان صفات پر باقی رہے اور یونہی بڑھتے رہے تو ایک دن مجھے بھی میری سلطنت سے ہٹا دیں گے، اس لئے آپ ان سے صلح کر لیں اور صلح صفائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے پر راضی ہو جائیں اور جب تک وہ آپ کو نہ چھیڑیں آپ انہیں کچھ نہ کہیں۔

ہم اس کتاب میں جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں یہ اس کا آخری مضمون ہے فالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله "تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس خیر کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم از خود ہدایت نہ پاسکتے۔"

اللهم لولا انت ما اهتدنا

ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن مكينة علينا

اذا ارادوا الحسنه ابينا

اے اللہ! اگر تیری مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملتی اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔ تو ہم پر اطمینان اور سکینہ نازل فرما جب مشرک لوگ ہم سے فتنہ والا کام کرانا چاہتے ہیں تو

ہم انکار کر دیتے ہیں۔

آج بروز بدھ محرم الحرام کے مہینے میں ہجرت نبوی (علی صاحبہا الف الف صلاة و تحیة) کے تیرہ سو اسی والے سال میں عبد ضعیف محمد یوسف سلمہ اللہ تعالیٰ عن التلہف والتاسف کے ہاتھوں کتاب ”حیاء الصحابہ“ مکمل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب کی تیسری جلد کی طباعت منگل ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ مطابق ۱۰ اگست ۱۹۶۵ء کو پوری ہوئی۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بروز بدھ ۲۷ شوال ۱۳۱۵ھ مطابق ۲۹ مارچ ۱۹۹۵ء کو ترجمہ مکمل ہوا۔

محمد احسان الحق

مدرسہ عربیہ رائے ونڈ لاہور۔ پاکستان